

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

# شان علی بربان نتی

شان مُرتضیٰ رضی اللہ عنہ بربان مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مصنف  
ابن شیخ طعمه حلیہ الہبی المختبری

متجم  
مفتی محمد وحید اکرم القادری  
(امیر علماء ائمۃ فیل)



# شانِ علیؑ بربان نبیؑ صلی اللہ علیہ وسلم

## شانِ مرتضیؑ رضی اللہ علیہ عنہ بربان مصطفیؑ صلی اللہ علیہ وسلم

اس کتاب میں خلیفہ راشد حضرت علی الرضاؑ کی فضیلت، بچپن، جوانی، قبول اسلام، صحبت رسالت، علمیت، ولایت، تحریمات، نکاح، پرورش اولاد، کمی و مددی دور، دور خلافت، عدل و انصاف، حفاظت بیت المال اور شہادت و قضاۓ جیسے بے شمار موضوعات پر مشتمل پندرہ سو سے زائد احادیث و اقوال پر الشیخ طعہ حلیؑ کی کتاب "فضائل علیؑ" کا ترجمہ شامل ہے۔

مصنف

الشیخ طعہ حلیؑ المختزلي

مترجم

مفہومی محمد وسیم اکرم قادری (ایم اے۔ ایم فل)

مشتاق بک کارنر

الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

ہماری کتابیں۔ معیاری کتابیں  
خوبصورت اور کمر قیمت کتابیں

ناشر: مشتاق احمد

اہتمام: سلمان منیر

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	- شان علی طائفہ بزبان نبی ملئیہ
(شان مرتضی طائفہ بزبان مصطفیٰ ملئیہ)	
مصنف	- الشیخ طعیہ حلیبی البختی
ترجمہ	- مفتی محمد وسیم اکرم القادری
کمپوزنگ	- گل گرافکس
اشاعت	- 2012
ٹائل	- عاطف بٹ
پرنٹر	- آر۔ آر پرنٹرز، بندرود لاہور
قیمت	- 500 روپے

### استدعا

پروردگارِ عالم کے فضل، کرم اور مہربانی سے، انسانی طاقت اور بساط کے مطابق  
کمپوزنگ، طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے  
بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو از راہ کرم  
مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ اکلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے لیے ہم آپ  
کے بے حد مشکور ہوں گے۔ شکر یہ۔ (ناشر)

## انتساب

اپنے والدین کریمین

ابو جی مولا نا بشیر احمد نقشبندی

امی جان خدیجہ اسماعیل

کے نام

جنہوں نے مجھے حب رسول وآل رسول واصحاب رسول کا درس دیا اور اسی نفع پر میری تربیت فرمائی۔

جزاً كمَا اللَّهُ أَحْسَنَ الْجِزَاءَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

مزید

پہلی سورس گروپ آف کالج سمنویال

جناب محمد از ہر محمودی

کے نام

جو میرے بہت ہی شفیق دینی دوست ہیں۔

از

محمد ویم اکرم القادری

## ابتدائیہ

### عظمت حضرت علی:

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : یا علی ما عرف اللہ حق معرفته غیری و غیرک، وما عرفک حق معرفتك غیر اللہ وغیری))

(مناقب آل ابی طالب: 267/3)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! آپ کے اور میرے علاوہ کسی نے بھی اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا اور کسی نے بھی سوائے اللہ کے اور میرے جس عظمت کے قم لائق ہو، نہیں پہچانا۔“

### حضرت علی جنت کا حلقة ہیں:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : علی بن ابی طالب حلقة معلقة بباب الجنة، من تعلق بها دخل الجنة))

(فرائد اسمطین 1/180، احراق الحج 7/168)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب بہشت کے دروازے پر لگا ہوا حلقة ہیں، جو بھی اس کو پکڑے گا وہ بہشت میں جائے گا۔“

### خیر طمعہ جلی

مترجم عرض گزار ہے کہ کتاب ہذا شیخ طمعہ جلی المحتشمی کی تصنیف ہے جس میں انہوں نے شان علی رضی اللہ عنہ کے متعلق تمام رطب و یا بس روایات کو اکٹھا کر دیا ہے۔ ان روایات میں کچھ صحیح ہیں، کچھ حسن اور کچھ ضعیف و موضوع۔ مصنف نے کسی قسم کی کوئی تحریق نہیں کی۔ مترجم غفرلہ کو جس حدیث کی تحریق میسر آسکی کر دی اور جس کی میسر نہ آسکی اس کا فقط ترجمہ معنوان کے پیش کر دیا۔ کتاب کا ایک طویل حصہ صحاح ستہ اور دیگر مشہور کتب حدیث، سیر و تاریخ سے اخذ ہے، اس لیے ان احادیث کی تحریق درج کر دی گئی ہے۔

فقط

محمد سیم اکرم قادری

## فہرست

10	☆ قصائد علیؐ
13	☆ شانِ صحابہ کرام
27	☆ غزوہ بدرا اور صلح حدیبیہ میں شریک صحابہ کے فضائل
30	☆ عشرہ مشیرہ صحابہ کے فضائل
46	☆ خلفائے اربعہ کے فضائل
74	☆ صحابہ کرام سے محبت، ان کے باہمی اختلافات میں نہ پڑنے اور انہیں برانہ کہنے اور مواخات کا بیان
87	☆ اہل بیت
97	☆ فضائل و مقام علیؐ اور قرآن مجید
101	☆ فضائل و مقام علیؐ اور احادیث
113	☆ حضرت علیؐ کی شان میں غلوکرنے کے ذمہ
114	☆ حضرت علیؐ کا نام
115	☆ حضرت علیؐ کے القاب و کنیت کا بیان
116	☆ حضرت علیؐ کی ولادت کی تاریخ اور مقام
118	☆ حضرت علیؐ کی ولادت کی کیفیت کا بیان
119	☆ حضرت علیؐ کا اپنے والدین کی طرف سے نسب اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کا مقام
123	☆ حضرت علیؐ تربیت نبی میں
125	☆ حضرت علیؐ کے قبول اسلام کا بیان
127	☆ حضرت علیؐ کو دیکھنا اور ان کا تذکرہ عبادت ہے
129	☆ حضرت علیؐ کے فضائل بیان کرنا
131	☆ اگر تم نہ ہوتے تو مونین کی پہچان نہ ہوتی
132	☆ حضرت علیؐ کی معرفت لازم ہے
133	☆ حضرت علیؐ کا علم و دانش..... باسی علم رسول

149	حضرت علی اور شبِ معراج و بدر	☆
152	حضرت علی کے اخلاق اور سیرت کا بیان	☆
155	حضرت علی کا زہد و قناعت اور دنیا سے بے رغبتی	☆
160	حضرت علی کی غزا	☆
163	حضرت علی کی محنت اور شجر کاری کی برکتیں	☆
164	حضرت علی کی سخاوت اور کرم کا بیان	☆
170	حضرت علی کی عبادات و وظائف	☆
178	واقعہ غدیر	☆
214	رسول اللہ کا فرمان کہ جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی ہے	☆
222	حضرت علی المرتضیؑ کے خطبات	☆
258	حضرت علی کی حکمت بھری باتیں	☆
274	حضرت علی تھارے لئے بہترین حاکم ہیں	☆
276	حضرت علی کی معاملہ نہیں، اجتہادی قوت اور فیصلے	☆
287	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی استقامت	☆
288	کراماتِ علی المرتضیؑ	☆
294	سیدنا علی کی شجاعت و بہادری	☆
302	حضرت علی صاحبِ عکم	☆
307	جناب علی کے زخم اور ان پر رسول اللہ کا غمگین ہونا	☆
309	جس نے علی کو برا کہا پس اس نے مجھے (رسول اللہ کو) برا کہا	☆
310	علی سے محبت کی ترغیب اور آپ سے عداوت پر ترہیب	☆
316	مومن اور منافق میں فرق	☆
317	اس مثال کا ذکر جس کو رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے بیان فرمایا	☆
318	حضرت علی کی منزلت اور نبی کریم سے ان کی قربت	☆
327	نبی کریم کے کندھوں پر سوار ہونے میں حضرت علی کی فضیلت	☆
328	سرگوشی کا ذکر اور حضرت علی کے طفیل امت مسلمہ پر آسانی	☆
329	حضرت علی کی نماز کا ذکر	☆
333	اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت علی کا مرتبہ	☆

346	☆ رسول اللہ کے ہاں حضرت علی کا مرتبہ
357	☆ رسول اللہ کی بارگاہ کے مقرب ترین کاتد کرہ
359	☆ ذکر مواخات
361	☆ حدیث کہ جناب علی کو اللہ کبھی شرمندہ نہیں کرے گا
364	☆ نبی کریم کا حضرت علی کو مغفور فرمانا
368	☆ حدیث کہ اللہ نے علی کے دل کو ایمان کے لیے آزمایا ہے
	☆ رسول اللہ کا حضرت علی سے فرمانا کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو ہدایت دے گا اور تیری زبان کو ثابت رکھے گا
369	-----
373	☆ سیدنا علی سے بیزاری اور اس کے نتائج
377	☆ حضرت علی پر اللہ، رسول اور فرشتوں کا فخر کرنا
379	☆ حضرت علی کا رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہو کر بتوں کو توڑنا
380	☆ شب بھرت حضرت علی کا رسول اللہ کے بستر پر سونا
383	☆ مبالغہ میں سیدنا علی المرتضی کا مقام
386	☆ حضرت علی اور حدیث ردش
387	☆ جناب علی کے علاوہ تمام دروازے بند کرنا
	☆ رسول اللہ کا ارشاد کہ میں نے علی کو داخل نہیں کیا اور نہ تم کو نکالا ہے بلکہ اللہ نے اسے داخل کیا اور تمہیں نکالا
390	-----
393	☆ حضرت علی سفینہ نوح کی طرح اور سفینہ الحجات ہیں
395	☆ حضرت علی دین، ہدایت، ایمان اور امن کا دروازہ ہیں
398	☆ علی بہترین انسان ہیں
400	☆ علی سے کیا چاہتے ہو علی مجھ سے ہے
403	☆ علی میری روح، میرے بھائی اور میرے دوست ہیں
412	☆ حضرت علی اور مرغ بریاں کی حدیث
414	☆ حضرت علی کے قائدانہ اوصاف
416	☆ حضرت علی کے حق میں رسول اللہ کی دعا
417	☆ حضرت علی اس امت کے سب سے زیادہ سچے اور حق و باطل کو الگ کرنے والے ہیں
419	☆ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ

423	قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ -----	☆
424	حضرت علی کے لیے آسمان سے پانی نازل ہونا -----	☆
425	حضرت علی، ہی سیدہ فاطمہ کے کفوٰتھے -----	☆
429	سیدہ فاطمہ کے حوالے سے حضرت علی کی اولین و آخرین میں خصوصیت -----	☆
459	حضرت حسن و حسین کے والد ہونے کے حوالے سے خصوصیت علی المرتضی -----	☆
462	رسول اللہ کا حضرت علی سے فرمانا کہ تو مجھے فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو اور فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے	☆
463	رسول اللہ کا ارشاد کہ اے علی جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا تیرے لیے بھی مانگا -----	☆
464	سردی اور گرمی کی اذیت کو حضرت علی سے پھیر دینے میں آپ کی خصوصیت -----	☆
466	حضرت علی اور جنت -----	☆
469	حضرت علی امت مسلمہ کے باپ کے مقام پر -----	☆
471	حضرت علی کی چند خصوصیات -----	☆
473	رسول اللہ کی تجھیز و تکفین اور سیدنا علی المرتضی -----	☆
474	حضرت علی اور حدیث منزلت -----	☆
476	اطاعت علی -----	☆
480	رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ میں علی سے ہوں اور وہ مجھ سے -----	☆
483	رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ علی میری جان کی مانند ہے -----	☆
484	رسول اللہ کا فرمان: اے علی آپ میری صفائی اور امین ہیں -----	☆
484	حدیث کہ میری ذمہ داری ادا نہیں کرے گا مگر میں خود یا علی -----	☆
485	سورۃ توبہ کے ساتھ حضرت علی کو سمجھنے میں رسول اللہ کی توجیہ -----	☆
488	سب سے بڑے بد بخت کا ذکر -----	☆
490	حضرت علی کی مدد کرنے کی ترغیب -----	☆
491	محبت علی کا بیان -----	☆
503	حضرت علی سے محبت کی فضیلت اور ان سے دشمنی کی نہ ملت -----	☆
507	عدالت علی -----	☆
507	حضرت علی اور بیت المال -----	☆
510	ایشارہ علی -----	☆
515	حضرت علی کا یہ وہ عورتوں، قبیلوں کی کفالت کرنا، غلام کو آزاد کرانا اور مستضعین -----	☆

- 521 ----- ☆ رسول اللہ کا فرمان کہ ایک بہترین گروہ خارجیوں کو قتل کرے گا
- 545 ----- ☆ ارشادِ نبوی کہ جس طرح میں نے قرآن کی نزیل پر جنگ کی ہے علی اس کی تاویل پر (خوارج سے) جنگ کرے گا
- 546 ----- ☆ حضرت علی کی مظلومیت، وصیت اور شہادت کا بیان

.....☆☆☆.....

## قصائد على

قصيدة اسد الله الغالب على ابن ابي طالب في مدحه ذاته:

محمد الہبی اخی و صہری  
و حمزة سید الشہداء عمنی  
و جعفر الذی یسمی و یہی  
یسطور مع الملائکہ بـ امامی  
و بنت محمد سکنی و عرسی  
منوت لرحمہ ابدی و اغما  
و سلطاناً احمد انسای منها  
لایکم و سه سهم کسہمی  
سقة کم و الی الاسلام طرا  
غلام ام ایلقت اعوان حلمی  
وصلیت الصلوۃ و کفت فردا  
لمن ذا یبدعی یوم کیوم

قصيدة على ابن ابي طالب في صفة الجنة:

اعمل لدار البقاء رضوان خازنها  
الجبار احمد والرحمن بـ ایها  
ارض لها ذهب والمسك طینتها  
والزعفران حشیش نابت فيها  
الهـالـبـنـ مـحـضـ وـمـنـ عـسلـ  
والخمر یجری رحیق افی مجاريها  
والطیر تجری على الاغصان عاکفة  
تسبح اللـهـ جـهـرـاـ فـیـ مـثـالـهـاـ

من يشتري الدار بالفردوس يعمرها  
 برکعة في ظلام الليل يخفيفها  
 أو سد جوعة مسكن بشبعته  
 في يوم مسفة عم الفلاح فيها  
 النفس تطمع في الدنيا وقد علمت  
 أن السعادة منها ترك ما فيها  
 أموال الدنيا الميراث لجمعها  
 ودار بالخراب البروم لبنيها  
 لا دار لمرء بعد الموت يسكنها  
 إلا الذي كان قبل الموت يبنوها  
 فمن بنوها بغير طاب مسكنه  
 من بنوها بشر خاب بانيها  
 والناس كالحب والديار حى نصب  
 للعالمين وكف الموت يلهيها  
 فلا إقامة تنجد النفس من تلف  
 ولا فرار من الأحداث ينجيها  
 تلك المنازل في الأفق خاويه  
 اضحت خراباً وذاق الموت باليها  
 ابن الملوك الذي عن حظها أغفلت  
 حتى اسقاها بكماس الموت ساقيا  
 افنى القرون افنى كل ذى عمر  
 كذلك الموت يفني كل ما فيها  
 يلهو نامياً أو لالسربيها  
 شريعة الموت تطويها وتطويها  
 فاغرس أصول العقى ما دمت مقنداً  
 وأعلم بذلك بعد الموت لاقيها

تجنى الشمار غدا فى دار مكرمة  
لامن فيها ولا التكدير ياتيها  
الاذن والعين لم تسمع ولم تره  
ولم يجرفى للوب الخلق ما فيها  
في الها من كرامات اذا حصلت  
وياله من نفوس سوف تحربها

قصيدة على ابن ابي طالب في اهل اليمن:

ولما رأيت الخيل تقرع بالقنا  
فوارسها حمر النحور دوام  
تيممت همدان الدين هم هم  
اذاب امر جنتى وحسامى  
فنا ديت فيهم دعوة فاجابنى  
فوارس من همدان غير لئام  
فوارس ليسوفى الحروب بعزل  
غداة الوغى من شاكر وشمامى



فصل نمبر 1:

## شانِ صحابہ کرام

(جناب علی المرتضیٰ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور خاص قریبوں میں سے ہیں اس لیے اصحاب انبیٰ کی شان قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے۔)

اللَّهُ هُم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر  
اور عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر  
رگ تحریف کئے جائے دم عثمان پیدا کر  
علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر

اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے:  
”وَكُلُّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى“

(القرآن الچید، پارہ 27، سورۃ نمبر 57 (الحمد)، آیت نمبر 10)

”ان سب (صحابہ کرام) سے اللہ جنت کا وعدہ فرم اچکا۔“

میرے نزدیک مسلمانوں کی پستی کی وجہ مخفی اپنے مذہب، بانی مذہب اور جملہ اکابر میں اسلام کی تاریخ کو فراموش کر دینا ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ اور اس کے بنانے والی ماں یہ ناز ہستیوں کو فراموش کر دیتی ہے اس کے جذبات اور انگلیں، جو صلی اور ولو لے پست ہو جاتے ہیں جو فی الحقیقت مغل اقوام کی زندگی و تحرک اور نشوونما کا باعث ہیں۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا:

نام نیک رفتگان ضائع مکن      تا بماند نام میکت برقدار  
”نیک لوگوں کے نام اور کارتاموں کو ضائع نہ کر کیونکہ نیک لوگوں کے نام کی وجہ سے تو تمہارا نام باقی ہے۔“

ملکتِ اسلامیہ کی عظیم ہستیاں جنہوں نے ہم تک دینِ اسلام پہنچایا، وہ صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی عظیم لوگ قرآن کے اولین مخاطب اور وہ واجب الاحترام ہستیاں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ شرف تربیت حاصل ہوا۔ اشاعتِ اسلام کے دائی و مبلغ ہونے کی اولیت و افضلیت اسی گروہ کے حصہ میں آئی۔ نیز اللہ تعالیٰ، دینِ اسلام اور رسول اکرم پر کجی، کچی فدائیت، راہ حق میں مخلصانہ سرفروشی اور امتحانِ الہی میں کامیابی کے تاج انہیں کے سر کی زینب وزینت بنے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے کلام اور اس کے پیغمبر کی تصدیق فرمائی۔ قرآن و احادیث جیسی عظیم امامتوں کو اپنے مقدس سینوں میں محفوظ رکھا اور آنے والی نسلوں کی راہنمائی کے لیے ان کو من و عن مختفل فرمایا۔

یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الہ وحیہ وسلم کی محبت اور تربیت نصیب ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے حکم کے مطابق ”صَبَّنَهُ اللَّهُ“ میں رنگ جانے کا اعزاز ملا۔ انہوں نے جمالی رسول کو اس درجہ محفوظ کر لیا تھا کہ یہ ہر قسم کی آلات سے پاک ہو گئے تھے۔

انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الہ وحیہ وسلم سے ایسی محبت کی جیسا کہ اس کا تقاضا تھا اور اس محبت کا ہونا کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے حدود جہہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دماغ ارشادات نبوی سے بھی منور و معطر تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مقدس گروہ صحبت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی الہ وحیہ وسلم کی درس گاہ علم و حکمت کا فیض یافتہ، پروردہ اور اس میں کامیاب ہونے والا تھا۔

یہ اس درس گاہ میں پڑھتے تھے جہاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی تربیت بھی سکھائی جاتی تھی اور وہاں کے مندشیں رسولوں کے سالار، احمد بن خمار، محبوب پروردگار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الہ وحیہ وسلم تھے۔

یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی رضا کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الہ وحیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہر وقت کٹھنے مرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ میدان جہاد میں شمشیر بکف ہوتے اور ان کے پاؤں اللہ کے دین کی سر بلندی کی خاطر اشاعت اسلام میں گرداؤ دھوتے۔

یہ گردہ صحابہ ہمہ وقت رسول اللہ سے کلامِ الہی سننے اور آپ کے ارشادات پر گوش برا آواز رہتا اور ان کے دل معلم کتاب و اخلاق کے فرمودات کو اپنے دماغ کی لوح پر محفوظ کرنے کے لیے تیار رہتے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگی اور موت صرف اسلام کے لیے تھی۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شمع رسالت کے پروانے اور آسمانِ نبوت کے درخشندہ و تابندہ ستارے ہیں۔ جنہوں نے جہالت اور مظلالت کے اندر ہیروں کو مٹا کر دنیا میں علم و تہذیب کی روشنی پھیلائی اور توحید کا پرچم بلند کیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جماعت کے بعد یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، معزز، محترم اور محبوب ترین بندے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی الہ وحیہ وسلم کے نزدیک بہت بلند و بالا ہے۔

جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ نے احادیث مقدسہ میں صاف صاف بیان فرمایا کہ ”کسی کو بھی صحابہ کے خلاف زبان درازی کی اجازت نہیں“ اور گستاخ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا کا حکم ہے۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الہ وحیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جو کوئی آدمی صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین) کی شان میں گستاخی کرے تو اسے کوڑے لگاؤ۔“  
ایک جگہ ارشاد فرمایا:

”جو آدمی میرے صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کو برآ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجو۔“  
ایک اور جگہ فرمایا:

”جس نے میرے صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے  
ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی۔“

ایک بار فرمایا:  
”میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کو گالی مت دو! کیونکہ تم عمل اور ثواب کے اعتبار سے ان کے مقام کو پہنچ ہی  
نہیں سکتے۔“

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:  
”میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) کی محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان کا بغض کفر کی نشانی ہے۔“  
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان قرآن بھی بیان کرتا ہے اور احادیث نبویہ بھی۔

### قرآن مجید کی روشنی میں:

1: جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جس کے متعلق قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ سچے  
تھے، صادق تھے، ایمان والے تھے۔ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ اور ”آشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ“ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ  
عنہم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

”أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَىٰ“

(القرآن المجید، پارہ 26، سورۃ نمبر 49 (الجرات)، آیت نمبر 3)

”یہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیز مگاری کے لیے پرکھ لیا،“

2: انہی کے متعلق قرآن بیان کرتا ہے:

”وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأُنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَلُهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا طَذِيلَ الْفَرْزُ  
الْعَظِيمِ“

(القرآن المجید، پارہ 11، سورۃ نمبر 9 (التوبۃ)، آیت نمبر 100)

”اور سب میں اگلے، پہلے مہاجر اور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ان سے راضی  
اور وہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان  
میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔“

3: انہی کے ساتھ مالکُ الملک نے حکومتِ ارضِ مقدس کا وعدہ فرمایا اور پھر ابدِ الآباد کے لیے اوراقِ تاریخ کو ان کی صداقت پر شایدِ موثق بنادیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشادِ ربانی ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ كُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخِلْفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي أَرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ نَبِيًّا لَا يُشْرِكُونَ بِنَبِيٍّ شَيْئًا

(القرآن المجید، پارہ 18، سورۃ نمبر 24 (النور)، آیت نمبر 55)

”اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور ان کے لیے جمادے گا ان کا وہ دین جوان کے لیے پسند فرمایا ہے اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں۔“

4: انہی کی منقبت کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَالِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

(القرآن المجید، پارہ 2، سورۃ نمبر 2 (البقرۃ)، آیت نمبر 143)

”اور باتیں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا (ہنا یا) سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔“

5: انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیر ٹھہرا کر ان کی فضیلت و عظمت میں مزید اضافہ فریا اور درج ذیل آیت کریمہ کو نازل فرمایا:

فَاغْفِ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَأْرُهُمْ فِي الْأَمْرِ

(القرآن المجید، پارہ 4، سورۃ نمبر 3 (آل عمران)، آیت نمبر 159)

”تو (اے غیب کی خبریں دینے والے نبی) تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو۔“

6: انہیں کی بزرگی و شرف میں چار چاند لگا کرنے والا فروز عالم بنادیا گیا۔ اس پر یہ آیت شاہد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

(القرآن المجید، پارہ 4، سورۃ نمبر 3 (آل عمران)، آیت نمبر 110)

”تم بہتران سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

7: انہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اخلاقی حسنے کے متعلق کلام ذیل نازل فرمایا کر ان کے جلالی سطوت اور کمال فضیلت کو اس طرح روشن اور ظاہر فرمایا:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ أَهْمَاءً عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بِإِنْهُمْ تَرَاهُمْ

رَكَعَاسُ جَدَّاً يَتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا نَأْ سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَشَّلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْنَةً فَازْرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ النَّرَاءَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

(القرآن المجيد، پارہ 26، سورۃ نمبر 48 (الفتح)، آیت نمبر 29)

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ تو انہیں دیکھے گا کوئی سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے، ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔ یہ ان کی صفت تورات میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں۔ جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جوان میں ایمان اور اچھے کام والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا ۵۰“

8: اسی جماعت کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے:  
”وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى“

(القرآن المجيد، پارہ 27، سورۃ نمبر 57 (الحمد)، آیت نمبر 10)

”ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرمائچکا۔“

9: انہی کی عظمت و شان اور رفتار مکان کے صدقے میں موسیٰ مردوں اور عورتوں کو بشارت عظیمہ کا مستحق شہرایا گیا۔

اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

”يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرًا كُمُ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝“

(القرآن المجيد، پارہ 27، سورۃ نمبر 57 (الحمد)، آیت 12)

”جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ہے ان کے آگے اور ان کے دامنے دوڑتا ہے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بکیں، تم ان میں ہمیشہ رہو یہی بڑی کامیابی ہے ۵۰“

10: انہی کے متعلق ایک اور جگہ فرمایا:

”وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِنْدَهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ هُمْ وَنُورٌ هُمْ“

(القرآن المجيد، پارہ 27، سورۃ نمبر 57 (الحمد)، آیت نمبر 19)

”وہ لوگ جو اللہ اور اسکے رسولوں پر ایمان لائے یہی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہوگا۔“

11: یہی وہ جماعت ہے جن کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَأْتِيُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَآتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

(القرآن المجيد، باره 26، سورة نمبر 48 (الفتح)، آیت نمبر 18)

”بیشک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جوان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اُتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔“

انہی کے متعلق فرمایا گیا:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفُتحِ وَقُتِلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى

(القرآن المجيد، باره 27، سورہ نمبر 57 (المردود)، آیت نمبر 10)

”تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرج اور جہاد کیا۔ وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرج اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرمائچکا۔“

13: انہی کے متعلق ارشاد فرمایا گیا:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحْبُّونَ مَنْ هَا جَرَّ الْيَهُمْ وَلَا يَجْدُونَ فِي صُدُورِهِمْ  
حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

(القرآن المجيد، باره 28، سورة نمبر 59 (الحشر)، آیت نمبر 9)

”اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور زامان میں گھر بنالیا دوست رکھتے ہیں انہیں جوان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں شدید محبتاً جی ہوا اور جواب پر نفس کے لائق سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔“

14: انہی کے متعلق قرآن فرماتا ہے:

"ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا" (١٣)

(القرآن المجيد، باره 22، سورۃ نمبر 35 (الفاطر) آیت نمبر 32)

”پھر ہم نے کتاب کا ارث کیا اسے ختم ہوئے بندوں کو۔“

15: انہی کی شان کو بیان کرتے ہوئے از شاد فرمائا گما:

”لِكُنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“

(القرآن المجيد، پارہ 10، سورہ نمبر 9 (التوبہ) آیت نمبر 88)

”لیکن رسول اور جوان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں، جانوں سے جہاد کیا اور انہی کے  
لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچے ۵۰“

16: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول:

((قُلْ حَمْدُ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَيْتَ))

”فرما ویجھے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور سلام ہو اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، کی تفسیر نبی علیہ السلام  
کے صحابہ ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی سُنگت کے لیے جنم لیا۔“

ان احادیث کو خیثہ بن سلیمان صحابی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

17: ابو صالح فرماتے ہیں کہ قول باری تعالیٰ:

((الَّذِينَ أَنْ مَكَنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ))

”وَهُوَ لَوْكَ كَهُ أَنْ هُمْ أُنْهِيَّنَ مِنْ زَمِنٍ مِّنْ حُكْمِتِ دَرْدِيَّ دَيْرِيَّ تَوْهِيَّ نَمَازَ قَامَّ كَرِيَّسَ گَرِيَّ“ سے مراد نبی علیہ السلام  
اور آپ کے صحابہ ہیں۔“

18: حضرت مسروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے صحابے نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آپ ہمیں دنیا میں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں کیونکہ اگر آپ ہم سے جدا ہو گئے تو پھر آپ کا دیدار  
کیسے نصیب ہوگا؟“

تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمادی:

((مَنْ يَطِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ  
وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا))

”جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھی ہو گئے؛ جن پر اللہ نے انعام کیا  
ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین اور ایسے لوگوں کی سُنگت بہت ہی خوب ہے۔“

19: ارشادِ الہی ہے:

((وَالسَّبِقُونَ إِلَّا وَلُونَ مِنَ الْمَهْجُورِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا هُمْ بِالْحَسَنَاتِ  
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعْدَلُهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلَدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ))

(القرآن الکریم)

”سب سے پہلے اور اول مہاجر و اور انصار میں سے اور جنہوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی اللدان سے راضی ہوا اور وہ اللد سے اور اللد نے ان کے لیے جنتیں تیار فرمائی ہیں جن کے نیچے نہریں روائیں دوانیں ہیں۔ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔“

### احادیث کی روشنی میں:

1: اس جماعتِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ سرکارِ کائنات صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

”أَصْحَابِيْ كَالنَّجُومِ بَأَيْهِمُ افْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ“

”میرے صحابہ (رضی اللہ عنہم) ستاروں کی طرح ہیں کہ تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کروں گے ہدایت پا جاؤ گے۔“

2: انہی کی منقبت کو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کے ارشادِ عالی نے اس طرح آشکار فرمایا ہے:

”خَيْرُ أُمَّتِي الْقُرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ فِيهِمْ“

”میری امت کے عظیم لوگ وہ ہیں جن میں مجھے بھیجا گیا ہے۔“

3: ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

”خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيْ“

”سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔“

4: ایک اور حدیث میں صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کی شانِ رفتہ مکان کو اتنا بلند فرمادیا کہ ان کے ادب، تعظیم اور احترام کو علامتِ ایمانی اور ذوقِ ایقانی قرار دیا، فرمایا:

”مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتْهُ وَسَاءَ تُهُ سَيِّئَتْهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُونَ“

”تم میں سے وہی موسمن ہیں جن کو صحابہ کے کام اچھے لگیں اور ان کو برآ کہنا بر امعلوم ہو۔“

5: صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لَا تَسْبُوا أَصْحَابِيْ فَوَاللَّذِيْ نَفْسِيْ بِنَيْدِهِ لَوْاَنَّ أَحَدًا نَفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبَ مَابَلَغَ مُذَاهِدِهِمْ وَنَصِيفَةَ“

”میرے صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو برامت کہو۔ مجھے اس ذات کی قسم! جس کے قہضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احمد پہاڑ کے برابر بھی سوتا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ ان میں سے کسی ایک کے مدد (ناپنے کا ایک پیانہ) بلکہ نصف مدد کے ثواب کے برابر بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔“

6: ایک اور جگہ صحابہ کو دیکھنے والے کو جہنم سے آزادی کی تو یہ سنائی گئی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لَا تَمُسُّ النَّارَ مُسْلِمًا إِنِّي أَوْرَادِي رَأْنِي“

”اس شخص کو (دوزخ کی) آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہو یا پھر اس شخص (صحابی) کو دیکھا ہو جس نے مجھے دیکھا۔“

7: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو امت میں وہ مقام حاصل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا قاعد منتخب فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مَا مِنْ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِي يَمُوتُ بَارْضٍ إِلَّا بُعْثَرَ قَائِدًا وَنُورًا لَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ“

”میرا کوئی صحابی کسی علاقے میں انتقال کر جائے تو وہ روز قیامت اس علاقہ والوں کے لیے باعث نور اور راہنماء ہو گا۔“

8: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”صحابہ کو گالی نہ دو کیونکہ تمہارے ساری عمر کے نیک اعمال انکی ایک لمحہ بھر کی نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔“

9: حضرت عبد اللہ بن مفضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَحَذُّوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فِي بُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَا اللَّهَ فِي وُشْكٍ أَنْ يَأْخُذَهُ“

”اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو! میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ جان لو کہ جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے اور جو شخص ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ مجھے بغض رکھنے کے سبب ان سے دشمنی کرتا ہے اور جس شخص نے ان کو اذیت پہنچائی تو بیشک اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور جس شخص نے مجھے اذیت پہنچائی تو اس نے اللہ گ کو اذیت پہنچائی اور جس شخص نے اللہ کو اذیت پہنچائی تو وہ دن دور نہیں جب اللہ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔“

10: ایک اور جگہ صحابہ کے دشمنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”إِنَّ أَشَرَّ أُمَّتِي أَجْرَوْهُمْ عَلَى أَصْحَابِي“

”بیشک میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ کے گستاخ ہیں۔“

11: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسْتَبُونَهُ أَصْحَابِيْ فَقُولُوا لِعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِكُمْ“

”جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو برآ کہتے ہوں تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری اس بڑی حرکت پر۔“

12: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میرے صحابہ کو گالی نہ دو کیونکہ تم میں سے اگر کوئی شخص احمد پھاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خروج کرتے تو ایک صحابی کے چار سیر بلکہ دو سیر گندم خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔“

اسے بخاری و مسلم نے اور ابو بکر بر قافی نے بخاری مسلم کی شرائط پر روایت کیا ہے۔

13: ابو بکر بر قافی کی روایت میں یہ بھی ہے:

”میرے صحابہ کو گالی نہ دو انہیں چھوڑ دو اس لیے کہ تم میں سے کسی کا ہر روز احمد پھاڑ کے برابر سونا راہ الہی میں خرچ کرنا ایک صحابی کے صرف ایک دن 4 سیر گندم خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔“

14: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی نہ دو کیونکہ تمہارے ساری عمر کے نیک اعمال ان کی ایک لحظہ نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے۔“

اسے علی بن حرب طائی اور خیثہ بن سلیمان نے روایت کیا ہے۔

15: حضرت عبد الرحمن بن سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم (تینوں دادا، باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے متواترا) روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے مجھے چنانا اور میرے لیے ساتھی پختے، پھر انہیں میں سے میرے سر اور مد دگار بنائے تو جو انہیں برآ کہے اس پر اللہ تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔“

16: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی صحابی کی علاقے میں انتقال کر جائے تو وہ روز قیامت اس علاقہ والوں کے لیے باعث نور اور راہنماء ہو گا۔“

17: حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں کے درمیان میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔“

چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”ہائے افسوس! قوم کا نمک جاتا رہا (صحابہ دنیا سے اٹھ گئے)۔“

18: حضرت سعید بن میتب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے ان معاملات کے بارے میں اللہ سے سوال کیا جن میں میرے صحابہ میرے بعد اختلاف کریں گے۔ اللہ نے مجھے بذریعہ وحی فرمایا: (اے محمد!) آپ کے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کی مانند ہیں۔ بعض کا نور دوسروں سے زیادہ ہے تو جس شخص نے صحابہ کے مابین کسی اختلافی مسئلہ کی ایک شق کو اختیار کر لیا اس کا یہ عمل میرے ذمہ پر ہو گا۔ (اس پر موافقہ نہ ہو گا)“

اسے نظام الملک نے اپنی امامی میں بیان کیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ہر مجتہد کو اپنے عمل کا ثواب ضرور ملتا ہے۔

19: تمام صحابہ کرام کا ستاروں کی مانند ہونا کتب شیعہ میں صراحةً کے ساتھ مذکور ہے۔ مشہور شیعہ محقق ملا باقر مجلسی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں:

((فَإِنَّمَا مُثُلُّ أَصْحَابِي فِيهِمْ كَمَثُلُ النَّجُومِ يَا إِلَهًا أَحَدًا هَتَّدِي وَبَالِي إِفَاعِيلُ أَصْحَابِي  
أَفْتَدِي تِيمَ أَهْتَدِي تِيمَ))

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کی تم میں مثال ستاروں جیسی ہے۔ جس کے پیچھے چل پڑے ہدایت مل گئی۔ میرے صحابہ میں سے جس کی بھی تم اقتداء کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔“

(بحار الانوار، جلد 26 صفحہ 307 طبع جدید۔ نقائع معانی الاخبار 5 طبع جدید)

20: حضرت واٹلہ بن اسقع سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا:

”اے لوگو! تم بھلائی میں رہو گے جب تک کوئی ایک بھی مجھے دیکھنے اور میری سُنگت کرنے والا (صحابی) تمہارے اندر موجود ہے۔ اللہ کی قسم! تم بھلائی میں رہو گے جب تک میری سُنگت اور دید کرنے والے کو کوئی دیکھنے والا (تابعی) تمہارے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کی قسم! تم بھلائی میں رہو گے جب تک کوئی ایسا شخص تم میں موجود ہے جس نے میرا دید اور میری سُنگت کرنے والوں کو دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ (تابعی)۔“

21: صحابہ، تابعین اور تابعوں تینوں طبقات کا دوسری امت سے برتر ہونے کے بارے میں شیعہ حضرات کے ہاں بھی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ دیکھئے:

((عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ طَوْبَى لِمَنْ رَأَىٰ أَوْ رَأَىٰ مِنْ رَأَىٰ أَوْ رَأَىٰ مِنْ رَأَىٰ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مبارک ہے اسے جس نے مجھے دیکھایا مجھے دیکھنے والے کو دیکھایا میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔“

(امالی شیخ صفحہ 282) (2) بخار الانوار نبینا صلی اللہ علیہ وسلم باب فضل الہاجرین والانصار، 22 صفحہ 311

اسے حافظ سلفی نے سدا سیاست میں بیان کیا ہے۔

22: حضرت ابی برزہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں زیاد (اموی گورنر کوفہ) کے پاس گیا۔ وہاں میں نے کہا:

”سب سے بڑے تکہبان بادشاہ ہوتے ہیں۔“

زیاد بولا:

”خاموش! تم صحابہ کے چھکلوں کی مثل ہو۔“

میں نے کہا:

”مسلمانو! کیا نبی کے صحابہ کے چھکلے بھی تھے۔ ان کی تو مکمل ذات ہی مغزتھی۔ پھر میں نے کہا: اللہ کی قسم!

میں آئندہ تیرے پاس نہ آؤں گا۔“

اسے ابو الحسن علی بن جعفر نے روایت کیا ہے۔

23: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جو آپ کی مرض اور نبی علیہ السلام کی عیادت کے متعلق ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام کی یہ دعا موجود ہے:

”اے اللہ میرے صحابہ کی بھرت قبول فرم اور انہیں اُلٹے قدم واپس نہ پلٹا دے۔“

اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔

24: حضرت عبدالرحمن بن سلم بن عبد اللہ (داداً باباً اور بیٹاً ایک دوسرے سے متواتراً) روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ نے مجھے (انبیاء میں سے) چنا اور میرے لیے ساتھی چنے، انہیں سے میرے سر اور مد دگار بنائے تو جو انہیں برائے اس پر اللہ تعالیٰ، تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ روز قیامت اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔“

اسے ابن مہندی نے اپنی مشیخت میں بیان کیا ہے۔

از الہ بدگمانی:

مسلمہ حقیقت ہے جس کو خاص و عام سب نے اپنی کتب میں لکھا ہے:

”اول من اسلم فهو ابو بکر“

”سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔“

(مفسر علامہ نجی شیعہ)

مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔

شیعہ عالم علامہ طبری تفسیر مجع البیان میں لکھتا ہے:  
”حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور توں میں سب سے پہلے ایمان لا کیں اور ان کے بعد جس نے کلمہ پڑھا وہ ابو بکر ہیں۔“

حضرت علی اسد اللہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

”لوگو! ابو بکر صدیق کئی باتوں میں ہم سے سبقت لے گئے۔ وہ اسلام لانے میں سبقت لے گئے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کرنے میں ہم سے سبقت لے گئے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”اے لوگو! جب ساری کائنات میرا انکار کر رہی تھی اس وقت ابو بکر صدیق نے میری تصدیق کی۔ جب ساری دنیا میرے ساتھ عداوت کر رہی تھی، میرے ساتھ دشمنی کر رہی تھی تو اس وقت صدیق اکبر نے میری محبت کا اقرار کیا۔ جب ساری دنیا میرے خون کی پیاسی تھی تو اس وقت صدیق اکبر نے مجھ پر اپنا تن من سب کچھ شمار کر دیا۔“

امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور فرمایا:

”اے ابو بکر! میں ابھرت کرنا چاہتا ہوں ساتھ کس کو لے کر جاؤں۔“

ابھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت جبرائیل نے آکر کہا:

((ان الله امرك ان تصتحب ابا بکر))

”بیشک اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے سفر میں ابو بکر صدیق کو اپنا ساتھی بنائیے۔!“

روضۃ الشفاء کا مصنف لکھتا ہے:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجرہ مبارک سے اس انداز میں نکلتے ہیں کہ دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف حضرت امیر حمزہ، درمیان میں رسول اللہ، آپ کے آگے حضرت علی اور ان کے آگے حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے چالیس صحابہ کرام کا لشکر ہے۔ جب یہ لوگ کعبہ کے قریب پہنچتے تو کافر کہنے لگے: آج تمہارا کیا ازادہ ہے۔؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے: آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام خانہ کعبہ میں لیں گے۔ وہ کہنے لگے: ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ جب مکہ والوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہوتے اللہ تعالیٰ کا نام کوئی نہیں بلند کر سکتا تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہے فرمایا: ہے کوئی اپنی اولاد کو تیم کرنے والا تو آئے اور عمر کے ساتھ مقابلہ کرے۔ لوگو! آج عمر اسلام کی آغوش میں آگیا ہے۔ آج عمر اللہ کا نام بلند کر کے ہی رہے گا۔“

جب صفتِ اسلام میں فاروق اعظم آگئے  
کافروں کے دلوں پر مایوسی کے بادل چھا گئے  
حق کو پھیلانے کی خاطر اس کی سرگرمی نہ پوچھ  
اس کی نگاہ اٹھی تو باطل کو پسینے آگئے

روضۃ الشفاء کا مصنف مزید لکھتا ہے:

”کعبہ کے اندر سب سے پہلے جس نے علی الاعلان نماز باجماعت پڑھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔“

بعض حضرات کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائے تو تم مصحابہ کے علاوہ باقی تمام مصحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ لعوذ بالله من ذلک الکفر۔  
یہ بات ”کتاب رجال کشی“ میں موجود ہے۔ ان کی کتاب احتجاج طبری جلد اول میں موجود ہے۔ اس میں لکھا ہے:

((کان الناس بعد النبی ﷺ اهل ردة الاثلاثة))

”وصال نبی کے بعد تم مصحابہ کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔“

وہ جو تم مصحابہ بن عمن کے اسلام پر قائم رہے تھے ان کے نام یہ ہیں:

1: حضرت مقدزاد بن اسود رضی اللہ عنہ۔

2: حضرت ابوذر رغفاری رضی اللہ عنہ۔

3: حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ۔

میں (مصنف کتاب) ان (دشمنان مصحابہ) سے پوچھتا ہوں کہ جو مصحابہ کرام مرتد ہونے سے نجیگانے تھے کیا  
میں حضرت علی تھے؟

((وروی: ان الجنة تستاق الی ابی بکر و عمر و عثمان و علی و سلیمان))

”مردی ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سلیمان فارسی ایسے لوگ ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔“



فصل نمبر 2:

## غزوہ بدرا اور صلح حدیبیہ میں شریک صحابہ کے فضائل

(جناب علی المرتضیٰ کیونکہ غزوہ بدرا اور صلح حدیبیہ میں شامل تھی اس لیے ان صحابہ کی شانِ قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے جو ان مقامات پر موجود تھے۔)

1: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ساتھ حضرت زبر، حضرت طلحہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو بھیجا:

”فلاں پانچ میں جاؤ! وہاں ایک عورت ہو گی جس کے پاس ایک خط ہے وہ خط اس سے لے آؤ۔“  
چنانچہ ہم گھوڑے دوڑاتے وہاں پہنچے وہ عورت وہاں موجود پائی۔ ہم نے کہا:

”خط ہمارے حوالے کر دے!“

کہنے لگی:

”میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔“

ہم نے اسے حکمی دی:

”خط نکال نہیں تو ہم تیری جامہ تلاشی لیں گے۔“

تب اس نے اپنے بالوں سے خط نکالا جس کا مضمون یہ تھا:

”حاطب ابن ابی بنتہ کی طرف سے مشرکین مکہ کی طرف یہ خط ہے۔ نبی علیہ السلام تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔“

جب یہ خط نبی علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو آپ نے حاطب سے مخاطب ہو کر فرمایا:

”یہ کیا ہے؟“

انہوں نے عرض کیا:

”ذرا اٹھہریئے! میری بات سن لجھئے۔ میں مکہ سے بھرت کر کے یہاں مدینہ چلا آیا جب کہ میں نبسا قریش میں سے نہ تھا اور آپ کے دیگر مہاجرین ساتھی قریش میں سے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اہل و عیال کی بگہداشت قریش نے اپنے ذمہ لی ہے اور میرے گھروالوں کا کوئی پرسان حال نہیں تو میں نے قریش پر ایک احسان کرنا چاہا کہ اس کی وجہ سے میرے گھر کو کچھ تحفظ مل جائے اور میں نے یہ کام دین سے برگشنا ہو کر نہیں کیا۔ کیونکہ مجھے تو اسلام کے دامنِ رحمت میں پناہ مل چکی ہے۔“

نبی علیہ السلام نے فرمایا:  
”حاطب سچ کہتا ہے۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:  
”یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیں کہ اس مناقق کا سراہاروں۔“

نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا:  
”حاطب بدر میں شریک تھا اور تم کیا جانوالہ نے بدریوں پر نظر کرم فرمائی اور فرمایا: تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔“

2: سہل بن مالک اپنے والد سے اور وہ سہل کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا:  
”اللہ تعالیٰ نے بدر اور حدیبیہ والوں کی بخشش فرمادی ہے۔“

اسے خلیٰ اور حافظ و مشقی نے اپنے اپنے مجمع میں بیان کیا ہے۔

3: حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبکہ آپ سیدہ خصہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرماتے ہیں:

”جس شخص نے بھی درخت کے نیچے (حدیبیہ) میری بیعت کی ہے انشاء اللہ وہ جہنم میں نہ جائے گا۔“  
میں نے عرض کیا:

”ہاں! یا رسول اللہ!“

سیدہ خصہ نے کہا:

”اللہ تو فرماتا ہے:

((وَإِنْ كُمْ إِلَّا وَارْدُهَا))

”تم سے ہر کوئی جہنم پر وارد ہو گا۔“

نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا:

”ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے:

((ثُمَّ نَجَى الَّذِينَ اتَّقَوا وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيَا))

”پھر ہم تقویٰ والوں کو بچائیں گے اور ظالموں کو وہیں چھوڑ دیں گے۔“

اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

4: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے واقعہ

میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”تمہیں کیا پتہ؟ اللہ نے بدر والی جماعت پر نظر رحمت فرمائی ہے اور فرمایا ہے: جو چاہو کرو تمہاری بخشش

ہو گئی ہے۔“

اسے بھی صرف مسلم نے ہی روایت کیا ہے۔

5: یہی روایت اہل تشیع کی معتبر کتاب ناسخ التواریخ حالات پیغمبر، جلد اول، صفحہ 275 میں یوں موجود ہے:  
((فقد وجدت لكم الجنة))

”اوَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهْلَ بَدْرِ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف نظر رحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم جو چاہو عمل کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔“ اور ایک روایت میں ہے کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔“

6: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حاطب کاغلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس ان کی شکایت لایا اور کہا:

”اللَّهُكَ قَسْمًا! حاطب ضرور جهنم میں جائے گا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم جھوٹ کہتے ہو! حاطب نے بدر اور حدیبیہ میں شرکت کی ہے۔“

یہی روایت بالفاظ الناصح التواریخ حالات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلد سوم صفحہ 12 پر موجود ہے۔

7: حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا:

”آپ کے صحابہ میں افضل کون شمار ہوتے ہیں؟“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بدری صحابہ!“

جبرائیل نے عرض کیا:

”یونہی آسمانوں میں وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو بدر میں مسلمانوں کی امداد کو اترے تھے۔“

اسے ابن بشران نے روایت کیا ہے۔

بدر میں شریک ملائکہ کا تمام دیگر ملائکہ سے افضل ہونا ناصح التواریخ حالات پیغمبر جلد اول صفحہ 275 پر موجود ہے۔

8: حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنائے:

”جس نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔“

اسے ترمذی نے بیان کیا ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور اپنی سیرت میں اسے بیان کیا ہے۔ ”اور حدیبیہ میں“ کا لفظ بڑھایا ہے اور ساتھ ہی یہ لفظ لکھے ہیں:

”نبی علیہ السلام نے فرمایا: آگ میں داخل نہ ہو گا وہ شخص جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لا یا یا ایمان کے ساتھ میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا۔“

فصل نمبر 3:

## عشرہ مبشرہ صحابہ کے فضائل

(جناپ علی المرتضی کیونکہ عشرہ مبشرہ (ایسے دس صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری کی گئی) میں سے ہیں اس لیے ان صحابہ کے فضائل قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیے جاتے ہیں۔)

### دس صحابہ کے لئے جنت کی بشارت:

1: حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابو بکر جنت میں جائیں گے، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، سعد بن زید جنتی ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔“

2: حضرت سعید بن زید سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”دس آدمی جنتی ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید۔“

نوافراد گن کر دسویں کا ذکر کیے بغیر آپ چپ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا: ”آپ کو اللہ کی قسم! دسویں کا نام ہیں۔“

فرمایا: ”تم نے مجھے اللہ کی قسم دے دی ہے اس لیے بتلاتا ہوں کہ وہ دسویں ابوالاعور (سعید بن زید) ہے۔“

3: اسے ترمذی نے روایت کرتے ہوئے کہا ہے: ”امام بخاری نے اس باب میں اسے سب سے صحیح حدیث قرار دیا ہے یعنی سابق الذکر حدیث عبد الرحمن بن عوف سے بھی یہ حدیث زیادہ قوی ہے۔“

حضرت سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قریش میں سے دس افراد جنتی ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن مالک اور ابو عبیدہ بن جراح۔“

حضرت سعید بن مسیتب فرماتتے ہیں: ”حضرت سعید نے فرمایا: دس جنتیوں میں ایک صحابی اور بھی ہے۔ اور غالباً وہ خود حدیث کے راوی“

(حضرت سعید بن زید خود) ہیں۔“

اس حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ صرف دس صحابی جنتی ہیں اور باقی جنتی نہیں بلکہ اس کا فہم یہ ہے کہ دس وہ صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب جنتی ہیں جنہیں بان بوت سے مردہ جنت مل گیا۔

اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے اور طبرانی نے اپنے مجمم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے جس میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کا صاف م موجود ہے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا:

”اے عائشہ! تمہیں ایک بشارت نہ دوں؟“

انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! کیوں نہیں؟“

فرمایا:

”تمہارے والد ابو بکر جنتی ہیں، وہاں ان کے ساتھی ابراہیم علیہ السلام ہونگے۔ عمر جنتی ہیں، ان کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ عثمان جنتی ہیں ان کا ساتھی میں خود ہوں گا۔ علی جنتی ہیں ان کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوں گے۔ طلحہ جنتی ہیں وہاں ان کے ساتھی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ زبیر جنتی ہیں ان کے ساتھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں گے۔ سعد بن ابی وقاص جنتی ہیں، ان کے ساتھی سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں گے۔ سعد بن زید جنتی ہیں ان کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں ان کے ساتھی اور لیں علیہ السلام ہوں گے۔“

پھر فرمایا:

”اے عائشہ! میں سید المرسلین ہوں۔ تمہارا والد افضل الصدیقین ہے اور تم ام المؤمنین ہو۔“

عشرة مشترہ کا نسب:

علامہ محمد بن احمد بن خلف رحمہ اللہ نے عشرة مشترہ کا نسب درج ذیل عربی اشعار میں بیان کیا ہے:

صلوٰۃ ربیٰ دائماً وَ الطَّیبِیْنَ الْبَرَّةَ۔

عَلَی النَّبِیِّ الْمُصْطَفَیِّ وَآلِهِ وَالْعَشْرَةِ

وَآلِهِ اَنْ فَاطِمَةَ وَمَنْ احْبَبَهُ حِبَّدَهُ

وَشَیْبَةَ الْحَمْدَلَهُمْ اَصْلَ اَطَابَ الشَّمَرَةَ

وبعدهم عثمان من عبد مناف الخيره  
ومن قصى لحق الزبير مردی الكفره  
سعد المفدي من كلاب وابن عوف آزره  
صديقنا وطلحة من مرة ما شهده  
فاروقنا من كعبهم سعيد بقفو الثره  
وعامر الامين من فهر كمال العشرة

1: اللہ تعالیٰ اور تمام پاک لوگوں کا درود وسلام ہو نبی علیہ السلام پر آپ کی آل اور دس صحابہ پر۔

2: آپ کی آل میں سیدہ فاطمہ اور آپ کے بھائی علی حیدر قرار ہیں۔ ان سب کیلئے تعریف ہے اور عبد المطلب ایسا درخت ہے جس کے پھل بڑے عمدہ ہیں۔

3: ان کے بعد عثمان غنی ہیں جو عبد مناف میں سے بہترین انسان ہیں اور قصی سے حضرت زبیر جامی ملے ہیں جو کفار کو ہلاک کرنے کا شیوه رکھتے ہیں۔

4: چاندار نبی حضرت سعد "کلب" کی اولاد میں سے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف بھی بنی کلب ہی سے ہیں۔ صدیق اکبر اور طلحہ "مرہ" سے مشہور ہیں۔

5: فاروق اعظم کعب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سعید بھی ان کے بیرو ہیں اور ابو عبیدہ بن جراح "فہر" کی اولاد میں ہیں تو عشرہ مبشرہ مکمل ہوئے۔

حضرت علی کا نسب نبی علیہ السلام کی دوسری پشت میں آپ سے مل جاتا ہے، جبکہ عثمان غنی چوتھی، عمر فاروق آٹھویں، ابو بکر صدیق ساتویں اور ابو عبیدہ بن جراح گیارہویں پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر افراد عشرہ مبشرہ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔

### عالم ارواح اور عشرہ مبشرہ:

روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کو میں عشرہ مبشرہ کی ارواح جمع فرمایا اور ان کے انوار سے ایک پرندہ بنایا جو جنتوں میں رہتا ہے۔

اسے دیگر مصنفین نے اپنی اپنی سیرت کی کتب میں بیان کیا ہے۔

سو یا عشرہ مبشرہ کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں اکٹھا کر دیا تھا اور جب دنیا میں آئے تو عالم ارواح کی طرح یہاں بھی اکٹھے ہو گئے۔ نسب میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی، رشتہ مواخات میں بھی اور پھر جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ تو خوش بخت ہے وہ انسان جس نے ان سے محبت کی اور کسی ایک میں فرق نہ کیا اور ان کے راستے پر چلا اور بد بخت ہے وہ انسان جو ان کے باہمی اختلافات میں الجھا رہا اور کسی ایک میں فرق کرنے کا

خطرہ مول لیا اور نفس کی پیروی کرتے ہوئے ایک کی گستاخی کا مرغوب ہوا۔ اللہ ہی کو حمد ہے جس نے ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ دعا یہ ہے کہ یہ کرم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔

### عشرہ مبشرہ میں سے کچھ کے لیے زبان رسالت سے خصوصی دعائیں:

حضرت زیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے اللہ! تو نے میرے صحابہ کی وجہ سے امت کو برکت عطا فرمائی ہے۔ تو ان سے یہ برکت واپس نہ لے۔ انہیں ابو بکر کی محبت پر اکٹھا کر دے۔ اس کا کام نہ بکھیر! کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی رضا پر تیری رضا کو ترجیح دی ہے۔ اے اللہ! عمر بن خطاب کو عزت، عثمان کو صبر، علی کو توفیق، طلحہ کو سخشن، زیر کو ثابت قدی سعد کو سلامتی اور عبدالرحمٰن کو وقار عطا فرم۔ اے اللہ! اول مہاجرین و انصار کو اور نیکی میں ان کی پیروی کرنے والے تمام مسلمانوں کو (جنت میں) میرا سماحتی بناوے۔“

اسے حافظ شققی نے اور واحدی نے مندرجہ روایت کیا ہے اور واحدی نے ان الفاظ کو ان سے برکت واپس نہ لے کے بعد یہ الفاظ زائد کیے ہیں:

”اے اللہ! تو نے میرے صحابہ کو ابو بکر کی وجہ سے برکت عطا فرمائی ہے تو ان سے یہ برکت واپس نہ لے اور ابو بکر کی محبت پر انہیں اکٹھا کر دے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں نے اپنے رب سے صحابہ کے لیے جنت کا سوال کیا تو اللہ نے انہیں یقیناً جنت سے نواز دیا۔“

اسے ابوالخیر حاکم قزوینی نے روایت کیا ہے۔

ابن عبد البر نے استیعاب میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں نے اپنے رب جلن شانہ سے سوال کیا کہ وہ شخص دوزخ میں نہ جائے جس نے مجھے سر بنایا ہے میں نے سر بنایا۔“

(لوامع التنزیل، جلد دوم صفحہ 476)

### جنت میں عشرہ مبشرہ کے مقامات رفیعہ:

حضرت عبداللہ بن ابی اویٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور فرمایا:

”اے محمد کے ساتھیو! آج رات میں نے جنت میں تمہارے مکانات کا اپنے مکان سے قرب دیکھا ہے۔“

یہ کہہ کر آپ حضرت علیؐ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

”اے علیؐ! اکیا تم یہ پسند کرو گے کہ جنت میں تمہارا مکان میرے مکان کے سامنے ہو جیسے دو بھائیوں کے

منازل باہم بالقابل ہوتے ہیں؟“

انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! کیوں نہیں؟“

یہ کہتے ہوئے حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ گریاں ہو گئے۔ پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

”میں ایک ایسے شخص کا نام اور اس کے والدین کا نام بھی جانتا ہوں جب وہ جنت میں آئے گا تو وہاں کا ہر مکان اور پانی کا ہر گھونٹ مر جامِ حباب کا رائٹھے گا۔“

حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے:

”یا رسول اللہ! ایسا شخص ناکام کب ہو سکتا ہے۔“

فرمایا:

”وہ ابو بکر ہے۔“

پھر آپ نے حضرت عمر کی طرف التفات فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”اے ابو حفص! میں نے جنت میں سفید جوہر سے بنا ایک محل دیکھا جس پر سفید موتیوں کا جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ میں نے فرشتہِ رضوان سے پوچھا: یہ محل کس کے لیے ہے؟ کہنے لگا: ایک قریشی جوان کے لیے۔ میں نے سمجھا کہ شاید میرا ہے۔ وہ خود ہی بول اٹھا: یہ عمر بن الخطاب کا ہے۔ پھر میں نے اس کے اندر جانا چاہا تو مجھے تیری غیرت یاد آگئی۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر آب دیدہ ہو گئے اور عرض کرنے لگے:

”یا رسول اللہ! کیا مجھے آپ پر غیرت آئے گی؟“

پھر آپ نے عثمان غنی کی طرف رخ منور کیا اور فرمایا:

”ہر بُنی کا ایک ساتھی ہوتا ہے اور میرے جنت کے ساتھی تم ہو۔“

پھر عبدالرحمن کی طرف نگاہ التفات اٹھی تو فرمایا:

”کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں تمام صحابہ سے دیر کے ساتھ آتے دیکھا ہے؟ کیا سبب ہے؟“

انہوں نے عرض کیا:

”مجھ سے حساب ہوتا رہا کہ فلاں مال تمہیں کہاں سے ملا؟ کہاں خرچ کیا؟ بلکہ مجھے تو گمان گزرا کہ شاید آپ کو نہ دیکھ پاؤں گا۔ میرے سواونٹ مصر سے مال تجارت سے لدے ہوئے آئے ہیں۔ جنہیں میں مدینہ کے شیموں اور زیواویں میں تقسیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں شاید کہ اسی سبب سے اللہ میرا حساب آسان کر دے۔“

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ اور زیر کی طرف دیکھا تو فرمایا:  
”ہر نبی کے حواری (مدحگار) ہوتے ہیں اور میرے حواری تم دونوں ہو۔“  
اسے قاضی ابو بکر یوسف بن فارس نے روایت کیا ہے۔

### وہ حدیث جو عشرہ مبشرہ میں سے بعض کی اہمیت خلافت پرداز ہے:

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا:  
”اگر نبی علیہ السلام اپنے بعد کسی کو خلیفہ بناتے تو کسے بناتے؟“

فرمایا:

”ابو بکر کو۔“

عرض کیا گیا:

”اگر بالغرض زندہ نہ ہوتے تو (اس کے بعد کسے بناتے؟“

فرمایا:

”عمر کو۔“

سوال ہوا:

”پھر کسے بناتے؟“

فرمایا:

”ابو عبیدہ بن جراح کو۔“

اس کے آگے سیدہ نے کسی کا نام نہیں لیا۔

### کچھ عشرہ مبشرہ اور پچھوٹیگر صحابہ کے حق میں نازل شدہ آیات قرآنیہ:

1: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آیت کریمہ:

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر دوڑے چلے آئے۔“

ستر صحابہ کے حق میں نازل ہوئی جن میں ابو بکر صدیق اور حضرت زیر بھی تھے۔ جنگ احمد کے لیے جب آپ نے صحابہ کو بلا یا تو وہ فوراً حاضر خدمت ہو گئے۔“

اسے واحدی اور ابو الفرج ابن جوزی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

2: جناب عطاء (تابعی) سے روایت ہے کہ آیت مبارکہ:

((وَإِذَا جَاءَكُوكَذَ الَّذِينَ يَوْمَنُونَ بِآيَاتِنَا))

”جب آپ کے پاس ہماری آیات کو مانے والے آتے ہیں تو انہیں سلامتی کا پیغام دیجئے۔“

سے مراد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، امیر حمزہ، جعفر طیار، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح،

مصعب بن عمیر، سالم، ابو سلمہ، ارقم، بن ابی ارقم، عمار، یاسر اور حضرت بلاں بن رباح رضی اللہ عنہم ہیں۔“  
اسے ابو الفرج نے اسباب النزول میں روایت کیا ہے۔

3: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ درج ذیل آیت کریمہ:

((وَنَزَّلْنَا مِنْ فِي صَدْرِهِمْ مِنْ غَلٍ))

”ہم نے ان کے دلوں سے ہر قسم کا بغض و کینہ نکال پھینکا ہے۔“

کا نزول حضرت ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان غنی، علی الرتضی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقار، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے حق میں ہوا۔“

اسے حشیمہ بن سلیمان اور ابو صالح نے روایت کیا ہے۔

جناب ابو جعفر سے پوچھا گیا:

”اس آیت میں کینہ اور بغض سے کیا مراد ہے۔؟“

فرمایا:

”زمانہ جاہلیت میں بنو هاشم، بنی تمیم اور بنی عدی کے مابین رنجش تھی۔ جب یہ لوگ اسلام لائے تو دل و جان سے ایک دوسرے کو چاہنے والے ہو گئے۔“

4: امام حسن سے روایت ہے:

”یہ آیت اہل بدرا کے حق میں نازل ہوئی ہے۔“

5: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے تو ان کے پاس عبد الرحمن بن عوف، عثمان، طلحہ، زبیر، سعید بن زید اور حضرت سعد بن ابی وقار رضی اللہ عنہم آئے اور پوچھا: ”آپ نے کون سادین اختیار کیا ہے۔؟“

جب آپ نے انہیں اپنے دین سے آگاہ کیا تو وہ بھی آسلام سے لے آئے تو یہ آیت نازل ہوئی:

((فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَوْلَوْلَ فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَهُ))

(سورۃ الزمر، آیت نمبر 17)

”میرے ان بندوں کو خوشخبری سنادیں جو کچی بات سن کر اس کی خوبی بیروی کرتے ہیں۔“

اس آیت میں القول (کچی بات) سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔

6: مفسر ضحاک سے مردی ہے کہ آیت مبارکہ:

((وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَلِكُلِّ هُمُ الصَّدِيقُونَ))

(سورہ حدید، آیت نمبر 19)

”اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہی سچے ہیں۔“

سے مراد یہ آٹھ صحابی ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت طلحہ، حضرت زیر، حضرت سعد اور حضرت حمزہ۔ جب کہ حضرت عمر فاروق ان کے نوویں ساتھی ہیں۔ جنہیں اللہ نے ان کے صدق دل کے سبب ان سے ملادیا۔“

اسے ابو الفرج نے اسباب النزول میں بیان کیا۔

7: امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد باقر سے اور وہ اپنے آباء سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد الہی:

((محمد رسول اللہ والذین معہ))

سے مراد ابو بکر صدیق ہیں۔

((آشد آء علی الکفار))

(کافروں پر سخت) سے مراد عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔

((رحماء بینهم))

(آپس میں رحم دل) سے مراد عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔

((تراہم رکعاً سجداً))

(تم ہمیشہ انہیں رکوع و سجدہ کرتے ہی ویکھو گے) سے مراد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔

((یتبعون فضلا من اللہ ورسوانا))

(اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی) سے مراد طلحہ اور زیر رضی اللہ عنہما ہیں۔

((سمیهم فی وجوههم))

(عبادات سے ان کی جینوں میں محراب ہیں) سے مراد سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما ہیں۔

8: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد الہی:

((لاتجده قوماً يوم منون بالله واليوم الاخر يرادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباو هم او ابناء هم او اخوانهم))

(سورۃ الجادہ، آیت نمبر 42)

”اللہ اور روز قیامت پر ایمان لانے والی قوم کو آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے وہیں سے دوستی رکھیں خواہ وہ ان کے والدین اولاً اور بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔“

یہ آیت درج ذیل صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوا ہے:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے کافر بیٹے کو جنگ بدرا میں مقابلے کیلئے لاکارا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آج مجھے سب سے پہلے قربان ہو لینے دیجئے تو آپ نے فرمایا: ابو بکر! ہمیں اپنی جان کے

ساتھ نفع بہم پہنچا یئے۔ جانتے نہیں ہو کر تمہاری حیثیت میرے لیے کافی اور آنکھوں کی ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے جنگ بدرا میں اپنے ماموں عاص بن ہشام کو تہہ شمشیر کر دالا۔

حضرت علی الرضا اور امیر حمزہ رضی اللہ عنہما جنہوں نے شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عقبہ کو بدرا میں فنا فی النار کیا۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنہوں نے غزوہ أحد میں اپنا باپ عبد اللہ بن جراح مار دالا۔

حضرت مصعب بن عمير رضی اللہ عنہ جنہوں نے غزوہ أحد میں اپنے بھائی عبیدہ بن عمير کو جہنم رسید کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”وہ لوگ اللہ اور رسول کے دشمنوں کو دوست نہیں بناتے خواہ وہ ان کے والدین اولاد بھائی یا عزیز رشتہ دار ہوں۔“

اسے واحدی اور ابو الفرج نے بیان کیا ہے۔

### عشرہ مبشرہ صحابہ کے درجات:

1: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ال لوگوں میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟“

فرمایا:

”عائشہ۔“

میں نے عرض کیا:

”مردوں میں کون؟“

فرمایا:

”ابو بکر۔“

میں نے پھر عرض کیا:

”ان کے بعد کون؟“

فرمایا:

”عمر۔“

میں نے کہا:

”ذپھر کون؟“

فرمایا:

”عثمان۔“

میں نے کہا:

”پھر کون؟“

فرمایا:

”علی۔“

تو میں خاموش ہو گیا۔ اب آپ بولے:

”عبداللہ! جو چاہو پوچھو۔“

میں نے عرض کیا:

”علیؑ کے بعد کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟“

فرمایا:

”طلحہ، پھر زبیر، پھر سعد (بن مالک)، پھر سعید بن زید، پھر عبد الرحمن بن عوف اور پھر ابو عبیدہ بن جراح۔“

مال نے اپنی سیرت میں روایت کیا ہے مگر یہ حدیث غریب ہے۔

2: جب کہ اس بارے میں صحیح حدیث حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! مردوں میں سے کون آپ کو زیادہ محبوب ہے؟“

فرمایا:

”عائشہ کا باپ (ابو بکر صدیق)۔“

میں نے عرض کیا:

”پھر کون؟“

فرمایا:

”عمر بن الخطاب۔“

اس کے بعد آپ نے بہت سے لوگوں کے نام لئے کہ فلاں کے فلاں شخص مجھے محبوب ہے۔

اسے احمد۔ مسلم اور ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔

3: حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ ہی سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جیش ذات

السلاسل کا امیر بنا کر بھیجا۔ جبکہ لشکر میں ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ بھی

تھے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ پر مجھے امیر بنا یا جانا اس بناء

پر ہے کہ آپ کے ہاں میرا مرتبہ ان سے بڑھ کر ہے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔

پھر میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! لوگوں میں سے آپ کے ہاں پسندیدہ شخص کون ہے؟“

آپ نے فرمایا:

.....”ابو بکر، پھر عائشہ

آگے حدیثِ مشل سابق کے ہے۔

یہ حدیث ابو حاتم نے حضرت اُس کی روایت سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں بھی درج کی ۔

یہ احادیث عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں قدر و منزلت پر پوری طرح سے روشنی ڈالتی ہیں۔ تاہم پھر بھی یہ مذکورہ احادیث بظاہر متعارض ہیں مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابو حاتم اور مسلم والی حدیث میں جو ہے کہ آپ نے کئی مردوں کے فلاں کے نام گئے کہ فلاں کے بعد فلاں محبوب ہے ممکن ہے اس سے مراد یہی عشرہ مبشرہ ہوں جنہیں فلاں نے اپنی روایت میں صراحتاً بیان کیا ہے۔

: 4 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے لوچھا گما:

”نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟“

۳۷

۱۰۷

بوجاگ

۲۷

三

“ ”

112

፩፻፭፻

11

• 10 •

بیوگرافی مولانا

مبشرہ صحابہ سے کہنہ و بعض رکھنے کی سزا:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے مسلمانو! اگر تم عبادت کرتے کرتے کرتے کرتے کرنے کے لیے قافلوں سے پھر پھر بھی اگر تم میں سے کسی کا نوں کی طرح سوکھ جاؤ اور نماز ادا کرنے کے لیے قافلوں سے پھر پھر بھی اگر تم میں سے کسی نے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے کسی سے بغض رکھا تو اسے ناک کے مل گھینٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔“

اسے حضرت ابو سعد نے شرف النبوت میں بیان کیا ہے۔

### عشرہ مبشرہ میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ صفات حمیدہ:

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میری ساری امت سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، دین میں سب سے زیادہ مضبوط عمر، حیاء میں سب سے بڑھ کر عثمان، سب سے زیادہ قوت فیصلہ کے مالک علی بن ابی طالب ہیں، ہر نبی کے حواری تھے اور میرے حواری (خدمتگار) طلحہ و زیبر ہیں۔ سعد بن ابی وقاص جہاں ہوں گے حق ان کے ساتھ ہو گا۔ سعید بن زید محبوبانِ الہی میں سے ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف اللہ کے تاجریوں میں سے (سب سے زیادہ اللہ کے عہادت گزار اور اجر و ثواب کا لین دین کرنے والے) ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح اللہ اور اس کے رسول کے امین ہیں۔ ہر نبی کا محرم راز ہوتا ہے اور میرا محرم راز امیر معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ ان سب سے محبت کرنے والا نجات پا گیا اور بغض رکھنے والا تباہ ہو گیا۔“

اسے ملاں نے اپنی سیرت میں روایت کیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میری ساری امت میں سے امت پر سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے۔ دین میں سب سے پختہ عمر ہے۔ حیاء میں سب سے سچا عثمان ہے۔ اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ فرانس کو سب سے زیادہ جانے اور عمل کرنے والا زید بن ثابت ہے اور حلال و حرام کو سب سے زیادہ ماننے والا معاویہ بن جبل ہے۔ یاد رکھو! اہرامت کا ایک امین ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔“

اسے ابو حاتم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

3: طبرانی نے یہ حدیث یوں روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ساری امت میں سے امت پر زیادہ مہربان ابو بکر، امت کے لئے سب سے بڑا نرم دل عمر اور ساری امت میں سے سب سے بڑا قاضی علی ہے۔“

### عشرہ مبشرہ الذین سبقت لهم منا الحسنة کے مصدقاق اول ہیں:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی:

((انَّ الَّذِينَ سَبَقُتْ لَهُمْ مِنَا الْحَسَنَى))

(سورۃ انہیاء)

”جن کے لیے ہم اچھی عاقبت لکھ پکے ہیں وہ جہنم سے دور ہیں گے۔“

پھر حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”میں انہیں میں سے ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر تمام عشرہ مبشرہ میں شامل صحابہؓ بھی انہیں میں سے

ہیں۔“

اسے ابوالفرج بن جوزی رحمۃ اللہ نے اسباب النزول میں بیان کیا ہے۔

### عشرہ مبشرہ میں صدیقین اور شہداء:

1: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم "حراء" پھاڑ پڑھے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور حضرت زیبر رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ پھاڑ حرکت میں آگیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اے حراء! اپنی جگہ تھہر! تھہر پر نبی، صدیق اور شہداء ہی تو ہیں۔"

یہ روایت مسلم نے بیان کی ہے۔

2: ترمذی نے یہ روایت مناقب عثمان غنی میں درج کرتے ہوئے کی جگہ احمد پھاڑ لکھا ہے۔ جب کہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور ترمذی نے اسے حضرت سعید بن زید کی روایت سے بھی بیان کیا ہے، مگر اس میں یہ لکھا ہے کہ "حراء" پر ابو عبیدہ کے سواتمام افراد عشرہ مبشرہ موجود تھے۔

3: زیلیعی نے اسے روایت کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:

"نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم مجھے کہتے ہو کہ میں اپنے بھائیوں کو برا کہوں جب کہ اللدان پر درود بھیجتا ہے یا یہ کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔"

اس کے بعد راوی نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حراء میں تھے کہ وہ ہلنے لگا۔ آپ نے فرمایا:

"حراء تھہر جا!"

راوی نے اس روایت میں یہ کہا ہے کہ اس وقت وہاں حضرت ابو عبیدہ کے سواتمام افراد عشرہ موجود تھے۔

4: علاوہ ازیں یہ روایت حربی نے ابن عباس سے لی ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ حراء پر تھے کہ اچانک وہ دھل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"تھہر جا! تھہر پر نبی، صدیق اور شہداء ہی تو ہیں۔"

جب کہ آپ کے ساتھ وہاں ابو عبیدہ کے سواتمام افراد عشرہ مبشرہ موجود تھے۔

5: علاوہ ازیں اسے حافظ اسحاق بن ابراہیم بغدادی نے ان روایات میں درج کیا ہے جو بڑوں نے چھوٹوں سے اور ابا واجداد نے اولاد سے روایت کی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے:

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، زیبر، طلحہ، سعد اور حضرت سعید حراء پر کھڑے تھے کہ وہ ہلنے لگ پڑا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: حراء تھہر جا!

تھہر پر نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ چنانچہ یہ سنتے ہی حراء تھہر گیا۔"

البتہ یہاں صدیق سے مراد بظاہر صرف ابو بکر صدیق ہیں کیونکہ وہی صحابہ میں سے اس صفت کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں اور شہید سے مراد پانچ صحابہ ہیں یعنی حضرت عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم، کیونکہ یہ پانچوں صراحتاً تبغیش سے شہید ہوئے ہیں۔ البتہ حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم اگرچہ بظاہر شہید نہیں ہوئے، مگر ممکن ہے کہ وہ کسی اور معنی کے ساتھ مقام صدقیت یا شہادت میں داخل ہوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے انہیں صدقیت اور شہادت میں رکھا ہے۔

### عشرہ مبشرہ کا ساری امت سے موازنہ:

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میں جنت میں گیا۔ وہاں میں نے (اپنے آگے) کسی کے قدموں کی سرسرابہت سنی۔ پوچھنے پر بتلایا گیا کہ یہ بلال ہیں۔ میں نے جنت کی سیر کی اور دیکھا کہ وہاں کے اکثر باشندے فقراء مہاجرین ہیں اور مسلمان مالدار لوگ اور عورتیں نظر نہ آئیں۔ پھر معلوم ہوا کہ مالدار تو جنت کے دروازوں پر محسنین بن کر کھڑے ہوئے ہیں اور عورتوں کو دوسری چیزوں سونا اور ریشم نے تباہ کر دالا ہے (وہ اکثر جہنم میں ہیں) پھر میں جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک سے باہر آیا۔ ابھی میں دروازے کے پاس ہی تھا کہ ایک ترازو لایا گیا جس کے ایک پلے میں مجھے اور دوسرے میں میری ساری امت کو رکھ کر تولا گیا تو میں سب سے بھاری لکھا۔ پھر ابو بکر، عمر اور علی کو باری باری لایا گیا اور ساری امت سے ان کا وزن کیا گیا اور ان میں سے ہر ایک ساری امت سے بھاری لکھا۔ پھر میری ساری امت کو ایک ایک کر کے میرے سامنے سے گزارا گیا۔ جب عبدالرحمن بن عوف کی باری آئی تو میں نے دیکھا وہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ پھر وہ ذرا آگے جا کر واپس آگئے اور کہا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے والدین قربان! اس اللہ کی قسم! جس نے آپ کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔“

### کچھ افراد عشرہ مبشرہ اور کچھ دیگر صحابہ کی عظمت:

1: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر نبی کو سات برگزیدہ ساتھی یا محافظ عطا کیے گئے اور مجھے چودہ۔“

ہم نے عرض کیا:

”وہ کون ہیں؟“

فرمایا:

”میں خود، میرے بیٹے، جعفر (طیار)، امیر حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمير، بلال، سلمان، عمار اور عبداللہ بن مسعود۔“

اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔

2: یہی حدیث تمام رازی نے فوائد میں یوں ذکر کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر نبی کو وزراء یا معاونین بسات عدد دیئے گئے اور مجھے چودہ۔ امیر حزہ، جعفر طیار، ابو بکر، عمر، علی، حسن اور حسین، ابن مسعود، عمار، حذیفہ، ابوذر، مقداد اور بلال (مصعب بن عمير)۔“

مذکورہ دونوں احادیث قریش کے سات افراد تو بالاتفاق آئے ہیں جب کہ ترمذی نے مصعب بن عمير کا نام بڑھایا ہے۔

علاوه ازیں ترمذی نے سات افراد کے علاوہ پانچ افراد ذکر کیے ہیں جن میں حذیفہ ابوذر اور مقداد رضی اللہ عنہم نہیں ہیں۔ جبکہ دوسری حدیث میں ان تینوں کے ساتھ ابن مسعود، عمار اور بلال رضی اللہ عنہم کا ذکر بھی ہے مگر مصعب اور سلمان رضی اللہ عنہما کا نہیں (جبکہ پہلی حدیث میں یہ دونوں موجود ہیں)۔

3: عرض کیا گیا:

”یا رسول اللہ! آپ کے برگزیدہ چودہ ساتھی کون ہیں؟“

فرمایا:

”میں خود، میرے بیٹے حسن اور حسین، حمزہ، جعفر، عقیل، ابو بکر، عمر، عثمان، مقداد، سلمان، عمار، طلحہ اور زبیر۔“  
گویا اس حدیث میں گیارہ قریشی صحابہ ہیں اور تین غیر قریشی۔

4: یہی حدیث ابن سمان نے ”الموافقة“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چودہ عدد کی تفصیل کرتے ہوئے روایت کی ہے جبکہ روایت امام احمد بن حنبل سے اسماء میں اختلاف آگیا۔ الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ہر نبی کو سات برگزیدہ ساتھی عطا کیے گئے، جبکہ مجھے چودہ۔ سات قریش میں سے: علی، حسن، حسین، حمزہ، جعفر طیار، ابو بکر اور عمر اور سات دیگر مهاجرین میں سے: عبد اللہ بن مسعود، سلمان، ابوذر، مقداد، حذیفہ، عمار اور بلال۔“

5: ابن سمان کی دوسری روایت یوں ہے:

”ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ، حسن، حسین، حمزہ، جعفر، ابن مسعود، بلال، عمار، ابوذر اور سلمان۔“

### عشرہ مبشرہ سے رضاۓ نبی:

سہل بن مالک اپنے باپ سے اور وہ سہل کے وادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے لوٹے تو ممبر پر تشریف لا کر وعظ فرمایا۔ اللہ کی حمد و شناہ کے بعد فرمایا:

”اے لوگو! ابو بکر نے مجھے کبھی بھی دکھنے دیا۔ اس کی یہ صفت نوٹ کرو! اے لوگو! عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن مالک، عبد الرحمن بن عوف اور اول مهاجرین تمام سے میں راضی ہوں۔ ان کی یہ صفت نوٹ کرو!“

اسے خلقی نے اور حافظہ مشقی نے اپنے مجسم میں روایت کیا ہے۔

چند صحابہ جو زبانِ نبوت کے مطابق بہترین انسان ہیں:

1: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
”ابو بکر بہترین انسان ہے۔ عمر بہت اچھا آدمی ہے۔ معاذ بن عمرو بن جموج بہت بہترین شخص ہے۔ معاذ بن جبل نہایت بہتر انسان ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح قیس بنہدہ ہے۔“

اسے ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے بھی روایت کیا ہے مگر اسد بن حفیز اور ثالث بن قیس کا ذکر بھی کیا ہے۔ کچھ تقدیم تا خیر بھی کی ہے اور حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔

2: ابی سیخ امر سکسکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
”اے اللہ! ابو بکر پر درود بھیج کر وہ تجھے اور تیرے رسول کو محبوب رکھتا ہے۔ اے اللہ! عمر پر درود بھیج کر وہ تیرا اور تیرے نبی کا محبت ہے۔ اے اللہ! عثمان پر درود بھیج کر وہ تیرا اور تیرے محبوب کا حبدار ہے۔ اے اللہ! ابو عبیدہ بن جراح پر درود بھیج کر وہ تجھے اور تیرے نبی کو دوست رکھتا ہے۔ اے اللہ! عمر و بن العاص پر درود بھیج کر اللہ اور رسول کو اپنا حبیب ہنانے ہوئے ہے۔“

کچھ وہ صحابہ جو جمعہ کے روز نبی کریم کے ساتھ رہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرمارہے تھے کہ مدینہ منورہ میں غلنے کا قافلہ آگیا (جنب کی نقطہ سائی طاری تھی) تو لوگ قافلے کی طرف دوڑ پڑے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بارہ آدمی رہ گئے جن میں ”ابو بکر و عمر بھی تھے۔“  
اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

کچھ وہ صحابہ جو نبی کریم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں:

شفیق کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا:  
”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب صحابہ میں زیادہ عزیز کون تھا؟“

فرمایا:

”ابو بکر۔“

میں نے کہا:

”اس کے بعد کون؟“

فرمایا:

”عمر۔“

میں نے کہا:

”اس کے بعد کون؟“

فرمایا:

”ابو عبیدہ بن جراح۔“

میں نے کہا:

”اس کے بعد کون؟“

تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں۔

اسے ترمذی نے روایت کیا اور حسن حدیث قرار دیا ہے۔

☆☆☆

## فصل نمبر 4:

### خلفاءٰ اربعہ کے فضائل

(جناب علی المرتضیٰ کیونکہ چہارم خلیفہ ہیں اس لیے احادیث کی روشنی میں خلفاءٰ اربعہ کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔)

#### قرآن و رشان یاران نبیٰ:

1: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ارشادِ الہی:

((مُثَلَّهُمْ فِي التُّورَاةِ وَمُثَلَّهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْنَهُ فَازْرَهُ فَاسْتَغْلَطَ فَسْتَوَى

عَلَى سُوقِهِ))

(سورۃ قُل، آیت 29)

”نبیٰ کے صحابہ کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے جس نے اپنے پتے لکالے، پھر انہیں قوتِ دی تو وہ گھنی ہو گئی اور اپنی شاخ پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔“

میں کھیتی سے مراد نبیٰ علیہ السلام ہیں، پتے ابو بکر صدیق کی ذات ہے، یہ کھیتی عثمان غنیٰ کی برکت سے گھنی ہوئی اور علیٰ مرتضیٰ کی قوت پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔

اسے جو ہری نے اور ابن عبد اللہ نے اپنی امامی میں روایت کیا ہے۔

2: حضرت ابی ابین کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں سورۃ الحصر حلاوت کی۔ پھر عرض کیا:

”یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان! اس سورۃ کی تفسیر کیا ہے۔؟“

فرمایا:

”وَالْعَصْرَ اللَّهُ فَرِمَاتَهُ: مَجْهَنْ قَمْ هُوَ دَنْ كَيْ آخْرِيْ سَاعَاتِ كَيْ۔“

((ان الانسان لفی خسرا))

(بے شک انسان سخت لقصان میں ہے) یہ ابو جہل ہے۔

((اَلَا الَّذِينَ آمَنُوا))

”(سَوَاءَتِ اِيمَانُ وَالْوَلَوْنَ كَيْ) یہ ابو بکر صدیق ہیں۔“

((وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ))

”(أَوْ رَاجِحَةً عَمِلَ كَرَنْ وَالْوَلَوْنَ كَيْ) یہ عمر فاروق ہیں۔“

((وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ))

”(جَوْهِيْ بَاتِ كَيْ تَقْيِنَ كَرَتَهُ ہیں) یہ عثمان غنی ہیں۔“

((وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ))

”(أَوْ رَجُوْصِرِ کَيْ وَصِيتَ كَرَتَهُ ہیں) یہ علی مرتضی ہیں۔“

اسے واحدی نے بیان کیا ہے۔

### نبی امتوں سے افضل:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”انبیاء و مرسیین کے سواتھام جہانوں پر اللہ نے میرے صحابہ کو عظمت دیدی ہے۔ پھر صحابہ میں سے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کو افضلیت سے نواز دیا اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنادیا ہے۔ پھر امت میں سے جو لوگ ہیلی سے چوتھی صدی تک آئیں گے بعد والوں سے افضل ہیں۔“

اسے بزار نے اپنی مندیں روایت کیا ہے اور بزار سے عبد الحق نے کتاب ”الاحکام“ میں اسے لیا ہے۔ جبکہ ابن نے بھی الموافقہ میں یہ حدیث مختصر انقل کی ہے جس کے بعض الفاظ یہ ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسیین کے سوا اُنکے پچھلے تمام جہانوں پر میرے صحابہ کو افضلیت عطا فرمائی ہے۔“

### لکھائی اور بعثہ اور رسول اللہ سے تعلق:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا:

”اے علی! اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو اپنا وزیر، عمر کو مشیر، عثمان کو سہارا اور تجھے اپنا مددگار بناؤ۔ تو تم کھار ہوئے۔ جن کے متعلق اللہ نے ام الکتاب (لوح قدرت) میں لکھ دیا ہے کہ انہیں دوست رکھے گا تو مونک اور ان سے حسر رکھے گا تو صرف منافق۔ تم ہی میرے جانشین۔ میری ذمہ داریوں کو اٹھانے والے اور امت کے آگے میری صداقت کی دلیل ہو۔ لہذا یہ رشتہ توڑہ دینا اور سیدھے راستے سے دائیں باائیں

ہٹ نہ جاتا۔“

اسے ابن سماں نے موافقہ میں روایت کیا ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک اور طریق کے ساتھ بھی یہ حدیث روایت کی ہے۔

### چاروں کی محبت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
”ان چار آدمیوں کی محبت صرف اور صرف مومن کے دل میں ہی کجا موجود ہو سکتی ہے: ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔“

اسے ابن سماں اور ابن ناصر سلامتی نے روایت کیا ہے۔

### محبوبان الہی:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
”ان چاروں (سیدنا ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی الرضا رضی اللہ عنہم) سے اللہ کے محبوبان محبت کرتے ہیں اور اللہ کے دشمن بغرض رکھتے ہیں۔“

اسے ملاں نے سیرت میں روایت کیا ہے۔

### خلفائے اربعہ کی خصوصیات:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
”ابو بکر میراوزیر ہے اور امت میں میرا نائب، عمر میرا حبیب ہے اور میرا زبان سے بولنے والا عثمان مجھ سے ہے اور علی میرا بھائی اور میرا عالم بردار ہے۔“  
اسے ابن سماں نے موافقہ میں روایت کیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
”اللہ ابو بکر پر رحمت نازل کرے جس نے مجھ سے اپنی بیٹی بیاہی پھر مجھے دارالحرث ( مدینہ منورہ ) کی طرف اٹھالا یا۔ غار میں میرا ساتھی رہا اور اپنے مال سے بلاں کو آزاد کیا۔ عمر پر اللہ رحم کرے جو کچی بات کہہ دیتا ہے خواہ وہ کثری ہو۔ جب کوئی بھی اس کا ساتھی نہ ہو ( اتنے تھا مجبور ہو ) تو بھی حق بات کہہ دیتا ہے۔ عثمان پر اللہ کی رحمتیں ہوں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور علی پر اللہ رحمت برسائے۔ اے اللہ! علی چہاں جائے حق اس کا ساتھ نہ چھوڑے۔“

اسے ترمذی خلیعی اور ابن سماں نے روایت کیا ہے۔

چاریاں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حمد و شکر کے بعد فرمایا:  
”لوگو! تمہیں کیا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہو؟ جانتے نہیں کہ میرے اہل بیت  
اور میرے صحابہ کی محبت اللہ نے امت پر روز قیامت تک فرض فرمادی ہے۔“

پھر فرمایا:

”ابو بکر کہاں ہے۔“

انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! میں یہ موجود ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میرے قریب آ جاؤ!“

آپ نے انہیں سینے سے چمنا کر ان کی آنکھوں کے درمیان ماتھے کا بوسہ لیا۔ ہم (صحابہ) نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم ان مبارک رخساروں پر آنسو بھاری ہیں۔ پھر آپ نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر بلند آواز سے فرمایا:

”مسلمانو ایہ ابو بکر صدیق ہے۔ تمام مہاجرین و انصار کا سردار اور میرا ساتھی ہے۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹکایا تو اس نے میری تقدیق کی۔ لوگوں نے مجھے صرف نظر کیا تو اس نے مجھے پناہ دی اور بلال کو میری رضا کے لیے اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا۔ اس سے دشمنی رکھنے والے پر اللہ اور تمام جہان کی لعنت اور اللہ اس سے بری ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سرخود ہونا چاہتا ہے وہ ابو بکر صدیق کی عداوت سے بازا آجائے۔ یہ باتیں دوسروں تک پہنچا دو۔“

پھر فرمایا:

”ابو بکر! بیٹھ جاؤ! اللہ نے تمہارے لیے ان باتوں کا فیصلہ فرمادیا ہے۔“

پھر فرمایا:

”عمر بن خطاب کہاں ہے؟“

عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلدی سے سامنے آگئے اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قریب آ جاؤ۔“

وہ قریب آئے تو آپ نے انہیں سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہم (صحابہ) نے آپ کے رخساروں

پر آنسو بہتے دیکھئے۔ پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر باؤز بلند فرمایا:

”مسلمانو! یہ عمر بن الخطاب تمام مہاجرین والنصار کا سردار۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسے اپنا مد و گار اور مشیر بناؤں۔ اس کے دل، زبان اور ہاتھ پر اللہ حق بات اتنا تھا ہے، خواہ کوئی حماستی نہ ہو۔ یعنی بات کہنے سے نہیں رکتا چاہے پھر بات کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ احکامِ الہی کی بجا آوری میں کسی انسان کی ملامت گھری کو خاطر میں نہیں لاتا۔ شیطان اس کی شخصیت سے بھاگتا ہے۔ یاد رکھو! عمر جنتیوں کا نور ہے۔ اس کے دشمن پر اللہ اور تمام جہانوں کی لعنت ہے۔ اللہ بھی اس سے بری اور میں بھی اس سے بری۔“

پھر فرمایا:

”عثمان بن عفان کہاں ہے۔؟“

تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فوراً سامنے آئے اور عرض کیا:

”میں حاضر ہوں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلا کر سینے سے لگایا۔ آپ کے رخساروں پر آنسو بہرہ رہے تھے۔ پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند آواز سے فرمایا:

”مسلمانو! یہ مہاجرین والنصار کا سردار ہے۔ انہی کے بارے ہمیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اسے اپنا سہارا اور داما دبناؤں۔ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اسی سے بیاہتا۔ اس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس کے دشمن پر اللہ اور تمام جہانوں کی لعنت ہے۔“

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”علی بن ابی طالب کہاں ہے؟“

حضرت علی رضی اللہ عنہ عجلت میں سامنے آ کر بولے:

”میں حاضر ہوں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میرے قریب آؤ!“

وہ قریب آئے تو آپ نے ان سے معافی کیا اور آنکھوں کے درمیان بوسدیا۔ جبکہ آنسو آپ کے گالوں پر بہرہ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر بلند آواز سے فرمایا:

”مومنو! یہ مہاجرین والنصار کا سردار ہے۔ میرا بھائی، میرے پچھا کا بیٹا اور میرا داماد ہے۔ میرے گوشت خون اور بالوں کا حصہ ہے۔ حسن و حسین کا والد ہے جو نوجوانانِ جنت کے سردار ہیں۔ یہ تمہارا دوست ہے اور اللہ کا شیر ہے۔ اور دشمنانِ الہی کے لیے تکق تکوار ہے۔ اس کے دشمن پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ بھی اس سے بری اور میں بھی اس سے بری۔ جو شخصِ اللہ کے ہاں سرخوں ہوئا چاہتا ہے وہ

علیٰ کی عداوت سے باز رہے۔ جو لوگ موجود ہیں وہ دوسروں تک یہ باتیں پہنچادیں۔“  
پھر فرمایا:

”ابو الحسن! بیٹھ جاؤ اللہ نے تمہارے لیے یہ باتیں لکھ دی ہیں۔“  
اسے ابوالہل نے شرف العبودت میں بیان کیا ہے۔

### محبت خلفاء فرض:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
”اللہ تعالیٰ نے تم پر ابو بکر، عمر اور علی کی محبت ایسے ہی فرض قرار دیدی ہے جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج فرض  
ہے۔ جو ان کی عظمت کا منکر ہے اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔“  
اسے ملاں نے سیرت میں ذکر کیا ہے۔

### محمد بن وزیر کا خواب:

حضرت محمد بن وزیر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا۔ میں نے قریب  
ہو کر عرض کیا:

”الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ!“

جو اب ملا:

”وعلیک السلام یا محمد بن وزیر! تمہاری کوئی حاجت ہے؟“  
میں نے عرض کیا:

”ہاں یا رسول اللہ! عیال زیادہ ہے اور مال تھوڑا۔ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چند دعائیں ارشاد فرمادیں  
جنہیں میں سفر حضرت میں ہر وقت پڑھتا رہا کروں، تاکہ میری غربت ختم ہو جائے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”بیٹھ جاؤ اور یہ تین دعائیں ہیں جنہیں ہر مشکل کے وقت اور ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔“  
(یاقدیم الاحسان)

”اے ہمیشہ سے احسان فرمانے والے!“

(ویامن احسانہ فوق کل احسان)

”وہ ذات جس کا احسان ہر احسان سے بڑا ہے۔“

(ویاما لک الدنیا والآخرة)

”اے دنیا و آخرت کے مالک!“

پھر آپ کی نگاہ التفات انہی تو فرمایا:

”اسلام اور سنت پر مرنے کی کوشش کرو۔ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی محبت پر مرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایسی موت کے بعد جہنم نزدیک نہیں آتی۔“

### صفات انبیاء کرام:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میری امت میں انبیاء میں سے ہر نبی جیسا ایک شخص ضرور موجود ہے۔ ابو بکر ابراہیم علیہ السلام کی مثل ہے۔ عمر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ عثمان حضرت ہارون علیہ السلام کے مشاپہ ہے اور علی بن ابی طالب میری مانند ہے۔“

اسے ملاں اور خلیفی نے روایت کیا ہے۔

### ابو بکر و عمر ایک مٹی اور عثمان و علی ایک مٹی سے ہیں:

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ابو بکر و عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور عثمان اور علی ایک مٹی سے اٹھائے گئے ہیں۔“

### سیدنا آدم اور خلفائے اربعہ:

1: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تھا:

”جریل نے مجھے بتلایا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کے جسد میں روح ذاتی تو مجھے حکم ہوا کہ ایک جنگی سیب کا رس لا کر جناب آدم علیہ السلام کے گلے میں پٹکاؤں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ تو یا رسول اللہ! اس سے بننے والے پہلے نطفہ سے آپ کا جو ہر بنا۔ جبکہ دوسرے سے ابو بکر کا، تیسرا سے عمر کا، چوتھے سے عثمان کا اور پانچوں سے علی کا جو ہر بنا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا: یہ کون ہیں جنہیں اتنا بڑا اعزاز بخشنا گیا؟ اللہ نے فرمایا: یہ تمہاری اولاد میں سے پانچ وجود ہیں جنہیں میں نے تمام مخلوق پر افضلیت دی ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب ہوئی تو انہوں نے عرض کیا: اے پروردگار! ان پانچ برگزیدہ ہستیوں کے صدقے میں میری توبہ قبول فرمائے۔ تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔“

2: امام محمد بن اوریں شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہم پانچوں پیدائش آدم علیہ السلام سے قبل عرش اعظم کی دامیں جانب انوار کی شکل میں تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں ان کی پشت میں لاٹھرا یا گیا۔ پھر ہم پاک صاف پشتوں میں سے منتقل ہوتے رہے۔ تا آنکہ مجھے اللہ نے حضرت عبد اللہ کی پشت میں، ابو بکر کو ابو قافلہ کی، عمر کو خطاب کی، عثمان کو عفان کی اور علی کو ابو طالب کی پشت میں لا اتا را۔ پھر انہیں میرا صحابی بنادیا گیا۔ اور ابو بکر کو صدقیق، عمر کو فاروق، عثمان کو ذوالنورین اور علی کو میراوصی بنادیا گیا۔ تو انہیں گالی دینا

مجھے گالی دینا ہے اور مجھے گالی دینا اللہ کو دینا ہے اور جو اللہ کو گالی دے اللہ سے ناک کے مل گھسیت کر جہنم میں پہنچنے گا۔“

اسے ملاں نے اپنی سیرت میں روایت کیا ہے۔

روز قیامت سب سے پہلے قبور سے محشور ہونا:

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
”سب سے پہلے میرے لیے زمین پھٹے گی اور پھر ابو بکر (پھر عمر) پھر عثمان، پھر علی کے لیے پھٹے گی۔ اس کے بعد ہم آکر جنتِ ابقیع والوں کو اٹھائیں گے اور مکہ والوں کا انتظار کریں گے۔ ان کے لیے زمین پھٹے گی (تو وہ کل کر ہمارے پاس آئیں گے) اور پھر سارا جہاں زمین سے باہر آجائے گا۔“

روز قیامت خلفاء ارجمند کی امتیازی شان:

1: حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کو یہ عرض کرتے دیکھا:

”یا رسول اللہ! روز قیامت سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”ابو بکر! تمہارا۔“

انہوں نے عرض کیا:

”پھر کس کا ہوگا؟“

فرمایا:

”عمر کا۔“

عرض کیا:

”پھر کس کا؟“

فرمایا:

”علی کا۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”پھر کس کا؟“

فرمایا:

”عثمان کا۔“

پھر آپ نے فرمایا:

”میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ عثمان کا حساب میرے پروردگر دے تو اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔“ اسے نحمدی نے روایت کیا ہے۔

2: نحمدی نے یہ بھی کہا ہے کہ حافظ بغدادی کے بقول اسی حدیث کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: ”نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ سَلَّمَ نے فرمایا: میری ایک پوشیدہ حاجت اللہ نے پوری کر دی کہ عثمان کا حساب پوشیدہ لیا جائے۔“

ان دونوں روایات کا مفہوم باہم متعارض نہیں ہے۔ اس لیے کہ پہلی حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا حساب لوگوں کے درمیان آٹھ کارانہ کیا جائے۔ سو یہ دعا قبول ہو گئی۔

### زبانِ نبوت سے خلفاء اربعہ کیلئے اعلانِ جنت:

1: حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی تلاش میں لکھا تو آپ کو مدینہ شریف کے باغات میں سے ایک باغ میں ایک درخت کے نیچے خواستراحت پایا۔ میں نے آپ کو بیدار نہ کرنا چاہا۔ البتہ بھور کی ایک خشک ٹہنی میں نے کسی مقصد کے لیے توڑی تواس کی آواز سے آپ جاگ گئے اور یوں گویا ہوئے: ”تمہیں اور دوسرے تیرے اور چوتھے شخص کو جنت کی مبارک باد ہو۔“

اتنے میں ابو بکر آگئے۔ آپ نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ پھر عمر آئے تو انہیں بھی بشارت دی گئی۔ پھر عثمان آئے تو انہیں بھی جنت کا مژدہ سنایا گیا، پھر حضرت علی آگئے تو انہیں بھی آپ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔“ اسے ابو بکر اسماعیلی نے اپنے مجم میں روایت کیا ہے۔

2: حضرت کعب بن عجز سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ سَلَّمَ نے فرمایا: ”میں تمہیں جتنی مردوں کی خبر نہ دوں؟“

ہم نے عرض کیا:

”کیوں نہیں! یا رسول اللہ“

فرمایا:

”نبی جنت میں ہے، صدقیق جنت میں ہے، شہید جنت میں ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے والا شخص بھی جتنی ہے۔“

اسے حشیہ بن سلیمان نے روایت کیا ہے۔

یہ بات اظہر من القسم ہے کہ حضرت ابو بکر کے لیے صدقیقت ثابت ہے اور صحابہ تلاش کے لیے شہادت۔

### خلفاء اربعہ نبی کریم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے:

1: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ سَلَّمَ مدینہ شہر کے دروازہ سے لکھے اور کیفیت

یہ تھی کہ وہ دایاں ہاتھ ابو بکر صدیق کے کندھے پر اور بایاں عمر فاروق کے کندھے پر رکھا تھا۔ عثمان غنی نے پیچھے سے دامن پکڑ رکھا تھا اور علیٰ مرتضیٰ آگے آگئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا:

”ہم پانچوں یونہی جنت میں داخل ہوں گے۔ جو ہم میں فرق کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔“

2: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کی طرف آیا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے پر معلوم ہوا کہ آپ باہر کو نکل گئے ہیں۔ میں بھی اوہر کو ہولیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ارلیں نامی باغ میں واقع کنوئیں پر جا پہنچے تھے۔ میں باغ کے دروازہ پر بیٹھ گیا جو کھجور کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے باغ میں قضاۓ حاجت فرمائی، وضو کیا اور کنوئیں کی کافی چوڑی منڈیر پر چڑھ کر اس کے پیچوں پہنچ بیٹھ گئے۔ میں دروازے کے اندر ورنی جانب بیٹھا رہا اور دل میں ٹھان لی کہ آج میں نے اللہ کے رسول کی پھر اداری کرنی ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آگئے اور دروازہ ٹھکٹھایا۔ میں نے پوچھا:

”کون؟“

جواب ملا:

”ابو بکر۔“

میں نے کہا:

”مہربیئے۔!“

یہ کہہ کر میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

”ابو بکر اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔؟“

آپ نے فرمایا:

”انہیں بلا لا وَا اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔“

تو حسب ارشاد میں واپس آ کر ابو بکر صدیق کو اندر لے آیا اور انہیں بتلایا کہ نبی علیہ السلام آپ کو جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ وہ اندر آئے اور نبی علیہ السلام کے دائیں پہلو میں منڈیر پر بیٹھ گئے اور آپ کی تقلید کرتے ہوئے پاؤں کنوئیں میں لٹکا لیے۔ میں (ابو موسیٰ اشعری) واپس آ کر پھر دروازہ میں بیٹھ گیا۔ جب کہ میں (شہر میں) اپنے بھائی کو وضو کر کے اپنے پیچھے آنے کو کہہ آیا تھا۔ اب دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرا بھائی یہاں آپنچھ تو کیا اچھا ہو (کہ شاید اسے بھی جنت کی بشارت مل جائے) اتنے میں کوئی شخص دروازے پر دستک دینے لگا۔ میں نے پوچھا:

”کون؟“

جواب ملا:

”عمر بن الخطاب۔“

میں نے کہا:  
”مُنْهَرٰ یے۔!

پھر میں نے نبی علیہ السلام کو جا کر اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا:  
”اسے اندر آنے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔“

چنانچہ میں نے ایسے کیا۔ تو وہ آئے اور منڈیر پر نبی علیہ السلام کے باائیں پہلو میں کنوئیں میں پاؤں لٹکا کر  
بیٹھ گئے۔ میں واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا اور بھائی کا انتظار کرنے لگا۔“

### خلافت کی خبر:

اہل تشیع کے شیخ الطائفہ اور امام الکل علامہ ابو عفرطوسی اپنی کتاب تلخیص الثانی، جلد سوم، صفحہ 39 میں اسی حدیث  
کے مفہوم کو جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یوں بیان کرتے ہیں:

((وَاسْتَدْلُوا عَلَى صَحَّةِ اِمَامَتِهِ بِسَمَارُوِيِّ عَنْ اَنْسٍ (اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اَمْرَهُ - عِنْدَ اَقْبَالِ ابْنِ بَكْرٍ) اَن يُبَشِّرَهُ بِالْجَنَّةِ وَبِالْخِلَافَةِ بَعْدِهِ وَان يُبَشِّرَ عَمْرَ فَارُوقَ  
وَبِالْخِلَافَةِ بَعْدِ ابْنِ بَكْرٍ))

”اہل سنت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کی صحبت پر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اس  
حدیث سے استدلال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو جب ابو بکر آئے تھے یہ حکم دیا  
کہ انہیں جنت کی اور میرے بعد خلافت کی بشارت دے دو۔ اسی طرح جب عمر فاروق آئے تو آپ نے  
حضرت انس کو پھر حکم دیا کہ انہیں جنت کی اور ابو بکر کے بعد خلافت کی بشارت دے دو۔“

### حوض کوثر کے چاروں کونوں پر خلفاء اربعہ متین ہوں گے:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میرے حوض کے چار کونے ہیں۔ پہلا کونہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہو گا۔ دوسرا عمر فاروق، تیسرا عثمان  
غñی اور چوتھا کونہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہو گا۔ تو جو شخص ابو بکر صدیق سے محبت اور عمر سے عداوت رکھے  
اسے ابو بکر حوض کوثر سے نہیں پلاں گے۔ جو حضرت علی سے محبت اور عثمان غñی سے دشمنی رکھا اسے علی نہیں  
پلاں گے (جو ان چاروں میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہو گا وہ حوض کوثر سے محروم رہے گا) یاد رکھوا  
ابو بکر صدیق سے محبت رکھنے والے نے اس عمل سے اپنا دین مضبوط کیا، عمر فاروق سے عقیدت رکھنے  
والے نے اپنے لیے ہدایت کا راستہ متین کر لیا، عثمان غñی کا محبت اللہ کے نور سے روشن ہو گیا اور علی مرتضیٰ  
کے حبّ دار نے اللہ کی رسمی کو مضبوطی سے تھام لیا۔“

اسے ابو سعد نے شرف المذہب میں روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں علامہ غیلانی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔

### روز قیامت خلفاء ار بعثت کے خصوصی اختیارات:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”روز قیامت عرش کے نیچے ایک منادی ندا کرے گا: محمد کے صحابی کہاں ہیں؟ تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کو پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق سے کہا جائے گا: آپ جنت کے دروازہ پر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت سے جسے چاہیں داخل کریں اور اللہ کے علم سے جسے چاہیں واپس کر دیں۔ عمر فاروق سے کہا جائے گا: آپ ترازو پر کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی رحمت سے جس کے نیک اعمال چاہیں بڑھائیں اور اللہ کے علم سے جس کے چاہیں گھٹائیں۔ عثمان غنی کو دو خلعتیں پہنائی جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا: اے عثمان! انہیں پہن لجھئے۔ جب سے میں نے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے آپ کے لیے یہ خلعتیں بنادی تھیں۔ اور علی مرتضیٰ کو جنت کے ایک درخت جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے اگایا ہے، سے بنایا ہوا ایک عصا دیا جائے گا کہ اس سے برے لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹائیں۔“

اسے ابن غیلان نے روایت کیا ہے۔

### برا برد رجہ:

علامہ محبت الدین طبری فرماتے ہیں کہ بعض الہ علم سے پہ کہتے سن گیا ہے کہ اللہ نے فضیلت و کرامت میں چاروں خلفاء کو برابر درجہ عطا فرمایا ہے۔

### چار یاران نبی کے اسماء کی تحریر:

امام جعفر صادق اپنے والد حضرت امام باقر سے اور وہ اپنے آباء سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کیا میں تمہیں یہ تباہ کہ عرش پر کیا لکھا ہے؟“

ہم نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ اکیوں نہیں؟“

فرمایا:

”عرش پر لکھا ہے:

((لاَّ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ أَبُو بَكْر الصَّدِيقُ عُمَرُ الْفَارُوقُ عُثْمَانُ الشَّهِيدُ عَلَى الرَّضَا))

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابو بکر سچے ہیں، عمر حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں، عثمان شہید ہیں اور علی سے اللہ راضی ہے۔“

اسے ابو سعد نے شرف المعرفۃ میں بیان کیا ہے۔

### لواءُ الحمد اور خلفاءُ اربعہ:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا:

”لواءُ الحمد کیا ہے؟“

فرمایا:

”اس کے تین ہے ہیں۔ پہلے پر بسم اللہ الرحمن الرحيم اور سورہ فاتحہ تحریر ہے۔ دوسرے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر ہے اور تیسرا پر ابو بکر الصدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علی المرتضی ثابت ہے۔“

اسے ملاں نے سیرت میں روایت کیا ہے۔

### چار یارانِ نبیٰ کی خلافت پر وال احادیث:

1: حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبیٰ کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے سنًا:

”خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی۔ پھر بادشاہت آجائے گی۔“

حضرت سفینہ کہتے ہیں:

”حضرت ابو بکر کی خلافت دو سال، حضرت عمر کی دس سال، حضرت عثمان کی بارہ سال اور حضرت علی کی چھ سال (پانچ سال چھ ماہ اور سیدنا حسن کی چھ ماہ) تھی۔“

اسے ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت دو سال تین ماہ اور دس دن، حضرت عمر فاروق کی خلافت دس سال چھ ماہ اور پانچ دن، حضرت عثمان غنیٰ کی خلافت بارہ دن کم بارہ سال اور حضرت علی کی خلافت چار سال اور آٹھ ماہ رہی۔ یہ کل مدت انتیس سال پانچ ماہ اور تین دن بنتی ہے۔ امام حسن نے حضرت علی کی جائشی میں پانچ چھ ماہ جو حکومت کی ہے وہ ایک اعتبار سے خلافت حضرت علی کا ہی تکملہ تھی۔ اس طرح خلافت کی مدت مکمل تیس سال ہی بن جاتی ہے۔

2: حضرت سہل بن ابی خثیمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میرے بعد چار خلفاءٰ ہوں گے اور مدت خلافت تیس سال ہوگی۔ پہلے نبوت ہے، پھر خلافت، پھر بادشاہت، پھر جریت و طواغیت (ظلم و تشدد) اور پھر عدل و انصاف ہوگا (امام مہدی کے دور میں) گویا اس امت کا اول و آخر بہتر ہے۔“

اسے ابو الحسن قزوینیٰ حاکمی نے روایت کیا ہے۔

3: حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اللہ نے یہ خلافت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں پر کھوئی۔ عمر نے اسے دو گنا اور عثمان غنی نے تین گنا کر دیا اور مجھ پر اس کی انتہا ہو گئی۔ تھیک اسی طرح جیسے نبی علیہ السلام پر نبوت کی انتہا ہوئی ہے۔“  
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت ہی رخصت ہوئے ہیں جب آپ نے مجھ سے یہ عہد لے لیا کہ ابو بکر صدیق میرے بعد خلیفہ ہوں گے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی اور پھر میں خلیفہ ہوں گا۔ صرف مجھی پر خلافت بند نہ ہو گی۔“ (یہ حدیث موضوع ہے۔)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تب ہی رخصت ہوئے ہیں جب آپ نے مجھے یہ بھید دے دیا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ نہیں گے۔“

**نوٹ:** یہ حدیث صحیح سے دور ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت سے حضرت علی مرتضیٰ نے چھ ماہ توقف کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کی خلافت کے بارے میں حضرت عمر فاروق کی مرد کردہ خلافت کمیٹی کے فیصلے کا انتظار بھی کیا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو مذکورہ بات سمجھائی ہو اور اعراضہ آپ اسے بھولے ہی رہیں۔ اگر واقعتاً ایسا ہوتا تو ابو بکر صدیق کی بیعت کرنے والے سب سے پہلے جناب علی تھے۔

ابو بکر ہر لی نے اپنے شیخ اور انہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

”جب تمہیں حکومت دی جائے گی تو قبول کرو گے؟“  
عرض کیا:

”مرجاؤں گا! یا رسول اللہ!“

فرمایا:

”عمر تم؟“

عرض کیا:

”جب تو ہلاک ہو جاؤں گا۔“

فرمایا:

”عثمان تم؟“

عرض کیا:

”کھاؤں گا کھلاؤں گا۔ مستحقین کو ان کے حقوق دوں گا اور کسی پر ظلم نہ کروں گا۔“

فرمایا:

”علی تم؟“

عرض کیا:

”قوت لامیوت لوں گا۔ آواز پست رکھوں گا۔ پھل (حقوق) بانٹوں گا اور انگارے تپا کر رکھوں گا  
( مجرموں کیلئے)“

فرمایا:

”تم سب کو حکومت ملے گی پھر اللہ تمہارے اعمال کا حساب لے گا۔“  
یہ چاروں روایات اہن سماں نے موافقہ میں روایت کی ہیں۔

7: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ڈول لٹکایا گیا، ابو بکر نے اسے دونوں طرف سے پکڑ کر تھوڑا سا پیا، پھر عمر فاروق آئے اور اسے دونوں طرف سے پکڑ کر اتنا پیا کہ پہلو نکل آئے، پھر عثمان غنی آئے اور دونوں طرف سے پکڑ کر پینا چاہا تو وہ چھلک پڑا۔ چنانچہ کچھ پانی ان کے اوپر گرا اور پھر انہوں نے اس سے اتنا پیا کہ پہلیاں پھول گئیں، پھر حضرت علیؑ نے آکر اس سے پینا چاہا تو وہ چھلک پڑا۔“

اسے جندبی نے روایت کیا ہے۔

”حضرت ابو بکر صدیقؓ کے تھوڑا سا پیغام کا اشارہ ان کی دو سالہ قلیل المدت خلافت کی طرف ہے۔ حضرت عمر فاروقؓ کے پہلو نکلنا ان کی طویل المدت خلافت (بازہ سال کی) غمازی ہے اور حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے پکڑنے سے ڈول کا چھلکنا ان کے ادوار میں ہونے والی بغاوتوں کا غماز ہے۔

### اتباع رسول میں آپؓ کے خلفاء کی تین تین اشیاء سے محبت:

مردی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بار فرمایا:

”لوگو! تمہاری دنیا میں سے صرف تین چیزیں اللہ کی طرف سے میرے لیے پسندیدہ قرار دی گئی ہیں:  
خوبیو، ہمارتیں، جب کہ میری آنکھوں کی خندک نماز ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کیا:

”یا رسول اللہ! مجھے بھی ساری دنیا میں سے صرف تین چیزیں ہی پسند ہیں۔ آپؓ کے نورانی چہرے کو دیکھتے رہنا، آپؓ پر قربان کرنے کے لیے مال اکٹھا کرنا اور آپؓ سے رشتہ قرابت جوڑ کر آپؓ کے دامن سے وابستہ رہنا۔“

حضرت عمر فاروقؓ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! مجھے بھی تین چیزوں ہی سے محبت ہے۔ بھوکے انسان کو کھلانا، پیاسے کو پلاانا اور نگنے کو کچھ

پہنانا۔“

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”مجھے بھی یار رسول اللہ اتنی ہی چیزیں محبوب ہیں۔ گرمیوں کے روزے، مہمانوں کی خیافت اور میدان کا رزار میں تکوار سے جہاد۔“

اسے بھی بخندی نے روایت کیا ہے۔

### شرک فضائل:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں کوئی ایسا درخت نہیں جس کے ہر پتے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تین صحابہ کا نام نہ لکھا ہو۔“

اسے صاحب ”دیباج“ اور ابوالخیر قزوینی حاکی نے روایت کیا ہے۔

حضرت سوید بن یزید سالمی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اکپلے بیٹھے ہیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں کچھ لوگ آگئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنے لگے۔ جس پر جناب ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو واقعہ دیکھا تھا اس کے بعد میں عثمان غنی کو بھلائی کے سوا کسی لفظ کے ساتھ یاد نہیں کر سکتا۔ میں (ابوذر) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتوں میں بھی آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا تا کہ کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوتا رہا کرے۔ تو ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے۔ ایک جگہ پہنچ کر آپ تشریف فرمائے۔ میں بھی پیچھے جا کر پہنچا اور سلام کر کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا: تم کیسے آئے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کے لئے۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ اچانک وہاں ابو بکر صدیق آپنچے اور سلام عرض کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: کیسے آئے ہو؟ عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ عرض کر کے آپ نبی علیہ السلام کی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ اتنے میں عمر فاروق آگئے اور سلام کر کے ابو بکر صدیق کی دائیں جانب جا گزیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کے لئے۔ ابھی یہ بات ہوئی رہی تھی کہ عثمان غنی آگئے اور سلام کہہ کر عمر فاروق کی دائیں جانب جلوہ آراء ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا: کیوں آئے ہو؟ عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول کے لئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات یا تو کنکریاں اٹھائیں اور انہیں ہاتھ میں لیا تو وہ شیع کہنے لگیں حتیٰ کہ شہد کی کھی جیسی بھجنہا ہشت سنائی دینے لگی۔ آپ نے انہیں اٹھا کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ پھر شیع کہنے لگیں۔ جب انہوں نے انہیں زمین پر رکھا تو چپ ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اٹھا کر عمر فاروق کو تھما دیا تو وہ حسب سابق شہد کی کھی جیسی آواز میں شیع پکارنے لگیں۔ جب آپ نے انہیں زمین پر رکھا تو کنکریاں چپ ہو گئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ اٹھا کر عثمان غنی کو

پکڑا دیں۔ جب عثمان غنی کے ہاتھ میں آئیں تو پھر تسبیح بول اٹھیں آواز حسب سابق تھی۔ جب عثمان غنی نے انہیں زمین پر رکھا تو وہ گوئی ہو گئیں۔“

: 3: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے سات کنکریاں اٹھائیں تو آپ کے ہاتھوں میں انہوں نے تسبیح کہنا شروع کر دی۔ آپ نے کنکریاں ابو بکر صدیق کو پکڑا دیں تو ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح کہہ رہی تھیں۔ ان سے عثمان غنی نے لے لیں تو ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح کہتی جا رہی تھیں۔

ان دونوں احادیث کو خشیمہ بن سلیمان اور علی بن نعیم نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث دلائل العوۃ (ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ) جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 555 کے تحت موجود ہیں۔

: 4: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار احد کے پہاڑ پر چڑھے۔ آپ کے پیچھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی چڑھائے تو احد پہاڑ کا چنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے پاؤں کی ٹھوکر لگا کر فرمایا:-

”ٹھہر جا! تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہی تو ہیں۔“

اسے امام احمد بن حنبل، بخاری، ترمذی اور ابو حاتم نے روایت کیا ہے۔

: 5: حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر جلوہ افروز تھے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی تھے کہ اچانک پہاڑ ہٹانا شروع ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا:-

”حرا! ٹھہر جا! تجھ پر نبی یا صدیق یا دو شہید ہی تو ہیں۔“

اسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

اس روایت میں حضرت علی، جناب طلحہ، حضرت سعد اور جناب سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کے نام بھی موجود ہیں۔

: 6: حضرت ثما مہ حضرت عثمان غنی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام مکہ کے پہاڑ ”شہیر“ پر ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور میرے سمیت موجود تھے کہ پہاڑ ہٹنے لگا، بلکہ اس کے دامن میں سے کئی پھرٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ آپ نے اسے پاؤں مبارک کی ٹھوکر لگائی اور فرمایا:-

”شہیر! ٹھہر جا! تجھ پر نبی صدیق اور دو شہید ہی تو ہیں۔“

اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

: 7: شہیر اور حرامکہ شریف میں باہم قریب قریب دو مشہور پہاڑ ہیں جبکہ أحد مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے بارے میں فرمان رسول ہے کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تاہم روایات کا اختلاف اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ واقعہ متعدد بار ہوا ہے۔ بھی احد پر، بھی شہیر پر اور بھی حراء پر۔

یاد رہے یہ امر بالکل واضح ہے کہ مذکورہ احادیث میں صدیق سے ابو بکر اور دو شہیدوں سے عمر فاروق اور عثمان غنی

مراد ہیں، کیوں کہ بظاہر ابو بکر صدیق نے شہادت نہیں پائی جب کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے حصہ میں ظاہراً یہ سعادت آئی ہے۔

8: امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”عراقيو! ہم سے اسلامی محبت رکھو! اللہ کی قسم! ہمارے ساتھ تمہاری محبت ایک دور میں گالی گلوچ سے آلو دہ ہو جائے گی (ہماری محبت میں تم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دینا شروع کر دو گے۔)“

9: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اس وقت ہی، ہم تمام صحابہ سے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ کو افضل سمجھا کرتے تھے۔ اسے ابوالحسن حزیؑ نے روایت کیا ہے۔

خلافے راشدین اور حضرت علی کا نذر رانہ عقیدت:

1: اسخن بن نباتہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا:

”امیر المؤمنین! نبی علیہ السلام کے بعد کون افضل ہے؟“

فرمایا:

”ابو بکر۔“

میں نے کہا:

”پھر کون؟“

فرمایا:

”عمر فاروق۔“

میں نے کہا:

”پھر کون؟“

فرمایا:

”عثمان غنی۔“

میں نے کہا:

”پھر کون؟“

فرمایا:

”میں خود۔“

اسے ابوالقاسم نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔

2: حضرت علیٰ مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک بار طویل خطبہ ارشاد فرمایا جس کے آخری الفاظ یہ تھے: ”یاد رکھو! اس امت میں نبیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر ان کے بعد عثمان غنیٰ اور ان کے بعد میں میں خود ہوں۔ میں نے یہ بات تمہاری گردنوں میں ڈال دی ہے، اب تم کوئی عذر نہیں کر سکتے (کہ ہمیں خلفاءٰ تلاش کی عظمت کا علم نہ ہوا تھا)۔“

3: حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ میرے جانشینوں پر رحم کرے۔“

عرض کیا گیا:

”وہ کون ہیں یا رسول اللہ؟“

فرمایا:

”جو میرے بعد آئیں گے۔ میری احادیث اور میری سنت کو پیش نظر رکھیں گے اور انہیں لوگوں تک پہنچائیں گے۔“

اسے نظام الملک نے روایت کیا ہے۔

4: حضرت علیٰ فرماتے ہیں:

”میرے اور ابو بکر صدیق کے بارے میں نبیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہے اور دوسرے کے ساتھ میکائیل و اسرائیل ہے۔“

خلفاءٰ راشدین کی بارگاہ میں حضرت ابن عباس کا ہدیہ عقیدت:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے

فرمایا:

”اللہ ان پر رحم کرے۔ ان کی یہ صفات تھیں: قرآن کی تلاوت کرنا۔ گناہ سے نفرت کرنا۔ نیکی کا حکم کرنا۔ برائی سے روکنا۔ رضاۓ الہی کے لیے صبر کرنا۔ بے حیائی کی طرف رغبت سے بے خبری۔ رات بھر کی عبادت۔ دن بھر کا روزہ۔ معرفت الہی۔ خوف الہی۔ اللہ کی حرام کردہ امور سے دوری۔ اور ہلاک کرنے والے اعمال سے اعراض۔ صدیق اکبر تقویٰ و قناعت میں ساتھیوں پر سبقت لے گئے تھے۔ ان کی امانت اور نیکی بے مثل تھی۔ جوان پر اعتراض کرے اللہ کی اس پر تاریخ قیامت لعنت ہو۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا:

”صدیق اکبر کی مہر کا نقش کیا تھا۔؟“

فرمایا کہ آپ کی مہر پر یہ کندہ تھا:

((عبد ذلیل لرب جلیل))

”عزت والے رب کا حقیر بندہ۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال ہوا کہ عمر فاروق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟

آپ نے فرمایا:

”اللہ ابو حفص پر رحم کرے۔ آپ اسلام کے علم بردار تیمبوں کے بجائے۔ ایمان کے مرکز۔ احسان کی انہا۔ کمزوروں کے میزبان۔ باوشاہوں کے لیے دلیل راہ دین حق کا قلعہ اور دشکنیر مومناں تھے۔ آپ نے دین واضح تر کر دیا اور ممالک فتح کر کے چھے چھے پر ذکر اللہ جاری کر دیا۔ مشکل کا وقت ہو یا آسانی کا آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرتے تھے۔ آپ سے بغض رکھنے والے کو اللہ روز قیامت شرمندہ کرے گا۔“

پوچھا گیا:

”آپ کی مہر کا نقش کیا تھا۔؟“

حضرت ابن عباس نے فرمایا:

((الله المعین لمن صبر))

”صبر کرنے والوں کا اللہ مد و گارہ ہے۔“

حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا:

”آپ عثمان غنی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟“

انہوں نے فرمایا:

”اللہ! ابو عمر پر رحم کرے! آپ نیک لوگوں سے بہتر۔ دوستوں میں سے برگزیدہ، کثیر الاستغفار، شب زندہ دار، دوزخ کا ذکر چھڑ جانے پر کثرت سے گریہ کنائ، شب و روز مفید کاموں میں مشغول، ہر بزرگی کے خواہاں، آخرت میں نجات دلانے والے ہر عمل کے شیدا، ہر ہلاکت خیز عمل سے گریزان، وقادار، باکردار، پاک باز، جنگ تباک کے تنگست اسلامی شکر کے سر پرست، بیرون مہ کے واقف اور داماد رسول تھے۔ آپ کے قاتلوں کو اللہ قیامت تک دردناک عذاب میں بٹلار کھے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا:

”حضرت عثمان کی مہر کا نقش کیا تھا۔؟“

آپ نے فرمایا:

((اللهم احینی سعیداً و امتنی شهیداً))

”اے اللہ! مجھے سعادت کے ساتھ زندہ رکھ اور شہادت کے ساتھ مار۔“

اور اللہ کی قسم! واقعیتاً آپ سعادت کے ساتھ دنیا میں رہے اور شہادت کے ساتھ یہاں سے گئے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا:

”آپ حضرت علی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟“

حضرت ابن عباس نے فرمایا:

”اللہ ابو الحسن پر رحمت نازل کرے۔ آپ ہدایت کامیناً تقوے کی کان، عقل کا پھر، دانائی کا محور، جسم فیاضی، انسانی علوم کی انتہا، اندھروں میں جمکتے نور دین متن کے داعی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے خلفاء میں سب سے زیادہ متقدی، نبی علیہ السلام کے بعد قائم ہونے والی خلافت کمیٹی کے مجرمان میں سب سے زیادہ معزز، صاحب قبلتین، حسین کریمین کے پدر اور خیر النساء کے شوہر تھے۔ آپ سے بہتر کوئی آدمی نہ میری آنکھوں نے دیکھا، نہ کافوں نے سنا۔ آپ حرب و ضرب کے ماہرا اور ہم پلہ دشمنوں کے لیے ہلاکت تھے۔ آپ سے حسر رکھنے والے پر اللہ اور اس کی تمام مخلوق کی قیامت تک لعنت ہو۔“

پوچھا گیا:

”حضرت علی کی مہر کا نقش؟“

فرمایا:

((الله الملك))

”اللہ ہی کی تمام حکومتیں ہیں۔“

(مروج الذہب۔ ہمسودی الشیعی ج 3 صفحہ 7۔ ناسخ التواریخ حالات امام حسن مجتبی ج 1 صفحہ 301 ۶ صفحہ 304)

امام زین العابدین بن امام حسین اور خلفائے راشدین:

سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم سے والہانہ محبت کا ثبوت شیعہ کتب میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ کوئی لوگوں (شیعوں) کا ایک گروہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے سامنے پہلے تین صحابہ کے متعلق نازیبا الفاظ کہے۔ آپ نے ان سے فرمایا:

”اے صحابہ پر اعتراض کرنے والو! کیا تم مہاجرین میں سے ہو جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے:

((الذین اخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ  
اللَّهُو رَسُولُهُ وَالَّذِكُّ هُم الصَّدَقُونَ))

عرaci وندنے جواب دے دیا:

”ہم مہاجرین میں سے نہیں ہیں۔“

امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”کیا تم النصار میں سے ہو جن کی عظمت قرآن میں یوں مذکور ہے:

((الذین تَبَوَّنُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ))

وقد نے جواب دیا:

”ہم انصار میں سے بھی نہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”پھر تمہیں ان مقدس ہستیوں کے متعلق اعتراضات کرنے کا کیا حق ہے؟“

((آخر جو افعال اللہ بکم))

”میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ! اللہ تھیں اس بری حرکت کی سزادے۔“

(کشف الغمہ، جلد دوم، صفحہ 78۔ جلاء العین، جلد اول، صفحہ 393)

عبداللہ بن امام حسن اور خلفائے راشدین:

1: حضرت عبداللہ بن حسن بن علی الرضا رضی اللہ عنہم سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں سوال ہوا تو

آپ نے فرمایا:

”میں ان کی فضیلت کا قائل ہوں اور ان کے لئے استغفار کرتا ہوں۔“

عرض کیا گیا:

”ممکن ہے آپ یہ بات بطور تیکہ کہہ رہے ہوں جب کہ آپ کے دل میں یہ بات نہ ہو۔“

آپ نے فرمایا:

”اگر ایسا ہو تو مجھے نبی علیہ السلام کی شفاقت نہ ملے۔“

2: حضرت عبداللہ بن امام حسن فرماتے ہیں:

”حضرت ابو بکر و عمر پر اللہ درود بھیجتا ہے اور جوان پر درود نہ پڑھتے تو اللہ اس پر سے رحمت اٹھاتا ہے۔“

3: حضرت عبداللہ بن امام حسن نے ایک راضی (شیعہ) سے فرمایا:

”اگر تم ہمارے نہ ہو تو تمہیں قتل کر دینا بہت بڑا اجر ہے۔“

4: ابی محمد بن صالح حضرت عبداللہ بن امام حسن کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے فرمایا:

”اے ابن صالح! مجھے کعبہ کے رب کی قسم! امامت کے بارے میں تمہارا عقیدہ سراسر باطل ہے (کہ ایک امام کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ہوتا ہے اور ایک ہی نسل سے ہوتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ امامت فقط حضرت علی کی نسل سے خاص ہے اور امام گناہوں سے انبیاء کی طرح معصوم ہوتا ہے اور اس کا انکار کفر ہوتا ہے وغیرہ۔)“

حضرت عبداللہ بن امام حسن کا یہ ارشاد اہل تشیع کے عقیدہ امامت کی ترویید کیلئے نہایت ٹھوں اور وزنی جحت ہے۔ شیعوں کے نزدیک تمام اعمال و عقائد اسلامیہ میں امامت اہم ترین عقیدہ ہے، بلکہ ان کے بقول انبیاء سے بھی بارہ اماموں کی امامت کا اقرار کروایا گیا مگر اس حقیقت سے کسی کو قطعاً انکار نہیں کہ قرآن

میں عقیدہ امامت کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں، بلکہ ایسا اشارہ بھی نہیں جبکہ عقیدہ توحید و رسالت پر نصف سے زیادہ آیات قرآنیہ وارد ہیں۔ یونہی نمازو زوڑہ اور حج و زکوٰۃ کے بارے میں نصوص قرآنیہ شمارے باہر ہیں تو اگر عقیدہ امامت ان سب سے اہم تر تھا تو کسی جگہ اس کا ذکر بھی چاہئے تھا۔

### حضرت حسن شنی بن امام حسن بن علی الرضا اور خلفائے راشدین:

حضرت حسن شنی نے ایک غالی راضی سے فرمایا:

”تم پر ہلاکت ہو۔ ہم سے صرف اسلامی محبت رکھو۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو ہمیں چاہو۔ نافرمانی کریں تو ہماری مخالفت کرو۔“

وہ راضی کہنے لگا:

”آپ تو نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں۔“

فرمایا:

”اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بغیر اعمال صالحہ کا رگر ہوتی تو رسول کے قریبوں کو نفع کر دیتی۔ مجھے تذہب ہے کہ اگر ہم دین کی پیروی نہ کریں تو ہمیں دو گناہ عذاب ہو اور یہ امید بھی ہے کہ ہر نیکی کا ثواب ہمیں دو گناہ لے گا۔ اگر ہمارے آباء اجداد اور ہماری ماوں نے ہمیں دین کی باتیں نہیں بتلائیں اور ہمیں ان کی ترغیب و نصیحت نہیں کی تو انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے۔ تم لوگوں کی نسبت ہم اپنے آباء کے زیادہ قریب اور تربیت و تبلیغ کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگر واقعیت ایہ بات درست ہوتی (جیسا کہ اہل تشیعہ کا عقیدہ ہے) کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو مسلمانوں کا فرماز و اینیا تھا اور لوگوں کو ان کی حکومت تسلیم کرنے کا امر فرمایا تھا تو پھر حضرت علی اس بات میں بہت بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کافرمان پورا کرنے کی جدوجہد کیوں نہیں کی۔“

راضی کہنے لگا:

”نبی علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟“

حضرت حسن شنی نے فرمایا:

”اگر ایسا ہی تھا تو نبی علیہ السلام نے علی کی خلافت صاف صاف اعلان کیوں نہ کیا: من كنت مولا جیسا مہم اعلان کیوں کیا۔؟ جب کہ نمازو زوڑہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ قرآن و حدیث میں بڑی صراحة سے بیان ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو تو پھر یوں اعلان کرنا چاہئے تھا۔ لوگو! یاد رکھو! میرے بعد خلیفہ علی ہے۔ اللہ کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو (مگر ایسے اعلان نہیں فرمایا گیا۔)“

### امام باقر بن زین العابدین اور خلفائے راشدین:

1: این ابی حفصہ سے روایت ہے کہ میں نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے

میں سوال کیا تو امام باقر نے فرمایا:

”وہ دونوں عدل کرنے والے حکمران تھے۔ تم ان سے دوستی رکھو اور ان کے دشمنوں سے نفرت کرو۔“

یہ کہہ کر آپ اپنے بیٹے (امام جعفر) کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

”اے جعفر! کیا تمہارا نانا صدیق اکبر نہیں؟ مجھے اپنے نانا نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے نفرت نہ رکھوں۔“

2: حضرت امام باقر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

”ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت نہ جانے والا شخص سنت نبوی سے جاہل رہا ہے۔“

3: امام باقر سے سوال کیا گیا:

”شیخین (حضرت ابو بکر و عمر) کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟“

آپ نے فرمایا:

”وہ میرے محبوب ہیں۔ میں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں اور میں نے تو اپنے خاندانِ اہل بیت میں جسے بھی دیکھا ابو بکر و عمر کا گردیدہ ہی پایا ہے۔“

4: حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے اس قوم کے بارے میں سوال کیا گیا جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دیتی ہے تو آپ نے فرمایا:

”یہ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔“

5: امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

”شیخین (حضرت ابو بکر و عمر) میں شک کرنے والے نے سنت نبوی میں شک کیا ہے۔ شیخین کا بعض بھی منافقت ہے اور انصار صحابہ کا بعض بھی منافقت۔ بنو هاشم، بنی قیم (خاندانِ صدیق اکبر) اور بنی عدی (خاندانِ عمر فاروق) میں اسلام سے پہلے رجیشیں تھیں، مگر اسلام کے بعد یہ ایک دوسرے کے جانی دوست ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دلوں سے تمام عداوتیں سلب کر لیں۔ حتیٰ کہ ایک بار ابو بکر صدیق کے پہلو میں درد تھا تو علیٰ مرتضیٰ آگ پر ہاتھ تپا تپا کر ان کے پہلو پر پھیرتے تھے تاکہ ان کا درد جلد ختم ہو۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہے:

((ونزعنا مافی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقبلین))

(سورۃ الحجرات: 47)

”ہم نے ان کے دلوں سے ہر کدو رت نکال لی ہے۔ اور وہ روز قیامت جنت میں تختوں پر ایک دوسرے سے سامنے پیشے ہوں گے۔“

6: جناب جابرؓ کہتے ہیں کہ مجھے امام باقر نے فرمایا:

”جابر! مجھے اطلاع ملی ہے کہ عراق کے کچھ لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی گستاخی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے انہیں اس کا حکم دیا ہے۔ انہیں میری یہ بات پہنچا دے کہ میں ان سے بری ہوں۔ اس اللہ کی قسم! جس کے قبضہ میں میری اجانبی ہے۔ اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں ایسے گستاخوں کا خون بھاکر اللہ کی رضا حاصل کروں گا۔ اگر میں شیخین سے محبت نہ رکھوں تو روز قیامت مجھے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو۔“

7: جابر جھٹی کہتے ہیں کہ مجھے امام باقر نے فرمایا:

”کوفیوں شیعوں کو بتلادے کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابو بکر و عمر سے بیزار ہے۔“

8: امام جعفر روایت کرتے ہیں کہ امام باقر نے فرمایا:

”نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں ابو بکر صدیق کی آل آل محمد کہلاتی تھی۔ خبر فتح ہوا تو وہاں کی کھجوریں اور چھوارے مہاجرین و انصار کے مابین تقسیم کیے گئے، جبکہ گندم اور جوبنوہاشم میں بانٹے گئے اور ابو بکر صدیق کی آل کو جوبنوہاشم کے ساتھ رکھا گیا، کسی اور کو ساتھ نہیں ملا یا گیا۔“

9: امام باقر نے فرمایا:

”بے شک ابو بکر صدیق نے تکوار پر زیور چڑھایا ہوا تھا۔“

ایک شخص بولا:

”آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟“

آپ غصے سے اچھل پڑے فرمایا:

((وَمَنْ لَمْ يَقُلْ لِهِ الصَّدِيقُ فَلَا صَدِيقُ اللَّهِ لَهُ قَوْلًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ))

”ہاں! وہ صدیق ہے اور جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ اسے دنیا و آخرت میں جھوٹا کرے۔!“

(کشف الغمہ، جلد 2، صفحہ 147)

زید شہید بن زین العابدین اور خلفاء راشدین:

1: حضرت زید شہید پر امام زین العابدین فرماتے ہیں:

”جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بیزار ہے وہ حضرت علی سے بھی بیزار ہے۔ اب جو چاہے آگے آئے یا پیچھے ہٹ جائے۔“

2: حضرت زید شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پار سوال ہوا:

”آپ حضرت ابو بکر و حضرت عمر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟“

آپ نے فرمایا:

”میں انہیں اپنا محبوب رکھتا ہوں۔“

عرض کیا گیا:

”انہیں جو تم رکرتا ہو؟“

فرمایا:

”میں موت تک اس سے بیزار ہوں۔“

ابی ابین ابی رو حسن مغیرہ واسطی کہتے ہیں کہ حضرت زید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جماعت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی:

”رسول اللہ کے بیٹے! آپ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پر تبراکرتے ہوئے حکومت وقت سے علم بغاوت بلند کریں۔“

آپ نے فرمایا:

”ہرگز نہیں!“

وہ کہنے لگے:

”ہم پھر آپ سے بیزار ہیں۔ بصورت دیگر آپ شیخین کی عداوت کے ساتھ خروج کریں تو ہمارے ساتھ ہزار سر آپ کے قدموں میں ہوں گے اور تکواریں انہیں اڑاکھی ہوں گی۔“

آپ نے جواب دیا:

”مکہر و امیں تمہیں نبی کی حدیث سناؤں۔ میرے والد امام زین العابدین اپنے والد امام حسین سے اور وہ اپنے والد حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: اے علی! اجھے بشارت ہوتم اور تمہارے محبت جنت میں جائیں گے۔ مگر یاد رکھو! ایک قوم تمہیں چاہئے والی آئے گی وہ اپنی زبانوں پر اسلام ظاہر کریں گے، مگر اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیرٹکار سے ان کا قلب راضی ہوگا۔ اے علی! اگر انہیں تم پاؤ تو قتل کر دوا وہ مشرکین ہیں۔“

اس کے بعد حضرت زید بن امام زین العابدین نے فرمایا:

”اللہ کی قسم! وہ قوم تم ہو۔“

پھر کہا:

”اے اللہ! یہ لوگ دنیا و آخرت میں میرے دشمن ہیں۔“

اس کے بعد آپ نے اس قوم کے لیے بد دعا کی۔

4: حضرت زید بن زین العابدین سے باغ فدک کے غصب کیے جانے کی بابت سوال کیا گیا۔ (کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ سے ان کافدک نامی باغ ناحق طور پر جھین لیا تھا؟) آپ نے فرمایا:

”سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ یہ باغ نبی علیہ السلام مجھے دے گئے ہیں۔“

انہوں نے کہا: اپنے اس دعویٰ پر گواہ لائیں تو وہ ایک مرد اور ایک عورت کو لے آئیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا: نہیں! یہ گواہی ناکافی ہے۔ ایک مرد اور لائیں یا ایک عورت اور لائیں، تاکہ مرد کے ساتھ مرد مل کر یا مرد اور عورت کے ساتھ دوسری عورت مل کر گواہی کا نصاب پورا ہو جائے اور اسلامی عدل و انصاف کے مطابق فدک آپ کے حوالہ کر دیا جائے تو سیدہ فاطمہ یہ بات پوری نہ کر سکیں۔“

اس کے بعد حضرت زید نے فرمایا:

”اللہ کی قسم! اگر فدک کا معاملہ میرے سامنے فیصلہ کے لیے لا یا جاتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا۔“

(شرح نجح البلاغہ مصنفہ ابن ابی حدید، جلد 4 صفحہ 82) (شرح نجح البلاغہ مصنف ابن میثم، جلد 5، صفحہ 107)

5: دوسری روایت میں ہے کہ حضرت زید بن زین العابدین نے فرمایا:

”صدیق اکبر نے فرمایا: نبی علیہ السلام باغ فدک سے تم اہل بیت کے لیے روزی بھر مال علیحدہ کر کے باقی غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے میں بھی ایسے ہی کروں گا۔“

((فرضیت فاطمہ بذالک و اخذت العهد علیہ))

”سیدہ فاطمہ یہ فیصلہ سن کر راضی ہو گئیں اور اس پر عہد لے لیا۔“

(( ثم قال زيد و ايم الله لور جع الامر الى لقضية فيه بقضاء ابى بكر ))

”پھر حضرت زید نے کہا: اگر یہ معاملہ فدک میرے پاس لا یا جاتا تو میں بھی ابو بکر والہی فیصلہ کرتا۔“

6: حضرت زید بن زین العابدین فرماتے ہیں:

”جس نے ابو بکر صدیق و عمر فاروق کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ، تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔“

امام جعفر صادق بن محمد باقر اور خلفائے اربعہ:

1: مفضل بن عمر اپنے باپ سے اور مفضل کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے صحابہ کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا:

”ابو بکر صدیق کا دل مشاہدہ ربویت سے بھرا تھا اور آپ اللہ کے سواب کچھ غیر موجود پاتے تھے۔ اسی لیے آپ ہر وقت یہ کہتے رہا کرتے تھے: لا إله إلا اللہ، عمر فاروق کی لگاہ میں ماسوی اللہ سب کچھ حقیر و صغیر تھا۔ اس لیے آپ کا تکیہ کلام تھا: اللہ اکبر۔ عثمان غنی اللہ کے سوا ہر ایک چیز کو ناپائیدار اور فانی سمجھتے تھے اور تمام صفات کا جامع صرف اللہ ہی کو جانتے تھے۔ اسی لیے اکثر کہتے رہا کرتے تھے: سبحان اللہ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب سمجھتے تھے کہ جہاں اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی کے ارادہ کے ساتھ قائم ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ اس لیے آپ الحمد اللہ سے رطب المزان رہتے تھے۔“

اسے بخندی نے اربعین میں روایت کیا ہے۔

امام جعفر خود فرماتے ہیں:

”مجھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ جنا ہے تو کیا کوئی آپ اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے۔؟“

(احقاق الحق، صفحہ 7) اور نائج التواریخ حالات امام جعفر ج 1 صفحہ 11

امام جعفر سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا:

”جو ان سے بیزار ہے میں اس سے بیزار ہوں۔“

عرض کیا گیا:

”شاید آپ یہ بات بطور تقبیہ فرمائے ہے ہیں؟“

فرمایا:

”نہیں اس طرح تو میں اسلام سے نکل جاؤں گا اور مجھے نبی علیہ السلام کی شفاعت حاصل نہ ہوگی۔“

امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”جتنی مجھے حضرت علی کی شفاعت کی آرزو ہے اسی قدر میں ابو بکر صدیق کی شفاعت کا طلب گار ہوں۔“

امام جعفر صادق کا ارشاد ہے:

”حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق پر تمرا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے۔“

امام جعفر سے کسی نے کہا:

”سنا ہے کہ آپ ابو بکر و عمر سے بیزار ہیں۔؟“

آپ نے فرمایا:

”ایسے شخص سے تو اللہ تعالیٰ بیزار ہوتا ہے۔ مجھے تو امید ہے کہ ابو بکر صدیق سے میری رشتہ داری کا لفظ اور برکت مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ مجھے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ما مول عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق سے رابطہ قائم کرتا ہوں۔“

امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے:

”میں انتخاب نہیں کر سکتا کہ اپنے کس دادا کی شفاعت کی دعا کروں۔ ابو بکر صدیق کی یا علی مرتضی کی۔ اور جو شخص ابو بکر کا لقب صدیق نہیں سمجھتا اللہ تعالیٰ اسے ہر مقام پر جھوٹا کرے۔“

امام جعفر صادق نے بستر علالت پر فرمایا:

”لے اللہ! میں ابو بکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں۔ اگر میرے دل میں اس کے سوا کچھ ہو تو مجھے مجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔“

امام جعفر سے شیخین کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا:

”ایسے انسانوں کے بارے پوچھ رہے ہو جو جنت کے پھل کھا رہے ہیں؟“

10: اہل تشیع کی مشہور کتاب فروع کافی، کتاب الروضہ، باب غلامات قیام القائم میں ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا:

”ہر روز شام کو آسمانوں میں ندا ہوتی ہے کہ حضرت عثمان غنی اور اس کے پیر و جنتی ہیں اور کامیاب۔“

حضرت موسیٰ کاظم اور خلفائے راشدین:

امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں:

”میرے والد ماجد امام جعفر صادق نے فرمایا: ابو بکر میرانا ہے اور عمر میرادا ماد۔ تو کیا میں اپنے نانا اور دادا کو گھالی دوں؟“

یہ تمام احادیث جو ائمہ اہل بیت کے ذکر ہو اقوال پر مشتمل ہیں حافظ ابو سعید رازی نے الموافقۃ کتاب میں بیان کی ہیں۔



## فصل نمبر 5:

**صحابہ کرام سے محبت، ان کے باہمی اختلافات میں نہ پڑنے اور انہیں برا نہ کہنے اور مواعظات کا بیان**

صحابہ کو محبوب رکھنے والا جنت میں صحابہ کے ساتھ ہوگا:

1: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ! اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر ان میں شامل نہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”روز قیامت انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔“

اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

2: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی۔“

آپ نے فرمایا:

”تو نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟“

اس نے عرض کیا:

”میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تیار کر رکھی ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تو پھر تو اپنے محبوب کے ساتھ ہو گا۔“

3: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اسلام لانے کے بعد میں اس سے بڑھ کر کبھی خوشی نہ ہوئی جتنی نبی علیہ السلام کے اس ارشاد پر ہوئی کہ آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہو گا۔ میں (حضرت انس) تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرا حشران کے ساتھ ہو گا، اگرچہ ان جیسے میرے اعمال نہیں ہیں۔“

اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

4: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی اسی مضمون کی ایک اور روایت بھی مسلم میں موجود ہے۔

### صحابہ سے بھلانی کرنے کا حکم:

1: حضرت ابر بن سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جابیہ (ایک جگہ) میں آئے اور فرمایا: ”ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری طرح کھڑے تھے اور فرمار ہے تھے: میرے صحابہ کے ساتھ بھلانی کرو اور پھر انہیں دیکھنے والوں کے ساتھ بھی بھلانی کرو۔“

اسے مخلص ذہبی نے روایت کیا ہے اور حافظ ناصر سلامی نے اسے روایت کر کے کہا:

”یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے راوی بخاری و مسلم کے راوی ہیں۔“

اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ مومنو! صحابہ سے محبت کرو اور ان کے لیے استغفار کر کے بھلانی کرو اور ان کے باہمی اختلافات میں نہ الجھو۔

2: حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میرے صحابہ کی عزت کرو اور پھر ان کی جوان کے بعد آئیں گے (تابعین) پھر ان کی جوان کے بعد (تابع تابعین) آئیں گے۔“

اسے عمر بن سماک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

3: حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں:

”لوگوں کو حکم تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے حق میں استغفار کریں لیکن انہوں نے انہیں گالیاں دینا شروع کر دیں۔“

اسے مسلم اور ابو معاویہ نے روایت کیا ہے۔

یہ حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ صحابہ کے ساتھ بھائی کرنے کے حکم سے مراد ان کے لیے استغفار کرنا بھی ہے۔

4: عبد الرحمن بن زید العجمی کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بتایا کہ ہم نے چالیس بڑے تابعین سے ملاقات کی ہے جو کئی صحابہ اکرم سے روایت کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے میرے تمام صحابہ سے محبت کی ان سے پیار کا رشتہ جوڑا اور ان کیلئے استغفار کی اللہ اسے صحابہ کے ساتھ جست میں جگہ دے گا۔“

اسے ابن عرفہ عہدی نے روایت کیا ہے۔

5: حضرت عبد اللہ بن حسن بن علی الرضا رضی اللہ عنہم سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا:

”میں ان کی فضیلت کا قائل ہوں اور ان کے لئے استغفار کرتا ہوں۔“

عرض کیا گیا:

”ممکن ہے آپ یہ بات بطور تلقیہ کہہ رہے ہوں جب کہ آپ کے دل میں یہ بات نہ ہو۔“

آپ نے فرمایا:

”اگر ایسا ہو تو مجھے نبی علیہ السلام کی شفاعت نہ ملے۔“

### صحابہ کے متعلق اچھی گفتگو کرنا:

1: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے میرے صحابہ کے متعلق اچھی بات کہی وہ منافقت سے بری ہو گیا اور جس نے ان کے متعلق بری بات کہی وہ میری سنت کا مخالف اور جہنم کا حق دار ہے اور یہ بہت برا انجام ہے۔“

اسے ابو سعد نے شرف النبوة میں روایت کیا ہے۔

2: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جس نے میرے صحابہ کے بارے میں بہتر بات کہی وہ مومن ہے۔“

اسے ابن غیلدن نے روایت کیا ہے۔

3: ایک اور حدیث میں صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کی شانِ رفتہ مکان کو اتنا بلند فرمادیا کہ ان کے ادب، تنظیم اور احترام کو علامت ایمانی اور ذوقی ایقانی قرار دیا، فرمایا:

((مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتْهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّنَتْهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ))

”تم میں سے وہی مومن ہیں جن کو صحابہ کے کام اچھے لگیں اور انکو برآ کہنا بر امعلوم ہو۔“

### مسلمان صحابہ کے اختلاف میں نہ پڑیں:

1: حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”میرے بعد میرے صحابہ سے (ممکن ہے کہ) لغزش ہو مگر اللہ اسے معاف کر دے گا۔ باس سبب کہ وہ  
 میری صحبت کے شرف کے ساتھ تمام امت سے سبقت حاصل کر چکے ہیں، مگر ان کی لغزش پر کچھ لوگ اپنا  
 عمل کریں گے۔ اللہ انہیں منہ کے بل گھسید کر جہنم میں اوندھا کر کے چینکے گا۔“  
 اسے رازی نے اپنے فوائد میں روایت کیا ہے۔

2: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”میرے صحابہ کی شکایت نہ پہنچایا کرو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے صحابہ کے پاس آؤں تو  
 میرے دل میں ان کے بارے میں کوئی میل نہ ہو۔“

3: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”جب تقدیر میں لوگ الجھیں تو تم خاموش رہو اور جب میرے صحابہ کے بارے میں ایسا کریں (کہ کون  
 افضل ہے؟) تو بھی تم خاموش رہو۔“

4: حضرت سعید بن میتب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم نے فرمایا:

”میں نے ان معاملات کے بارے میں اللہ سے سوال کیا جن میں میرے صحابہ میرے بعد اختلاف کریں  
 گے۔ اللہ نے مجھے بذریعہ وحی فرمایا: (اے محمد!) آپ کے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کی مانند ہیں۔  
 بعض کا نور دوسروں سے زیادہ ہے تو جس شخص نے صحابہ کے ماٹیں کسی اختلافی مسئلہ کی ایک شق کو اختیار  
 کر لیا اس کا یہ عمل میرے ذمہ پر ہو گا۔ (اس پر مواخذہ نہ ہو گا)“

اسے نظام الملک نے اپنی امامی میں بیان کیا ہے۔ اس میں یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ہر مجہود کو اپنے  
 عمل کا ثواب ضرور ملتا ہے۔

### صحابی کی گستاخی اور تبراء کا گناہ:

1: حضرت سہل بن مالک اپنے باپ سے اور وہ سہل کے والد اسے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”اے لوگو! میرے داماد عثمان ذی النورین اور علی المرتضی اور سر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور میرے کسی  
 صحابی کی گستاخی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کا حساب تم سے لے لے، کیونکہ یہ گناہ کبھی معاف نہیں کیا  
 جائے گا۔ اے لوگو! مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کیا کرو اور کسی کے مرجانے کے بعد اسے بہتری سے یاد کیا  
 کرو۔“

2: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”اللہ سے ذر و امرے صحابہ کے بارے میں۔ میرے بعد ان سے خود غرضی مت کرنا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھے محبوب بنایا جس نے ان سے بعض کیا اس نے مجھے سے بغاوت کی۔ انہیں ایذ ادینا مجھے ایذ ادینا ہے اور مجھے ایذ ادینا اللہ کو نار ارض کرنا ہے اور اللہ کو نار ارض کرنے والا ممکن ہے کہ جلد گرفتار عذاب ہو جائے۔“

اسے مخلص ذہبی نے روایت کیا ہے۔

3: حافظہ مشقی نے اپنے مجمم میں اسی روایت کو یوں لیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”جس کسی نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس لیے کہ وہ میرا محبوب ہے اور جس نے ان سے بعض کیا تو اس وجہ سے کہ وہ میرے نزدیک مردود ہے۔“

حافظہ مشقی نے اس روایت کے ابتدائی اور آخری الفاظ اس سے قبل والی حدیث کی مثل بیان کیے ہیں۔  
 یہ روایت حافظہ نے ابن شریط سے لی ہے جیسا کہ اس نے اس سے قبل والی روایت حضرت عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ سے لی ہے۔

4: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”جو میرے صحابہ کو بردا کہے اس پر اللہ تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتا۔“

5: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اور انہیں دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا ہے۔“

6: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اسے کوڑے لگاؤ۔“

ان تمام احادیث کو خثیثہ بن سلیمان اور ہالث بن سماک نے روایت کیا ہے۔

7: یہ حدیث یعنیہ انہیں الفاظ کے ساتھ اہل تشیع کی نہایت معتبر کتاب جامع الاخبار صفحہ 182 نمبر 125 فصل میں موجود ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

((قال علیہما السلام من سبئی او اصحابی فقد کفو و من سب اصحابی فاجلدوه))  
 ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے مجھے یا میرے صحابہ کو گالی دی وہ کافر ہو گیا اور اسے کوڑے لگاؤ۔“

8: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
 ”کسی بھی نبی کی گستاخی کرنے والے کو قتل کر دو اور میرے کسی صحابی کو جو گالی دے اسے کوڑے لگاؤ۔“

صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لَا تَسْبُوا أَصْحَابِيْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْاَنَّ أَحَدًا نَفَقَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبَ مَا بَلَغَ مُدَّأْحِدِهِمْ وَنَصِيفَةٌ“

”میرے صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو برامت کہو۔ مجھے اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احمد پھاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو وہ ان میں سے کسی ایک کے مدد (ناپنے کا ایک پیانہ) بلکہ نصف مدد کے ثواب کے برابر بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔“

1: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ الرحمۃ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”صَاحِبَةُ كُوْكَابِيْ نَهْ دُوكِيُونَكَهْ تَمَهَارَے سَارِيْ عَمَرَ کَے نِيكَ اَعْمَالَ اَنْكَى اَيْكَ لَحَّهْ بَهْرَكَى نِيكَ کَے بَراَبِرَ بَهْيَ نَهْيَسْ ہُوْسَكَتَهْ“

1: حضرت عبد اللہ بن مفضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللَّهُ أَكْلَمُ فِي أَصْحَابِيْ أَكْلَمُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِيْ لَا تَتَخَذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِهِمْ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِهِبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِيَغْضِبِّي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ أَدَاهُمْ فَقَدَّاَذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدَّاَذَى اللَّهَ فِيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ“

”اللہ سے ڈروا اللہ سے ڈروا اللہ سے ڈروا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈروا۔ میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا۔ جان لو کہ جو شخص ان کو دوست رکھتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہے اور جو شخص ان سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ مجھ سے بغض رکھنے کے سبب ان سے دشمنی کرتا ہے اور جس شخص نے ان کو اذیت پہنچائی تو بیشک اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور جس شخص نے مجھے اذیت پہنچائی تو اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اور جس شخص نے اللہ کو اذیت پہنچائی تو وہ دن دور ہیں جب اللہ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔“

12: ایک اور جگہ صحابہ کے دشمنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”إِنَّ أَشْرَأَهُمْ أَجْرَوْهُمْ عَلَى أَصْحَابِيْ“

”بیشک میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ کے گستاخ ہیں۔“

13: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَبُونَهُ أَصْحَابِيْ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ“

”جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کو برآ کہتے ہوں تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہاری اس بڑی حرکت پر۔“

14: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”میرے صحابہ کو گالی نہ دو کیونکہ تم میں سے اگر کوئی شخص احمد پھاڑ کے برابر سوناراہ الہی میں خروج کرے تو ایک صحابی کے چار سیر بلکہ دو سیر گندم خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔“

اسے بخاری و مسلم نے اور ابو بکر برقلانی نے بخاری مسلم کی شرائط پر روایت کیا ہے۔

15: ابو بکر برقلانی کی روایت میں یہ بھی ہے:

”میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ انہیں چھوڑ دواں لیے کہ تم میں سے کسی کا ہر روز احمد پھاڑ کے برابر سوناراہ الہی میں خروج کرنا ایک صحابی کے صرف ایک دن 4 سیر گندم خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔“

16: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا:

”حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی نہ دو کیونکہ تمہارے ساری عمر کے نیک اعمال آن کی ایک لمحہ نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے۔“

اسے علی بن حرب طائی اور خیثہ بن سلیمان نے روایت کیا ہے۔

17: حضرت عبد الرحمن بن سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم (تینوں دادا، باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے متواراً) روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے مجھے چنانا اور میرے لیے ساتھی چنے، پھر انہیں میں سے میرے سر اور مدھگار بنائے تو جو انہیں برا کہے اس پر اللہ تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔“

18: حضرت عبد الرحمن بن سلم بن عبد اللہ (دادا، باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے متواراً) روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ نے مجھے (انبیاء میں سے) چنانا اور میرے لیے ساتھی چنے۔ انہیں سے میرے سر اور مدھگار بنائے تو جو انہیں برا کہے اس پر اللہ تعالیٰ، تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ روز قیامت اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو گا۔“

اسے ابن مہندی نے اپنی مشیخت میں بیان کیا ہے۔

19: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے مسلمانو! اگر تم عبادت کرتے کرتے کمانوں کی طرح کوڑ پشت ہو جاؤ اور مسلسل روزہ را کھتے رکھتے کانوں کی طرح سوکھ جاؤ اور نماز ادا کرنے کے لیے قافلوں سے پھر جے پھر و پھر بھی اگر تم میں سے کسی نے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے کسی سے بعض رکھا تو اسے ناک کے مل گھیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔“

اسے حضرت ابو سعد نے شرفِ الموت میں بیان کیا ہے۔

20: سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک گروہ نے صحابہ کے متعلق نازیبا الفاظ کہے۔ آپ نے ان سے فرمایا:

”اے صحابہ پر اعتراض کرنے والو! کیا تم مہاجرین میں سے ہو جن کے متعلق قرآن یہ کہتا ہے:

((الذین اخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَامْوَالِهِمْ يَتَفَقَّهُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضُوا بِأَنَّهُمْ يَنْصُرُونَ  
اللَّهُو رَسُولُهُ اولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ))

عراتی وفد نے جواب دے دیا:

”ہم مہاجرین میں سے نہیں ہیں۔“

امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”کیا تم انصار میں سے ہو جن کی عظمت قرآن میں یوں مذکور ہے:

((الذین تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ))

وفد نے جواب دیا:

”ہم انصار میں سے بھی نہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”پھر تمہیں ان مقدس ہستیوں کے متعلق اعتراضات کرنے کا کیا حق ہے؟“

((اَخْرَجُوا فِعْلَ اللَّهِ بِكُمْ))

”میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ! اللہ تھمہیں اس بڑی حرکت کی سزادے۔“

(کشف الغمہ، جلد دوم، صفحہ 78۔ جلاء العيون، جلد اول، صفحہ 393)

21: حضرت عبد اللہ بن امام حسن نے ایک رافضی (شیعہ) سے فرمایا:

”اگر تم ہمارے نہ ہو تو تمہیں قتل کر دینا بہت بڑا اجر ہے۔“

22: جابر مجھی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا:

”جابر! مجھے اطلاع ملی ہے کہ عراق کے کچھ لوگ ہماری محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے انہیں اس کا حکم دیا ہے۔ انہیں میری یہ بات پہنچادے کہ میں ان سے بڑی ہوں۔ اس اللہ کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ اگر مجھے حکومت مل جائے تو میں ایسے گستاخوں کا خون بہا کر اللہ کی رضا حاصل کروں گا۔“

23: جابر مجھی ہی کہتے ہیں کہ مجھے امام باقر نے فرمایا:

”کوئیوں کو تلاادے کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو صحابہ سے بیزار ہے۔“

## صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی ہیں:

1: حضرت زید بن ابی ادین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”فلاں بن فلاں کہاں ہے؟“

آپ نے صحابہ کے چہرے ملاحظہ فرمائے اور انہیں بلا بھیجا۔ جب تمام اکٹھے ہو گئے تو آپ نے اللہ کی حمد و شکر کی۔ پھر فرمایا:

”آج میں تمہیں ایک بات کہنے والا ہوں، اسے یاد کرو اور بعد میں آنے والوں کو آگاہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو برگزیدہ بنایا۔“

پھر یہ آیت تلاوت فرمائی:

((الله يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس))

”اللہ فرشتوں سے رسول چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔“

اور میں بھی تم (صحابہ) میں سے بعض کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں اور تمہارے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے والا ہوں جیسا کہ اللہ نے فرشتوں کے مابین اخوت کے رشتے بنائے ہیں۔ تو اے ابو بکر! انہوں اور میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ مجھ پر تمہارے کئی احسانات ہیں جن کا بدله اللہ ہی تمہیں دے گا۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل (دوست) بناتا تو تمہیں بناتا۔ تم میرے ساتھ وہ نسبت رکھتے ہو جو تمیں کو بدن سے ہوتی ہے۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”عمر امیرے قریب آجائو۔“

وہ قریب آگئے تو آپ نے فرمایا:

”عمر تم سب سے زیادہ ہماری مخالفت کیا کرتے تھے۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ تمہاری ساتھ یا ابو جہل بن ہشام کی ساتھ اسلام کو شوکت دے دی جائے تو اللہ نے میری دعا کو تمہارے حق میں قبول فرمایا۔ تو تم میرے ساتھ جنت میں ہو گے۔ ساری امت میں سے تیرے نمبر پر جنت میں داخل ہونے والے۔“

یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک طرف ہٹ گئے تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلا یا گیا اور ارشاد فرمایا:

”اے ابو عمر و عثمان امیرے قریب آجائو۔“

وہ آہستہ آہستہ قریب ہونے لگے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے گھنٹوں سے اپنے گھنٹے ملائیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور تین بار سبحان اللہ العظیم کہا۔ پھر عثمان غنی کو دیکھا تو ان کی چادر کھلی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے وہ چادر باندھ دی اور فرمایا:

”اے ابو عمر و عثمان امیرے قریب آجائو۔“

”چادر کے دونوں پلوسینے کے اوپر سے گزارلو! آسمانوں میں تمہاری تعریف کی جاتی ہے۔ تم روز قیامت میرے پاس حوض کوڑ پر آؤ گے جب کہ تمہاری گردن کی رگوں سے خون بہتا ہو گا۔ میں کہوں گا۔ تمہارے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ تم کہو گے: فلاں فلاں نے۔ یہی بات ہوتی ہو گی کہ کوئی آواز دینے والا آسمانوں سے آواز دے گا: یاد رکھو! عثمان تمام مظلومین کا امیر ہے۔“

چنانچہ عثمان غنیٰ رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے تو نبیٰ علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلا یا اور فرمایا: ”اے اللہ کے امین! میرے قریب آؤ! تم اللہ کے امین ہو۔ آسمانوں میں تمہیں امین کہا جاتا ہے۔ جو تمہارا حق ہے اللہ اس پر تمہیں ضرور بقدر دے گا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک دعا ہے جو ابھی تک میں نے بارگاہ الہی میں پیش نہیں کی۔“

انہوں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! پیش کرو! صحیح۔“

آپ نے فرمایا:

”تم نے مجھ پر ایک امانت لارکھی ہے (دعا کی قبولیت اور طلب کردہ چیز کا حصول)“

پھر فرمایا:

”عبد الرحمن! تمہارا ایک مقام ہے۔ اللہ تمہیں کثرت سے مال عطا فرمائے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کثرت کو اپنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر تعمیر فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت عثمان غنیٰ کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا۔

پھر حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما کو بلا یا گیا۔ ارشاد ہوا:

”قریب آجائو۔“

وہ قریب آگئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم دونوں عسکریٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح میرے حواری ہو۔“

پھر دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تو وہ ایک طرف ہو گئے۔

پھر حضرت عمر بن یاسر اور حضرت سعد کو بلا یا گیا اور فرمایا:

”تمہیں با غیّ گروہ قتل کرے گا۔“

پھر ابو داؤد اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہما کو بلا یا گیا اور فرمایا:

”تم ہمارے اہل بیت میں سے ہو۔ اللہ نے تمہیں پہلا اور آخری علم اور پہلی اور آخری کتاب عطا فرمائی ہے۔“

پھر فرمایا:

”ابودرداء! کیا اللہ نے تمہیں راہ حق عطا نہیں فرمادی؟“

عرض کیا:

”ہاں یا رسول اللہ! آپ پر میرے والدین قربان۔“

فرمایا:

”اے ابو درداء! اگر تم گم ہو جاؤ گے تو امت تمہیں تلاش کرے گی۔ اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو وہ تمہیں نہ چھوڑیں گے۔ تم بھاگو گے بھی تو وہ تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ اس لیے اپنی عزت کو فقر والے دن کے لیے ادھار دے دو (آج لوگوں کے کام آؤ کل وہ تمہارے کام آئیں گے) اور جاؤ کہ اعمال کی جزا آنے والی ہے۔“

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد کے درمیان بھائی چارہ کر دیا۔ پھر صحابہ کے دمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ کر فرمانے لگے:

”صحابہ! تمہیں مبارک ہو! تمہاری آنکھیں خشنڈی رہیں۔ تم ہی سب سے پہلے حض کوثر پر میرے پاس آؤ گے۔ جنت میں تمہارے گھر بہت بلند بالا ہوں گے۔“

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر فرمایا:

”اللہ ہی کی حمد ہے۔ جسے وہ اپنا محبوب بنالے اسے گمراہی سے نجات دے دیتا ہے۔“

اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے:

”میری تو جان نکل گئی تھی اور کمرٹوٹ گئی تھی جب میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سوا سب کی تعریف کر رہے اور بھائی چارہ قائم کر رہے ہیں۔ اگر مجھ پر کوئی ناراضگی ہے تو جیسے آپ کی مرضی۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مجھے اللہ کی قسم! جس نے مجھے نبی بنایا۔ میں نے تمہیں سب سے پیچھے رکھا ہی صرف اپنا بھائی بنانے کے لئے ہے۔ تمہارا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تم میرے بھائی اور وارث ہو۔“

اس حدیث کو حافظ ابوالقاسم مشتqi نے چالیس لمبی حدیثوں کے مجموعہ میں بیان کیا ہے۔

ابو سعد نے کتاب شرف الغوۃ میں عقبہ بن عامر جنہی رضی اللہ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث مواخات روایت کی ہے۔ جس کے بعض الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے ابوبکر و عمر! مجھے حکم ملا ہے کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بناؤ۔ تم دنیا و آخرت میں باہم بھائی۔“

بھائی ہو، لہذا دونوں ایک دوسرے کو سلام کہوا اور مصافحہ کرو۔“

تو تعیل حکم کرتے ہوئے دونوں نے مصافحہ کیا۔ پھر فرمایا:

”اے زیر و طلحہ! آؤ میں تمہیں بھائی بناؤں۔ تم دونوں دنیا اور آخرت میں بھائی بھائی ہو۔ دونوں سلام کہو اور مصافحہ کرو۔“

انہوں نے حکم کی تعیل کی۔ پھر ابی بن کعب اور عبد اللہ بن مسعود کو بذی یا گیا اور انہیں بھائی بھائی بنادیا۔ پھر ابو عبیدہ بن جراح اور سالم مولیٰ ابی حذیفہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا۔ پھر ابو درداء اور سلمان فارسی کو باہم بھائی قرار دیا گیا۔ پھر سعد بن ابی وقاص اور حضرت صہیب رومی کے مابین مواخات کا رشتہ استوار ہوا۔ پھر ابوالیوب النصاری اور حضرت بلال کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا۔ پھر اسامہ بن زید اور ابو ہند الجعام کو نبی علیہ السلام نے باہم بھائی بھائی قرار دیا۔

پھر فرمایا:

”مجھے یہ حکم ہے کہ فاطمہ اور امام سليم کے مابین رشتہ اخوت استوار کروں اور عائشہ کو ایوب النصاری کی بیوی کی بہن بناؤں۔ اللہ تعالیٰ ابو طلحہ اور ابوالیوب النصاری کی آل کو اللہ کے رسول کی طرف سے بہتر جزا عطا فرمائے۔“

3: مورخ ابن اسحاق نے مہاجرین والنصار کے مابین مواخات کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللہ کی طرف سے ہم پر نازل شدہ وحی میں سے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں بھائی چارہ قائم کیا جائے۔“  
یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ تھاماً اور فرمایا:  
”یہ میرا بھائی ہے۔“

چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ ایک دوسرے کا بھائی کہلا یا کرتے تھے۔ پھر حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ بھائی بھائی بنے۔ جعفر بن ابی طالب اور معاذ بن جبل میں بھائی چارہ قائم ہوا۔

4: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ باہم بھائی بنے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور عقبان بن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھائی بھائی کہلائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن رفع رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ استوار ہوا اور زیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور سلمہ سلام رضی اللہ عنہ کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا۔

5: برداشت دیگر زیر بن حوام رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا تھا، یونہی عثمان رضی اللہ عنہ اور اویس بن ثابت رضی اللہ عنہ کو طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ

کو سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مصعب بن عمير رضی اللہ عنہ اور ابوالایوب رضی اللہ عنہ کو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کو اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو زبانِ نبوت نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔

6: ایک اور روایت کے مطابق عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جنہیں خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے اور ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ اور مندر بن عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔

7: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ اور عریم بن سعد رضی اللہ عنہ کے ماہین، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ماہین، بلاں موزن اور ابو دیجہ رضی اللہ عنہ کے ماہین رشتہ مواخات قائم کیا۔

8: ابن اسحاق نے مہاجرین والنصاریٰ کی مواخات یوں بھی لکھی ہے:  
”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو بھائی بنایا۔ عثمان غنی اور عبد الرحمن کو بھائی بنایا۔ طلحہ و زبیر کو بھائی بنایا۔ ابو ذر اور مقداد اور امیر معاویہ اور حثاثت مجاشی کے درمیان مواخات کا تعلق قائم کیا۔“

9: بہرحال یہ مختلف احادیث اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ مواخات قائم کرنے کا امر متعدد بار واقع ہوا ہے۔  
حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق و فاروق، امیر حمزہ و زید بن حارثہ عبد اللہ بن مسعود و زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف و سعد بن مالک اور خود اپنے اور میرے درمیان مواخات پیدا فرمائی۔

10: حضرت ابن عبد اللہ نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی اور پھر مہاجرین اور النصاریٰ کے ماہین مواخات کا رشتہ استوار کیا۔ دونوں بار حضرت علیؑ سے فرمایا:  
”تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔“



فصل نمبر 6:اہل بیت

(جتاب علی، آپ کی بیوی اور اولاد کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں اسی مضمون کی مناسبت سے پہلے اہل بیت کی عظمت بیان کی جاتی ہے۔)

آل و اہل کا معنی:

لفظ "آل" اصل میں "اہل" تھا۔ "ہا" کو ہمزہ میں تبدیل کیا تو بنا "اَسال" علم صرف کا یہ قاعدہ و قانون ہے کہ جب دو ہمزے اکٹھے ہوں تو ایک ہمزہ کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب دو ہمزے اکٹھے ہوئے تو دوسرے ہمزہ کو الف میں تبدیل کر دیا گیا اس طرح یہ بن گیا "آل"

اہل لغت کہتے ہیں:

"أَلُ الرَّجُلِ أَهْلُهُ"

"آدمی کی آل سے مراد اس کے اہل ہیں۔"

اور "آل" کے متعلق صاحبِ لسان العرب علامہ ابن منظور رقم طراز ہیں!

"أَهْلُ الرَّجُلِ عَشِيرَةٌ وَزَوْوُقُرْبَاةٌ"

"آدمی کی اہل سے مراد اس کے کنبہ والے افراد اور اس کے نبی اقرباء ہیں۔"

"وَأَهْلُ الْبَيْتِ سَكَانُهُ"

"اور اہل بیت سے مراد گھر میں رہنے والے ہیں۔"

"وَأَهْلُ بَيْتِ النَّبِيِّ أَزْوَاجُهُ وَبَنَاتُهُ وَصَهْدُهُ"

(لسان العرب، جلد نمبر 11)

"حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی صاحزادیاں اور آپ کے داماد ہیں۔"

اسی طرح موجودہ دور کی سب سے منتشر کششی "المخجذ" میں بھی اسی طرح لکھا ہے!

"أَلُ الرَّجُلِ أَهْلُهُ وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي مَافِيهِ شَرْفٌ"

"آدمی کی آل سے مراد اس کے اہل ہیں اور لفظی آل صرف اصحاب شرف کیلئے استعمال ہوتا ہے۔"

نبی کریم کے اہل بیت اور قرآن مجید:

اب ہم قرآن مجید سے چند آیات بیان کرتے ہیں جن سے یہ بات روپ روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔

سورتِ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا کو آپ کی اہل فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنْسُتُ نَارًا“

(القرآن المجید، پارہ نمبر 19، سورۃ نمل، آیت نمبر 7)

”جب موسیٰ نے اپنی گھروالی سے فرمایا مجھے ایک آگ نظر آتی ہے۔“

اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ“

(القرآن المجید، پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران، آیت نمبر 121)

”اور یاد کیجئے یا رسول اللہ! جب آپ صحیح کو اپنے دولت خانہ (حضرت عائشہ کے گھر) سے برآمد ہوئے مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے۔“

اور اسی طرح قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو بھی اہل بیت فرمایا ہے:

”فَالْوَٰٓءِ اتَّعْجَبَيْنَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبُيُّوتِ“

(القرآن المجید، پارہ نمبر 12، سورۃ ہود، آیت نمبر 73)

”فرشتے بولے کیا اللہ تعالیٰ کے کام کا تعجب کرتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہوں اے نبی کے گھروالو۔“

ان آیات سے یہ اظہر من الشیس ہو گیا کہ ازواج مطہرات سلام اللہ علیہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔

اب ان لوگوں کے رو میں چند آیات ہیں جو آل رسول یعنی اولاد رسول اور داماد رسول کو اہل بیت میں داخل نہیں جانتے۔

ارشد باری تعالیٰ ہے!

”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبُيُّوتِ وَيُظْهِرَ كُمْ تَطْهِيرًا“

(القرآن المجید، پارہ نمبر 22، سورۃ الحزاب، آیت نمبر 33)

”اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھروالو! کہ تم سے دور کر دے ہر قسم کی ناپاکی کو اور تمہیں پوری طرح پاک و صاف کر دے۔“

”رجس“ کے معنی گندی چیز کے ہیں۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ناپسندیدہ چیز کو ”رجس“ کہتے

یہ، خواہ وہ عمل ہو یا غیر عمل اور اکثر علماء کرام نے اس سے گناہ مراد لیا ہے اسی لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشا فرمایا:

”أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِيٍّ مُّطَهَّرُونَ مِنَ الذُّنُوبِ“

(روح المعانی، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 12)

”میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک ہیں۔“

اس آیت تطہیر کے شان نزول کے بارے میں ائمہ المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اذل ہوئی تو میں اپنے گھر کے دروازے کے پاس بٹھی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا:

”يَارَسُولَ اللَّهِ! أَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ“

”اے اللہ کے نبی! کیا میں آپ کے اہل بیت سے نہیں؟“

تو آپ علیہ السلام نے فرمایا!

”إِنَّكَ إِلَىٰ خَيْرٍ أَنْتَ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ“

”یقیناً آپ بحلائی پر اور نبی کی ازواج میں سے ہیں۔“

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں!

”میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت حسین کریمین رضی اللہ عنہم موجود تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی کالی دھاری دار چادر ڈال دی اور عرض کیا!

”اللَّهُمَّ هُوَ لَاءُ أَهْلِ بَيْتِ فَادُّهُبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا“

(تفسیر خازن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 449)

”اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں تو ان سے رجس کو دور فرمادے اور انہیں خوب پاک فرمادے۔“

حضرت ابو سعید حذری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد چالپس دن صحیح مجرم کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پر تعریف لاکر فرماتے:

”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْأَصْلُوَةُ رَحْمَكُمُ اللَّهُ“

(اشرف المؤبد لآل محمد، صفحہ نمبر 8، مطبوعہ مصر)

”اے اہل بیت! تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت ہو۔ نماز پڑھو خدا تم پر رحم فرمائے۔“

اسی طرح حضرت اس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد چھ ماہ تک اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول سات ماہ تک جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کیلئے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو آپ بلند آواز سے فرماتے:

”يَا أَهْلَ الْبَيْتِ الْمَصْلُوْبَةُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيذَهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“

(تفیر در منشور، از امام جلال الدین سیوطی، جلد نمبر 5، صفحه نمبر 189)

”اے اہل بیت! نماز کا وقت ہے، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں سے دور کر دے ہر قسم کی ناپاکی اور اچھی طرح تمہیں پاک صاف کرو۔“

اسی طرح امام ابن حجر عسکری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الصواعق المحرقة، صفحہ نمبر 144 میں اس آیت تطہیر کے ضمن میں فرماتے ہیں:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کے بعد دعا فرمائی اور پھر فرمایا!

”أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسَلَمٌ لِمَنْ سَالَهُمْ وَعَدْ وَلَمَنْ عَادَهُمْ“

”جو ان (اہل بیت) سے جنگ کریں گے میں ان سے جنگ کروں گا اور جوان سے صلح کریں گے میں ان سے صلح کروں گا اور جوان سے دشمنی کریں گے میں ان سے دشمنی کروں گا۔“

پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نفوس قدسیہ پر اپنی خادر دال کر عرض کیا:

”اللَّهُمَّ هُوَ أَءَ الْمُحَمَّدٍ فَاجْعَلْ صَلَواتَكَ وَبَرَّكَاتَكَ عَلَى الْمُحَمَّدِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ“

(صواعق المحرقة، صفحہ نمبر 144)

”اے اللہ ایہ آل محمد ہیں پس تو اپنی صلوٰۃ و برکات آل محمد پر نازل فرمابے تھک تو ہی تعریف کیا گیا اور بزرگی والا ہے۔“

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے:

”قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُورًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى“

”اے نبی! فرمادیجھے میں (اس دعوت حق پر) کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوئے اپنے قرابت داروں کی محبت کے۔“

اس آیت کریمہ کے شانِ نزول کے بارے میں حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رضی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو النصارہ مدینہ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام پر مصارف بہت زیاد ہیں اور مال وغیرہ کچھ بھی نہیں تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق و احسانات یاد کر کے بہت سامنے اسباب جمع کیا، سب کا سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ! ہم آپ کی وجہ سے گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے۔ آپ کی وجہ سے ہی ہمیں خدا شناسی ملی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدن کچھ بھی نہیں اس لیے یہ مال و دولت آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں قبول فرمائیں۔“

اس وقت مندرجہ بالا آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال و اسباب واپس کر دیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا!

”یا رسول اللہ! آپ کے قرابت داروں سے کون مراد ہے؟“

تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا!

”عَلَىٰ وَفَاطِمَةٍ وَابْنَاهُمَا“

”وَعَلَىٰ، فَاطِمَةٍ اور ان کے دونوں بیٹیے۔“

(تفسیر مظہری، اذ قاضی شناۃ اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 318)

علامہ عبداللہ بن احمد بن محمود شفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا:

”یا رسول اللہ! مَنْ قَرَأْتُكَ هُوَ لَاءُ الدِّينِ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مُوَدَّتُهُمْ“

”یا رسول اللہ! آپ کے وہ قریبی کون ہیں جن کی محبت ہم مسلمانوں پر واجب ہے؟“

آپ علیہ السلام نے فرمایا:

”عَلَىٰ وَفَاطِمَةٍ وَابْنَاهُمَا“

”وَعَلَىٰ، فَاطِمَةٍ اور ان کے دونوں بیٹیے حسن و حسین ہیں۔“

(تفسیر روح المعانی، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 31) (تفسیر روح البیان، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 311)

اسی آیت کی تفسیر میں حضرت مجید الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آیت مودت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا!

”اے اللہ کے رسول وہ کون سے قریبی ہیں جن کی محبت قرآن کے حکم سے ہم پر واجب ہے؟

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”وَعَلَىٰ اور فاطمہ اور حسن اور حسین اور ان دونوں کی اولاد۔“

حضرت ابن عربی مزید لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عزت کے بارے میں تکلیف دی۔ جس نے عبدالمطلب کے کسی بیٹے کے ساتھ احسان کیا اور وہ اس کا بدلہ نہ دے سکا تو اس کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن میں دوں گا جب وہ مجھے ملے گا۔“

(تفسیر ابن عربی، امام مجید الدین ابن عربی جلد ثانی، صفحہ نمبر 433 مطبوعہ سیروت) (تفسیر روح البیان، از علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 311)

مذکورہ بالا آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن و حسین، ان کی اولادیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات و باندیاں بھی شامل ہیں۔

### اہل بیت اور احادیث:

اہل بیت رسول سلام اللہ علیہم کی عظمت و شان میں بے شمار فرائیں رسول علیہ السلام موجود ہیں جن میں سے چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

1: حضرت چابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبه جمعۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں عرفہ کے دن اپنی اونٹی قصواء پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي تَرَكْتُ فِيمَا كُنْتُ مِنْ أَنْ أَخَذُ تُمُّ ئُمَّ بِهِ لَكُنْ تَضَلُّوا إِكْتَابُ اللَّهِ وَعِترَتِي أَهْلُ بَيْتِي“

(سنن ترمذی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 219)

”اے لوگو! میں نے تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے کپڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) اور دوسرے میرے گھروالے اور عترت۔

گویا کہ ارشاد فرمایا:

”جو لوگ قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں گے اور میرے اہل بیت سے محبت کرتے رہیں گے وہ ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔“

2: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد کیا خوب کہتے ہیں!

”يَا أَهْلُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حُجَّكُمْ فَرُضْ مِنَ اللَّهِ فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ كَفَاكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْقُدْرِ  
سَكُونُكُمْ مَنْ لَمْ يَصِلْ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةُ لَهُ“

”اے اہل بیت رسول اتمہاری محبت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں فرض قرار دی گئی ہے۔  
تمہارے عظیم المرتبت ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ جو کوئی بھی نماز میں تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔“

3: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”أَحِبُّو اللَّهَ لِمَا يَغْدُو كُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي“

(جامع ترمذی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 219)

”اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے غذا اعطافرماتا ہے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرو  
اور میرے اہل بیت سے میرے سبب سے محبت کرو۔“

5: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائی:

”أَلَا إِنَّ مِثْقَلَ أَهْلٍ بَيْتٍ فِيْكُمْ مِثْلَ سَفِينَةٍ نُوحٌ مَنْ رَكَبَهَا نَجَا وَمَنْ تَحْلَفَ عَنْهَا هَلَكَ“  
(مکلوہ المصانع، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 595)

”خبردار کہم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے چھپے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔“

اس حدیث شریف کی اہمیت کا اندازہ ایک تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بیت اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کر اسے بیان کر رہے ہیں تاکہ کسی کو بھی اس کی صحت و اہمیت پر شک نہ رہے۔ وہ ابوذر غفاری جن کے تقویٰ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد عیسیٰ علیہ السلام کا نام دیا۔

دوسری یہ کہ جبیب خدا علیہ التحیۃ والثناۃ اس بات کا اعلان فرمائے ہیں کہ جس کسی کے ہاتھ سے بھی میری اہل بیت کی محبت کا دامن چھوٹ گیا، وہ اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی تباہ و بر باد ہو گیا۔

5: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے:

”أَهْلُ بَيْتِي أَهْمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا هَلَكَ أَهْلُ بَيْتِي جَاءَ أَهْلُ الْأَرْضِ مِنَ الْأَيَّاتِ مَا كَانُوا يُوَعَّدُونَ“

”میرے اہل بیت اہل زمین کیلئے امان ہیں۔ جب میرے اہل بیت ہلاک ہو جائیں گے تو اہل زمین کے پاس وہ نشانیاں آئیں گی جن سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔“

6: ایک اور ارشاد مبارک ہے:

”میرے اہل بیت سارے اہل زمین کیلئے غرق ہونے سے امان ہیں اور میرے اہل بیت میرے امت کے اختلاف کی امان ہیں۔ پس جب عربوں میں سے کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو وہ اختلاف کر کے شیطان کا ثولہ بن جاتا ہے۔“  
(الصواتن الحمرۃ، صفحہ نمبر 125)

ان احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جائے امان تھی جو کوئی بھی اس میں سوار ہو گیا وہ نجی گیا اور جو کوئی اس میں سوار نہ ہوا وہ تباہ و بر باد ہو گیا۔ اسی طرح جو کوئی بھی اہل بیت کی محبت سے سرشار ہو گیا وہ کامیاب ہوا اور جو کوئی بعض و عناد اہل بیت کی آگ میں جل گیا وہ نامرد ہوا

7: حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”إِجْعَلُوا أَهْلَ بَيْتِي مِنْكُمْ مَكَانَ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَمَكَانَ الْغِيْرِ مِنَ الرَّأْسِ وَلَا

تَهْتَدِي الرَّأْسُ إِلَّا بِالْعَيْنَيْنِ

(اشرف الموبد لآل محمد، صفحہ نمبر 28)

”میرے اہل بیت کو اپنے درمیان وہ مقام دو جو حسم میں سر کا اور سر میں آنکھوں کا ہے اور سر تو فقط آنکھوں کے ذریعے ہدایت پاتا ہے۔“

8: حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے اور میری اولاد کو اپنی اولاد سے اور میرے اہل کو اپنے اہل سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محظوظ نہ جانے۔“

(اشرف الموبد لآل محمد، صفحہ نمبر 85)

اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام سے نسبت والی ہر چیز کو مومن اپنی جان، اولاد، مال، اپنے اعزاء و اقرباء، بلکہ ہر چیز سے زیادہ محظوظ رکھتا ہے۔ یہ خوش بخشی اہل سنت و جماعت کے حصے میں آئی ہے کہ وہ ہر اس چیز کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنیٰ سی بھی نسبت ہو۔

اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ حکمت اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بغیر ایمان نا مکمل ہے اور جس کا ایمان مکمل نہیں اسے عبادات کا ذہیر بھی کیا فائدہ دے گا۔

9: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا!

”وَعَدَنِي رَبِّي فِي بَيْتِي مَنْ أَقْرَأَنِيهِمْ بِالْتَّوْحِيدِ وَلَيْ بَالْبَلَاغِ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ“

”میرے رب نے میرے گھرانے کے بارے میں مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بھی ان میں سے توحید و رسالت کا اقرار کرے گا میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔“

10: یہ تو اہل بیت کا معاملہ ہے، اب ذرا اس عاشق کے متعلق بھی فرمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سنئے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا!

”أَرْبَعَةٌ أَنَّا لَهُمْ مُشْفَعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُكْرَمُ لِذُرْيَتِي وَالْقَاضِي لَهُمْ خَوَائِجَهُمْ وَالسَّاعِي لَهُمْ فِي أُمُورِهِمْ عِنْدَمَا أَضْطَرُرُ إِلَيْهِ وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ“

”قیامت کے دن میں چار آدمیوں کی سفارش کروں گا۔ ایک وہ جو میری اولاد کی عزت کرنے والا ہوگا، دوسرا وہ جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوگا، تیسرا وہ کہ جب اہل بیت مجبوری کی حالت میں اس کے پاس آئیں تو وہ ان کے معاملات پڑانے میں کوشش کرنے والا ہوگا اور چوتھا وہ جو دل اور زبان سے ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔“

11: مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا ارشاد عالی شان ہے!

”مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَلَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَىٰ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ“

(الصواعق الْجَرِّة، صفحه نمبر 233)

”جس کسی شخص نے بھی نماز پڑھی اور اس میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا تو اس کی نماز قبول نہ کی جائے گی۔“

1: حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”کُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٍ حَتَّىٰ يُصَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ“

”ہر دعا کو روک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ محمد اور محمد کی آل پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔“

یعنی القدر، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 19)

ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللَّهُ تَعَالَى دُعَا كَوَا سَ وَقْتَ تَكَبُّلِنَّمِينَ فَرَمَّا تَجْبَتْ تَكَبُّلَ مُحَمَّدَ كَمَّا كَبَّلَ أَهْلَ بَيْتِ اَطْهَارٍ پَرَدَرَدَنَهْ پَرَدَهْ لِيَا جَائَهْ“

ان احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اگرچہ کوئی خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے مگر اہل بیت اطہار کے ساتھ بغرض و عناد رکھتا ہے اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا!

”يَا أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حَبْكُمْ فَرِضَ مِنَ السَّلَةِ فِي السُّقُرَآنِ انْزَلْنَاهُ كَفَأْكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ إِنْكُمْ مِنْ لَمْ يَصْلِيَ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ“

”اے رسول اللہ کے اہل بیت تمہاری محبت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں فرض قرار دی گئی ہے اور تمہارے عظیم المرتب ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔“

1: حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ لَمْ يُعْرِفْ عِتْرَتَنِي وَالْأَنْصَارَ فُهُوا لَا حِدْلَاثٌ إِمَّا مُنَافِقٌ وَإِمَّا لِزَانِيَةٍ وَإِمَّا لِغَيْرِ طُهُرٍ يَعْنِي حَمَلَتُهُ أُمَّةٌ عَلَىٰ غَيْرِ طُهُرٍ“

اشرف الموید اہل محمد، صفحہ نمبر 92)

”جو شخص میری عترت اور انصار کو نہیں پہچانتا (ان کی تعظیم نہیں کرتا) تو اس میں تین میں سے ایک ضرور تقصی ہو گا۔ یا تو وہ منافق ہو گا یا وہ حرامی بچہ یا جب اس کی ماہ اس سے حاملہ ہوئی ہو گی تو وہ پاک نہ ہو گی (یعنی حیض و نفاس والی ہو گی)۔“

اس حدیث پر وہ لوگ خاص طور پر غور کریں جن کے دل میں اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بغض ہے۔

Marfat.com

14: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مخبر صادق علیہ السلام نے فرمایا!

”اے لوگو! جو شخص اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔“

15: وہ خوش قسمت جن کے دل میں عشق اہل بیت موجzen ہے قیامت کے دن ان کی شان دیکھنے والی ہوگی۔  
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

”میرے اہل بیت اور میرے وہ امتنی جوان سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن حوض کوڑ پران دواں گیوں کی طرح (آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی جوڑ کرا شارہ کیا) وارد ہوں گے۔“

16: حضور رحمت عالم علیہ السلام کا ارشاد عالیٰ شان ہے:

”میں اور میرے اہل بیت جنت کے درخت ہیں اور ان کی شاخیں دنیا میں ہیں تو جوان شاخوں کو محبت و عقیدت کے ساتھ تھامے وہ اپنے رب کی طرف سے راستہ پائے گا۔“

(ذخیر العقیقی، صفحہ نمبر 16، مطبوعہ مصر)

17: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((لَا يُحِبُّ نَاسٌ أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَلَا يَغْضُضُنَا إِلَّا مُنَافِقٌ شَفِيقٌ))

(الصواعق الْمُحْرَقَة، صفحہ نمبر 232)

”مجھ سے اور اہل بیت سے مومن اور متقيٰ محبت رکھتا ہے اور منافق اور شفیق ہم سے بغض رکھتا ہے۔“  
اس حدیث مبارکہ سے مومن اور متقيٰ اور منافق و شفیق کی پہچان ہو گئی کہ جس کا دل محبت و عظمت اہل بیت اطہار سے سرشار ہے وہ مومن بھی ہے اور متقيٰ بھی اور جس کے ماتھے پر عظمت و شان رسول و اہل بیت سن کر مل پڑ جائیں اور جس کا سینہ بغض و عناد سے جل رہا ہو وہ منافق بھی ہے اور بد بخت بھی۔

18: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ أَبْغَضَ أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ مُنَافِقٌ))

”جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔“

19: علامہ یوسف بن اسما علیٰ میہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”الشرف المودد لآل محمد“ میں امام حاکم اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہما کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت لفظ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا!

”اگر کوئی شخص بیت اللہ کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے پھر وہ اہل بیت محمد کی دشمنی پر مرجائے تو دوزخ میں جائے گا۔“

غور طلب مقام ہے کہ بیت اللہ شریف اس دنیا میں افضل ترین مقام ہے جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک

لاکھنازوں کے برابر ملتا ہے اور پھر اس گھر میں بیت اللہ شریف کے بعد افضل ترین جگہ مقام ابراہیم ہے تو جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی عداوت ہے اس کو ان مقدس ترین مقامات پر بھی عبادات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کی تمام مشقت بے کار ہے۔

### نتیجہ کلام:

گزشتہ بالاسطور کا حاصل یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے مقام کا اندازہ کرنے کی نہ کسی قلم میں سکت ہے اور نہ کسی زبان میں طاقت۔ اگر ایک صحابی کی عظمت تک ساری امت کے اولیاء، اغوات، اقطاب، ابدال و اتاڈیں پہنچ سکتے تو جو اہل بیت ہیں ان کی گرد پاتک کون پہنچ سکتا ہے۔؟ اب گتا خوں اور بے ادبوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنے مقاصد کیلئے کبھی اولادی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی ازواج رسول سلام اللہ علیہم اجمعین کو نمکورہ بالتحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات سلام اللہ علیہم اجمعین، تمام بیٹیاں، تمام داماد اور حضرت فاطمہ کی اولاد کی اولاد بھی اہل بیت رسول رضی اللہ عنہم میں شامل ہیں۔



### فصل نمبر 7:

### فضائل علی فی الكتاب:

## فضائل و مقام علی اور قرآن مجید

### انفاق فی سبیل اللہ:

((عن الرضا عن آبائه قال : قال النبي صلی الله علیه وآلہ وسلم : نزلت الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا و علانیة فی علی رضی الله عنہ))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے لقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا و علانیة“ (وہ لوگ جو دن اور رات کو، چھپ کر یا ظاہر ہو کر اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں) یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔“

### نزول آیت:

((عن ابی جعفر رضی الله عنہ فی قوله : و مثل الذین ینفقون اموالہم ابتغا مرضات الله قال : نزلت فی علی))

”امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت مبارکہ: و مثُل الدِّين ينفقون اموالہم ابتعاد مرضات اللہ (ان کی طرح جو اللہ کی رضا یافت کیلئے اپنے اموال کو خرچ کرتے ہیں) بحضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔“

### خیرات میں جلدی کرنا:

((عن ابی جعفر رضی اللہ عنہ فی قوله "اوْلَئِكَ يَسْأَلُونَ فِي الْخَيْرَاتِ" (الآلیة) قال: علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لم یسبقه احد))

”امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ: اوْلَئِكَ يَسْأَلُونَ فِي الْخَيْرَاتِ (وہ جو نیک عمل کرنے میں جلدی کرتے ہیں) کے بارے میں فرمایا: اس عمل میں کسی نے بھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر سبقت نہیں کی۔“

### صالح المؤمنین:

((بالاسناد، قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم فی قوله تعالیٰ: وصالح المؤمنین قال: هو علی بن ابی طالب))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: صالح المؤمنین کے بارے میں فرمایا: وہ علی بن ابی طالب ہیں۔“

### بصیرت رکھنے والے پیروکار:

((جعفر الفزاری معنعاً عن ابی جعفر رضی اللہ عنہ قال: سالته عن قول الله تعالى قل هذه سبیلی ادعوا الى الله على بصیرة انا و من اتبعني قال: من اتبعني، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ))

”جعفر فزاری تقلیل کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے اس آیت: قل هذہ سبیلی ادعوا الى الله على بصیرة انا و من اتبعني“ کہہ دو کہ یہی میر اسید ہمارستہ ہے، میں اور میرے پیروکار بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلا کمیں گے، کی تفسیر پوچھی تو امام باقر نے فرمایا: یہاں پیروکار سے مراد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔“

### شاہد و مشہود:

((عن عبد الرحمن بن كثیر عن ابی عبد الله رضی اللہ عنہ: فی قوله تعالیٰ و شاهد و مشہود قال: النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم و امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ))

”عبداللہ بن کثیر فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”شاہد و مشہود“ کے

بارے میں فرمایا: اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی ابن ابی طالب ہیں۔“

### فضل اللہ اور رحمت:

((عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن رضی اللہ عنہ فی قوله: ولو لا فضل الله علیکم ورحمتہ قال: الفضل رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورحمتہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ))

”محمد بن فضیل نے ابو الحسن رضی اللہ عنہ سے لفظ کیا کہ آیت کریمہ: لو لا فضل اللہ علیکم ورحمتہ“ اگر فضل اللہ اور رحمت تم پڑھ رہے ہوئے“ کے بارے میں فرمایا: فضل اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور رحمت سے مراد علی الرضا۔“

### کونو امتح الصادقین:

((عن الباقر رضی اللہ عنہ فی قوله تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مِعَ الصَّادِقِينَ قَالَ: مَعَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ))

”امام باقر رضی اللہ عنہ نے ارشاد باری تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مِعَ الصَّادِقِينَ“ اے مومنین! تقوی اللہ اختیار کرو اور پھوپھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔“ کے بارے میں فرمایا: پھوپھوں سے مراد علی بن ابی طالب ہیں۔“

### ایک چیز کی نصیحت:

((عن ابی حمزة قال: سالت ابا جعفر رضی اللہ عنہ عن قول اللہ تعالیٰ : قل انما اعظکم بواحدة فقال: انما اعظکم بولایة علی رضی اللہ عنہ هی الواحدة التي قال اللہ تبارک و تعالیٰ: انما اعظکم بواحدة))

”ابو حمزة کہتے ہیں کہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ“ کہہ دو فقط تم کو ایک چیز کی نصیحت کرتا ہوں“ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: فقط تم کو علی بن ابی طالب کو دوست رکھنے (من کنت مولاہ فعلی مولاہ) کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ وہی چیز ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا: انما اعظکم بواحدة۔“

### حالت رکوع و سجود میں فضل اللہ کے خواہش مند:

((قد روی عن مولانا : موسی بن جعفر الكاظم رضی اللہ عنہ ان قوله تعالیٰ : تراهم رکعاً سجداً يتغون فضلاً من الله و رضواناً سیما هم فی وجوههم من اثر السجود نزل فی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ))

”ہمارے مولانا موسی بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ تراهم رکعا سجدا

یستغون فضلاً من الله و رضوانا سیما هم فی وجوههم من الر السجود (ان کو حالت رکوع اور سجدہ میں دیکھ رہے ہو کہ وہ اللہ کے فضل اور خوشنودی کے پیچے ہیں اور سجدہ کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہیں) یہ آیت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔“

### بالوالدین احسانا:

((عن ابی بصیر، عن ابی جعفر رضی الله عنہ فی قول الله : وبالوالدین احسانا قال: ان رسول الله النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم اخذ الوالدین وعلی الآخر))  
”ابو بصیر سے لفظ ہوا ہے کہ امام باقر رضی اللہ عنہ نے ارشاد الہی: ” وبالوالدین احسانا“ کے پارے میں فرمایا: (اس امت کے) ایک باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دوسرے باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔“

### حضرت علی ہادی ہیں:

((قال ابن عباس: لما نزلت : انما انت منذر قال النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم : ان المنذر و علی الہادی، وبك يا علی یهتدی المہتدون من بعدی))  
”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت: الما انت منذر نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں اور علی ہدایت کرنے والے ہیں۔ اے علی! میرے بعد راستہ ڈھونڈنے والے تیرے تو سل سے راستہ ڈھونڈیں گے۔“

### الیسر سے مراد:

((بالاسناد، عن ابی عبد الله رضی الله عنہ فی قوله تعالیٰ : يرید الله بکم الیسر ولا يرید بکم العسر قال: فذلك الیسر امير المؤمنین علی بن ابی طالب رضی الله عنہ))  
”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے کلام الہی: يرید الله بکم الیسر ولا يرید بکم العسر کے پارے میں فرمایا: ”یہر“ (آسانی) سے مراد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔“

### السابقون السابقون:

((عن الرضا، عن آبائہ عن علی رضی الله عنہ قال: السابقون السابقون نزلت فی (فی نزلت))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے لفظ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ آیت: والسابقون السابقون میری شان میں نازل ہوئی ہے۔“



فصل نمبر 8:فی ذکر بعض مقاماتہ و منزلتہ فی السنۃ:

## فضائل ومقام علیٰ اور احادیث

علم آدم، تقویٰ نوح اور عظمت موسیٰ:

((وقد روی البیهقی یرفعه بسنده الى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، انه قال : من اراد ان ینظر الى آدم فی علمہ والی نوح فی تقواہ والی ابراهیم فی حلمہ والی موسی فی هیبتہ والی عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الى علی بن ابی طالب ))

”امام بیہقی نے اپنی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ علم آدم، پرہیزگاری نوح، برپادی ابراهیم، عظمت موسیٰ اور عبادت عیسیٰ پر نظر کرے تو وہ علی بن ابی طالب پر نگاہ کرے۔“

بردباری ابراهیم:

((عن ابی عباس رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من اراد ان ینظر الى ابراهیم فی حلمہ والی نوح فی حکمه والی یوسف فی جمالہ فلینظر الى علی بن ابی طالب ))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو حضرت ابراهیم کی بردباری، حضرت نوح کی فرمانبرداری اور حضرت یوسف کا حسن دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے۔“

قوت داؤ و حشم سلیمان:

((وروی ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر ذات یوم الی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وحولہ، جماعة من اصحابہ فقال: من احب ان ینظر الى یوسف فی جمالہ، والی ابراهیم فی سخائے والی سلیمان فی یہجته، والی داود فی قوہ، فلینظر الى هذا))

”روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے علی

بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر نگاہ کی اور فرمایا: جو کوئی بھی یہ پسند کرتا ہے کہ جمال یوسف، سخاوت ابراہیم اور حشمت سلیمان اور قوت داؤد پر نگاہ کرے تو وہ اس مرد پر نگاہ کرے۔“

### مقرب فرشتوں کے اخ:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی اخوا الملائکة المقربین))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی مقرب فرشتوں کا بھائی ہے۔“

### دنیا و آخرت میں سعادت مند:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی سعید فی الدنیا و من الصالحین فی الآخرة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی اس دنیا میں نیک بخت اور آخرت میں صاحبان لیاقت میں سے ہیں۔“

### جناب علیٰ مونین کے سردار ہیں:

((عن علیٰ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی یعسوب المؤمنین والمال یعسوب المنافقین))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ مونین کے سرداروں رہبر ہیں اور مال منافقین کا رہبر ہے۔“

### خاندان پیغمبر سے:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی عترة رسول الله))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ پیغمبر کے خاندان میں سے ہیں۔“

### خاندان رسول میں سے بہترین فرد:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علیٰ خیر اہل رسول الله))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ رسول کے خاندان میں سے بہترین فرد ہیں۔“

### بہترین بھائی:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علیٰ خیر اخوتی))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ میرے بہترین بھائیوں میں سے ہیں۔“

### جنت کی چاپیاں:

((بالاسناد، حدثنا انس بن مالک قال: بعثتی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

الى ابی برزة الاسلامی: فقال له : وانا اسمعه : يا ابا برزة! ان رب العالمین تعالیٰ عهد الى  
فی علی بن ابی طالب عهداً فقال : علی رایة الھدی، ومنار الایمان وامام اولیائی و نور  
جمیع من اطاعنی، يا ابا برزة! علی بن ابی طالب معی غداً فی القيامة علی حوضی و  
صاحب لوابی و معی غداً علی مفاتیح خزانن جنة ربی))

”حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو برزہ اسلامی کے پیچھے بھیجا۔ اس وقت میں سن رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو برزہ! رب العالمین نے علی کے بارے میں میرے ساتھ عہد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ علی ہدایت کے پرچم اور ایمان کا ستون اور میرے دوستوں کے پیشواؤ اور میرے تمام فرمابرداروں کے راستے کے نور ہیں۔ اے ابو برزہ! علی بن ابی طالب قیامت کے دن میرے حوض پر میرے ساتھ ہیں، وہ میرے پرچم دار ہیں اور قیامت کے دن پروپرڈگار کی بہشت کی چاپیاں ان کے اختیار میں ہوں گی۔“

### رسول اللہ کے وزیر و دوست:

((عن علی رضی الله عنه قال رسول الله: يا علی انت اخی لی الدنیا والآخرة، واقرب  
الخلائق منی فی المواقف يوم القيمة، ومنزلی يواجه منزلك فی الجنة كما يتواجد  
منزل الاخوین فی الله، وانت الولي، والوزیر، وانت صاحب لوابی فی الدنیا والآخرة،  
ولیک ولی ولی الله وعدوك عدوی و عدوی عدو الله تعالیٰ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم اس دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو اور قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے تربیب ٹھہرنے والے تم ہو اور بہشت میں میرا گھر تھمارے گھر کے سامنے ہو گا اس طرح جیسے دو دنیی بھائیوں کا گھر ایک دوسرے کے سامنے ہوتا ہے۔ تم میرے دوست اور وزیر ہو۔ تم دنیا اور آخرت میں میرے پرچم دار ہو۔ تمہارے دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے۔ تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔“

### رسول اللہ کے ہاں مقام و منزالت علی:

((قال علی رضی الله عنه : كانت لی منزلة من منزلة من رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم لم  
تكن لاحد من الخلائق، فكنت آتیه کل سحر فاقول : السلام عليك يا نبی الله، فان  
تنحنح انصرفت الی اہلی، والادخلت علیه))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسا مقام اور منزلت رکھتا تھا کہ ایسی منزلت کو اور لوگ نہیں رکھتے تھے۔ میں ہر صبح صادق کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

جاتا تھا اور کہتا تھا: یا نبی اللہ! آپ پر سلام ہو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلہ صاف کرتے تو میں گھرو اپس آ جاتا تھا ورنہ ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔

(سنن نسائی، خصالکش علی)

### سات خصلتیں:

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لغلى رضی اللہ عنہ و ضرب بین کتفیہ یا علی الک سبع خصال لا یحاجك فیهن احد یوم القيامة :انت اول المؤمنین بالله ايمانا، و اوفاهم بعهد الله، واقوهم بامر الله، وارافهم بالرعاية، واقسمهم بالسوية، واعلمهم بالقضية، واعظمهم مزية یوم القيامة))

”ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا: اے علی! تم میں ایسی سات خصلتیں پائی جاتی ہیں کہ قیامت کے دن کوئی بھی ان کے بارے میں آپ سے اظہار ناراضگی نہیں کرے گا۔ تم پہلے فرد ہو جو اللہ پر ایمان لائے ہو اور تم دوسروں سے زیادہ وعدہ الہی کے وفادار ہو اور دوسروں سے بہتر اللہ کے فرمان کی اطاعت کرتے ہو اور دوسروں کی نسبت رعیت کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہو اور مساوات کی دوسروں سے بہتر رعایت کرتے ہو اور قضاوت کرنے میں دوسروں سے زیادہ عقل مند ہو اور قیامت کے دن تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہو گا۔“

### آنکھیں درد سے محفوظ:

((عن علی رضی اللہ عنہ قال: ما رمدت من ذلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عینی))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھ میں لعاب دھن ڈالا تو اس وقت سے میں آنکھ کے درد میں بستلانہیں ہوا۔“

### رسول اللہ کے قابل اعتماد:

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :علی امینی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے لئے قابل اعتماد ہیں۔“

### اللہ کے وعدے کے پابند:

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :علی او فی الناس بعهد الله))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی دوسرے لوگوں سے زیادہ اللہ کے وعدے کے وفادار ہیں۔“

## قیامت میں قرب رسول:

((عن عمر، قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : يقول لعلی: يا علی ایدک فی يدی تدخل معی یوم القيامة حیث ادخل))

”حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، قیامت کے دن جس جگہ میں جاؤں گا تم بھی داخل ہو گے۔“

## ہاشمی خاندان کے ستارے:

((عن الرضا رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ: انت نجم بنی هاشم))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم ہاشمی خاندان کے ستارہ ہو۔“

## اس امت میں سب سے برتر:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی افضل امتی عند الله))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی اللہ کے نزدیک میری امت میں سے برتر ہیں۔“

## سب سے پہلے حکم صدقہ پر عمل کرنے والے:

((عن مجاهد قال: قال علی رضی اللہ عنہ: ان فی کتاب اللہ عز و جل لایہ ماعمل بها احد قبلی ، ولا یعمل بها احد بعدی : یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین يدی نجواتکم صدقۃ۔ قال: فرضت ثم نسخت))

”جناب مجاهد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کتاب اللہ میں یہ جو آیت آئی ہے کہ اے ایماندارو! جب رسول اللہ سے سرگوشی میں کوئی بات کرنی ہو تو پہلے کچھ خیرات دے دیا کرو کہ یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ بات ہے۔ اس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ کرے گا کیونکہ یہ حکم پہلے واجب ہوا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔“

## رسول اللہ سے بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے صدقہ کرنے والے:

((عن مجاهد قال: کان من ناجی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تصدق بدینار، و کان اول من صنع ذلك علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ))

”مجاهد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی سرگوشی کرتا ایک دینار خیرات کرتا اور جس نے سب سے پہلے ایک دینار صدقہ دینے کی طرح ڈالی وہ علی بن ابی طالب ہیں۔“

## صدقة کرنے کے بعد رسول اللہ سے سرگوشی کرتا:

((عن مجاهد قال: نهوا عن مناجاة النبى صلی الله عليه وآلہ وسلم حتی يقدموا صدقة، فلم يناجه الا على بن ابی طالب رضی الله عنہ فانه قد قدم دینار افتصدق به، ثم ناجی النبى صلی الله عليه وآلہ وسلم فساله عن عشر خصال ثم نزلت الرخصة))

”مجاہد کہتے ہیں کہ لوگوں کو صدقة دینے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں پات کرنا منع تھا۔ صرف علی رضی اللہ عنہ نے ایک دینار صدقة دیا اور آپ سے بات کی اور آپ سے دس خصلتوں کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کی اجازت دے دی گئی۔“

## اس امت میں علی کی مثال:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: انما مثل علی رضی الله عنہ فی هذه الامة مثل قل هو الله احد فی القرآن))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے قل هو اللہ احمد کی مثال قرآن میں۔“

## ایک ہی نور سے پیدائش:

((عن علی بن موسی الرضا عن آبائہ قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: خلقت انا و علی من نور واحد))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے خلق کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کئے گئے ہیں۔“

((عن ابی عباس قال: سمعت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم يقول لعلی رضی الله عنہ: خلقت انا و انت من نور))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: میں اور تم نور سے خلق کیے گئے ہیں۔“

((عن سلمان قال: سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم يقول: كنت انا و علی نوراً بین يدي الله عزوجل قبل ان يخلق الله آدم باربعة عشر الف عام، فلما خلق الله آدم، قسم الله ذلك النور جزئين، فجزء انا و جزء علی))

”حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا: آدم علیہ السلام کے خلق ہونے سے چودہ ہزار سال پہلے میں اور علی ہارگاہ الہی میں ایک نور تھے

جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا اس نور کے دو حصے کیے۔ ایک میں اور دوسرا حصہ علیٰ رضی اللہ عنہ بیں۔“

### حضرت علیٰ کے سرپرعمامہ باندھنا:

((بالاسناد، عن ابی عبد الله رضی الله عنہ قال: عمن رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم علیٰ رضی الله عنہ بیدہ، فسد لها من بین يديه وقصرها من خلفه قدر اربع اصابع، ثم قال: ادب فادبر، ثم قال: اقبل فاقبل، فقال (ثم قال): هكذا تیجان الملائکة))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے علیٰ رضی اللہ عنہ کے سرپرعمامہ باندھا۔ اس کی ایک طرف کو آگے لٹکا دیا اور دوسری طرف کو پشت پر چار انگلیوں کے برابر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ان سے فرمایا: چلیئے! حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ چل دیئے۔ پھر فرمایا: آئیے! تو حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ آئے۔ پھر فرمایا: فرشتوں کا تاج اس طرح کا ہے۔“

### حضرت علیٰ چاند کی مثل ہیں:

((وقال النبي صلی الله علیہ وآلہ وسلم: أنا كالشمس وعلیٰ كالقمر واهل بيتي كالنجوم، بايهم اقتديتم اهتديتم))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آفتاب کی مثل ہوں اور علیٰ مہتاب کی مانند ہیں اور میرا خاندان ستاروں کی مثل ہے، ان میں سے جس کی بھی بیروی کی ہدایت پالو گے۔“

### اگر علیٰ نہ ہوتے:

((عن ابی ذر قال: سمعت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم يقول: لو لاانا وعلیٰ ما اعرف الله، ولو لاانا وعلیٰ ما عبد الله))

”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں اور علیٰ نہ ہوتے تو (اس زمانہ میں) اللہ کی پیچان نہ ہوتی اور اگر میں اور علیٰ نہ ہوتے تو (اس زمانہ میں) اللہ کی پرستش نہ ہوتی۔“

### اللہ کے ہاں جناب علیٰ کا مرتبہ:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: علیٰ اعظم الناس عند الله مزية))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ اللہ کے نزدیک لوگوں میں بلند مرتبہ کا مالک ہے۔“

### رسول اللہ کو راحت پہنچانا:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی مفرج کربتی))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے غم کو دور کرتا ہے۔“

### آئمہ مطہرین کے والد:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی ابو الائم الطاھرین))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی پاکیزہ ترین پیشواؤں (امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما) کا باپ ہے۔“

### حوض کوثر پر جائزیں:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی علی الحوض خلیفتی))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی حوض کوثر پر میراج انجائیں ہے۔“

### حوض کوثر کے مالک:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی صاحب حوضی یوم القيادۃ))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی قیامت کے دن میرے حوض کے مالک ہیں۔“

### علم کی طرح واضح:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جعلتك علمًا فيما بيني وبين اهتي))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: میں نے تم کو اپنے اور امت کے درمیان علم (جہنڈے) کی طرح ظاہر قرار دیا ہے۔“

### حضرت علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی باب علمی و مبین لا هنی، حبه ایمان و بغضہ نفاق والنظر الیہ رافہ و مودتہ عبادۃ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے علم کا دروازہ ہے اور میری امت کیلئے حق بات بیان کرنے والا ہے۔ اس کی دوستی علامت ایمان اور اس کی دشمنی نفاق کی علامت ہے، اس کی طرف لگاہ کرنا مہربانی اور اس کی مودت عبادت ہے۔“

### رسول اللہ کے نزدیک قابل احترام و عزت:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی اکرم الخلق و اعزهم علی رسول اللہ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے نزدیک لوگوں میں سے قابل احترام اور عزت مند ہے۔“

### علی مجھ سے ہیں:

((عن ابی سعید الخدری قال :قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :علی منی وانا منه، فقال جبرائیل :يا محمد و انا منكما))

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی مجھ میں سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ جبرائیل نے کہا: اے محمد! میں آپ دونوں میں سے ہوں۔“

(مرقات شرح مخلوکة)

### حضرت علی کی رسول اللہ سے نسبت:

((وبالاسناد ، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال :قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :يا علی ! اخلق الناس من شجرة شتی و خلقت انا وانت من شجرة واحدة، انا اصلها وانت فرعها والحسن والحسین اعصانها))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! لوگ مختلف درختوں سے خلق کیے گئے ہیں اور تم ایک درخت سے خلق ہوئے ہیں۔ میں اس کی جڑ اور تم اس کا تنہا ہو، حسن اور حسین اس کی شاخیں ہیں۔“

### اسلام کے ابتدائی سات سال رفاقت رسول میں:

((عن ابی عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :صلت الملائکة علی وعلی علی سبع سنین، قبل :ولم ذلك يا رسول الله؟ قال :لم يكن معنی من الرجال غيره))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتوں نے سات سال مجھ پر اور علی رضی اللہ عنہ پر درود بھیجا۔ آنحضرت سے پوچھا گیا: کس لئے؟ فرمایا: اس لئے کہ مردوں میں اس کے سوا میرے ساتھ (اس وقت) کوئی اور (مسلمان) نہیں تھا۔“

### حق ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ ہو گا:

((عن ابن ابی لیلی الغفاری قال :سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول : ستكون بعدى فتنة، فإذا كان ذلك فالزموا على بن ابی طالب فانه اول من يراني و اول من يصافحني يوم القيمة، وهو معنی في السماء العليا وهو الفاروق بين الحق

والباطل)

”حضرت ابن ابی طالبؑ غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد قتنہ کھڑا ہو گا۔ اس وقت علیؑ کے ساتھ رہو، کیونکہ وہ پہلا فرد ہے جو مجھے دیکھے گا اور پہلا فرد ہے جو قیامت کے دن مجھے مصافحہ کرے گا۔ وہ بلند تر آسمان پر میرے ساتھ ہے، وہ حق اور باطل کے درمیان جداً پیدا کرے گا۔“

### مسلمانوں کے سردار:

((عن الشعبي قال : قال علی رضي الله عنه : قال لي رسول الله صلي الله عليه وآلـه وسلم : مرحبا بسبـد المسلمين ، وامـام المـتقـين فـقـيل لـعلـيـ : (فـما كان) ما شـرك ؟ قال :

حمدـت الله تعالى على ما آتـانـي ، وـسـالـتـه الشـكـرـ عـلـيـ ما اوـلـانـيـ وـاـنـ يـزـدـنـيـ مـمـاـ اـعـطـانـيـ ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے مجھے سے فرمایا: آفرین ہو مسلمانوں کے سردار اور پرہیز گاروں کے پیشوپ۔! حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: کیسے اس نعمت کا شکر ادا کرو گے؟ فرمایا: جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کا شکر کرو گا اور اس سے التماس کی ہے کہ مجھے اپنی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کو مجھ پر زیادہ کرے۔“

### رسول اللہ کے محبوب ترین:

((بالـاسـنـادـ، عن عـلـيـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ قـالـ : قالـ ليـ رسـولـ اللـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـآلـهـ وـسـلمـ :

يا عـلـيـ ! اـحـبـ لـكـ ماـ اـحـبـ لـنـفـسـيـ وـاـكـرـهـ لـكـ ماـ اـكـرـهـ لـنـفـسـيـ ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا: اے علی! جس چیز کو میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں تمہارے لئے بھی پسند کرتا ہوں اور جس چیز کو میں اپنے لئے پسند نہیں کرتا تمہارے لئے بھی پسند نہیں کروں گا۔“

### جئاب علی اور قرب رسول:

((قال رسـولـ اللـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـآلـهـ وـسـلمـ : عـلـيـ اـقـرـبـ الـخـلـقـ الـىـ النـبـيـ ))

”رسـولـ اللـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلمـ نـےـ فـرـمـاـيـاـ : عـلـيـ لوـگـوـںـ مـیـںـ سـےـ مـیرـےـ قـرـیـبـ تـرـ ہـےـ۔“

### متقیٰ و پرہیز گار:

((قال رسـولـ اللـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـآلـهـ وـسـلمـ : عـلـيـ اـتـقـىـ النـاسـ ))

”رسـولـ اللـهـ صـلـيـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلمـ نـےـ فـرـمـاـيـاـ : عـلـيـ لوـگـوـںـ مـیـںـ سـےـ مـتـقـیـ اـورـ پـرـہـیـزـ گـارـ ہـےـ۔“

### حوض کوثر کے کنارے رسول اللہ کی زیارت:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : علی اول من يلقاني عند الحوض ))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی وہ پہلا فرد ہے جو حوض کوثر کے کنارے میرا دیدار کرے گا۔“

### حجۃ اللہ:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : علی حجۃ اللہ یوم القيامۃ ))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی قیامت کے دن اللہ کی حجت ہے۔“

### رسول اللہ سے نسبت:

((بالاسناد عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : انا وعلی من شجرة واحدة والناس من اشجار شتی ))

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور علی ایک درخت سے ہیں اور لوگ مختلف درختوں سے ہیں۔“

### اللہ تعالیٰ، جبرائیل اور رسول اللہ کی رضا:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم لعلی : الله ورسوله وجريل عنك راضون ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اللہ تعالیٰ، اس کا رسول اور جبرائیل تم سے راضی ہیں۔“

### سب سے اول حوض کوثر پر آنے والے:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : اول الناس ورودا علی الحوض واولهم اسلاما علی بن ابی طالب ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب پہلے فرد ہیں جو حوض کوثر پر آئیں گے اور پہلے فرد ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔“

### رسول اللہ کے جانشین:

((بالاسناد عن علی رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : احب اهل بيتي الى وافضل من اترك بعدي علی ابن ابی طالب ))

”حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب میرے نزدیک میرے خاندان میں سے محبوب ترین فرد ہے اور میرے بعد افضل ترین ہے۔“

## عقل ترین شخصیت:


((بالاسناد فی حدیث قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : یا علی ! انت افضل امتی فضلاً و اقدمهم سلمًا واکثر هم علمًا واوفر هم حلمًا و اشجعهم قلبًا و اسخاهم کفًا))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تم فضیلت کے لحاظ سے میری امت میں بہترین فرد ہوا اور صلح اور دوستی کے لحاظ سے سب سے آگے ہو۔ تم ان سب سے عاقل، ولیر، علیم اور مہربان ہو۔“

## نسل پیغمبر صلب علی سے:

((عن جعفر بن محمد، عن ایہ عن جابر قال: کنت أنا والعباس جالسين عند النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ دخل علی رضی اللہ عنہ فسلم فرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام وقام الیہ وعانقه وقبل ما بین عینیہ واجلسه عن یمنیہ، فقال العباس: یا رسول اللہ "اتحبہ؟" فقال: یا عم و اللہ! اللہ اشد حباً له منی، ان اللہ عزوجل جعل ذریة کل نبی فی صلبہ، وجعل ذریته فی صلب علی))

”جعفر بن محمد نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور سلام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کیا، ان کی پیشائی کا بوسہ لیا اور ان کو اپنی دائیں جانب بٹھایا۔ جناب عباس نے کہا: یا رسول اللہ! آپ ان کو دوست رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پچا جان! اللہ کی قسم! اللہ اس کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پیغمبر کی نسل کو اس پیغمبر کی صلب میں قرار دیا ہے اور میری نسل کو علیٰ کی صلب میں قرار دیا ہے۔“



فصل نمبر 9:

ذم الغلو في عليٰ:

## حضرت علیٰ کی شان میں غلو کرنے کے مدت

### حضرت عسکر جہیماً معاملہ:

((بالاسناد، عن الرضا، عن آبائہ، عن علیٰ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : یا علیٰ اان فیک مثلاً من عیسیٰ بن مریم : احبه قوم فافر طوافی حبہ فهلكوا فیہ، وابغضه قوم فافر طوافی بغضه فهلكوا فیہ، واقتصر قوم فنجوا))  
 ”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علیٰ! تمہارا معاملہ عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے۔ وہ یہ کہ ایک گروہ نے انہیں دوستی کیلئے انتخاب کیا اور اپنی دوستی میں افراط کیا اور اسی سبب سے ہلاک ہو گئے اور دوسرے گروہ نے ان سے دشمنی کی اور اپنی دشمنی میں افراط کیا اور اسی وجہ سے نابود ہو گئے، ایک گروہ نے میانہ روی انتیمار کی اور وہ نجات پا گئے۔“

### حضرت امام محمد باقرؑ کی صحیحت:

((عن ابی حمزة الشمالي قال: قال ابو جعفر محمد بن علی الباقر رضی اللہ عنہ : یا ابا حمزة الا تضعوا علينا دون ما رفعه الله ولا ترفعوا علينا فوق ما جعله الله))  
 ”امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے ابو حمزة شمالي سے فرمایا: اے ابو حمزة! جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ کو عطا کیا ہے اس مرتبے کو کم نہ کریں اور انہیں اس مرتبے سے اوپر بھی مت لے جائیں۔“

### حضرت علیٰ کا غلو کے بارے میں فرمان:

(قال علیٰ رضی اللہ عنہ : يهلك فی اثنان ولا ذنب لی : محب مفرط، وبغض مفرط  
 وانا لنبرا الى الله ممن يغلو فینا فير فعننا فوق حدنا کبراءة عیسیٰ بن مریم علیہما السلام من النصاری))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے اور میرے ذمہ گناہ نہیں ہے: افراط کرنے والا دوست اور افراط کرنے والا دشمن۔ یقیناً ہم ان سے بیزار ہیں جو

ہمارے بارے میں غلوکرتے ہیں اور ہمیں حد سے بڑھ کر اوپر لے جاتے ہیں جس طرح عیسیٰ بن مریم نصاریٰ (عیسائیوں) سے بیزار تھے۔“

### غلو سے پرہیز کا حکم:

((قال امیر المؤمنین علیٰ رضی اللہ عنہ: ایا کم والغلو فینا، قولوا: انا عبید مربوبون وقولوا فی فضلنا ما شتم))

”امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمارے بارے میں غلوکرنے سے پرہیز کریں، کہیں کہ ”ہم تربیت یافتہ بندے ہیں“ اور جو کچھ ہماری فضیلت میں کہنا چاہتے ہو بیان کرو۔“

### دستی و دشمنی میں غلوکرنے والے گمراہ ہیں:

((قال امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ: یهلك فی اثنان: محب غال و مبغض قال))  
”امیر المؤمنین علیٰ المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے راستے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے: جو اپنی دستی میں غلوکرے اور جو میری دشمنی میں تجاوز کرے۔“

### افراط و تفریط اور کینہ و بغض:

((قال علیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: یهلك فی رجالان: محب مفرط، وعدو مبغض))

”حضرت علیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، افراط اور تفریط کرنے والے دوست اور کینہ اور بغض رکھنے والے دشمن۔“



فصل نمبر 10:

تسمیہ علیٰ:

## حضرت علیٰ کا نام

معراج کی رات:

((بالاسناد، عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لما اسری بی الى السماء او حی الى ربی جل جلاله فقال: يا محمد انی اطلعت على الارض اطلاعۃ فاخترتک منها فيجعلتك نیاً وشققت لك من اسماء فانا محمود وانت محمد، ثم اطلعت الثانية فاخترت


منها علیاً وجعلت خلیفتک وزوج ابنتک وابادریتك، وشققت له اسماء من اسمائی ،  
وانا العلی الا علی و هو علی))

”مفضل بن عمر نے روایت نقل کی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مجھے رات کو آسمان پر لے جایا گیا اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی ہوئی: اے محمد! میں نے زمین پر نگاہ کی اور تجھے اپنا نبی منتخب کیا اور تیرے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا کیونکہ میر انام محمود اور تیرانام محمد ہے اور اسی طرح زمین پر نگاہ ڈالی تو علی کو تیرا خلیفہ اور داما اور تیری اولاد کا باپ منتخب کیا اور اپنے ناموں میں سے ایک نام کا اس کیلئے انتخاب کیا، کیونکہ میں العلی الا علی ہوں اور وہ علی ہے۔“

### قيامت کے دن سات نام:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : اذا کان يوْم الْقِيَامَةِ يَنادُونَ عَلِيًّا بْنَ ابِي طَالِبٍ بِسَبْعَةِ اسْمَاءٍ: يَا صَدِيقَ، يَا دَالَّ، يَا عَابِدَ، يَا هَادِيَ، يَا مَهْدِيَ، يَا فَتِيَ، يَا عَلِيَ مَرْأَتَ وَشَيْعَتَكَ إِلَى الْجَنَّةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ))

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن علی کو سات ناموں سے پکارا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا: اے صادق! اے رہنماء! اے اللہ کی عبادت کرنے والے! اے لوگوں کو ہدایت دینے والے! اے اللہ سے ہدایت پانے والے! اے جوان مرد! اے علی! تم اور تمہارے ساتھی بغیر کسی حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔“



### فصل نمبر 11: ز

#### من القاب علی و کنیته:

## حضرت علیؑ کے القاب و کنیت کا بیان

#### القابات:

((وَإِنَّ الْقَابَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَالْمُرْتَضِيُّ وَحِيدُرُ، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَنْزَاعُ الْبَطَئِينُ وَيَعْسُوبُ الدِّينِ، وَالْمُرْتَضِيُّ وَنَفْسُ الرَّسُولِ، وَصَاحِبُ الْلَّوَاءِ، وَسَيِّدُ الْعَرَبِ وَأَبُو الرِّيحَانَتَيْنِ وَالْهَادِيُّ وَالْفَارُوقُ وَأَمِيرُ الْبَرَّةِ))

”حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کے مشہور القاب یہ ہیں: مرتضی، حیدر، امیر المؤمنین اور انزعاع البطئین (شک)

کے دائرہ سے باہر اور بھر پور علم رکھنے والے) یسوع الدین، مرتضی، نفس رسول، صاحب اللواء، سید العرب، ابوالریحان بن حنفی، ہادی، فاروق اور امیر البررة۔“

### کنیت:

((واما کنیتہ: فابوالحسن، وابو السبطین، وابو تراب کناہ بھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت، ابوالحسن، ابوالسبطین اور ابوتراب ہے۔ ابوتراب کی کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کی۔“

### محبوب ترین کنیت:

((کنیۃ علی رضی اللہ عنہ ابوالحسن و کناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ابا تراب، فکان احباب ما ینادی به الیہ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابوالحسن تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابوتراب کی کنیت عطا کی۔ یہ کنیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک بہترین کنیت تھی اور رسول اللہ ہمیشہ آپ کو اسی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ (حضرت علیؑ کو بھی اس کنیت سے پکارا جانا محبوب تھا)“

☆☆☆

### فصل نمبر 12:

### تاریخ ولادۃ علیؑ و محلہا:

## حضرت علیؑ کی ولادت کی تاریخ اور مقام

### کعبۃ اللہ کے اندر ولادت:

((عن ابی حمزہ الشمالي ، قال : سمعت علی بن الحسین يقول : ان فاطمة بنت اسد رضی اللہ عنہ ضربها الطلاق وہی فی الطواف ، فدخلت الكعبۃ فولد امیر المؤمنین (فیها))

”ابو حمزہ شمالي کہتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا: حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کو طواف کے دوران پیچے کی ولادت کے آثار نمودار ہوئے، وہ کعبہ میں داخل ہوئیں اور وہاں امیر المؤمنین حضرت علیؑ کی ولادت ہوئی۔“

((ولد علی بمکہ فی البت الحرام یوم الجمعة الثالث عشر من شهر الله الاصم رب جب بعد عام الفیل بثلاثین سنه، ولم یولد فی بیت الله الحرام احد سواه لا قبله ولا بعده، وهي فضیلة خصه الله بها اجلالله، واعلاء لرتبته، واطھاراً لتكرمته))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ 13 رب جب جمعہ کے دن مکہ میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سے پہلے کسی کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی اور نہ ہی آپ کے بعد اور یہ ایک ایسی فضیلت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا کی تاکہ ان کی عظمت اور ان کے مقام کو لوگوں کیلئے واضح اور روشن کرے۔“

### تیرہ رب جب کو ولادت:

((روی عن عتاب بن اسید انه قال: ولد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بمکہ فی بیت الله الحرام یوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رب جب ، وللنبوی صلی الله علیہ وآلہ ثمان وعشرون سنه، قبل النبوة باثنتي عشرة سنه))

”عتاب بن اسید سے روایت ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ولادت 13 رب جب بروز جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال مبجوض ہونے سے پہلے خانہ کعبہ مکہ میں ہوئی۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم 28 سال کے تھے۔“

### جمحہ کے دن ولادت:

((روی ان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وحیلیفته الامام العادل والسيد المرشد والصديق الاکبر نبی و مولی و موعظیین، وامام الموحدین، کنیتہ: ابو الحسن ، ولد بمکہ فی البت الحرام یوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رب جب، بعد عام الفیل بثلاثین سنه، وامہ فاطمہ بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف ، وهو اول هاشمی فی السلام من هاشمین))

”روایت کیا گیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جو کہ رسول اللہ کے جانشین، وصی اور ایک حادل پیشواؤ، راہنماء اور صدیق اکبر، اوصیاء کے سردار، موحدین کے امام جن کی کنیت ابو الحسن ہے، آپ 13 رب جب جمعہ کے دن عام الفیل سے 30 سال بعد کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف ہیں جنہوں نے بنی هاشم میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔“



فصل نمبر 13:

کیفیۃ ولادتہ:

## حضرت علیؑ کی ولادت کی کیفیت کا بیان

سیدہ فاطمہ بنت اسد کا کعبۃ اللہ میں آنا:

((قال یزید بن قعنبر : كنت جالساً مع العباس بن عبد المطلب وفريق من عبد العزى  
یازاء بيت الله الحرام، اذا قبلت فاطمة بنت اسد امیر المؤمنین وکانت حاملاً به  
لتسعه اشهر، وقد اخذها الطلاق فقالت: رب! انى مومنة بك، وبما جاء من عندك من  
رسل وكتب ، وانى مصدقة بكلام جدی ابراهیم الخلیل عليه السلام وانه بنی البيت  
العتیق فبحق الذی بنی هذا البيت، وبحق المولود الذی فی بطني لما یسرت علی  
ولادتی قال یزید بن قعنبر: فراینا البيت وقد انفتح عن ظهره، ودخلت فاطمة فیہ  
وغابیت ابصارنا والترقب الحائط فرمانا ان ینفتح لنا قل الباب فلم ینفتح فعلمتنا ان فی  
ذلك امرا من الله عزوجل ، ثم خرجت بعد الرابع و بیدها امیر المؤمنین ثم قالت: انى  
فضلت علی من تقدمنی من النساء، لان آسیة بنت مزاحم عبد الله عزوجل سرافع  
موقع لا یحب ان یعبد الله فیہ الا اضطرارا، وان مريم بنت عمران هرت النخلة  
الیاسة بیدها حتی اکلت منها رطبا جنیا، وانی دخلت بيت الله الحرام فاکلت من  
ثمار الجنة واوراقها (ارزاقها) فلما اردت ان اخرج هتف بی هاتف :یا فاطمة اسمیہ  
علیاً فهو علی والله العلی الا علی یقول: انى شفقت اسمه من اسمي، وادبته بادبی  
وواقفته علی غوامض علمی، وهو الذی یكسر الاصنام فی بیتی وهو الذی یوزن فوق  
ظہر بیتی ویقدسنی ویمجدنی، فطوبی لمن احبه واطاعه، وویل لمن ابغضه و عصاه))  
”یزید بن قغرب کہتے ہیں کہ ہم ایک حضرت عباس بن عبد المطلب اور قبیلہ عبد العزی کے چند لوگ خانہ  
کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو دیکھا جو کہ حاملہ تھیں  
اور ان کے حمل کو 9 ماہ گزر چکے تھے اور وہ درد میں بتلاتھیں۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عرض کیا:  
اے پروردگار! میں تجھ پر اور تیرے رسولوں پر اور جوتونے کتابیں بھیجیں ان پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے  
جد ابراهیم خلیل کی گنگلوکی تصدیق کرتی ہوں اور یقین رکھتی ہوں کہ انہوں نے اس کعبہ کو بنایا، تجھے اس کا

واسطے جس نے اس کعبہ کی تعمیر کی اور اس پیچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، قسم دیتی ہوں اس کی ولادت آسان فرم۔ بیزید بن قطب کہتے ہیں: اس وقت ہم نے دیکھا کعبہ کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد کعبہ میں داخل ہوئیں اور غائب ہو گئیں اور دیوار آپس میں مل گئی۔ ہم کھڑے ہو گئے تاکہ جا کر خانہ کعبہ کا تالہ کھولیں، تالہ نہ کھلا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ چار دن گزر جانے کے بعد پیچے کو ہاتھوں میں لئے ہوئے فاطمہ خانہ کعبہ سے باہر آئیں اور کہا: مجھے پہلے والی خواتین پر برتری حاصل ہے کیونکہ مرا حم کی بیٹی آسیہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتی تھیں، ایسی جگہ پر اللہ کی عبادت کرنا مجبوری کے سوا اور کچھ نہ تھا، عمران کی بیٹی مریم نے کھجور کے خشک درخت کو ہلایا تو اس سے تازہ کھجوریں گریں اور انہوں نے کھائیں لیکن جب میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو بہشتی میوے اور کھانا کھایا اور جس وقت میں نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی: فاطمہ اس پیچے کا نام علی رکھنا کیونکہ اس کارتہبہ بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرم رہا ہے: میں نے اس کا نام اپنے نام پر رکھا ہے اور اس کی تربیت اپنے آداب اور اخلاق سے کی، اسے اپنے علم سے آگاہ کیا، یہ وہ ہے جو خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرے گا اور خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے گا اور میری تقدیس کرے گا۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو اسے دوست رکھتا ہے اور اس کے فرمان کی اطاعت کرتا ہے۔ بد بخت ہے وہ جو اس سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 14:

### نسب علیؑ من قبل ابیه و امه و توقیر الرسول لفاطمہ بنت اسدؓ

## حضرت علیؑ کا اپنے والدین کی طرف سے نسب اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کا مقام والد کی طرف سے نسب:

((بالا سناد، هو علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرّة بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مضر بن نزار بن معبد بن عدنان، واسم ابی طالب عبد مناف))

حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب عبد المطلب کے، عبد المطلب ہاشم کے، ہاشم عبد مناف کے، عبد مناف قصی کے، قصی کلاب کے اور کلاب مرہ اور مرہ کعب کے، کعب لوی کے، لوی غالب کے، غالب فہر کے، فہر مالک کے، مالک نظر کے، نظر کنانہ کے، کنانہ خزیمہ کے، خزیمہ مدرکہ کے، مدرکہ

مضر کے، مضر زار کے، نزار معد کے، معد عدنان کے بیٹے ہیں اور ابوطالب کا نام عبد مناف ہے۔“

((عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين يقول: والله ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماقت. قيل له: فما كانوا يعبدون؟ قال: كانوا يصلون إلى البيت على دين إبراهيم متمسكين به))

”اصبح بن نباتة کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! امیرے والد نے اور میرے دادا نے نیز ہاشم اور عبد مناف نے کبھی بتوں کی پوجائیں کی۔ وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا: وہ کوئی عبادت کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا: وہ دین ابراہیم کے پیروکار تھے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔“

### والدہ کی طرف سے نسب:

((بلا سند، ام علی بن ابی طالب: فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصی، وهي اول هاشمية ولدت لهاشمي، وقد اسلمت وهاجرت الى النبي صلی الله عليه وآلہ وسلم))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد، اسد ہاشم کے بیٹے اور ہاشم عبد مناف کے اور عبد مناف قصی کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ ہاشمی خامدان کی بہلی خاتون ہیں جو ہاشمی بابا سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔“

### رسول اللہ کی قیص کا کفن:

((ام علی فاطمة بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف وكانت من رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم بمنزلة الام وربی فی حجرها، وكانت من ساققات المؤمنات الى الایمان وحاضرت مع رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم الى المدينة وکفنهما النبي صلی الله علیہ وآلہ وسلم عند موتها بقميصه))

”سیدہ فاطمہ بنت اسد علی رضی اللہ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی جگہ پر تھیں، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دامن میں پرورش پائی۔ وہ بہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد انہیں اپنی قیص کا کفن دیا۔“

### جنازہ پر چالیس تکبیریں:

((بلا سند، عن عبد الله بن عباس قال: أقبل على بن ابی طالب رضی الله عنه ذات

يُوْمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَيْ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَهِ يَا عَلَى فَقَالَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ امَاتَتْ أُمِّي فَاطِمَةُ بْنَتُ أَسَدٍ۔ قَالَ: فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: رَحْمَةُ اللَّهِ أَمْكَ، يَا عَلَى! إِمَّا أَنَّهَا كَانَتْ لَكَ أُمًاً، فَقَدْ كَانَتْ لِي أُمًاً، خَذْ عَمَامَتِي هَذِهِ وَخُذْ ثُوبَيِّ هَذِينَ فَكَفَنَهَا فِيهِمَا وَمِنَ النِّسَاءِ فَلِي حَسِنَ غَسْلَهَا وَلَا تَخْرُجَ جَهَاهَا حَتَّى أَجْئِيَ فَالِي أَمْرَهَا، قَالَ: وَاقْبِلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ سَاعَةٍ وَأَخْرَجَتْ فَاطِمَةَ أُمِّهِ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً لَمْ يَصُلْ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَهَا مِثْلَ تَلْكَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ كَبَرَ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً، ثُمَّ دَخَلَ إِلَى الْقَبْرِ فَتَمَدَّدَ فِيهِ فَلَمْ يَسْمَعْ لَهُ أَنِينٌ وَلَا حِرْكَةً، ثُمَّ قَالَ: يَا عَلَى ادْخُلْ، يَا حَسِنَ ادْخُلْ، فَدَخَلَ الْقَبْرَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِمَّا احْتَاجَ إِلَيْهِ، قَالَ: يَا عَلَى اخْرُجْ، يَا حَسِنَ اخْرُجْ فَخَرَجَ، ثُمَّ زَحَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ عِنْدَ رَأْسِهِ أَثَمَّ قَالَ: يَا فَاطِمَةَ إِنَّا مُحَمَّدَ سَيِّدُ الْأَنْبِيَّاءِ وَلَدُ آدَمَ وَلَا فَخْرٌ، فَإِنَّ أَتَكِ مُنْكِرٍ وَنَكِيرٍ فَسَالَاكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقَوْلَيَ: اللَّهُ رَبِّي وَمُحَمَّدُ نَبِيٌّ وَالْإِسْلَامُ دِينِي وَالْقُرْآنُ كِتَابِي ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ثَبِّتْ فَاطِمَةَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهَا وَحْشًا عَلَيْهَا حَثِيَّاتٍ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيَمْنِيَّ عَلَى الْيَسْرِيَّ فَنَفَضَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفَسَ مُحَمَّدَ بِيَدِهِ لَقَدْ سَمِعْتَ فَاطِمَةَ تَصْفِيقَ يَمِينِي عَلَى شَمَالِيِّ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَارُ بْنُ يَاسِرَ فَقَالَ: فَدَاكَ أَبِي وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتَ عَلَيْهَا صَلَاةً لَمْ تَصُلْ عَلَى أَحَدٍ قَبْلَهَا مِثْلَ تَلْكَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ وَأَهْلَ ذَلِكَ هُنَّ مِنِّي وَلَقَدْ كَانَ لَهَا مِنْ أَبِي طَالِبٍ وَلَدٍ كَثِيرٌ، وَلَقَدْ كَانَ خَيْرُهُمْ كَثِيرًا، وَكَانَ خَيْرُنَا قَلِيلًا، فَكَانَ تَشَبَّهُنِي وَتَجْيِعُهُمْ وَكَتْسُونِي وَتَعْرِيهُمْ وَتَدْهِنُنِي وَتَشْعُهُمْ قَالَ: فَلَمْ كَبَرْتَ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ، نَعَمْ يَا عُمَارًا التَّفَتَ عَنْ يَمِينِي فَنَظَرَتِي إِلَى أَرْبَعِينَ صَفَّاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَكَبَرْتَ لِكُلِّ صَفَّ تَكْبِيرَةً، قَالَ ثُمَّ تَمَدَّدَتْ فِي الْقَبْرِ وَلَمْ يَسْمَعْ لَكَ أَنِينٌ وَلَا حِرْكَةً، قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَحْشُرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِرَاءً فَلَمْ ازْلِ اطْلَبَ إِلَيْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ إِنْ يَبْعَثَهَا سَتِيرَةً، وَالَّذِي نَفَسَ مُحَمَّدَ بِيَدِهِ مَا خَرَجَتْ مِنْ قَبْرِهَا حَتَّى رَأَيْتَ مَصْبَاحِيْنَ مِنْ نُورٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَمَصْبَاحِيْنَ مِنْ نُورٍ عِنْدِ يَدِيهِ، وَمَصْبَاحِيْنَ مِنْ نُورٍ عِنْدِ رِجْلِيهِ، وَمَلَكَاهَا الْمُوْكَلَانِ بِقَبْرِهَا يَسْتَغْفِرَانِ لَهَا إِلَى إِنْ تَقُومَ السَّاعَةِ))

”حضرت ابن عباس رضي الله عنهما رواية هي كي ايك دن حضرت علي رضي الله عنه روتے ہوئے اور انا اللہ وانا اليه راجعون پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی

ملکہ سلم نے فرمایا: اے علی! کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میری والدہ فاطمہ بنت اسد رحلت فرمائی چکی ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا: اے علی! اللہ تعالیٰ تمہاری والدہ پر رحمت کرے، اگر وہ آپ کی والدہ تھیں تو میری بھی والدہ تھیں۔ میری قمیض اور عمامہ لے جائیں اور انہیں کفن دیں اور خواتین سے کہیں: انہیں بہترین غسل دیں اور میرے آنے سے پہلے جنازہ کو نہ اٹھانا کیونکہ ان کی مدفین اور دوسرے کام میرے ذمہ ہیں۔ کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی کی والدہ کا جنازہ آپ کے حضور لایا گیا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھی ایسی نماز جو کہ ان سے پہلے کسی کیلئے بھی نہیں پڑھائی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے جنازہ پر چالیس تکبریں کہیں اور قبر میں لیتے اور ان کا بدنه مقدس کامل سکون کی حالت میں تھا۔ اس کے بعد فرمایا: اے علی! اے حسن! قبر میں داخل ہو جاؤ۔ وہ دونوں قبر میں داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام ضروری تھے انجام دیئے، جب فارغ ہوئے تو فرمایا: اے علی! اے حسن! قبر سے نکل آؤ۔ پس وہ دونوں نکل آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کے قریب پہنچ کر فرمایا: یا فاطمہ! میں محمد اولادِ آدم کا سردار ہوں، افتخار نہیں کر رہا ہوں، اگر منکر اور نکیر آپ کے پاس آئیں اور آپ سے پروردگار کے بارے میں سوال کریں تو کہنا: اللہ میرا پروردگار، محمد میرے پیغمبر، اسلام میرا دین اور قرآن میری کتاب ہے۔ اس کے بعد بارگاہِ الہی میں دعا مانگی: اے اللہ! فاطمہ کو ان کے محکم کلمات پر ثابت قدم رکھ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے لکھے اور اپنے ہاتھ سے کچھ مٹی قبر میں ڈالی اور دایاں ہاتھ باسیں ہاتھ پر مارتے ہوئے فرمایا: مجھے اس کی قسم جس کے قفسہ میں محمد کی جان ہے! فاطمہ نے میرے دائیں ہاتھ کو باسیں ہاتھ پر لگنے کی آواز سنی ہے۔ پس عمار یا سرکھڑے ہوئے اور کہا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں! فاطمہ کی میت پر ایسی نماز پڑھی جو آج تک کسی میت پر نہیں پڑھائی! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ابو یقظان! وہ اس نماز کے لائق اور مجھے سے اسی سلوک کی مستحق ہیں۔ ابو طالب سے ان کے کافی فرزند تھے، ان کے اخراجات زیادہ تھے، لیکن ہمارے بہت ہی کم، فاطمہ مجھے پہیٹ بھر کر کھانا کھلاتی تھیں جب کہ دوسرے بھوکے ہوتے تھے، مجھے لباس پہناتی تھیں جب کہ دوسرے برہنہ ہوتے تھے اور مجھے صاف اور ستھرا رکھتی تھیں جب کہ دوسرے پچھے خاک آلووہ ہوتے تھے۔ حضرت عمار نے کہا: یا رسول اللہ! چالیس تکبریں ہی کیوں ان کے جنازہ پر کہیں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اے عمار! میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو فرشتوں کی چالیس صفائی بنی ہوئی تھیں، میں نے ہر ایک صاف کیلئے ایک تکبر کہی۔ حضرت عمار نے کہا: آپ قبر میں کیوں لیتے جب کہ آپ کی آواز بھی سنائی نہیں دی؟ فرمایا: قیامت کے دن لوگ برہنہ محسور ہوں گے، میں نے پروردگار سے التجا کی کہ ان (حضرت فاطمہ بنت اسد) کو لباس کے ساتھ زندہ کرے۔ مجھے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان

ہے! میں قبر سے خارج نہیں ہوا مگر یہ کہ میں نے دونوراں چراغ ان کے سر کے قریب اور دونوراں چراغ ان کے ہاتھوں کے قریب اور دونوراں چراغ ان کے پاؤں کے قریب دیکھے اور دو فرشتوں کو دیکھا جوان کی قبر پر رہیں گے اور ہمیشہ ان کی بخش اور مغفرت کی دعا طلب کریں گے۔“



صل نمبر 15:

علیٰ و تربیۃ النبی:

## حضرت علیٰ تربیت نبی میں

رسول اللہ کے ساتھ رہنا:

((عن مجاهد بن جبراہی الحجاج قال: کان منعم اللہ عزو جل علی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وما صنع اللہ له واراد به من الخیر، ان قریشا اصابتهم ازمہ شدیدہ و کان ابو طالب فی عیال کثیر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنه العباس و کان من ایسر بنی هاشم :یا ابا الفضل اان اخاك ابا طالب کثیر العیال وقد اصاب الناس ماتری من هذه الازمة فانطلق بنا اليه نخفف (عنه) عیاله اخذ من بينه رجلان و تأخذ رجلان فنکفهمما عنه، فقال العباس :قم، فانطلق حتى اتیا باب ابی طالب فقالا : ان نرید ان نخفف عنك عیالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه من هذه الازمة، فقال لهم ابو طالب : اذا تركتم علی عقیلا فاصنعوا ما شئتما فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً رضی اللہ عنہ و اخذ العباس جعفرا، فلم يزل علی رضی اللہ عنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتى بعثه اللہ عزو جل نبیاً فامن به واتبعه وصدقه، ولم يزل جعفر مع العباس حتى اسلم و استغنى عنه))

”مجاہد بن جبراہی الحجاج سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اس نے علی بن ابی طالب کی خوبی کیلئے عطا کی وہ یہ ہے کہ قریش شدید تقطّع کا شکار ہوئے، ابو طالب کثیر الاولاد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا جو بنی هاشم میں سے مالدار تھے: اے ابو الفضل! آپ کے بھائی ابو طالب عیالدار ہیں اور لوگوں میں جو قحط آ پڑا ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آئیے ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کچھ فرزند لے لیتے ہیں، ان میں سے ایک فرزند کو میں لے لیتا ہوں اور ایک کو آپ لے لیں اور ان کی سر پرستی کریں۔ حضرت عباس نے کہا: انہو چلیں۔ جب ابو طالب کے

گھر پہنچے تو ابو طالب سے کہا: ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے اولاد کے بوجھ کو کم کریں تاکہ یہ سختی اور شدت کم ہو جائے۔ ابو طالب نے کہا: عقیل کو میرے لئے چھوڑیں اور جو مجھ چاہے انجام دیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنی سر پرستی میں لے لیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جعفر رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر مبعوث کیا۔ علی رضی اللہ عنہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی اور جعفر بھی عباس کے ساتھ رہے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور حضرت عباس سے بے نیاز ہو گئے۔“

### حضرت علی کا گھوارہ بستر نبی کے قریب:

((وفي الحديث ان امير المؤمنين رضي الله عنه يوم ولد كان يومئذ لرسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم حباً شديداً وقال لامه :اجعلی مهدہ بقرب فراشی ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَّهِ وَسَلَّمَ يَتَوَلِّ أَكْثَرَ تَرْبِيَتِهِ ، وَكَانَ يَظْهَرُ عَلَيَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي وَقْتِ غَسْلِهِ وَيَوْجِرُ الْبَنِ عِنْدَ شَرْبِهِ وَيَحْرُكُ مَهْدَهُ عِنْدَ نُومِهِ وَيَنْأِيْهِ فِي يَقْظَتِهِ وَيَحْمِلُهُ عَلَى صَدْرِهِ وَيَقُولُ :هَذَا أَخْيَ وَوَالِيُّ وَنَاصِرِيُّ وَصَفِيفِيُّ وَخَلِيفَتِيُّ وَكَهْفِيُّ وَكَهْفِيُّ وَكَانَ يَحْمِلُهُ عَلَى كَفْفَهُ دَائِماً وَيَطْرُفُ كَبَهْ جَبَالَ مَكَّةَ وَشَعَابَهَا وَأَوْدِيَتِهَا))


”حدیث میں آیا ہے کہ جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بہت محبت تھی اور انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا: علی کے گھوارے کو میرے بستر کے قریب رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت کا سب سے زیادہ حصہ اپنے ذمہ لیا ہوا تھا اور ان کو نہلانے کے وقت صاف اور سخرا کیا کرتے تھے اور انہیں دودھ پلایا کرتے تھے اور سونے کے وقت ان کا جھولا جھلایا کرتے تھے اور جب بیدار ہوتے تھے تو چھوٹے بچوں کی زبان میں ان سے ہم کلام ہوتے تھے اور ان کو اپنے سینے پر بھاتے اور فرمایا کرتے تھے: یہ ہیں میرے بھائی اور دوست اور مددگار، میرے چانشیں، میری پناہ گاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے کندھے مبارک پر سوار کر کے کہ کے پہاڑوں، دروں اور میدان میں گھمایا کرتے تھے۔“

### رسول اللہ کا ہر قول فعل یاد:

((وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَّهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَا حَفَظَهُ وَلَمْ يَنْسِهِ))

”اور ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: میں نے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے

یاد کیا اور کبھی بھی اسے نہیں بھلا کیا۔“



## فصل نمبر 16:

### فی اسلام علی و ایمانہ:

## حضرت علی کے قبول اسلام کا بیان

### پہلے مسلمان:

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : یا علی انت اول المسلمين اسلاما، وانت اول المؤمنین ایمانا، وانت منی بمنزلہ هارون مهن موسی))  
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم پہلے فرد ہو جس نے اسلام قبول کیا اور تم پہلے وہ شخص ہو جو ایمان لائے۔ تم مجھ سے ایسے ثابت رکھتے ہو جیسے ہارون موسی سے۔“

### حوض کوڑ پر سب سے پہلے:

((عن سلمان الفارسی ، قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ آلہ وسلم: اولکم وارد اعلیٰ العرض اولکم اسلاماً علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ))  
 ”حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے جو حوض کوڑ کے کنارے میرے پاس آئے گا وہ تم میں سے پہلا مسلمان یعنی علی بن ابی طالب ہے۔“

### حضرت علی کا اپنا قول:

((عن علی رضی اللہ عنہ قال: انا اول رجال اسلام مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں وہ پہلا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔“

### بقول رسول:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی اول المسلمين اسلاماً))  
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی وہ پہلے شخص تھے جو اسلام لائے۔“

### امام علی رضا کی روایت:

((بالاسناد، علی بن موسی ابوالحسن عن ابیه عن آبائہ ان علیاً رضی اللہ عنہ اول من

(اسلم))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا: علی رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔“

### اس امت کے بہترین فرد:

((عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم خير هذه الامة بعدى اول اسلاما على بن ابي طالب رضي الله عنه))

”حضرت سلمان فارسي رضي اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: میرے بعد اس امت کے بہترین فرد وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، وہ علی بن ابی طالب ہیں۔“

### حضرت زید بن ارقم کی روایت:

((عن زید بن ارقم قال : اول من اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم على بن ابی طالب رضي الله عنه))

”زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: سب سے پہلے جو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم پر ایمان لائے اور اسلام قبول کیا وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔“

### پہلے مومن:

((قال رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم : على اول المؤمنين))

”رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: علی پہلے مومن ہیں۔“

### پہلے صاحب ایمان:

((قال رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم : على اول الناس ايماناً))

”رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: علی پہلے شخص ہیں جو ایمان لائے۔“

### پہلے مومن فرد:

((قال رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم : على اول من آمن بي))

”رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: علی وہ پہلے فرد ہیں جو مجھ پر ایمان لائے۔“

### اول مومن اور اول مصالح کرنے والے:

((وروى ابو ذر و سلمان رضي الله عنهمما قالا : اخذ رسول الله صلى الله عليه وآلله

وسلم بيد على فقال : الا ان هذا اول من امن بي او اول من يصافحتني يوم القيمة))

”حضرت ابوذر اور حضرت سلمان رضي اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت

علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: جان لیں یہ وہ پہلے شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پہلے شخص ہوں گے جو مجھ سے مصالحت کریں گے۔“

### امت کے پہلے مومن:

((عن زید بن ارقم قال: اول من آمن بالله بعد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم  
علی بن ابی طالب))

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سے جو اللہ پر ایمان لائے وہ علی بن ابی طالب ہیں۔“

### حضرت علیؑ کے ایمان کی صحیحی:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: لو ان السماوات والارض وضع في  
كفة ووضع ايمان علی فی كفة لرجح ايمان علی بن ابی طالب))

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر آسمان اور زمین کو ترازو کے ایک پلڑے پر اور دوسرے پلڑے پر علیؑ کے ایمان کو رکھا جائے تو علی بن ابی طالب کا ایمان بھاری ہو گا۔“



### فصل نمبر 17:

### النظر الى وجه علیؑ و ذکرہ عبادۃ:

## حضرت علیؑ کو دیکھنا اور ان کا مذکورہ عبادت ہے

### چہرے کو دیکھنا عبادت:

((فی حدیث رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: النظر الى وجه علی بن ابی طالب  
عبادۃ))

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔“

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: النظر الى الہیت عبادۃ والنظر الى وجه  
علیؑ عبادۃ))

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیت الحرام پر نگاہ کرنا عبادت ہے اور علیؑ کے چہرے پر نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔“

زارِ علیٰ کی دعا:

((وعن الصادق رضي الله عنه : ان ابواب السماء تفتح عند دعاء الزائر لامير المؤمنين رضي الله عنه، فلا تكون عن الخير توااما))

”امام جعفر صادق رضي الله عنه نے فرمایا: جس وقت امیر المؤمنین علیٰ رضي الله عنه کا زائر دعا کرتا ہے، آسمان کے دروازے اس لئے کھل جاتے ہیں اس لئے اس فضیلت کو سمجھنے کیلئے خواب میں شرہو۔“

زيارة علیٰ کا ثواب واجرا:

((بالاسناد، عن الحسين بن اسماعيل الصميري عن ابي عبد الله رضي الله عنه قال : من زار امير المؤمنين رضي الله عنه ما شيا كتب الله له بكل خطوة حجۃ و عمرة، فان رجع ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجۃ و عمرة ثین۔

”حسین بن اسماعیل صمیری نے امام جعفر صادق رضي الله عنه سے لفظ کیا ہے کہ جس نے امیر المؤمنین علیٰ رضي الله عنه کی پیدل زیارت کی اللہ اس کے ہر قدم کے ہر لے میں جو وہ اٹھائے گا ایک حج اور عمرہ کا ثواب اس کیلئے لکھے گا اور اگر پیدل واپس لوٹا تو اللہ ہر قدم کے ہر لے میں دونوں حج اور دو عمرہ کا ثواب اس کیلئے لکھے گا۔“

ذکر علیٰ عبادات ہے:

((قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم: ذکر علیٰ عبادة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ کا ذکر عبادت ہے۔“

((فی حدیث عن الصادق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم: النظر الى علیٰ بن ابی طالب عبادة، و ذکرہ عبادة ولا يقبل ایمان عبد الا بو لایته والبراءة من اعدائه))

”امام جعفر صادق رضي الله عنه سے بتاؤ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ کے چہرے کی زیارت کرنا اور ان کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ کسی بھی شخص کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ ان کی ولایت کو قبول کرے (من كنت مولاہ فعلى مولاہ) اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اور دوری اختیار کرے۔“

ذکر علیٰ اور مجالس:

((عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم: زینوا مجالسکم بذكر علیٰ بن ابی طالب رضي الله عنه))

”حضرت جابر بن عبد اللہ النصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:  
اپنی مجالس کو علی کے ذکر کے ذریعہ زینت بخشو۔“



## فصل نمبر 18:

### نشر فضائل علی رضی اللہ عنہ:

## حضرت علی کے فضائل بیان کرنا

### حضرت علی کے فضائل بے شمار:

((عن يحيى البصري قال : حدثنا محمد بن زكريا الجوهري عن محمد بن عمارة عن أبيه عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن آبائه الصادقين قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ان الله ثبارك و تعالى جعل لاخی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فضائل لا يحصى عددها))

”یحییٰ بصری کہتے ہیں کہ محمد بن زکریا جوہری نے محمد بن عمارة سے: اس نے اپنے والد سے اور اس نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد امام باقر رضی اللہ عنہ اور انہوں نے اپنے اجداد سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی بن ابی طالب کو بے شمار فضائل عطا کیے ہیں۔“

### فضائل علی حضرت عمر فاروق کی روایت کی روشنی میں:

((وبالا سناد الى جعفر بن الصادق عن أبيه عن جده الحسين عن أبيه على انه قال : حدثنا عمر بن الخطاب ، قال : سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول : فضل على على هذه الامة كفضل شهر رمضان على سائر الشهور و فضل على على على هذه الامة كفضل ليلة القدر على سائر الليالي ، وفضل على على بن ابی طالب على بهذه الامة كفضل الجمعة على سائر الايام ، فطوبی لمن آمن به وصدق بولايته والويل لمن جحده و جحد حقه ، حقاً على الله ان لا ينيله شيئاً من رحمته يوم القيمة ولا تناله شفاعة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے والدگرامی اور انہوں نے اپنے جد بزرگوار امام حسین رضی اللہ عنہ

سے اور انہوں نے اپنے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی کی برتری اور فضیلت اس امت پر اس طرح ہے جیسے ماہ رمضان کی دوسرے مہینوں پر اور علی کی برتری اس امت پر ایسے ہے جیسے شب قدر کی دوسری راتوں پر اور علی کی فضیلت اس امت پر اس طرح ہے جیسے جمعہ کے دن کی دوسرے دنوں پر۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جوان سے تمسک کرنے اور ان کی ولایت کو قبول کرنے اور بدجنت ہے وہ شخص جوان کی ولایت اور حق کا منکر ہوا اور یہ اللہ کے ذمہ ہے کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنی رحمت سے محروم کرنے اور محمد کی شفاعت اس کو نصیب نہ ہو۔“

### فضائل علی:

((بلا سند عن جابر بن عبد الله الانصاری انه قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم: ان فی علی خصالاً لو کانت واحده منها فی جميع الناس لا کتفوا بها فضلاً))

”حضرت جابر بن عبد الله الانصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میں ایسی خصلتیں موجود ہیں اگر ان میں سے ایک خصلت بھی تمام لوگوں میں موجود ہوتی تو ان سب کیلئے کافی تھی۔“

### فضائل علی اور خطبہ رسول:

((عن جابر الجعفی عن ابی جعفر محمد بن علی الباقر رضی الله عنه عن جابر بن عبد الله الانصاری قال : قال رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم: ان جبرئیل نزل علی وقال: ان الله يأمرك ان تقوم بتفضیل علی بن ابی طالب خطیباً علی اصحابك لیبلغوا من بعدهم ذلك عنك، ويامر جميع الملائكة ان تسمع ما تذكره، والله يوحى اليك يا محمد! ان من خالفك في أمره دخل النار، ومن اطاعك فله الجنة))

”جابر جعفی نے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ اور جابر بن عبد الله الانصاری رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبرئیل مجھ پر نازل ہوئے اور کہا کہ فرمان الہی ہے کہ اٹھیں اور اپنے خطبہ میں اپنے اصحاب کیلئے علی کی برتری اور فضیلت بیان کریں تاکہ وہ اس مطلب کو آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچا دیں، اور اللہ تمام فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جو کوئی بھی آپ بیان کریں اسے غور سے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وجی کر رہا ہے کہ جو بھی علی کے پارے میں اے محمد! آپ کی مخالفت کرنے گا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا اور جو بھی تمہاری اطاعت کرنے گا جنت اس کا مقدر ہوگی۔“

حضرت علی کی عظمت:

((روی جابر بن عبد اللہ قال: لما قدم علی رضی اللہ عنہ علی رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ یفتح خیر فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :لولا ان تقول فیك طوائف من امتی ما قالت النصاری فی المسيح عیسیٰ بن مریم رضی اللہ عنہ، لقلت فیك قولًا لا تمر بمنلا الا اخذوا التراب من تحت رجلیك، ومن فاضل طہورك يستشفون به، ولكن حسبك ان تكون مني وانا منك ، ترثى وارثك، وانك مني بمثابة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدي، وانك تبری ءز متی وتقاتل سنتی وانك غدا علی الحوض خلیفتي))

”حضرت جابر بن عبد اللہ النصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فتح خیر کے بعد جب علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا: اگر ایسا نہ ہوتا کہ چند لوگ میری امت میں سے تمہارے لئے کچھ کہتے جس طرح عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہا کرتے تھے تو میں تمہارے لئے ایسی گفتگو کرتا کہ آپ جس گروہ کے قریب سے گزرتے وہ آپ کے قدموں کی خاک اور وضو کے پانی کو شفاء کیلئے لے جاتے، لیکن تمہارے لئے یہی کافی ہے کہ تم مجھے میں سے ہو اور میں تم سے۔ تم میرے وارث ہو اور میں تمہارا تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہے جس طرح ہارون کی موی سے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا اور تم میرے قرض کو ادا کرو گے اور میری سنت کیلئے جنگ کرو گے اور تم قیامت کے دن حوض کوٹ پر میرے جائشیں ہو۔“

☆☆☆

فصل نمبر 19:لولاك ما عرف المؤمنون:

## اگر تم نہ ہوتے تو موبین کی پہچان نہ ہوتی

پہچان مؤمن:

((الحسین بن علی رضی اللہ عنہما قال : حدثني ابی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : يَا عَلِيٌّ لَوْلَاكَ مَا عَرَفَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَعْدِي ))

”حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول

الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد اہل ایمان کی پہچان نہ ہوتی۔“  
 ((فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند ذلك :لو لا انت يا علی لم یعرف المؤمنون بعدی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین پہچانے نہ جاتے۔“

### اللہ کے لشکر کی پہچان:

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :يا علی! انك لن تضل ولن تنزل، ولو لاك لم یعرف حزب اللہ بعدی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم ہرگز گمراہ نہیں ہو گے اور نہ ہی دوچار لغوش ہو گے، بلکہ ثابت قدم رہو گے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد اللہ کے لشکر کی پہچان نہ ہوتی۔“

### وہ من علی لشکر شیطان ہے:

((وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حزب علی حزب اللہ و حزب اعدائه حزب الشیطان))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کا لشکر اللہ کا لشکر ہے اور ان کے دشمنوں کا لشکر شیطان کا لشکر ہے۔“



### فصل نمبر 20:

### لزوم معرفة علی رضی اللہ عنہ:

### حضرت علیٰ کی معرفت لازم ہے

### جناب علیٰ کا مقام اللہ اور رسول ہی جانتے ہیں:

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :يا علی: ما عرف الله حق معرفته غيري و غيرك ، وما عرفك حق معرفتك غير الله وغيري))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! آپ کے اور میرے علاوہ کسی نے بھی اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی سوائے اللہ کے اور میرے جس عظمت کے تم لا تک ہو، نہیں پہچانا۔“

(کماروی فی الاخبار الكثرة انه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :يا علی! ما عرف الله الا أنا وانت وما عرفني الا الله وانت ، وما عرفك الا الله وانا))

”اور بہت سی روایات میں نقل ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! کسی نے بھی میرے اور آپ کے علاوہ اللہ کو نہیں پہچانا اور کسی نے بھی اللہ اور آپ کے علاوہ مجھے نہیں پہچانا اور کسی نے بھی اللہ اور میرے سوا آپ کو نہیں پہچانا۔“

### محبت علیؑ کے فوائد:

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : الا و من عرف علیاً واحبه، بعث اللہ الیه ملک الموت کما بعث اللہ الی الانبیاء و دفع عنه احوال منکر و نکیر و نور قبرہ و فسحہ مسیرہ سبعین عاماً و بیض وجهہ یوم القيادۃ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جان لیں جو بھی علیؑ کو پہچان لے اور اس سے محبت کرے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اس کے پاس اس طرح بھیجے گا جس طرح پیغمبروں کے پاس بھیجا، منکر اور نکیر کے خوف کو اس سے دور کرے گا اور اس کی قبر کو نورانی کرے گا اور اس کی قبر کو ستر سال طولانی راستے کی طرح کھلا کرے گا اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نورانی کرے گا۔“

### امیر کا حق کا حق ہے:

((قال اصحاب سمعت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ یقول: ویل لمن جهل معرفتی ولم یعرف حقی ال ان حقی هو حق اللہ الا ان حق اللہ هو حقی))

”اصبغ کہتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ نے فرمایا: افسوس ہے اس شخص پر جو مجھے اور میرے حق کو نہیں پہچانتا، یاد رہے کہ میرا حق اللہ کا حق ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ اللہ کا حق میرا حق ہے۔“

☆☆☆

### فصل نمبر 21:

### علم علیؑ رضی اللہ عنہ وہ باب علم رسول اللہ:

## حضرت علیؑ کا علم و داش..... باب علم رسول

### امار داش:

((بالاسناد عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر رضی اللہ عنہ یقول: نزل جبریل علیؑ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر ما نتین من الجنة فلقیه علیؑ رضی اللہ عنہ فقال: ما هاتان الرمانتان اللتان فی يدك؟ فقال: اما هذه والنبوة ليس لك فيها نصيب،

واما هذه فالعلم، ثم فقلها رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعطاہ نصفہا واحد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصفہا، ثم قال: انت شریکی وانا شریکك فيه، فلم یعلم والله رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرفًا مما علمه اللہ الا علمه علیاً رضی اللہ عنہ، ثم انتھی العلم اینا ووضع يده على صدره))

”محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر سے سنا، انہوں نے فرمایا: جب تک علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہشت سے دوانار لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا: یہ جود دنار آپ کے ہاتھ میں ہیں کس قسم کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک بیوت ہے جس کا آپ سے تعلق نہیں اور دوسرا داش ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داش کے دو حصے کیے، ایک حصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور دوسرا حصہ اپنے پاس رکھا اور فرمایا: آپ میرے ساتھ شریک ہیں اور میں آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ اسی سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا حرف یا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد کرایا تھا مگر یہ کہ وہی علم علی رضی اللہ عنہ کو پڑھایا۔ (حضرت امام باقر نے فرمایا) اس کے بعد داش کی انتہا ہم تک ہوئی (اس دوران امام باقر نے اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھا)۔“

### سرای علم:

((بالاسناد، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله رضي الله عنه يقول: كان أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول: أني أعطيت خصالاً ما سبقني إليها أحد: علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب))

”مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا: امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے ایسی خصلتیں عطا کی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی اور کوئی دی گئیں۔ میں لوگوں کی موت کا وقت جانتا ہوں اور تمام بلاوں سے بھی واقف ہوں اور لوگوں کے نسب اور ان کے درمیان قضاوت سے بھی آگاہ ہوں۔“

### علم علی:

((بالاسناد عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: كان علی رضي الله عنه يعلم كل ما يعلم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولم یعلم الله رسوله شيئاً الا وقد علمه رسول الله أمير المؤمنين رضي الله عنه))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سب چیزوں سے آگاہ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد

نہیں کرائی تھی مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علی رضی اللہ عنہ کو بھی یاد کر دی تھی۔“

### علم انبیاء کے وارث:

((عن ابی جعفر ان علی بن ابی طالب طالب رضی اللہ عنہ کان هبة اللہ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :ورث علم الاوصیاء ولم من کان قبلہ من الانبیاء والمرسلین))  
”امام باقر رضی اللہ عنہ سے مตقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ہدیہ تھے جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو عطا کیا۔ وہ حامل علم اوصیاء اور علم انبیاء مرسلین تھے۔“

### حلال و حرام اور قرآن مجید کے عالم:

((عن حفص بن قرط الجہنی عن جعفر بن محمد الصادق قال: سمعته يقول :كان علی رضی اللہ عنہ صاحب حلال و حرام و علم بالقرآن ونحن علی منهاجہ))  
”حفص بن قرط الجہنی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حلال اور حرام کے سب سے زیادہ عالم تھے اور علم قرآن سے آگاہ تھے، ہم (اہل بیت و اہل اسلام) انہی کی نسبت پر ہیں۔“

### علم تنزیل و تاویل:

((عن ابی الصباح قال: قال ابو عبد الله رضی اللہ عنہ: ان الله علم نبیه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التنزیل والتاویل، فعلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً رضی اللہ عنہ))

”ابوالصبح سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تنزیل اور تاویل کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی۔“

### گھری فکر:

((عن سلیمان الاعمش عن ابیه قال :فَإِنْ عَلِيَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا نَزَّلَتْ أَيَّةً إِلَّا وَانَّا عَلِمْتُ فِيمَنْ أَنْزَلْتُ وَإِنْ نَزَّلْتُ وَعَلَى مَنْ نَزَّلْتُ، إِنْ رَبِّي وَهَبَ لِي قَلْبًا عَقُولًا وَلِسَانًا طَلْقًا))

”جناب سلیمان اعمش نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ میں اسے جانتا ہوں کہ کس لئے نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور کس پر نازل ہوئی۔ میرے رب نے مجھے گھری فکر اور نطق زبان عطا کی ہے۔“

## حضرت علی کا قرآن مجید جمع کرتا:

((وَفِي اخْبَارِ أَبِي رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرْضِهِ الَّذِي تَوَفَّى فِيهِ لَعْلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا عَلَى ! هَذَا كِتَابُ اللَّهِ خَذْهَا إِلَيْكَ ، فَجَمَعَهُ عَلَى فِي ثُوبٍ ، فَمَضَى إِلَى مَنْزِلِهِ فَلَمَّا قَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : جَلَسَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَلْفَهُ كَمَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ وَكَانَ بِهِ عَالِمًا ))

”حضرت ابو رافع رضي اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری میں وفات پائی، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! یہ اللہ کی کتاب ہے اسے لے لیں اور اپنے پاس رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے کڑے میں پیٹ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی اس کے بعد امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے گھر میں بیٹھ کر جس طرح وہ کتاب، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی دیے ہی ترتیب دینا شروع کر دی اور آپ اس سے آگاہ تھے۔“

## حضرت علی امام المتقین اور امام مبین ہیں:

((عَنْ قَيْسِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجْرِمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ (فِي حَدِيثٍ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَعَاشُ النَّاسِ ! مَعَامِنُ عِلْمٍ إِلَّا وَقَدْ أَحْصَاهُ اللَّهُ فِي وَكْلَ عِلْمٍ عَلِمْتَ فَقَدْ أَحْصَيْتَهُ فِي أَمَامِ الْمُتَقِّينَ وَمَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا عَلِمْتَهُ عَلَيَا ، وَهُوَ الْأَمَامُ الْمَبِينُ ))

”قیس بن سمعان نے علقمہ بن محمد حضری سے اور انہوں نے امام باقر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے مجھے نہ دیا ہو اور ہر وہ علم جس سے میں واقف ہوں میں نے وہ پرہیز گاروں کے امام کو سکھا دیا اور کوئی ایسا علم نہیں جسے میں نے علی کو سکھا نہ دیا ہو اور وہی امام مبین ہیں۔“

## حضرت علی کے استاذ رسول اللہ:

((عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِلْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعِلْمَهُ شَيْئًا سُوَى ذَلِكَ فَمَا عِلْمَ اللَّهَ فَقَدْ عِلْمَ رَسُولَهُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اس کے علاوہ اور بھی چیزوں کی تعلیم دی اور یغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا اس کی تعلیم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی۔“

((عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: ان الله علم رسوله الحلال و الحرام والتاویل وما يحتاج اليه الناس فعلم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً رضی اللہ عنہ ذلك کله))

”ابو عبد اللہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام، تاویل اور تمام وہ ضروریات جن کے لوگ نیازمند ہیں ان کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تعلیم امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی۔“

### قرآن کے بارے میں امت میں سب سے زیادہ جانے والے:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی اعلم الامة بما انزل اللہ))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی وحی اتری علی تمام امت کے افراد سے اس کو زیادہ جانتے ہیں۔“

### علم علی اور اصحاب:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی اکثر اصحاب الرسول علماء))  
”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی اصحاب رسول میں سب سے داناتریں ہیں۔“

### علم الناس:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی اعلم الناس علماء))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی لوگوں میں سے داناترین ہیں۔“

### علم علی المرتضیٰ:

((بالا سنا، عن ابی بصیر، عن ابی جعفر رضی اللہ عنہ قال: سئل علی رضی اللہ عنہ عن علم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال: علم النبی علم جمیع النبیین وعلم ما کان وعلم ما ہو کائن الی قیام الساعۃ ثم قال: والذی نفسی بیدہ انی لا علم علم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلم ما کان وما ہو کائن فيما بینی و بین قیام الساعۃ))  
”ابو بصیر نے امام باقر رضی اللہ عنہ سے لفظ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: پیغمبروں کا علم اور جو بھی علم واقع ہوا یا تاریخ قیامت واقع ہو گا سب کا سب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ پھر فرمایا: مجھے قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میرے پاس علم رسول اور جو بھی علم واقع ہوا ہے اور جو قیامت کے دن تک واقع ہو گا، موجود ہے۔“

### بعد از رسول سب سے زیادہ عالم:

((عن سلمان عن النبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال: اعلم امتی بعدی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ))

"حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد میری امت کے افراد میں سے دانترین علی ابن ابی طالب ہیں۔"

### کتاب علی:

((عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال: في كتاب على رضي الله عنه كل شيء يحتاج إليه حتى الخدش والارش والهرش)

"عبدالله بن ميمون نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے والدگرامی امام باقر سے نقل کیا کہ تمام وہ چیزیں جن کی لوگ احتیاج رکھتے ہیں حتیٰ کہ خارش کا ہونا، جراحی، دھنی جانوروں اور درندوں کا کامناسب کاملاع کتاب علی رضی اللہ عنہ میں موجود ہے۔"

### جانوروں کے بارے میں معلومات:

((عن زراة عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: قال أمير المؤمنين رضي الله عنه لا بن عباس: إن الله علمنا منطق الطير كما علم سليمان بن داود ومنطق كل دابة في برا وبحار))

"زرارہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کیا کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا کلام ہمیں سکھایا جس طرح حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو سکھایا تھا اور تمام حیوانات کی زبان، چاہے خنکی پر ہوں یا دریا میں، ہمیں تعلیم دی ہے۔"

### کتاب ناطق:

((عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه قال: هذا كتاب الله الصامت، وإن كتاب الله الناطق))

"امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صامت کتاب ہے اور میں کتاب ناطق ہوں۔"

### عندہ علم الكتاب:

((عن الفضیل بن یسار عن ابی جعفر رضی الله عنہ فی قوله: وَمَنْ عَنْدَهُ عِلْمٌ الْكِتَابَ))

قال : نزلت فی علی رضی اللہ عنہ، انه عالم هذه الامة بعد النبی صلوات اللہ علیہ وآلہ))

”جناب فضیل بن یارے نقل ہے کہ امام باقر رضی اللہ عنہ نے آیت مبارکہ: ”ومن عنده علم الكتاب“ کے بارے میں فرمایا: یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے عالم تھے۔“

### صاحب علم کتاب:

(بالاسناد، عن ابی جعفر رضی اللہ عنہ فی قول اللہ عزوجل: قل کفی بالله شهیداً بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب، (رعد/43) قال : صاحب علم الكتاب علی رضی اللہ عنہ))

”امام باقر رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے کلام: ”قل کفی بالله شهیداً بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب“ (کہہ دو اللہ تعالیٰ کی گواہی میرے اور آپ کے درمیان کافی ہے اور اسی طرح اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے) کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: صاحب علم کتاب سے مراد علی رضی اللہ عنہ ہیں۔“

((عن جابر قال : قال ابو جعفر رضی اللہ عنہ فی هذه الاية: قل کفی بالله شهیداً بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب قال: هو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ))

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس آیت میں: ”کہہ دو اللہ اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے ہمارے اور تمہارے درمیان شہادت کیلئے کافی ہے“ عالم کتاب سے مراد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔“

((عن ابی بصیر عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ : قال سالته عن قول اللہ عزوجل: قل کفی بالله شهیداً بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب قلت: اهو علی بن ابی طالب؟  
قال : فمن عسى ان يكون غيره))

”ابو بصیر سے روایت ہے کہ امام صادق رضی اللہ عنہ سے اس کلام الہی: ”کہہ دو! میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور اسی طرح اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔“ کے بارے میں ہم نے پوچھا: آیا اس سے مراد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں؟ فرمایا: ان کے سوا کوئی اور ممکن ہے؟“

### علی باب العلم:

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی باب علمی))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے علم (کے شہر) کا دروازہ ہیں۔“

### رسول اللہ کے شاگرد خاص:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ما علمت شيئاً الا علمته علیاً فھو باب  
مدينة علمي))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی چیز سے آشنای حاصل نہیں کی مگر یہ کہ اس کی علیٰ کو تعلیم  
دی کیونکہ وہ میرے علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔“

### حقائق کو واضح کرنے والے:

((عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی باب علمی  
ومبین لامتنی))

”حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے علم کا  
دروازہ ہیں اور حقائق کو میری امت کیلئے بیان کرتے ہیں۔“

### رسول اللہ اور سیدنا علیٰ الرضا:

((عن ابی الصباح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لما صرت بين يدي ربی، کلمنی و ناجانی فما علمت شيئاً الا علمته علیاً،  
فھو باب علمی))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت میں  
بامگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہوا اور رازخن کہا اور میں نے ہر وہ چیز جس سے آگاہ  
ہوا، علیٰ کو دی اس لئے کہ وہ میرے علم کا دروازہ ہیں۔“

### باب مبینة العلم النبی:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ما علمت شيئاً الا علمته علیاً فھو باب  
مدينة علمي))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے کسی چیز کا بھی علم حاصل نہیں کیا مگر یہ کہ اسے علیٰ کو دیا کیونکہ  
وہ میرے علم کے شہر کے دروازہ ہیں۔“

### رسول اللہ کا قرب:

((عن علیٰ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يوم فتح  
خیبر: انت باب علمی، وان ولدك ولدی، ولحمك لحمی، ودمك دمی))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے دن مجھ سے فرمایا: تم

میرے علم کا دروازہ ہو اور تمہارے فرزند میرے فرزند ہیں، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے اور تمہارا خون میرا خون ہے۔“

### ہزار باب علم کی تعلیم:

((عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال :علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً رضی اللہ عنہ الف باب ففتح له من کل باب الف باب))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (علم کے) ایک ہزار باب کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی اور ہر ایک باب سے ہزار باب لکھے۔“

((عن جعفر عن ابیه: ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدث علیاً رضی اللہ عنہ الف کلمة یفتح الف کلمة))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار باب علم کے علی رضی اللہ عنہ کو تعلیم دیئے کہ ہر ایک باب سے ہزار باب لکھے۔“

### ہزار حروف:

((بالا سناد، عن ابی جعفر رضی اللہ عنہ قال :علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً الف حرف، کل حرف یفتح الف حرف))

”امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہزار حروف سکھائے اور ہر ایک حرف سے ہزار حروف لکھے۔“

((بالا سناد، عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال :علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً حرفًا یفتح الف حرف کل حرف منها یفتح الف حرف))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک حرف تعلیم دیا کہ اس سے ہزار حرف اور لکھے اور ہر ایک حرف سے ہزار حرف اور لکھتے تھے۔“

### حضرت علی کی علمیت:

((عن الشمالي عن ابی جعفر رضی اللہ عنہ قال :قال علی لقد علمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف باب یفتح کل باب الف باب -فاسالوه عنها))

”شمالي نے امام باقر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہزار باب دیئے، ہر ایک باب سے ہزار باب لکھے، پس اس کے بارے میں مجھے سے پوچھلو۔“

## ہزار کلمات کی تعلیم:

((عن ابی حمزہ الشماںی ، عن علی بن الحسین . قال : علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا کلمة تفتح الف کلمة، والالف کلمة یفتح کل کلمة الف کلمة))  
 ”ابو حمزہ شماںی سے روایت ہے کہ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہمانے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کلمات کی تعلیم دی کہ ان میں سے ہزار کلمات اور نکتے تھے اور اس ہزار کلمات سے ہزار اور کلمات نکلے۔“

((بالاسناد، عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: اوصی رسول اللہ الی علی رضی اللہ عنہ الف کلمة والف باب، یفتح کل کلمة و کل باب الف کلمة و الف باب ))  
 ”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار کلمہ اور ہزار باب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پر دیکے کہ ہر کلمہ اور ہر ایک باب سے ہزار کلمہ اور باب نکلتے تھے۔“

## علم کے دس لاکھ ابواب:

((بالا سناد، عن الاصلیع بن نباتة عن امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ قال: سمعته یقول :  
 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم منی الف باب من الحلال والحرام مما  
 کان و ممما هو کائن الی یوم القيامة، کل باب منها یفتح الف باب، فذلک الف الف  
 باب، حتی علمت علم المنایا والبلایا وفصل الخطاب))

”اصنیع بن بناتہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہزار باب، حلال اور حرام کے جو واقع ہوا اور تاریخ قیامت جو واقع ہوگا، تعلیم دیئے کہ ہر ایک باب سے ہزار باب اور نکلے۔ پس میرے علم کے دس لاکھ باب ہیں۔ میں لوگوں کی موت کا وقت چانتا ہوں اور سب بلاؤں سے آگاہی رکھتا ہوں اور لوگوں کے درمیان قضاوت سے بھی واقف ہوں۔“

## علوم کا خزینہ:

((عن علی رضی اللہ عنہ: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادخل لسانہ فی  
 فمی فانفتح فی قلبي الف باب من العلم مع کل باب الف باب))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو میرے منہ میں داخل کیا اور علم کا ہزار باب میرے دل میں کھل گیا کہ ہر ایک باب سے ہزار اور باب نکلے۔“

### علی کے توسل کے بغیر علم نہیں سیکھا جاسکتا:

بالاستاد، حدثنا ابوالحسن علی بن موسی الرضا عن آبائہ : قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : يا علی انا مدینۃ العلم وانت الباب ، کذب من زعم انه يصل الى المدینۃ الا من الباب )

”حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! میں علم کا شہر ہوں اور تم اس کا دروازہ ہو۔ جھوٹ کہتا ہے وہ شخص جو گمان کرتا ہے کہ دروازہ کے بغیر شہر میں داخل ہو گا۔“

### علم نبوت اور حضرت علیؑ کا ذریعہ:

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : انا مدینۃ العلم وعلی بابها ، قال اللہ تعالیٰ واتوا البویوت من ابوابها من اراد العلم ، فلیاتھم من الباب ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ پس جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس دروازہ سے داخل ہو۔“

### حصول علم حضرت علیؑ سے:

((عن حمزہ بن ابی سعید الخدری عن ابیه قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول: انا مدینۃ العلم وعلی بابها ، فمن اراد العلم ، فليقتبسه من علی رضی اللہ عنہ ))

”حضرت حمزہ بن ابی سعید خدری نے اپنے والد حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے علی سے حاصل کرے۔“

### شہر علم اور اس کے دروازے کی اہمیت:

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : انا مدینۃ العلم وعلی بابها ، فمن اراد المدینۃ ، فلياتھا من بابها ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو اس شہر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے دروازے سے داخل ہونا چاہیے۔“

### شہر علم میں دروازے سے داخل ہو:

((عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم: أنا مدینة العلم وعلی بابها فمن اراد العلم، فليات الباب))

"حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں داش کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو بھی داش چاہتا ہے اسے دروازے سے داخل ہونا ہوگا۔"

((عن ابی عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم: أنا مدینة العلم وعلی بابها ، من اراد اعلم، فلياتها من قبل بابها))

"حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو دروازے سے داخل ہو۔"

((عن ابی عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم: أنا مدینة العلم وعلی بابها، فمن اراد العلم، فليات باب المدینة))

"حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو بھی داش کا طالب ہے اسے شہر کے دروازے سے داخل ہونا چاہیے۔"

### بغیر علی کے توسل کے کوئی علم نبوت سے فیضیاب نہیں ہو سکتا:

((عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم: يا علی! أنا مدینة العلم وانت بابها ولن توتی المدینة الا من قبل الباب وکذب من زعم انه يحبني ويبغضك لانك مني وانا منك لحمك لحمي ودمك دمي وروحك من روحى))

"حضرت سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! میں داش کا شہر ہوں اور تم اس کا دروازہ ہو۔ دروازے کے علاوہ کوئی شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولتا ہے وہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمیں دوست رکھتا ہے حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، چونکہ تم مجھے میں سے ہو اور میں تم میں سے۔ تمہارا گوشت میرا گوشت اور تمہارا خون میرا خون اور تمہاری روح میری روح ہے۔"

((بالاسناد عن علی رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم: أنا مدینة العلم وعلی بابها ولا توتی البيوت الا من ابوابها))

"حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گھروں میں ان کے دروازوں کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔"

((عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم أنا مدينة العلم وانت بابها، يا علي ! كذب من زعم انه يدخلها من غير بابها))

”اصبغ بن بناته نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں علم کا شہر ہوں اور اسے علی! تم اس کا دروازہ ہو۔ جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو گمان کرتا ہے کہ شہر کے دروازے کے بغیر شہر میں داخل ہو گا۔“

### خزانہ علم اور اس کی چاپی:

((وبالاستاد عن الرضا رضي الله عنه عن آبائه عن محمد بن علي رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله الانصارى قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلـه وسلم :انا خزانة العلم وعلی مفتاحها (مفتاحه) فمن اراد الخزانة، فليات المفتاح))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے، انہوں نے محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے جابر بن عبد اللہ الانصاری سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں علم کا خزانہ ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کی چاپی ہے۔ جو بھی خزانہ چاہتا ہے وہ چاپی کے پیچھے جائے۔“

### علم کے حازن:

((قوله صلی الله علیہ وآلـه وسلم : على خازن علمي))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے علم کے خزینہ دار ہے۔“

### فقہ کے شہر کا دروازہ:

((وفي رواية قال رسول الله صلی الله علیہ وآلـه وسلم :انا مدينة الفقه وعلی بابها، فمن اراد العلم ، فليات الباب))

”ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں فقہ کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو بھی طالب علم ہے اسے اس دروازے سے داخل ہونا ہو گا۔“

### شہر حکمت:

((عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلـه وسلم :انا مدينة الحكمة وعلی بابها ، فمن اراد المدينة ، فليات الی بابها))

”حضرت جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں جو بھی اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے دروازے

سے داخل ہو۔“

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :انا مدینۃ الحکمة وعلی بابها، فمن اراد الحکمة، فليات الباب))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو بھی حکمت چاہتا ہے دروازے سے داخل ہو۔“

### دار الحکمت اور باب دار الحکمت:

((بالاسناد، عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :انا دار الحکمة وعلی بابها، فمن اراد الحکمة، فلياتها من بابها))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو بھی حکمت کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کے دروازے سے داخل ہو۔“

((عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ :يا علی !انا مدینۃ الحکمة وانت بابها ولن تتوتی المدینۃ الا من قبل الباب))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی ! میں حکمت کا شہر ہوں اور تم اس کا دروازہ ہو۔ دروازے کے بغیر کوئی شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔“

### حکمت کے دس حصوں میں سے نو حصے:

((بالاسناد، عن عبد الله قال : كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسئل عن علی رضی اللہ عنہ فقال : فسمست الحکمة عشرة اجزاء فاعطی علی تسعة اجزاء والناس جزاء واحدا))

”حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا کہ لوگوں نے آپ سے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوال کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حکمت دس حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، اس کے نو حصے علی کو اور ایک حصہ لوگوں کو دیا گیا۔“

### قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں علم:

((عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائہ عن علی رضی اللہ عنہ قال : سلوانی عن کتاب اللہ عزوجل ، فوالله ما نزلت آیة من کتاب اللہ فی لیل و نهار و لا سفر و لا مقام ، الا

وقد اقر انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلمی تاویلها))

”حضرت جعفر بن محمد نے اپنے اجداد سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں سوار رواں اللہ کی قسم! کوئی ایسی آیت نہیں جو رات یادن ہے فریا حضرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہو اور انہوں نے میرے لئے قرأت نہ کی ہو، بلکہ اس کی قرأت کی اور ان کی تاویل بھی بتائی۔“

((قال علی رضی اللہ عنہ : سلوانی عن کتاب اللہ، فانه لیس من آیة الا وقد عرفت  
بلیل نزلت ام بنہار، فی سهل ام فی جبل))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) کے بارے میں پوچھو۔ کوئی ایسی آیت نہیں مگر یہ کہ میں جانتا ہوں رات کو نازل ہوئی ہے یادن کو آیا میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔“

### حوادث زمانہ کا علم:

((بالاسناد ، عن امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ انه کان یقول: سلوانی قبل ان تفقدونی ،

الاتصالون من عنده علم المنايا والبلاد والانساب))

”امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان سے اٹھ جاؤں مجھ سے سوال کریں۔ آیا جوانانوں کی موت، حادثات اور انساب کو جانتا ہوں اس سے سوال نہیں کرتے۔؟“

### علم آسمان سے آگاہی:

((قال امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ : ایها الناس سلوانی قبل ان تفقدونی فانا بطرق

السماء اعلم مني بطرق الارض))

”امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے لوگو! اس سے پہلے کہ میں آپ کے درمیان سے چلا جاؤں مجھ سے سوال کریں۔ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔“

### خطبہ علی المرتضی:

((عن الرضا عن آبائہ قال: قال الحسين رضی اللہ عنہ : خطبنا امیر المؤمنین فقال :

سلوانی عن القرآن اخیر کم عن آیاتہ فیمن نزلت وابن نزلت))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمارے لئے خطبہ پڑھا اور فرمایا: قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے سوال کریں تاکہ اس کی آیات کے بارے میں آپ کو بتاؤں کس کیلئے اور کہاں نازل ہوئیں۔“

### علم کا خزانہ اور سینہ علی:

((قال عمر بن عبد الله : خطبنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علی منبر الكوفة فقال : ايها الناس ! سلونی قبل ان تفقدونی ، فبین الجنین منی علم جم ))

”عمر بن عبد اللہ نے کہا: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں منبر پر ہمارے لیے خطبہ پڑھا اور فرمایا: اے لوگو! اس سے پہلے کہ مجھ کو اپنے ہاتھ سے دے دو مجھ سے پوچھو کیونکہ میرے سینے میں علم کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔“

### عرش کے علاوہ ہر چیز کے بارے میں علم:

((عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہو يقول: سلونی قبل ان تفقدونی ! فباني لا اسأل عن شيء دون العرش ، الا اخبرت عنه))

”حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے پہلے کہ میں یہ دنیا چھوڑ دوں مجھ سے پوچھو! جس چیز کے بارے میں بھی سوال ہوگا عرش معلیٰ کے علاوہ سب کے جواب دوں گا۔“

### كتب آسمانی کا علم:

((فی حدیث) وقال امير المؤمنین رضی اللہ عنہ: سلونی قبل ان تفقدونی فوالذی فلق الحبة وبرا النسمة انى لا علم بالتوراة من اهل التوارة وانى اعلم بالانجیل من اهل الانجیل وانى لا علم بالقرآن من اهل القرآن))

”امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے پہلے کہ میں آپ کو چھوڑ جاؤں مجھ سے سوال کریں۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے مخلوق کو خلق کیا، میں اہل تورات سے تورات کو زیادہ جانتا ہوں اور اہل انجیل سے انجیل کو بہتر جانتا ہوں اور اہل قرآن سے قرآن کا علم زیادہ جانتا ہوں۔“

### سارا قرآن رسول اللہ سے سنا اور سمجھا:

((قال ابیان عن سلیم قال: جلست الی علی رضی اللہ عنہ بالکوفة فی المسجد والناس حوله فقال: سلونی قبل ان تفقدونی سلونی عن کتاب اللہ فوالله ما نزلت آیة من کتاب اللہ الا فقد اقرا نیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علمتی تاویلہا))

”جناب ابیان نے سلیم نے کہا کہ ہم مسجد کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی آپ کے اطراف میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے پہلے کہ مجھے اپنے ہاتھ سے دے دو مجھ سے پوچھو! کتاب اللہ کے بارے میں سوال کرو! اللہ کی قسم! کوئی ایسی آیت اللہ تعالیٰ نے

نازل نہیں کی جسے میں نہ جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے سب کو پڑھا اور ان کی تاویل بھی بتائی۔“

### حضرت علیؑ کے علم کی صحیحی:

((قال سعید بن المسمیب فلهذا کان علی رضی اللہ عنہ یقول: سلونی عن طرق السموات فباني اعراف بها من طرق الارضين، ولو كشف الغطاء ، ما اذدت))  
”حضرت سعید بن میتب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آسمانوں کے راستے مجھ سے پوچھیں چونکہ میں ان کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں اور اگر پردہ اٹھ جائے پھر بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو گا۔“

### یقین علیؑ:

((قال امیر المؤمنین و امام الموحدین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال : لو كشف لی الغطاء ما ازدلت یقینا))  
”امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر پہاں چیزوں سے پردہ اٹھ جائے تو میرے یقین میں زیادتی نہیں ہو گی۔“



### فصل نمبر 22:

### علی رضی اللہ عنہ ولیلة المعراج ولیلة البدار:

### حضرت علیؑ اور شب معراج و بدر

### حضرت علیؑ کی زبان میں ہمکلامی:

((عن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد سئل : بای لغة خاطبک ربک ليلة المعراج؟ فقال : خاطبني بلغة علی بن ابی طالب ، فالهممنی ان قلت : يا رب ! اخاطبتنی انت ام علی ؟ فقال : يا احمد ! انا شیء لا کالا شیاء ، لا افاس بالناس ولا اوصف بالاشباء ، خلقتک من نوری و خلقت علیا من نورک ، فطلعت علی سرائر قلبک فلم اجد الی قلبک احباب من علی بن ابی طالب ، فخاطبتك بلسانہ کیما یطمئن قلبک ))

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: اللہ تعالیٰ نے

شبِ معراج آپ سے کس زبان میں کلام کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب کی زبان میں مجھے الہام کیا تاکہ میں یہ کہوں: پروردگار! تو میرے ساتھ ہم کلام ہے یا علی؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: یا احمد! میں ایک موجود ہوں لیکن نہ دوسرا موجودات کی طرح اور لوگوں کے ساتھ میرا مقابلہ ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی میری مثل ہے۔ میں نے تم کو اپنے نور سے خلق کیا ہے اور علی کو تیرے نور سے خلق کیا ہے۔ میں نے تیرے دل کے اندر جتو کی ہے اور تیرے نزدیک کسی کو علی بن ابی طالب سے زیادہ محظوظ نہیں دیکھا، اسلئے اس کی زبان میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوا ہوں تاکہ تیرے دل کو سکون حاصل ہو جائے۔“

### محبین علیؑ کا ثواب:

((ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال :لیلۃ اسری بی الى السماء الرابعة رأیت صورۃ علی بن ابی طالب، فقلت لجبرئیل: هذا اخی علی، فاوھی الى ان هذا ملک خلقہ اللہ علی صورة علی ابن ابی طالب یزورہ کل یوم سبعون الف ملک یسبحون و یکبرون و ثوابهم لمحبی علی بن ابی طالب))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس رات مجھے چوتھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں پر علی بن ابی طالب کو دیکھا۔ جبرائیل سے کہا: یہ میرے بھائی علی ہیں۔؟ مجھ پر وحی ہوئی کہ یہ ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علی کی شکل میں خلق کیا ہے اور روزانہ ہزار فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں اور تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور ان کا ثواب علیؑ کے محبین کو ملتا ہے۔“

### آسمان والے علیؑ ابن ابی طالب کے محبین:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم :ما مررت بسماء الا واهلهما يشتاقون الى علی بن ابی طالب، وما في الجنة نبی الا وهو يشتاق الى علی بن ابی طالب))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کسی ایسے آسمان سے نہیں گزر اگر یہ کہ میں نے دیکھا اہل آسمان علی بن ابی طالب کا اشتیاق رکھتے ہیں اور بہشت میں کوئی ایسا غیر نہیں ہے جو علی بن ابی طالب کے دیدار کا مشتاق نہ ہو۔“

### مقربین فرشتوں کا سلام:

((ومن مقاماته فی غزوة بدر ان النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم بعثه لیلۃ البدر ان یاتیه بالماء حین قال لاصحابه من یلتمس لنا الماء؟ فسکروا عنہ فقال علی رضی الله عنہ: انا یا رسول الله ، فاخذ القربة واتی القلب فملا القربة وآخر جها جاءت ریح فاهرقتہ

ثُمَّ عَادَ إِلَى الْقَلِيلِ فَجَاءَتْ رِيحٌ فَاهْرَقَتْهُ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةَ مَلَأَهَا فَاتَّى بِهَا إِلَى النَّبِيِّ فَاخْبَرَهُ بِخَبْرِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْرِّيحَ الْأَوَّلَيْ فِي جَرَائِيلِ فِي الْأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَلَّمُوا عَلَيْكَ وَإِنَّ الْرِّيحَ الثَّانِيَةَ فِيمِكَائِيلَ فِي الْأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَلَّمُوا عَلَيْكَ وَإِنَّ الْرِّيحَ الْثَّالِثَةَ فَاسِرًا فِيلَ فِي الْأَلْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ سَلَّمُوا عَلَيْكَ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منزلت میں سے ایک منزلت اور مقام یہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی لانے کیلئے بھیجا۔ آپ اس وقت اپنے اصحاب سے فرمایا: کون ہمارے لئے پانی لائے گا؟ سب خاموش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں پانی لاوں گا۔ بس مشک اٹھائی اور کنوں پر پہنچے۔ مشک پانی سے بھری کہ اچانک ہوا چلی اور مشک کا پانی زمین پر گر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ کنوں پر آئے اور مشک بھری۔ اس مرتبہ بھی ہوا چلی اور پانی زمین پر گر گیا۔ یہاں تک کہ چوتھی بار مشک کو پانی سے پر کیا اور واپس آئے۔ پورا ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلی ہوا جو چلی تو اس وقت جبرائیل نے ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہیں سلام کیا اور تیسرا ہوا اسرافیل تھے جس نے ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہیں سلام کیا۔“

### رسول اللہ کے حکم پر پانی لانا:

((بالاستاد ، عن علی قال: لما كانت ليلة بدر قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من يستقى لنا من الماء؟ فاحجم الناس قال: فقامت فاحتضنت قربة ثم اتيت قليبا بعيد القعر مظلما فانحدرت فيه فاوحي الله الى جبرائيل وميكائيل و اسرافيل تاهبوا النصرة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحربه فهبطوا من السماء ، لهم دوى يذهل من يسمعه فلما حاذوا القليب وقفوا وسلموا على من عند آخر هم اكراماً و تبجيلاً و تعظيماً))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسی رات جس دن جنگ بدر شروع ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہمارے لئے پانی لائے گا؟ سب خاموش رہے۔ میں کھڑا ہوا، اپنے ساتھ مشک اٹھائی اور ایک گھرے اور تاریک کنوں پر پہنچا اور کنوں میں داخل ہوا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، میکائل اور اسرافیل پر وحی کی کہ وہ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کرنے کیلئے تیار ہیں۔ ملائکہ آسمان سے اس طرح اترے کہ سب کانوں نے ان کے آنے کی آواز سنی اور اہل اسلام تمام چیزوں سے بے خبر ہو گئے۔ جب کنوں کے قریب پہنچ توسب نے کھڑے ہو کر احترام اور تعظیم سے مجھے سلام کیا۔“

## فصل نمبر 23:

### فی اخلاقہ و سیرتہ:

## حضرت علیؑ کے اخلاق اور سیرت کا بیان

### توکل علی اللہ:

((بالاسناد، عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال : کان قنبر غلام علی یحب علیاً جب شدیداً فاما خرج علی رضی اللہ عنہ خرج علی اثرہ بالسیف قراءۃ ذات ليلة فقال : يا قنبر! مالک؟ فقال : جئت لا مشی خلفک يا امیر المؤمنین قال : ويحك! امن اهل السماء تحرستی او من اهل الارض؟ فقال : لا ، بل من اهل الارض فقال ان اهل الارض لا يستطيعون لی شيئاً الا باذن الله من السماء فارجع فرجع))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام قنبر آپ سے بہت محبت کرتا تھا، اس لئے جس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے خارج ہوتے تھے تو وہ تکوار اٹھا کر آپ کے پیچھے حرکت کرتا تھا۔ ایک رات آپ نے قنبر کو دیکھا تو پوچھا: کس لئے آئے ہو؟ جواب دیا: یا امیر المؤمنین! اس لئے آیا ہوں کہ آپ کے پیچھے چلوں۔ آپ نے فرمایا: حیف ہو تم پر آیا تو چاہتا ہے میری اہل آسمان سے حفاظت کرے یا اہل زمین سے؟ کہا: اہل زمین سے۔ فرمایا: اہل زمین اللہ کے اذن کے بغیر میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ واپس جاؤ۔ قنبر واپس چلے گئے۔“

### حضرت علیؑ کا خوف الہی:

((روی دعا (علی) رضی اللہ عنہ غلاماً لہ مراراً فلم یجده، فخرج فوجده علی باب البيت، فقل: ما حملک علی ترك اجابتی؟ قال: کسلت عن اجابتک وامنت عقوبتک، فقال: الحمد لله الذي جعلني ممن يامنه خلقه، امض فانت حر لوجه الله))

”روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چند مرتبہ اپنے غلام کو آواز دی، غلام نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آئے اور غلام کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر فرمایا: جواب کیوں نہیں دیا؟ غلام نے کہا: میں جواب دینے کی حالت میں نہیں تھا اور آپ کی سزا سے بھی امان میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے ان میں سے قرار دیا ہے جن سے اس کی تخلق امان میں ہے۔ جاؤ! تم اللہ کے راستے میں آزاد ہو۔“

## صبر و تحمل:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی افضل الناس حلمًا))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی تحمل اور صبر میں لوگوں سے افضل ہیں۔“

## صبر و تحمل کی انسانی صورت:

((عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ولو كان الحلم  
رجالاً، لكان علياً))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر صبراً و تحمل  
انسانی شکل اختیار کر لے تو وہ علی ہوں گے۔“

((فی خطبة له رضی اللہ عنہ فرایت ان الصبر علی هاتا احیہ، فصبرت و فی العین  
قدی و فی الحلق شجا))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا: جب میں نے دیکھا کہ ابھی صبر کے سوا اور کوئی چارہ  
نہیں تو میں نے صبر کر لیا، اس طرح جیسے کسی کی آنکھ میں کاشا اور گردان میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو۔“

## حضرت علی کا مسافر ساتھی سے حسن سلوک:

((بالاسناد، عن ابی عبد اللہ عن آبائہ : ان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ صاحب رجلاً  
ذمیاً فقال له الذمی : این ترید یا عبد اللہ ! فقال : اريد الكوفة، فلما عدل الطريق بالذمی  
عدل معه امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ فقال (له) الذمی : السُّتْ زعمت انك ترید  
الکوفة؟ فقال له : بلى فقال له الذمی : فقد تركت الطريق؟ فقال له : قد علمت ذلك  
قال : فلیم عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له امیر المؤمنین : هذا من تمام حسن  
الصحبة ان يشیع الرجل (صاحبہ) هنیثة اذا فارقه، وكذلك امرنا نبینا صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم ، فقال له الذمی : هکذا قال؟ قال : نعم ، قال الذمی : لا جرم انما تبعه من تبعه  
لا فعاله الکریمة فانا اشهدك انی علی دینک ورجع الذمی مع امیر المؤمنین رضی اللہ  
عنہ فلما عرفه اسلام))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک کافر ذمی کے ساتھ ہم سفر ہوئے۔  
اس شخص نے پوچھا: اے اللہ کے بندے کہاں جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا: کوفہ جاؤں گا۔ جب اس کارستہ  
 جدا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ چلتے رہے۔ اس شخص نے کہا: کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ  
کوفہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ اس نے کہا: یہ تو کوفہ کا راستہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: جانتا

ہوں۔ اس نے کہا: پھر کیوں میرے ساتھ آ رہے ہو؟ فرمایا: یہ کمال حسن مواثت ہے کہ جب انسان اپنے دوست سے جدا ہو تو چند قدم اور بھی اس کے ساتھ چلے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح حکم دیا ہے۔ ذمی نے کہا: آپ کے پیغمبر نے اسی طرح کہا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! ذمی نے کہا: بس ان کی اچھی سیرت اور عمل دیکھ کر لوگ ان کے پیروکار بننے ہیں۔ میں تم کو اپنا گواہ بنانا ہوں کہ میں نے تمہارا دین قبول کر لیا ہے۔ اس وقت وہ کافر ذمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آگیا اور جب ان کو پہچان لیا تو مسلمان ہو گیا۔“

### حضرت علی کی تواضع:

((قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته واصحابه: كان فيما كان أحد من الالين جانب وشدة توضع و هولة قياده، و كان انهابه مهابة الا سير المربوط للسياف الواقف على راسه))

”صعصعة بن صوان جو حضرت علی کے گروہ اور اصحاب میں سے تھے، نے کہا: امیر المؤمنین حضرت علی ہمارے درمیان ہماری مانند تھے۔ آپ میں بہت زیادہ تواضع اور عاجزی تھی جس کی وجہ سے تمام لوگ آپ کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ اس دوران ہم پر ہبہت اور خوف طاری ہو جاتا تھا، اس طرح جیسے کوئی کسی اسیر کے سر پر تکوار اٹھائے کھڑا ہو۔“

### خود سو دا سلف اٹھا کر لانا:

((كان علی رضي الله عنه يدخل السوق ويحمل التمر والسويق والملح واشباه ذلك في ثوبه تارة وفي يده اخرى ويقول:

لا ينقص الكامل من كماله

ما جر من نفع الى عياله

”روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ جس وقت بازار جایا کرتے تھے تو کھجور اور آٹا اور نمک کپڑے میں ڈال کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر لے جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: اپنے عیال کیلئے خوراک لے جانا، بہت ہی مفید ہے اور یہ انسان کے مال میں کمی کا باعث نہیں بنتا۔“

### حضرت علی کا افسار:

((عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: خرج امير المؤمنين رضي الله عنه على اصحابه وهو راكب ، فمشوا خلفه، فالتفت اليهم فقال: لكم حاجة؟ فقالوا: لا يا امير المؤمنين ، ولكن احب ان نمشي معك ، فقال لهم: انصر فواfan مشى الماشى مع الراكب

مفسدة للراکب ومذلة للمعاشری))

”جناب ابی عبد اللہ امام باقر سے روایت ہے کہ ایک دن امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ لگھے۔ آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے چلنے لگے تو آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا: کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں اے امیر المؤمنین! بلکہ ہم آپ کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں۔ پس آپ نے فرمایا: واپس چلے جاؤ! کیونکہ سوار کے ساتھ پیدل چلنا سوار کی بے عزتی ہے اور پیدل چلنے والے کے لیے ذلت۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 24:

### فی زهد و قناعت و دلیا عند علی:

## حضرت علی کا زہد و قناعت اور دنیا سے بے رغبتی

### حضرت علی کی ثابت قدیمی:

((عن علی رضی الله عنه مرفوعاً، قال رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلم، يا علی! كيف انسى اذا زهد الناس في الآخرة ورغبو في الدنيا وأكلوا القراءات اكلا لما واحبوا المال حضبا جما واتخذوا دين الله دغلا ومال الله دولا قال: قلت: يا رسول الله اتر كهم واترك ما فعلوه واني اختار الله ورسوله والدار الآخرة واصبر على مصائب الدنيا وهوها حتى الحق بك بمثينة الله قال: صدقتك يا علی! اللهم افعل ذلك به))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم اس وقت کیسے ہو گے جب لوگ آخرت کو بھول کر دنیا کے ساتھ دل لگائیں گے۔ ثروت کو ایک ہی وقت میں کھا جائیں گے اور مال اور دولت سے بہت زیادہ محبت رکھیں گے۔ اللہ کے دین کو فریب کاری اور دھوکے کا وسیلہ بنائیں گے اور بیت المال کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں چڑھائیں گے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ان کو اور ان کے کاموں کو چھوڑ کر اللہ اور پیغمبر اور آخرت کے راستے کا انتخاب کروں گا اور دنیا کے مصائب پر صبر کروں گا، یہاں تک کہ رضاۓ الہی سے آپ کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم نے حق کہا۔ اے اللہ! علی کے ساتھ ایسا ہی کرنا۔“

### دنیا کی حکمرانی کی اہمیت جوتے کے برابر بھی نہیں:

((قال عبد الله بن عباس: دخلت علی امیر المؤمنین رضی الله عنه بذی قار وهو

یخصف نعلہ، فقال لی : ما قيمة هذا النعل ؟ فقلت : لا قيمة لها، فقال رضی اللہ عنہ :

والله لہی احبابی من امیرکم الا ان اقیم حقاً او ادفع باطلاً )

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ”ذی قار“ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت آپ اپنے جو تے کو پیوند لگا رہے تھے، مجھ سے پوچھا: اس جوتے کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے کہا: کوئی اہمیت نہیں۔ انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! یہ جوتا میرے زویک تمہاری حکمرانی سے محبوب تر ہے اور اس کی قدر و قیمت اس سے زیادہ ہے مگر یہ کہ میں حق کیلئے قیام کروں یا باطل کروں کو لوں۔“

### دنیا کے خلیفہ کی تلوار برائے فروخت:

((عن ابی حیان التیمی عن ابیه قال: رأیت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علی المنبر يقول : من یشتري منی سيفی هذا؟ فلو کان عندي ثمن ازار ما بعنه، فقام اليه رجل فقال : نسلفك ثمن ازار (قال) : قال عبد الرزاق : و كانت بیده الدنيا كلها الا ما كان من الشام))

”ابو حیان تیمی کے والد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر دیکھا کہ آپ فرماء ہے تھے: کون میری تلوار کو خریدے گا؟ اگر میرے پاس قمیض خریدنے کی رقم ہوتی تو اس کو نہ بیچتا۔ پس ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا: ہم ایک قمیض کی رقم آپ کو قرض دیتے ہیں۔ عبد الرزاق نے کہا: یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ پوری دنیا کے اسلام کی حکمرانی علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی ہوائے شام کے۔“

### قمیض کے لیے رقم:

((بالاسناد ، عن مجمع التیمی قال: خرج علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بسیفہ الى السوق فقال : من یشتري منی سيفی هذا فلو کان عندي اربعة دارهم اشتري بها ازارا ما بعنه))

”جمع تیمی نے کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ بازار میں آئے اور فرمایا: کون میری اس تلوار کو خریدے گا؟ اگر میرے پاس قمیض خریدنے کے لئے چار درهم ہوتے تو میں اس تلوار کو فروخت نہ کرتا۔“

### ایک ہی قمیض ..... گلی قمیض میں خطبہ:

((بالاسناد ، عن ابی اسحاق السبیعی قال: كنت علی عنق ابی یوم الجمعة و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یخطب و هو یتروح بکمه فقلت : يا ابہ امیر المؤمنین یجدد الحر؟ فقال لی : لا یجدد حرولا بردا، ولكن غسل قمیصہ و هو رطب

و لا له غيره فهو يتروح به))

”ابو اسحاق سباعی کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں اپنے والد کے کندھے پر سوار تھا، اس وقت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے اور اپنی آشیانیوں کو حرکت دے رہے تھے۔ میں نے اپنے والد سے کہا: امیر المؤمنین گرمی محسوس کر رہے ہیں؟ میرے والد نے کہا: نہ گرمی محسوس کر رہے ہیں اور نہ سردی، بلکہ ان کی قمیص گیلی ہے، چونکہ ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور قمیص نہیں اس لیے اس کو ہلا رہے ہیں تاکہ حنک ہو جائے۔“

### لی خوشنودی کا باعث بنے والی چیز:

((عن سعد بن كلثوم قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد فذكر امير المؤمنين علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فاطراه ومدحه بما هو اهلہ۔ ثم قال: والله ما اکل علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ من الدنيا حراماً قط حتى مضى لسیله وما عرض له امران قط هما لله رضی الا اخذ باشد هما عليه في دینه))

”سعد بن مكتوم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھے، آپ نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کئے، جن فضائل کے حضرت لاکن تھے ان کی شان میں بیان فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا: اللہ کی قسم! علی ابن ابی طالب نے دنیا میں کبھی بھی حرام نہیں کھایا، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور کوئی دو چیزیں جو اللہ کی خوشنودی کا باعث تھیں ان کو پیش نہیں کی گئیں مگر یہ کہ ان میں سے اہم ترین کو اپنے دین کیلئے پسند کیا۔“

### ب سے زیادہ زائد:

((عن قمیصہ بن جابر قال: ما رأیت ازهد فی الدنیا من علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ))

”قمیصہ بن جابر نے کہا: میں نے اس دنیا میں کسی کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ زائد نہیں دیکھا۔“

### مد کی عطا کردہ زینت:

((بالاستناد، قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم: يا علی! ان الله تعالى قد زينك بزينة لم تزين العباد بزينة احب الى الله تعالى منها: هي زينة الابرار عند الله عزوجل ، الزهد في الدنيا ف يجعلك لا ترزى من الدنيا شيئاً ولا ترزى الدنيا منك شيئاً و وهب لك حسب المساكين ف يجعلك ترضى بهم اتباعاً ويرضون بك اماماً))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! اللہ تعالیٰ نے تم کو اس دنیا میں ایک الیک زینت سے نوازا ہے جو اللہ کے نزدیک بہترین زینت ہے۔ اس نے کسی اور کو اس زینت سے نہیں نوازا۔ یہ زینت ان کی زینت ہے جو اللہ کے نزدیک صالحین میں سے گئے جاتے ہیں اور یہ نیکی دنیا میں ہے۔ تم کو اللہ نے ایسے قرار دیا ہے کہ دنیا تم سے دور ہے اور تم دنیا سے بیزار ہو اور تم کو ماسکین کا دوست بنایا اور تم کو ایسے قرار دیا کہ تم ان کی پیروی سے خوش ہو اور وہ تمہاری سرداری سے خوش ہیں۔“

### غلاموں جیسا لباس و کھانا:

((بالاسناد، عن ابی جعفر الباقر رضی اللہ عنہ انه قال: والله ان کان علی لیا کل اکل العبدو یجلس جلسۃ العبد، وان کان لیشتراى القمیصین السنبلانیین فی خیر غلامہ خیر هما ثم یلبس الآخر))

”امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! حضرت علی غلاموں کی مانند کھانا کھاتے تھے اور ان کی طرح بیٹھتے تھے اور عموماً دو لباس سنبلانی خریدا کرتے تھے۔ ان میں سے بہترین اور عمدہ لباس غلام کو دیا کرتے تھے اور دوسرا خود پہنا کرتے تھے۔“

### پیوند لگا لباس اور جوتے:

((کان علی رضی اللہ عنہ: یلبس لباساً مرقوعاً و نعلاه من لیف))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ پیوند لگا ہوا لباس پہنتے تھے اور آپ کے جوتے کھجور کی چھال سے بنے ہوئے تھے۔“

### خود جوتے کی مرمت کرنا:

((بالاسناد، عن ابی عبد اللہ عن علی رضی اللہ عنہ انه کان یمشی فی نعل واحدة

ویصلح الاخری لا یرى بذلك بأسا))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ بعض اوقات پاؤں میں ایک جوتا کہن کر چلتے تھے اور دوسرے کی مرمت کرتے تھے اور اس کام کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔“

### پیوند لگا لباس تکبر کا علاج:

((وکان علی رضی اللہ عنہ یرفع قمیصہ، ويقول: ان لبس المرقوع يخشم القلب

ویقتدى به المؤمن))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لباس کو خود پیوند لگاتے تھے اور فرماتے تھے: پیوند والالباس دل میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے اور مومنین اس کی پیروی کرتے ہیں۔“

ب مسکین کی طرح:

((قال امیر المؤمنین رضی الله عنہ : ان الله جعلنی اماما لخلقہ ففرض علی التقدیر  
فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس کی یقتدی الفقر بفقری ولا  
یطغی الغنی غناه))

”امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لیے رہنمایا اور مجھ سے اقرار لیا گیا  
ہے کہ میں اپنی خوراک، لباس اور خوردنوں میں مسکین اور غریب لوگوں کی مانند زندگی بسر کروں تاکہ محتاج  
اور نیاز مندوگ میرے فقر کی اطاعت کریں اور مالدار لوگ بے نیازی کی وجہ سے سرکشی اختیار نہ کریں۔“

دنیا کی پستی:

((عن علی رضی الله عنہ : لدنيا کم عندی اھون من عراق خنزیر علی ید مجدد (م))  
”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک اس خزیر سے بھی پست تر ہے جو جذامی  
شخص کے ہاتھ میں ہے۔“

دنیا کو تین طلاقیں:

((وقال علی رضی الله عنہ : یا دنیا یا دنیا ابی تعرضت، ام الی تشوقت لا حان حینک  
ھیهات غری غیری لا حاجۃ لی فیک ، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لی فیک ، وله رضی  
الله عنہ :

طلق الدنيا لثلاث  
واتخذ زوجا سواها  
انها زوجة سوء  
لا تبالى من اتها

”امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے دنیا! اے دنیا! آیا اپنے آپ کو مجھے پیش کر رہی ہوا اور  
مجھ سے محبت کرنا چاہتی ہو؟ کبھی بھی تیرا وقت نہیں آئے گا۔ افسوس! کسی اور کو دھوکا اور فریب دنے۔ مجھے  
تیری ضرورت نہیں! میں نے تجھے تین طلاقیں دی ہیں اور تجھے سے رجوع نہیں کروں گا۔ (یہ شعر بھی  
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے) دنیا کو تین طلاقیں دے کر دوسری شریک حیات کا انتخاب کرلو! کیونکہ وہ  
بری ہم سفر ہے اور اس (دنیا) کے لئے فکر مند نہ ہو کہ کون اس کا پیچھا کرتا ہے۔؟“



فصل نمبر 25:طعام علی رضی اللہ عنہ:

## حضرت علی کی غذا

رسول اللہ سے مشابہ کھانا:

((بالاسناد، عن زید بن الحسن قال: سمعت ابا عبد الله رضی اللہ عنہ يقول: کان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اشبه الناس طعمة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یا کل الخبر والخل والزیت ویطعم الناس الخبز واللحم))

”زید بن حسن نے کہا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ اپنی خوراک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ خود روٹی، سرکہ اور زیتون کا تیل کھایا کرتے تھے اور لوگوں کو روٹی اور گوشت دیا کرتے تھے۔“

غیر مسنون کھانا کھانے سے انکار:

((عن عدی بن ثابت قال :اتی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ بالفالوذج فابی ان یا کل منه، وقال :شی لم یا کل منه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا احباب ان اکل منه))

”عدی بن ثابت نے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کیلئے فالوذج لا یا گیا۔ آپ نے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا: میں اس چیز کو کھانا پسند نہیں کرتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا ہو۔“

جس چیز کی عادت نہیں:

((عن حبة العرنی: ان علیا رضی اللہ عنہ اتی بالفالوذج فوضع قدامہ فقال :والله انك لطیب الریح، حسن اللون، طیب المطعم، ولكنی اکرہ ان اعود نفسی ما لم تعتمد))

”حبة العرنی نے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیلئے فالوذج لا یا گیا اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! تو بہت خوش رنگ، خوبصوردار اور لذیز ہے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ جس چیز کی مجھے عادت نہیں اس کی عادت ڈالوں۔“

غلاموں جیسا پاس و کھانا:

((بالاسناد، عن ابی جعفر الباقر رضی اللہ عنہ انه قال :والله ان کان علی لیا کل اکل العبدو یجلس جلسۃ العبد))

”امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! حضرت علی غلاموں کی مانند کھانا کھاتے تھے اور ان کی طرح بیٹھتے تھے۔“

### نمک کے ساتھ روٹی تناول کرنا:

((عن الاسود و علقمة قالا: دخلنا على أمير المؤمنين رضي الله عنه و بين يديه طبق من خوص عليه قرص او قرصان من شعير و ان اسطار النخالة لتبين في الخبر و هو يكسر على ركبتيه ويأكل بملح جريش، فقلنا لجارية له سوداء اسمها فضة: الا نخلت هذا الدقيق لا أمير المؤمنين رضي الله عنه؟ فقالت: ايَا كُلْ هُوَ الْمَهْنَا وَيَكُونُ الْوَزْرُ فِي عَنْقِي؟ افتبسم رضي الله عنه وقال: انا امرتہاں لا تنخللہ، قلنا: وَلِمْ يَا امیر المؤمنین؟ قال: ذلك لا جدر ان تذل النفس و يقتدی بی (لی) المومن والحق باصحابی))

”اسود اور علقمة کہتے ہیں: ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا اور اس میں ایک یا دو روٹیاں جو کی رکھی ہوئیں تھیں جن پر بھوسی ظاہر تھی اور جناب علی نے روٹی کو زانو پر کھا تھا اور توڑ کر نمک کے ساتھ تناول فرمائے تھے۔ ہم نے ان کی جبکہ کنیز جس کا نام فضة تھا سے کہا: امیر المؤمنین علی الرضا کیلئے آٹا کیوں نہیں چھانا؟ کنیز نے کہا: آیا امیر المؤمنین خوش مزہ اور لذید کھانا کھائیں اور اس کا گناہ مجھ پر ہو؟ جناب علی مسکرائے اور فرمایا: میں نے اسے کہا ہے کہ آٹے کو صاف نہ کرے۔ ہم نے کہا: کیوں یا امیر المؤمنین! انہوں نے فرمایا: یہ اپنے نفس کو حقیر اور ذلیل کرنے کیلئے بہتر ہے، کیونکہ مومنین میری پیروی کرتے ہیں اور میں بھی اپنے اصحاب کے ساتھ متصل ہو جاؤں۔“

### سادہ ترین غذا:

((روى عن سعيد بن غفلة قال: دخلت على علی رضي الله عنه فوجده جالساً و بين يديه اناناء فيه لبن اجدريخ حموضته في يده رغيف ارى قشار الشعير في وجهه وهو يكسره بيده ويطرحه فيه، فقال: ادن فاصب من طعامنا، فقلت: انى صائم))

”سوید بن غفلہ نے کہا کہ ہم جناب علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، دیکھا آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں تھوڑی سی تھی اور اس کی کھٹائی کی بوحسوس ہو رہی تھی، آپ کے پاس جو سے بنی ہوئی روٹی جس پر جو کے حصکے ظاہر تھے، تھی، اس کو توڑ کر لی میں ڈال رہے تھے اور مجھ سے فرمایا: میرے قریب آؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے عرض کیا: میرا روزہ ہے۔“

فصل نمبر 25:طعام علی رضی اللہ عنہ:

## حضرت علی کی غذا

رسول اللہ سے مشاہد کھانا:

((بالاسناد، عن زید بن الحسن قال: سمعت ابا عبد الله رضی اللہ عنہ يقول: کان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اشہد الناس طعمة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یا کل الخبر والخل والزیت ويطعم الناس الخبز واللحم))  
 ”زید بن حسن نے کہا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ اپنی خوراک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ خود روٹی، سرکہ اور زیتون کا تیل کھایا کرتے تھے اور لوگوں کو روٹی اور گوشت دیا کرتے تھے۔“

غیر مسنون کھانا کھانے سے انکار:

((عن عدی بن ثابت قال :اتی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ بالفالوذج فابی ان یا کل منه، وقال :شی لم یا کل منه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا احب ان اکل منه))  
 ”عدی بن ثابت نے کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کیلئے فالوذج لایا گیا۔ آپ نے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا: میں اس چیز کو کھانا پسند نہیں کرتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کھایا ہو۔“

حس چیز کی عادت نہیں:

((عن حبة العرنی: ان علیا رضی اللہ عنہ اتی بالفالوذج فوضع قدامہ فقال: والله انك لطیب الریح، حسن اللون، طیب المطعم، ولكنی اکرہ ان اعود نفسی ما لم تعتمد))  
 ”حبة العرنی نے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیلئے فالوذج لایا گیا اور اسے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! تو بہت خوش رنگ، خوبصوردار اور لذیز ہے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ حس چیز کی مجھے عادت نہیں اس کی عادت ڈالوں۔“

غلاموں جیسا لباس و کھانا:

((بالاسناد ، عن ابی جعفر الباقر رضی اللہ عنہ انه قال: والله ان کان علی لیا کل اکل العبدو یجلس جلسۃ العبد))

”امام پا قرضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! حضرت علی غلاموں کی مانند کھانا کھاتے تھے اور ان کی طرح بیٹھتے تھے۔“

### نمک کے ساتھ روٹی تناول کرنا:

((عن الاسود و علقمة قالا: دخلنا على أمير المؤمنين رضي الله عنه و بين يديه طبق من خوص عليه قرص او قرصان من شعير و ان اسطار النخالة لتبين في الخبر وهو يكسر على ركبتيه ويأكل بملح جريش، فقلنا لجارية له سوداء اسمها فضة: الا نخلت هذا الدقيق لا أمير المؤمنين رضي الله عنه؟ فقالت: ايَا كُلْ هُوَ الْمَهْنَا وَيَكُونُ الْوَزْرُ فِي عَنْقِي؟ افتبسم رضي الله عنه وقال: انا امرتہاں لَا تَنْخَلِه، قلنا: وَلِمْ يَا امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قال: ذلِكَ لَا جَدَرَ اَنْ تَذَلِّلَ النَّفْسُ وَيَقْتَدِي بِي (لي) الْمُؤْمِنُ وَالْحَقُّ باصحابي))

”اسود اور علقمه کہتے ہیں: ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ کے سامنے کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا اور کھانا کھا رکھا ہوا تھا اور اس میں ایک یادور ویٹاں جو کی رکھی ہو سیں تھیں جن پر بھوسی ظاہر تھی اور جناب علی نے روٹی کو زانو پر رکھا تھا اور توڑ کر نمک کے ساتھ تناول فرمائے تھے۔ ہم نے ان کی جب شی کنیز جس کا نام فضہ تھا سے کہا: امیر المؤمنین علی الرضا کیلئے آتا کیوں نہیں چھانا؟ کنیز نے کہا: آیا امیر المؤمنین خوش مزہ اور لذید کھانا کھائیں اور اس کا گناہ مجھ پر ہو؟ جناب علی مسکرائے اور فرمایا: میں نے اسے کہا ہے کہ آئے کو صاف نہ کرے۔ ہم نے کہا: کیوں یا امیر المؤمنین! انہوں نے فرمایا: یہ اپنے نفس کو حقیر اور ذلیل کرنے کیلئے بہتر ہے، کیونکہ مؤمنین میری پیروی کرتے ہیں اور میں بھی اپنے اصحاب کے ساتھ متصل ہو جاؤ۔“

### سادہ ترین غذا:

((روى عن سعيد بن غفلة قال: دخلت على علی رضي الله عنه فوجده جالساً و بين يديه انانه فيه لبن اجد ريح حموضته في يده رغيف ارى قشار الشعير في وجهه وهو يكسره بيده ويطرحد فيه، فقال: ادن فاصب من طعامنا، فقلت: اني صائم))

”سوید بن غفلہ نے کہا کہ ہم جناب علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، دیکھا آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا تھا جس میں تھوڑی سی تھی اور اس کی کھدائی کی بمحسوں ہو رہی تھی، آپ کے پاس جو سے بنی ہوئی روٹی جس پر جو کے جھلکنے ظاہر تھے، تھی، اس کو توڑ کر سی میں ڈال رہے تھے اور مجھ سے فرمایا: میرے تریب آؤ اور ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے عرض کیا: میرا روزہ ہے۔“

### گوشت کھانے سے صبر:

((وروى ان علیاً رضى الله عنه اجتاز بقصاب وعنه لحم سمين، فقال يا امير المؤمنين: هذا اللحم سمين اشترب منه، فقال له: ليس الشمن حاضراً، فقال: أنا أصبر يا امير المؤمنين ، فقال له :انا اصبر عن اللحم))

”منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک قصاب کے قریب سے گزرے، اس کے پاس موٹا تازہ گوشت رکھا ہوا تھا۔ اس نے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ سے کہا: یا امیر المؤمنین! یہ موٹا اور تازہ گوشت ہے مجھ سے خرید لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پیسے نہیں ہیں۔ قصاب نے کہا: میں صبر کروں گا۔ فرمایا: میں گوشت کھانے سے صبر کر لیتا ہوں۔“

### پورے سال میں بس قربانی کا تھوڑا سا گوشت:

((قال علی رضی الله عنه :إن امیر کم هذا قد رضی من دنیا کم بطعمیه، وانه لا يأكل اللحم فی السنة الا الفلذة من کبدًا ضحیة))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارا حکمران تمہاری اس دنیا میں دوپرانے لباس پر راضی ہے اور پورے سال میں گوشت نہیں کھاتا فقط قربانی کا تھوڑا سا جگہ اس کیلئے کفایت کرتا ہے۔“

### مکھن اور زیتون کے تیل سے پرہیز:

((وعن الاحنف بن قیس قال :دخلت على علی رضی الله عنه وقت افطاره اذا دعا بجراب مخخوم فيه سویق الشعیر قلت له: یا امیر المؤمنین خفت ان یوخذ منه فختمت فيه؟ قال :لا ولكن خفت ان یلینه "يلتهظ" الحسن او الحسین بسم اوزیت قلت : هما حرام عليك؟ قال :لا ولكن يجب على الائمة ان یغتذوا بعذاء ضعفاء الناس وافقرهم کیلا یشکو الفقیر من فقره ولا یطغی الغشی لغناه))

”احنف بن قیس نے کہا کہ میں افطاری کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت علی نے جو کے آئے کی تھی میگوائی جس کامنہ بندھا ہوا تھا، میں نے کہا: یا امیر المؤمنین! اس خوف سے کہ کوئی اس تھیلی میں سے کچھ آٹا اٹھانے لے منہ باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ فرمایا: نہیں! مجھے ذر ہے کہ کہیں حسن یا حسین اس آئے پر مکھن یا زیتون کا تیل نہ لگادیں۔ ہم نے کہا: کیا یہ دونوں چیزیں آپ پر حرام ہیں؟ فرمایا: نہیں! لیکن راہبرانِ قوم پر لازم ہے کہ ان کی غذا الیکی ہو جیسی غریب لوگ کھاتے ہیں تاکہ غریب اور محتاج لوگ اپنی غربت اور فقیری کی شکایت کرنے والے نہ ہوں اور دولتِ مدن لوگ بے نیازی کی وجہ سے سرکشی اختیار نہ کریں۔“

### کھانے والی تھلی کو باندھنا:

((کان علی رضی اللہ عنہ یطبع فی کل یقم صاعاً من الشعیر ووضعه فی شیء ویختتم راسه و یا کل منه عند افطاره قرصاً، وقد یا کل من دقیقہ غیر مطبوخ، وسئل عن ختمه فقال رضی اللہ عنہ :مخافة ان یلتہ الحسن والحسین بزیت))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ روزہ ایک صاع جو کے آٹے سے روٹی بنائے کرے تھلی میں ڈال کر تھلی کامنہ بند کر دیتے تھے، افطار کے وقت اس میں سے ایک روٹی نکال کر تناول فرماتے تھے اور کبھی کبھار صرف ستو تناول کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تھلی کے باندھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: مجھے خوف ہے کہ حسن اور حسین اس پر کھی نہ لگادیں۔“

### ابنے کھانے کے حفاظت:

((وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْتَمُ عَلَى الْجَرَابِ الَّذِي فِيهِ دَقِيقُ الشَّعِيرِ الَّذِي يَا كُلَّ مِنْهُ وَيَقُولُ: لَا أَحُبُّ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنِي إِلَّا مَا أَعْلَمُ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ جس تھلی میں جو کا آٹا تھا اس میں سے تناول فرمائے کرے اس کو باندھ دیتے تھے اور فرماتے تھے: میں پسند نہیں کرتا کہ سوائے اس چیز کے جسے میں جانتا ہوں کوئی چیز میرے شکم میں داخل ہو۔“



### فصل نمبر 26:

### علی رضی اللہ عنہ والبرکۃ فی کده و غرسہ:

### حضرت علی کی محنت اور شجر کاری کی برکتیں

### بے شمار درختوں کی کاشت:

((عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: ان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کان یخرج و معه احمال النؤی ، فيقال له: يا ابا الحسن اما هذا معلک؟ فيقول: نخل ان شاء الله فيغرسه فلم یغادر (فما یغادر) منه واحدة))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجور کی گھلیوں کا وزن اٹھا کر باہر جا رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا: ابو الحسن! یہ کس چیز کا وزن ہے؟ فرمایا: اگر اللہ نے چاہا تو درخت ہیں۔ پھر ان کو کاشت کیا اور ایک دانہ بھی باقی نہ چھوڑا۔“

ایک لاکھ کھجور کے درخت:

((عن زرارہ، عن ابی جعفر رضی اللہ عنہ قال: لقی رجل امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ وتحتہ وسق من نوی، فقال له: ما هذا يا ابا الحسن تحتك؟ فقال: مائة الف عذق ان شاء اللہ ، قال: فغرسه فلم يغادر منه نواة واحدة))

”زرارہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک شخص نے امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ کھجور کی گھٹلیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے پوچھا: ابو الحسن! کسی چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا: انشاء اللہ! ایک لاکھ کھجور کے درختوں پر۔ وہ شخص کہتا ہے: جناب علی نے سب کو کاشت کیا، ایک گھٹلی بھی باقی نہ چھوڑی۔“

تین لاکھ کھجور کے درخت:

((قال ابن داب: فكان يحمل الوسق فيه ثلاثةمائة ألف نواة فيقال له: ما هذا؟ فيقول: ثلاثةمائة ألف نخلة ان شاء الله، فيغرس النوى كلها فلا تذهب منه نواة يتبع واعا جيبيها))

”ابن داب کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے پر یو جھا اٹھایا ہوا تھا جس میں تین لاکھ کھجور کی گھٹلیاں تھیں۔ ان سے پوچھا گیا: یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تین لاکھ کھجور کے درخت اگر اللہ نے چاہا تو پھر آپ نے تمام گھٹلیوں کو پیغام کی زرخیزی میں میں کاشت کر دیا اور کوئی دانہ بھی ضائع نہ ہوا۔“

☆☆☆

فصل نمبر 27:سخاء علی رضی اللہ عنہ و کرمہ:حضرت علی کی سخاوت اور کرم کا بیانجود و سخا..... عجھے اور ظاہر:

جود و سخا میں فرق یہ ہے کہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے اور ”جواد“ وہ ہے جو خود نہ کھائے بلکہ دوسروں کو بغیر کسی غرض و عوض کے کھلائے اور بخیل وہ ہے جو نہ خود کھائے اور نہ دوسروں کو کھلائے۔ جواد حقیقی اللہ سبحانہ کی صفت ہے جو بغیر کسی غرض و عوض کے مخلوقات کو نوازا تھا اور پھر اللہ کی عطا سے اس کائنات کے سب سے بڑے جواد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس صفت جوادیت سے اپنے تمام صحابہ کو نوازا ہے اور بلاشبہ جو صحابی جتنے قریب رہے وہ اتنے ہی فیضیاب ہوئے۔

ذیل میں ہم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دو سخاکے چند واقعات پیش کرتے ہیں:  
قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے:

((الذین ینفقون اموالہم باللیل و النهار سرًّا و علا نیة))

(پارہ 3، رکوع 2 سورۃ بقرہ)

”وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں دن اور رات میں چھپے اور ظاہر۔“

یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جبکہ آپ کے پاس صرف چار دراهم تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ نے ان چاروں کو خیرات کر دیا۔ ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر۔

صدقہ کرنا بہت ہی افضل عمل ہے اور بالخصوص چھپ کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ ظاہر کر کے بھی دیا اور پوشیدہ بھی تاکہ بہتر پر بھی عمل ہو جائے اور بہتر سے بہتر پر بھی۔

### جناب مقداد پر صدقہ:

((وفي حديث ابن عباس ان المقداد قال له :انا منذ ثلاثة ايام ما طعمت شيئا ، فخرج امير المؤمنين وباع درعه بخمسة مائة، ودفع اليه بعضها وانصرف متثيرا فنادى اعرابي :اشترمنى هذه الناقة موجلا ، فاشتراها بمائة درهم ومضى الاعرابي ، فاسقبله آخر و قال : يعني هذه الناقة بمائة وخمسين درهما فباع وصالح يا حسن و يا حسين ! مضيافى طلب الا عرابي ، وهو على الباب ، فرأى النبي فقال وهو متسم : يا على الا عرابي صاحب الناقة جبرائيل والمشتري ميكائيل ، يا على ، المائة عن الناقة والخمسين بالخمس التي فعتها الى المقداد ثم تلا : ومن يتق الله يجعل له مخرجا ))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جناب مقداد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: تین دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت علی اپنے بیت الشرف سے باہر لکھ اور پانچ سو دراهم میں اپنی زرد فروخت کی اور اس رقم میں سے کچھ حصہ مقداد کو دے کر حالات کے بارے میں سوچتے ہوئے واپس لوئے، راستے میں ایک اعرابی (بادیہ نشین) نے حضرت علی سے کہا: اس اونٹ کو مجھ سے ادھار خرید لو! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سو دراهم کا اونٹ خرید لیا۔ اعرابی چلا گیا، ایک اور شخص پہنچا اور کہا: اس اونٹ کو مجھے ذریثہ سو دراهم میں پنج دو! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اونٹ فروخت کر دیا۔ آپ گھر کے قریب کھڑے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو آواز دی اور فرمایا: اعرابی کے پیچھے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور تبسم کرتے ہوئے فرمایا: اے علی! اونٹ کے مالک جبرایل اور خریدنے والے میکائیل تھے۔ اے علی! سو دراهم اونٹ کے بدلتے میں اور پچاس دراهم پانچ دراهم کے

بدلے میں جو مقدار کو دیئے۔ اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی: ”وَمَنْ يَعْقِلَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا“، ”جَوَ اللَّهُ سَدَّ ذُرَى إِلَيْكُمْ كَا الْمَدَّسَ كَمْ لَيْ كَثَاثِشْ پَيْدَا فَرَمَادَهْ كَا“، فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَخَرَجَ هِيَ خَرَجَ كَرَتَهْ جَانَاهْ

((وروى محمد بن فضيل بن غزوان قال: قيل لعلي رضي الله عنه : كم تصدق ؟ كم تخرج مالك ؟ الا تمسك ؟ قال : انى والله لو اعلم ان الله تعالى قبل مني فرضاً واحداً لا مسكت ، والكنى والله لا ادرىما قبل سبحانه مني شيئاً ام لا ))

”محمد بن فضیل بن غزوان نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: کتنا صدقہ دیتے ہو؟ اور اپنے مال میں سے کتنا خرج کرتے ہو؟ آیا کچھ اپنے لیے نہیں رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اگر یہ جان لوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایک واجب عمل کو قبول کر لیا ہے تو کچھ اپنے لیے بھی رکھ لوں گا، لیکن اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا کہ اللہ نے مجھ سے کوئی چیز قبول کی ہے یا نہیں۔؟“

### آیت کریمہ کا نزول:

((عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن حسن عن جده قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب سائل وهو راكع في صلاة التطوع فنزع خاتمه فاعطاه السائل فاتى رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم فاعلمـه ذلك فنزل على النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم هذا الآية: انما وليكم الله ورسوله الى آخر الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم : من كنت مولاـه فـانـ عـلـيـاـ مـوـلاـ ، اللـهـمـ وـالـمـ وـالـ وـعـادـ من عـادـ))

”حسن بن زید نے اپنے والد زید بن حسن اور اس نے اپنے اجداد سے اور انہوں نے حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نافلہ نماز کے رکوع میں تھے کہ ایک سائل نے ان کے نزدیک کھڑے ہو کر مدد مانگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکھوںی اتاری اور سائل کو دے دی۔ سائل رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس ماجرے سے ان کو آگاہ کیا تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ”انما وليكم الله رسوله“ رسول اللہ صلى اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اے اللہ! دوست رکھ اس کو جو اس کو دوست رکھتا ہے اور اس سے دشمنی رکھ جو اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔“

### حالـتـ نـماـزـ مـیـلـ صـدـقـهـ:

((وروى الشعـلـبـيـ فـيـ تـفـسـيرـةـ ؓـ انـ عـبـدـ اللـهـ بـنـ العـبـاسـ كـانـ عـلـيـ شـفـيرـ زـمزـ وـهـ يـقـولـ :

سمعت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول : وهو (يكرر الاحادیث) اذ اقبل رجل معتم بعمامة وقد غطى بها اکثر وجهه فكان ابن عباس لا يقول ، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ والا وقال ذلك الرجل: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ ، فقال ابن عباس : بالله عليك من انت؟ فكشف العمامة عن وجهه وقال : ايها الناس امن عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا اعرفه بنفسي انا جندب بن جنادة ابو ذر الغفاری سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ بهاتین والا صمتا (يعنى اذنی) ورأيته بهاتين (يعنى غئیہ) والا عمیتا، يقول : على قائد البرة، على قاتل الكفرة، منصور من نصره مخدول من خذله ملعون من جحود لايته، اما انى صليت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه احد شيئا فرفع السائل يده الى السماء وقال : اللهم اشهدك انى سالت في مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يعطني احد شيئا، وكان امير المؤمنين على رضي الله عنه راكعا فاومن اليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيها فاقبل السائل حتى اخذ الخاتم من خنصره والنبي صلی اللہ علیہ وآلہ شاهده فلما فرغ من صلاته رفع راسه الى السماء وقال : اللهم! ان اخي موسى سالك فقال : رب اشرح لي صدری ويسر لی امری ، واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلى هارون اخي اشدديه ازری - واسركه في امری اللهم فانزلت عليه قرآننا طقاً سنشد عضدك باخليك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليکما بآياتنا اللهم وانا محمد نبیک وصفیک اللهم فاشرح لي صدری ويسر لی امری واجعل لی وزیرا من اهلى علياً اخي اشدديه ظھری وقال ابو ذر : فما استتم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ کلامه حتى نزل جبرائيل من عند الله فقال : يا محمد! اقرا، قال : وما اقرا، قال : اقرا: انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ویوتون الزکاة وھم راکعون)

”شلبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما زمزم کے کنارے پیٹھے ہوئے تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کر رہے تھے، اسی دوران ایک شخص جس نے سرپر عمامہ رکھا ہوا تھا اور عمامے سے اپنے چہرے کوڈھانپا ہوا تھا، وہ داخل ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو بھی حدیث رسول سے نقل کر رہے تھے یہ شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کر رہا تھا۔ اس نے اپنا عمامہ منہ سے ہٹایا اور کہا: اے لوگو! جو بھی مجھے جاتا ہے سو جاتا ہے اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنا تعارف کرو ارہا ہوں۔ میں جندب بن جنادة ابو ذر غفاری ہوں۔ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اگر نہ سنا تو میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں اور ان دونوں آنکھوں سے دیکھا اگر نہ دیکھا، تو میری دونوں آنکھیں انڈھی ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی صالحین کے رہبر اور کافروں کے قاتل ہیں، جوان کی مدد کرے گا اس کی مدد ہو گی اور جوان کی مدد کرنے سے دربغ کرے گا وہ پیشہ مان ہو گا اور جوان کی ولایت کا منکر ہو گا وہ ملعون ہو گا۔ جان لیں! ایک دن میں نے ظہر کی نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ ایک سائل مسجد میں داخل ہوا اور کچھ مانگا لیکن کسی نے اس کو کوئی چیز نہ دی۔ سائل نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کئے اور کہا: اے اللہ! گواہ رہنا، میں رسول اللہ کی مسجد میں گدایی کرنے آیا ہوں، لیکن کسی نے کوئی چیز نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حالت رکوع میں تھے۔ چھوٹی انگلی سے جس میں انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ سائل کو اشارہ کیا، سائل آیا اور حضرت علی کی انگلی سے انگوٹھی اتاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جس وقت علی رضی اللہ عنہ کی نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا: اے اللہ! میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے درخواست کی اور کہا: پروردگار! تو میرے لئے سیدنا کوشادہ فرمادا اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان کی گراہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ لیں اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنادے، اسکے ذریعہ سے میری پشت مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو میرا شریک بن۔ اے اللہ! تو نے پھر اس کلام کو ان پر نازل کیا اور جلد ہی اس کے بازو کو اس کے بھائی کے ذریعہ سے مضبوط بنایا اور تم دونوں کو اپنے متجزات کے ذریعہ سے مسلط کریں گے تاکہ وہ تم تک نہ پہنچ سکیں۔ اے اللہ! میں محمد تیرا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تو میرے لئے میرے سیدنا کوشادہ فرمادا اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے اور میرے خاندان میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنادے اور اس کے ذریعہ سے میری پشت مضبوط کر دے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت جبرايل اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اور کہا: یا محمد! پڑھئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا پڑھوں؟ کہا: پڑھئے ”انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون“

”تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ مومنین ہیں جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“

### تمن دن مسلسل صدقہ کرنا:

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

”ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیار ہو گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم مع صحابہ کرام بیمار پری کو تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تمہارے فرزند بیمار ہیں۔ تم اللہ کے لئے کوئی نذر مانو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ خاتون جنت اور آپ کی لوڈی فضہ سب نے تین روزوں کی نذر مانی۔ دونوں شہزادے اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہوئے تو تینوں نے روزے رکھے۔ جس دن روزہ رکھا اس دن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ آپ شمعون یہودی کے پاس گئے اور چند سیر جو بطور قرض لائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس میں سے کچھ جو جگہ میں پیسے اور گھر کے پانچ آدمیوں کے حساب سے شام کی روٹیاں پکائیں اور افطار کے وقت لا کر سامنے رکھیں، ابھی لقہ لے کر منہ میں نہ ڈالا تھا کہ دروازے پر آ کر ایک فقیر نے سوال کیا: سلامتی ہوتی ہو تم پر اے اہل بیت رسول! میں ایک مسکین مسلمان ہوں، تمہارے دروازے پر آیا ہوں، مجھے کھانا دو! اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے دستِ خوانوں پر کھلانے گا۔ یہ سن کر ان مقدس حضرات نے وہ ساری روٹیاں اس مسکین سائل کے حوالے کر دیں اور خود پانی پی کر سور ہے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، اسی طرح کچھ جو پیس کر شام کو کھانا تیار کیا، افطار کے وقت ایک یتیم آگئا۔ وہ روٹیاں اس کو دے دیں اور پانی پی کر تیسرا دن کا بھی روزہ رکھ لیا۔ تیسرا دن ایک غلام آیا اور ساری روٹیاں اس کے حوالے کر دیں۔ چوتھے روز صبح کو اٹھئے تو بھوک کی شدت اور ضعف سے چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھنے کے لئے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب کی حالت دیکھی تو بے قرار ہوئے، یہاں تک کہ آنکھیں اٹک بار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی۔ اس وقت جریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا: اے اہل بیت رسول! تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخْافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَهُ مُسْتَطِيرًا وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبَّةٍ مَسْكِينًا وَيَتَيمًاً وَأَسِيرًا))  
(سورۃ الدھر)

”(یہ ہیں وہ لوگ) جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی پھیلی ہوئی ہے اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر (حالانکہ خود ضرورت ہے) مسکین و یتیم و اسیر کو۔“  
(تفییر کبیر 8/276، خازن و مدارک 4/340، الریاض النظر 2/302، روح البیان 6/546)

### ایک دن میں چار ہزار دینار صدقہ:

محمد بن کعب قرظی (تابعی) کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:  
”ایک وقت وہ تحاجب میں بھوک کی شدت سے پیٹ پر پھر باندھتا تھا اور آج وہ وقت ہے کہ میں ایک

دن میں چار ہزار دینار صدقہ کرتا ہوں۔“  
(اسد الغابہ، جلد 3، صفحہ 23=24)

### مہمان کی آمدت ہونے پر روتا:

ایک دن امیر المؤمنین حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا:  
”آپ کیوں رورہے ہیں؟“

آپ نے فرمایا:

”اس لئے رورہا ہوں کہ سات دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔“

### خرج کرنے کا حکم:

حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے:

”جب دنیا تمہارے سامنے (پاس) آئے تو خرج کرو کیونکہ وہ تم ہی کو پہنچے گی اور جب وہ تم سے منہ موڑے تب بھی خرج کرو کہ آخر کار وہ رہنے والی نہیں۔“

☆☆☆

### فصل نمبر 28:

### فی عبادة علیٰ رضی اللہ عنہ:

## حضرت علیٰ کی عبادات و وظائف

### اس امت میں سب سے پہلے عبادات الہی کرنے والے:

((قال امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ: عبدت الله قبل ان یعبدہ احد من هذه الامة خمس سنین او سبع سنین))

”امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اللہ کی پانچ سال پہلے عبادت کی، اس سے پہلے کہ اس امت کا کوئی فرد اللہ کی پرستش کرے۔“

### سات سال قبل عبادت:

((قال علیٰ رضی اللہ عنہ: عبدت الله مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ سبع سنین قبل ان یعبدہ احد من هذه الامة))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے پہلے کہ اس امت کا کوئی فرد اللہ کی پرستش کرے میں نے

رسول اللہ کے ساتھ سات سال پہلے اللہ کی عبادت کی۔“

### پوری امت سے نو سال پہلے عبادت الہی:

((بالاسناد، عن عبد الله بن أبي الهذيل عن علی رضی الله عنہ قال :ما اعرف احدا من هذه الامة عبد الله بعد نبینا غیری، عبدت الله قبل ان یعبدہ احد من هذه الامة تسع سنین))

”عبداللہ بن ابی ہذیل سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے سوا اس امت میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کی پرستش کی ہو۔ میں نو سال کا تھا کہ اللہ کی عبادت کی، اس سے پہلے کہ کوئی امتی اللہ کی پرستش کرتا۔“

### سات سال قبل:

((عن جابر عن عبد الله بن يحيى عن علي رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلي الله عليه وآلـه وسلم ثلاث سنين قبل ان يصلى معه احد))

”جناپ جابر بن عبد اللہ بن میگی نے سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے تین سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اس سے قبل کہ کوئی اور نماز پڑھتا۔“

### حالت سجدہ میں دعا:

((عن ابی عبد الله رضی الله عنہ و کان امیر المؤمنین علی رضی الله عنہ یقول و هو ساجد :ارحم ذلی بین یدیک، وتضرعی الیک ، و رحشتی من الناس ، و آنسنی بلک یا کریم))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ جس وقت حالت سجدہ میں ہوتے تھے تو عرض کیا کرتے تھے: اے اللہ! تیرے حضور عاجزی اور انکساری کر رہا ہوں اور تیری بارگاہ میں التجا اور التماس کر رہا ہوں اور مجھے لوگوں کا خوف اور ڈر ہے۔ ان پر رحم فرم۔ اے اللہ! مجھے اپنی محبت کرنے والا قرار دے۔“

### پہلے سجدہ گزار:

((وَكَانَ عَلَىٰ أَوْلَىٰ مِنْ سُجْدَتِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَمْمَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے فرد تھے جنہوں نے اللہ کو سجدہ کیا۔“

### سجدہ کی حالت:

((بالاسناد، عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: کان علی اذا سجد ينحوی كما ينحوی البعیر الضامر))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سجدہ کیا کرتے تھے تو ان کی حالت اس طرح ہوتی تھی جس طرح ایک کمزور اونٹ بیٹھتا ہے۔“

### اللہ تعالیٰ کی دوستی:

((فقال علی رضی اللہ عنہ: الہی کفی بی عزا ان اکون لک عبداً، و کفی بی فخرًا ان تكون لی ربًا، انت کما احباب فاجعلنی کما تحب))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ! یہی عزت میرے لئے کافی ہے کہ تیرابندہ بنوں اور یہی میرے لئے پا عث خر ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ایسا ہے جسے میں دوست رکھتا ہوں اور مجھے بھی ایسا بنا جسے تو دوست رکھتا ہے۔“

### اطاعت اور گناہوں سے دوری:

((عن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ: ایها الناس! انی والله واحشکم علی طاعة الا وسبقتکم اليها، ولا انها کم عن معصية قلا واتنا هی قبلکم عنها))

”امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے لوگو! اللہ کی قسم! میں تمہیں اطاعت کیلئے مجبور نہیں کرتا اس سے پہلے کہ میں خود اس کو انجام دوں اور تمہیں گناہ سے دوری اور پرہیز کیلئے نہیں کہتا اس سے پہلے کہ میں خود گناہ سے دور ہوں۔“

### سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے:

((عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم اول من صلی معي على بن ابی طالب رضی اللہ عنہ))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے جس نے میرے ساتھ نماز پڑھی وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔“

((قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ: هذا اول من امن بي وصدقني و صلی معي))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: یہ وہ پہلا فرد ہے جو مجھ پر ایمان لا یا، میری تصدیق کی اور میرے ساتھ نماز پڑھی۔“

((عن زید بن ارقم انه قال : اول من صلی مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

علی بن ابی طالب))

”حضرت زید بن ارقم نے کہا: جناب علی بن ابی طالب پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔“

((عن سلمة بن کھلیل قال : سمعت حجۃ العونی قال : سمعت علیاً يقول : انا اول من صلی مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم))

”سلمہ بن کھلیل نے کہا کہ میں نے حجۃ عونی سے سنا۔ اس نے کہا: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں پہلا فرد ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔“

### حضرت علیؑ کا وصوا و روضاعائیں:

((بالاسناد ، عن ابی عبد اللہ قال : بینا امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ قاعد و معه ابیه محمد اذقال : يا محمد ایتنی یاناء من ماء فاتاه به فصبه بیدہ الیمنی علی یدہ

الیسری ثم قال : الحمد لله الذی جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجساً ثم استنجى فقال :

اللهم حصن فرجی واعفه واستر عورتی وحر مها على النار ثم استنشق فقال : اللهم لا

تحرم على ريح الجنة واجعلنى ممن يشم ريحها وطيبها وريحانها ثم تمضمض فقال :

اللهم انطق لسانی بذكرك واجعلنى ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال : اللهم بيض وجهی یوم تسود (فیہ) الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض (فیہ) الوجوه ، ثم غسل

یمینه فقال : اللهم اعطنى کتابی بیمینی والخلد بیساری ثم غسل شمالہ فقال : اللهم لا

تعطنی کتابی بشمالی ولا تجعلها مغلولة الى عنقی واعوذ بك من مقطعات النیزان ثم

مسح راسه فقال : اللهم غشی برحمتك وبرکاتك وعفوك ثم مسح على رجلیه فقال :

اللهم ثبت قدمی (على الصراط) يوم تزل فيه الاقدام واجعل سعیی فيما یرضیک عنی

ثم التفت الى محمد فقال : يا محمد امن توضا بمثل ماتوضات وقال مثل ما قلت ،

خلق الله له من کل قطرة ملکا یقدسه ویسبحه ویکبره ویفلله ویکتب له ثواب ذلك۔

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان

کے فرزند محمد بھی ساتھ تھے، اسی دوران میں سے فرمایا: پانی کا برتن میرے لئے لے آؤ۔ محمد پانی لائے تو

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے باکیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور کہا: شکر ہے اس اللہ کا جس

نے پانی کو پاک اور پاکیزہ بنایا اور اس کو نجس نہیں بنایا۔ پھر استخفا کے بعد کہا: اے اللہ امیرے دامن کو پاک کرو اور مجھے عفت عطا فرمایا اور میری شرمگاہ کو ڈھانپ دے اور مجھ پر آگ حرام قرار دے۔ اس کے بعد کلی

کی اور کہا: اے اللہ! میری زبان کو اپنے ذکر سے کھول دے اور مجھے ان میں سے قرار دے جن سے تو خوش ہے۔ اس کے بعد تاک میں پانی ڈالا اور کہا: الہی! بہشت کی خوبیوں کو مجھ پر حرام نہ کرو اور مجھے ان میں سے قرار دے جو اس کی خوبیوں اور عطر اور چھوٹ سے معطر ہوتے ہیں۔ اس وقت چہرے کو دھویا اور کہا: اے اللہ! جس دن چہرے سفید اور نورانی ہوں گے میرے چہرے کو سیاہ نہ کرنا۔ اس کے بعد دایاں ہاتھ دھویا اور کہا: اے اللہ! میرے اعمال نامہ کو میرے دائیں ہاتھ میں پکڑانا۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو دھویا اور کہا: الہی! میرے نامہ اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں نہ پکڑانا اور میرے ہاتھوں کو گردان کے ساتھ نہ باندھنا۔ میں آگ میں بھڑکتے ہوئے شعلوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر سر کا مسح کیا اور کہا: اے اللہ! مجھے اپنی رحمت و برکت اور بخشش میں شامل فرم۔ اس کے بعد پیروں کا مسح کیا (کیونکہ موزے پہنچے ہوئے تھے) اور کہا: اے اللہ! میرے قدموں کو جس دن قدم ڈگنگا جائیں گے مضبوط اور محکم قرار دینا۔ میری تلاش اور کوشش کو ہر وہ عمل جس میں تیری خشنودی ہو قرار دے۔ اس وقت محمد بن ابی بکر کی طرف دیکھا اور فرمایا: محمد! جو بھی میری طرح وضو کرے گا اور جو کچھ میں نے کہا ہے دیے ہی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے وضو کے پانی کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرے گا اور اللہ اکبر والا اللہ الا اللہ کا ذکر کرے گا جس کا ثواب وضو کرنے والے کے اعمال میں لکھا جائے گا۔“

### وقت نماز خوف کا طاری ہونا:

((روى عن علي بن ابى طالب رضى الله عنه انه كان اذا حضر وقت الصلاة ارتعدت فرائصه وتغير لونه فسئل عن ذلك فقال: جاء وقت الامانة التي عرضها الله على السموات والارض والجبال فابين ان يحملنها واسفقن منها وحملها الانسان فلا ادرى احسن اداء ما حملت ام لا))

”روایت ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک پر لرزہ اور کپ کپی طاری ہو جاتی تھی اور آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ جب آپ سے اس تبدیلی اور دگرگونی کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: ابھی اللہ کی اس امانت کی ادا میگی کا وقت آپنچا ہے جسے اللہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو دینا چاہا تو وہ اس کے قبول کرنے سے خوفزدہ ہو گئے، لیکن انسان نے اسے اپنے ذمہ لے لیا۔ میں نہیں جانتا آیا اس امانت کو جسے میں نے ذمہ لیا ہے احسن اور نیک طریقے سے ادا کر سکوں گایا نہیں۔“

### بوقت وضو خوف الہی:

((وَكَانَ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَخْدَلَ الْوَضُوءَ يَتَغَيِّرُ وَجْهُهُ مِنْ خِيفَةِ اللَّهِ تَعَالَى))

”وضو کرتے وقت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ خوف الہی سے تبدیل ہو جاتا تھا۔“

### نماز کی ادائیگی کی فکر:

((ولم يترك (على رضى الله عنه) صلاة الليل قط حتى ليلة الهرير و كان يوماً في حرب صفين مشغلاً بالحرب والقتال، وكان مع ذلك بين الصفين يراقب الشمس، فقال له ابن عباس :يا امير المؤمنين ،ما هذا الفعل ؟ فقال :انظر الى الزوال حتى نصلى ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی نماز کو قضاۓ نہیں کیا حتیٰ کہ لیلۃ الہریر میں بھی نماز شب ادا کی۔ جنگ صفين میں آپ جنگ کرنے میں مصروف تھے تو آپ سورج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا: امیر المؤمنین کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا: سورج کے زوال کو دیکھ رہا ہوں تاکہ نماز پڑھیں۔“

### فجر وعشاء کی نماز کو باجماعت ادا کرنا:

((قال علي رضي الله عنه :يا ابا الدرداء! اصلى العشاء والفجر في جماعة احب الى من ان احبي بينهما، اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم يقول :لو يعلمون ما فيهما لا توهما ولو حبوا وانهما ليكفران ما بينهما))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابو درداء! نماز عشاء اور صبح کو جماعت کے ساتھ پڑھنا میری نظر میں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ عشاء سے لے کر صبح تک بیدار رہوں۔ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا: اگر لوگ یہ جانتے کہ یہ نماز کس قدر پر فضیلت ہے تو اس کے پڑھنے کیلئے حاضر ہو جاتے یہاں تک کہ اگر انہیں ہاتھوں اور پیٹ کے مل چلنے کا آنا پڑتا، یہ دونمازیں ان گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہیں جو ان کے دوران انجام ہوئے۔“

### حضرت علی کے لیے رکوع کو لمبا کرنا:

((ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طول الرکوع فی بعض الصلوات تطويلاً خارجاً عن العادة فسئل عن ذلك، فقال :امسك جبرئیل یدی فی رکبی حتى اتی علی بن ابی طالب فادرک تلك الرکعة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک نماز میں رکوع کو معمول سے زیادہ طویل فرمادیا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل نے میرے ہاتھوں کو زانو پر پکڑا ہوا تھا یہاں تک کہ علی

آئے اور انہوں نے اس رکعت میں شرکت کی۔“

### ہر دن رات میں ہزار رکعات کی ادائیگی:

((عن جمیل بن صالح، عن ابی عبد الله رضی اللہ عنہ قال: ان استطعت ان تصلی فی شهر رمضان وغیره فی اليوم والليلة الف رکعة فافعل، فان علیاً رضی اللہ عنہ کان يصلی فی اليوم والليلة الف رکعة))

”جمیل بن صالح نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ اگر ماہ رمضان اور دوسرے مہینوں میں دن رات میں ہزار رکعت نماز پڑھ سکتے ہو تو ایسا کرو، چونکہ علی رضی اللہ عنہ ہر دن اور رات میں ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔“

((عن الباقر رضی اللہ عنہ انه قال: وَكَانَ (عَلَى رِضِيَ اللَّهِ عَنْهُ) يَصْلِي فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْفَرْكَعَةَ))

”امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر دن رات ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔“

((بالاسناد عن الباقر رضی اللہ عنہ انه قال: كَانَ عَلَى بْنُ الْحَسِينِ يَصْلِي فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ الْفَرْكَعَةَ كَمَا كَانَ يَفْعُلُ أميرالمؤمنین رضی اللہ عنہ، كَانَ لَهُ خَمْسَ مَائِةً نَخْلَةً، فَكَانَ يَصْلِي عِنْدَ كُلِّ نَخْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ))

”امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہر دن اور رات ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پانچ سو بھور کے درخت تھے اور وہ ہر درخت کے قریب دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔“

((بالاسناد عن ابی بصیر قال: دخلنا علی ابی عبد الله رضی اللہ عنہ فقال له ابو بصیر: ما تقول فی الصلاۃ فی شهر رمضان؟ فقال: لشهر رمضان حرمة و حق لا يشبهه شيء من الشهور، صل ما استطعت فی شهر رمضان تطوعاً بالليل والنہار، فان استطعت ان تصلي فی كل یوم و ليلة الف رکعة، فافعل، ان علیاً رضی اللہ عنہ فی آخر عمرہ کان

يصلی فی كل یوم ولیلة الف رکعة، فضل یا ابا محمد زیادۃ فی رمضان))

”ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں امام صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں ماہ رمضان میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرمایا: ماہ رمضان حرمۃ اور حق رکھتا ہے کہ اور مہینے ایسی حرمۃ اور حق نہیں رکھتے۔ جتنی بھی قدرت رکھتے ہو رمضان میں دن رات تو افل پڑھو۔ اگر ہزار رکعت نماز دن اور رات میں پڑھ سکتے ہو تو ایسا کرو۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی

زندگی کے آخری ایام میں ہر دن اور رات کو ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اس لئے ابو محمد! ماہ رمضان میں دوسرے مہینوں سے زیادہ نماز پڑھو۔“

### معزرت و معافی:

((من مناجاته: الہی! لیس اعتذاری الیک اعتذار من یستغنى عن قبول عذرہ، فاقبل عذری یا خیر من اعتذر الیہ المفسیون))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی: اے اللہ! میری معدرات طلبی تیری بارگاہ میں اس کی معدرات اور معافی کی طرح نہیں ہے جو قبول ہونے سے بے نیاز ہو، لہ میری معدرات کو قبول فرم۔ اے وہ بہترین ذات! گنہگار جس کی بارگاہ میں معدرات اور معافی طلب کرتے ہیں۔“

### مناجات کا ایک طریقہ:

((بالاسناد، عن الاصلب بن نباتة قال: كان أمير المؤمنين رضي الله عنه يقول في سجوده: أنا جيك يا سيدى كماينا جي العبد الذليل مولاه واطلب اليك طلب من يعلم انك تعطى ولا ينقص مما عندك شيء، واستغفر لك استغفار من يعلم انه لا يغفر الذنوب الا انت، واتو كل عليك توكل من يعلم انك على كل شيء قدير))

”اصنف بن نباتہ نے کہا کہ امیر المؤمنین علیٰ رضی اللہ عنہ سجدہ میں کہا کرتے تھے: اے مولا! میں تجھ سے مناجات اور التحاکر رہا ہوں جس طرح ایک حقیر اور عاجز غلام اپنے آقا سے مناجات کرتا ہے۔ میں تجھ سے حاجت طلب کر رہا ہوں اور اس کی طرح طلب کر رہا ہوں جو جانتا ہے کہ تو اسے عطا کرے گا اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں کی نہیں آئے گی اور میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اس کی طرح معافی مانگتا ہوں جو جانتا ہے کہ تیرے سوا کوئی اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا اور تجھ پر توکل کر رہا ہوں اس کی طرح جو جانتا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

### عبادت کرنے کی وجہ:

((وقال أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي ابن أبي طالب: ما عبدتك خوفا من نارك ولا تمعا في جنتك، لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك))

”امیر المؤمنین وسید الموحدین جناب علیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ! میں تیری عبادت اس لئے نہیں کرتا کہ مجھے جہنم کی آگ کا خوف یا جنت کی لائج ہے بلکہ تجھے پرستش اور عبادت کا لاکن جانتا ہوں اسی لئے تیری عبادت کرتا ہوں۔“

جس کام میں اپنا غصہ شامل ہو جائے:

”جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر و بن عبدود (ایک کافر) پر جنگ کے ذوزان غالب آئے تو اس پر ضرب نہ چلائی۔ لوگوں نے آپ کے اس عمل کو عیب سمجھا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا دفاع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے حذیفہ! علی خود اس کام کی وجہ بیان کرے گا۔ عمر و بن عبدود کو قتل کرنے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا سبب پوچھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اس نے میری والدہ کو گالی دی اور اپنا تھوک میرے چہرے پر پھینکا۔ میں ذرگیا کہ اگر اس کو قتل کرتا ہوں تو میرا غصہ اس میں شامل ہو جائے گا، اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میرا غصہ مختندا ہوا تب میں نے اس کو اللہ کی خاطر واصل جہنم کیا۔“

حالت نماز میں تیر کے نکالنے کا پتہ بھی نہ چلا:

((روی ان علیاً قد اصاب رجله فی غزوۃ احمد سهم صعب اخراجہ، فامر رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با خراجہ حين اشتغاله بالصلاۃ فاخر جوہ من رجله فقال بعد فراغه عن الصلاۃ بانه لم يلتفت بذلك))

”مروری ہے کہ جنگ احمد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں تیر لگا جس کا نکانا مشکل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس تیر کو اس وقت نکالیں جب علی نماز کی حالت میں ہوں۔ ایسے ہی کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا: میں بالکل متوجہ بھی نہیں ہوں۔“

فصل نمبر 29:علی و حدیث الغدیر:واقعہ غدریہحدیث نمبر 1:

((عن جریر قال: شهدنا الموسم في حجة الوداع مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبلغنا مكاناً يقال له غدير خم فنادى: الصلاة جامعة، فاجتمعنا المهاجرون والأنصار - فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسطناً فقال: ايهَا النَّاسُ إِنْ تَشْهُدُونَ؟ قالوا: نشهد ان لا اله الا الله، قال: ثم مه؟ قالوا: وَانْ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ قال : فمن ولیکم ؟ قالوا: الله ورسوله مولانا، قال: ثم ضرب بیدہ الی عضد علی رضی اللہ عنہ فاقامہ فنزع عضده فاختد بذراعیہ فقال : من بکن اللہ ورسوله مولاہ فان هذا مولاہ، اللہم وال من والاہ، وعاد من عاداہ، اللہم من احبه من الناس فکن له حبیباً، ومن ابغضه فکن له مبغضاً)

”حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ججۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جس سے واپسی پر ہم ایک مکان پر پہنچے جو غدر خم کے نام سے مشہور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیلئے ندادی، ہم مہاجرین اور انصار جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا: اے لوگو! تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ لوگوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد فرمایا: دوسری کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرمایا: تمہارا سر پرست کون ہے؟ کہا: اللہ اور اس کے رسول ہمارے سر پرست ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بازو سے پکڑ کر ان کو کھڑا کیا، اس کے بعد بازو چھوڑ دیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا: جس کے اللہ اور رسول مولا ہیں یہ بھی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ! دوست رکھا سے جو علی کو دوست رکھے اور دشمن رکھا سے جو علی کو دشمن رکھے۔“

## حدیث نمبر 2:

((فَنَادَى الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَاجْتَمَعُوا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْهُ عَلَى رِضَى اللَّهِ عَنْهُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِذَا تَرَأَوْنَ أَنَّى مُولَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَنْ كَنْتُ مُولَاهُ فَعَلَیٌّ مُولَاهٌ، اللَّهُمَّ وَالَّذِي مِنْ وَالآهِ وَعَادَ مِنْ شَاءَهُ وَأَنْصَرَ مِنْ نَصْرَهُ وَأَخْذَلَ مِنْ خَذْلَهُ وَأَعْنَى مِنْ اعْنَاهُ، وَابْغِضْ مِنْ ابْغَضَهُ وَاحْبِبْ مِنْ احْبَبَهُ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدر خم میں نماز کیلئے ندادی، تمام لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ جمیعت کے سامنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہوں؟ کہا: کیوں نہیں۔ فرمایا: جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ! لوگوں میں سے جو علی کو دوست رکھتا ہے اسے دوست رکھا اسے جو علی کو دشمن رکھتا ہے اسے دوست رکھا اسے جو علی کی مدد کرے اور چھوڑ دے اسے جو ان کی مدد کرے اور حمایت کر اس کی جوان کی حمایت کرے اور دشمن رکھا سے جو ان کو دشمن رکھے اسے دوست رکھا سے جو ان کو دوست رکھے۔“

حدیث نمبر 3:

((عن سعد قال : كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطريق مکہ وهو متوجه اليها، فلما بلغ غدیر خم وقف الناس ثم ردمن تبعه، ولحقه من تخلف: فلما اجتمع الناس اليه ، قال : ايها الناس ! من ولیکم ؟ قالوا: الله ورسوله ثلاثة، ثم اخذ بید على فاقامه ثم قال : من كان الله ورسوله ولیه فهذا ولیهم، اللهم وال من والاہ، وعاد من عاداہ))

”حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب غدیر خم پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا: رک جائیں۔ اس کے بعد فرمایا: آگے بڑھ جانے والوں کو واپس بلائیں اور جو پیچھے سے آئے والے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! تمہارا سر پرست کون ہے؟ کہا: اللہ اور اس کا رسول ہمارے سر پرست ہیں۔ اس جملہ کا تین بار تکرار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور اس کے بعد فرمایا: جس کا اللہ اور اس کا رسول سر پرست ہے علی ہمیں اس کا سر پرست ہے۔ اے اللہ! دوست رکھا سے جو علی کو دوست رکھے اور دشمن رکھا سے جو علی کو دشمن رکھے۔“

حدیث نمبر 4:

((عن عدی بن ثابت عن البراء قال : كنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في حجة الوداع فلما أتيانا على غدير خم كصح لرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحت شجرتين ونودي في الناس الصلاة جامعة، ودع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علياً وأخذ بيده فاقامه عن يمينه فقال : المست أولى بكل امرى من نفسه؟ قالوا : بلى - قال : فان هذا مولى من انا مولا، اللهم وال من والاہ، وعاد من عاداہ، فلقنه عمر بن الخطاب فقال : هنيئالك، أصبحت وامسيت مولى كل مومن و مومنة))

”جناب عدی بن ثابت کہتے ہیں کہ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حجۃ الوداع کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس وقت غدیر خم پہنچے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دو درختوں کے پیچے جاڑا لوگایا اور لوگوں کے درمیان سے ”الصلوة جامعۃ“ کی آواز بلند ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بڑایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی دائیں ظرف بٹھایا، اور فرمایا: کیا میں تم پر خود تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے ہم آواز ہو کر کہا: کیوں نہیں۔ فرمایا: بس یہ اس کے مولا ہیں جس کا میں مولا ہوں۔ اے اللہ! اسے دوست رکھ جو انہیں دوست رکھے اور اسے دشمن رکھ جو

انہیں دشمن رکھے۔ اسی دوران حضرت عمر بن خطاب نے ان سے ملاقات کی اور کہا: مبارک ہو آپ کو آپ تو ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔

### حدیث نمبر 5:

((عن خطبته صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی یوم غدیر خم باتفاق الجموع وہو یقول: من كنت مولاہ فعلی مولاہ فقال عمر: بخ بخ لک یا ابا الحسن! لقد اصبحت مولای و مولی کل مومن و مومنہ))

”سب متفق ہیں کہ یہ نورانی کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں جو انہوں نے غدیر خم کے دن فرمائے: جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا: مبارک ہو آپ کو اے ابو الحسن! آپ تو ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے۔“

### حدیث نمبر 6:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كنت مولاہ فعلی مولاہ، اللهم وال من والاہ وعاد من عاداہ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ اے اللہ! دوست رکھ اسے جو انہیں دوست رکھے اور دشمن رکھا سے جو انہیں دشمن رکھے۔“

### حدیث نمبر 7:

آیتِ کریمہ:

((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ))

(القرآن، المائدہ، (3 : 5))

”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا“ کے شانِ نزول میں محدثین و مفسرین نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے:

((عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: مَن صام يوم ثمان عشرة من ذى الحجة كتب له صيام ستين شهراً، وهو يوم غدير خم لما أخذ النبي بيد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: ألسْت ولی المؤمنين؟ قالوا: بلى، يا رسول الله! قال: مَن كنْتَ مولاً فعليّ مولاً، فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لک یا ابن أبي طالب! أصْبَحْتَ مولاً و مولی کل مسلم، فأنزل الله (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اٹھاڑہ ذی الحجہ کو روزہ رکھا اس کے لئے سانچہ

مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور یہ غدرِ خم کا دن تھا جب حضور نبیؑ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: کیا میں مؤمنین کا والی نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں، اُس کا علی مولا ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مبارک ہو! اے ابن ابی طالب! آپ میرے اور ہر مسلمان کے مولا تھے۔ (اس موقع پر) اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا۔“

1- خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، 2902 : 8۔ طبرانی، المجمع الأوسط، 324 : 3

3- سیوطی نے الدر المخوز فی التفسیر بالماثور 259 : 2) میں آیت مذکورہ کی شانِ نزول کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضور نبیؑ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدرِ خم کے روز من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے الفاظ فرمائے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

### حدیث نمبر 8:

امام فخر الدین رازی (یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) (القرآن، المائدہ، 67 : 5) اے برگزیدہ رسول! جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارے لوگوں کو پہنچا دیجئے، کہ شانِ نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((نَزَّلَتِ الْآيَةُ فِي فَضْلِ عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَ لَمَّا نَزَّلَتِ هَذِهِ الْآيَةُ أَخَذَ بَيْدَهُ وَ قَالَ : مَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَّمْتُ مَوْلَاهَ اللَّهِ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَعَادِهِ مِنْ عَادَةِ فَلَقِيهِ عَمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ : هَنِئَ لَكَ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَصْبَحْتَ مَوْلَىً وَ مَوْلَىً كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ . وَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَىٰ))

”یہ آیت مبارکہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور نبیؑ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: جس کا میں مولا ہوں، اُس کا علی مولا ہے، اے اللہ! تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے، اور اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے۔ اس کے (فوراً) بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور فرمایا: اے ابن ابی طالب! آپ کو مبارک ہو، اب آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا قرار پائے ہیں۔“ اسے عبداللہ بن عباس، براء بن عازب اور محمد بن علیؑ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے۔

1. رازی، التفسیر الكبير، 49 : 12، 1502. ابن ابی حاتم رازی نے تفسیر القرآن العظیم 1172 : 4، رقم 6609 : ) میں عطیہ عونی سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔

حدیث نمبر 9:

آیت کریمہ (إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امْتَنُوا إِلَيْهِمْ مُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَأِكُعُونَ) (القرآن، المائدہ، 55 : 5) (بے شک تمہارا (مدگار) دوست اللہ اور اس کا رسول ہی ہے اور ساتھ (ساخن) وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ (اللہ کے حضور عاجزی سے) جھکنے والے ہیں) کے شانِ نزول میں پیشتر محدثین نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے:

((عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یقول : وقف علی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سائل و هو راكع في تطوع فنزلع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاعلمه ذلك، فنزلتْ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذَا الآیة : علیہ وآلہ وسلم فاعلمه ذلك، فنزلتْ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذَا الآیة : إِنَّمَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ امْتَنُوا إِلَيْهِمْ مُقْيِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَأِكُعُونَ) فقرأها رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال : من كنت مولاه فعلی مولاہ، اللهم اوالی من والاہ و عادِ من عاداہ))

”حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نماز میں حالتِ رکوع میں تھے۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کھینچی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انگوٹھی سائل کو عطا فرمادی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی: (بے شک تمہارا دوست اللہ اور اس کا رسول ہی ہے اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ (اللہ کے حضور عاجزی سے) جھکنے والے ہیں) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھتے تو اس سے عداوت رکھ۔“

- اللهم اجواء سے دوست رکھتے تو اس سے دوست رکھا اور جو اس سے عداوت رکھتے تو اس سے عداوت رکھ۔
1. طبرانی، المعجم الأوسط، 129، رقم. 62282 : 130، 7 : 1193 : احمد بن حنبل، المسند، 1193 ز : 1 احمد بن حنبل، المسند، 4 : 3724.
- حکم، المرتدرک، 119 : 371، 3 : 119 : 4576 : 55945 : طبرانی، المعجم الكبير، 174 : 4، رقم :
- طبرانی، المعجم الكبير، 195 : 203، 5 : 204، 204 : 5068 : 5069 : 5092، 5069 : 50977 : طبرانی، المعجم الصغير، 40536.
1. بشیعی، موارد المظہران 544 : 22059 : رقم. 22059 : بشیعی، مجمع الزوائد، 1710 : 7 خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، 658.
- 37711 : 7 - خطیب بغدادی نے یہ حدیث مبارکہ تاریخ بغداد 343 : 12) میں من کشت مولاہ فعلی مولاہ کے الفاظ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی نقل کی ہے۔ 12 ابن ابیر، اسد الغابہ، 36213 : 2 ابن ابیر، اسد الغابہ، 48714 : 3 فیاض مقدسی، الاحادیث المغارہ، 106 : 2، 174، رقم 480 : 55315 : حام الدین ہندی، 169، 13 : 332، 11 : 333، رقم. 3166216 : حام الدین ہندی، کنز العمال، 104 : 169، رقم :
- 17، 36340 : حام الدین ہندی نے کنز العمال 609 : 11)، رقم 32950 : ) میں لکھا ہے :

طبرانی نے اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور پارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے اور امام احمد بن حنبل نے اسے حضرت ابو ایوب النصاری رضی اللہ عنہ اور کثیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے۔ حاکم نے المستدرک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور طبرانی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اور تیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ ابو عیم نے کتاب فضائل الصحابة میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے اور خطیب بغدادی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

### حدیث نمبر 10:

((عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : أوصی من آمن بی و صدقنی بولایة علیؑ بن أبي طالب، مَنْ تَوَلَّهُ فَقَدْ تَوَلَّنَا وَ مَنْ تَوَلَّنَا فَقَدْ تَوَلَّلَ اللہ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحْبَهَ فَقَدْ أَحْبَنَا، وَ مَنْ أَحْبَنَا فَقَدْ أَحْبَبَ اللہ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَبْغَضَهُ فَقَدْ أَبْغَضَنَا وَ مَنْ أَبْغَضَنَا فَقَدْ أَبْغَضَ اللہ عَزَّ وَ جَلَّ))

”حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اُسے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں، جس نے اُسے ولی جانا اُس نے مجھے ولی جانا اور جس نے مجھے ولی جانا اُس نے اللہ کو ولی جانا، اور جس نے علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی اُس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغرض رکھا اُس نے مجھ سے بغرض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغرض رکھا اُس نے اللہ سے بغرض رکھا۔“

1- یہی، مجمع الزوائد، 108، 9 : 1092، حامد الدین ہندی، کنز العمال، 611، 11 : 32958 :

یہی نے اس حدیث کو طبرانی سے روایت کیا ہے اور اس کے رواۃ کو ثقہ قرار دیا ہے۔

### حدیث نمبر 11:

((عن علیؑ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال يوم عذیر خم : مَنْ كَنْتُ مولاً فَعُلِيٌّ مولاً))

”(خود) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن فرمایا : جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔“

1- احمد بن حنبل نے المسند 152، 1 : 2- یہی نے اسے مجمع الزوائد 107، 9 میں نقل کرے ہوئے کہا ہے کہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔ 3- ابن الی عاصم، کتاب الشہاد 604 :، رقم 13694 : طبرانی، مجمجم الاوسط، 448 : 7، رقم 6878 : 5- ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، 1716 : 4- حامد الدین ہندی، کنز العمال، 77 : 13، 168، رقم 32950 :، 36511 :

حدیث نمبر 12:

((عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال قال النبي مَنْ كُنْتُ وَلِيَهُ فَإِنَّ عَلِيًّا وَلِيَهُ وَفِي رِوَايَةِ  
عَنْهُ كُنْتُ وَلِيَهُ فَعَلَىٰ وَلِيَهُ))

”حضرت عبد اللہ بن بریدہ اسلامی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں ولی ہوں تحقیق اُس کا علی ولی ہے۔ انہی سے ایک اور روایت میں ہے (کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے فرمایا : ) جس کا میں ولی ہوں اُس کا علی ولی ہے۔“

<sup>3</sup> حاكم، المستدرك، 361، 358، 5 : 350، رقم. 25892 : احمد بن حنبل، المسندة، 350.

<sup>3</sup> نسائي، خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهه 85: 86، رقم 77.

4. نسائی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے بھی، خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (ص: 98، رقم 93) میں یہ روایت لی ہے۔

<sup>5</sup> عبد الرزاق، المصنف، رقم 203886 : ابن أبي شيبة، المصنف، 84 : 12، رقم 12181.

7- ابو عجم نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء 23 : 4) میں اسے مختصر امن کہتے مولاہ فعلی مولاہ کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

8. مناوی، فیض القدر، 218:69۔ یہی نے مجمع الزوائد 108 : 9) میں اسے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ بزار کی بیان کردہ روایت کے رجال صحیح ہیں۔ 10- حسام الدین ہندی نے کنز العمال 602 : 11)، رقم 32905 : ) میں مختصر امن کنش مولانا فعلی مولاد کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

امام حاکم نے اس روایت کو شرط شیخین کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، اور اس حدیث کو ابو عوانہ سے ایک دوسرے طریق سے سعد بن عبدہ سے بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے المستدرک میں بریدہ اسلامی سے ایک اور جگہ 110 : 3)، رقم 4578 : ) بھی اسی حدیث کو مختصر بیان کیا ہے۔

حدیث بصر : 13

متذکرہ بالاحدیث کو دوسرے مقام پر ابن میریہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

((ما بال أقوام يستقصون علياً، من ينتقص علیاً فقد تنقصني، ومن فارق علياً فقد فارقني، إن علياً مني، وأنا منه، خلق من طينتي و خلقت من طينة إبراهيم، وأنا أفضل من إبراهيم، ذرية بعضها من بعض والله سميع غليم، . . . و إنك وليك من بعدي، فقلت : يا رسول الله إ بالصحبة ألا بسطت يدك حتى أبايعك على الإسلام جديداً قال : فما فارقته حتى بايعته على الإسلام))

”ان لوگوں کا کیا ہو گا جو علی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں (جان لو) جو علی کی گستاخی کرتا ہے وہ میرنی

گستاخی کرتا ہے اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ بیک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی ہے اور میری تخلیق ابراہیم کی مٹی سے، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ ہم میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سننے اور جاننے والا ہے۔ وہ میرے بعد تم سب کا ولی ہے۔ (بریدہ بیان کرتے ہیں کہ) میں نے کہا: یا رسول اللہ! کچھ وقت عنایت فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں تجدید اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، (اور) میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا نہ ہو ایساں تک کہ میں نے اسلام پر (دوبارہ) بیعت کر لی۔“

1. طبرانی، مجمع الاوسط، 49 : 7، 50، رقم. 60812 : پیشی، مجمع الزوائد، 128 : 9.

### حدیث نمبر 14:

((عن عمر بن میمون، قال ابن عباس رضي الله عنهمما : قال (رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم) : من كنت مولاه فلان مولاہ علی))  
”عمر و بن میمون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں بے شک اس کا علی مولا ہے۔“

1 - احمد بن خبل، المسند، 3312 : 1 - ابن الی عاصم کی کتاب السن (ص 600 : 601، رقم 1351) میں اس روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مَنْ كَنَّتْ مُولَّاً فَإِنَّ مُولَّاَهُ عَلِيًّا (جس کا میں ولی ہوں اس کا علی وہ ہے)۔ 3. نائی، خصال امیر المؤمنین علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ 44 : 46، رقم 234 : حاکم، المستدرک، 132 - 134 - 46525، رقم. 77 : طبرانی، مجمع الکبیر، 125936 : 78، 12، رقم. 119 : پیشی، مجمع الزوائد، 1756 : 3، 174، رقم 1207. محب طبری، الریاض العظرہ فی مناقب العتر، 158 - 156 : القریبی

نائی کی بیان کردہ حدیث کی اسناد صحیح ہیں۔

پیشی نے کہا ہے کہ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور ابو بکر فرازی کے سوا احمد کے تمام رجال صحیح ہیں، جو وہ لفظ ہے۔

حاکم کی بیان کردہ حدیث کو ذہبی نے صحیح کہا ہے۔

### حدیث نمبر 15:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم لا! إن الله ولی و أنا ولی کل مؤمن، من كنت مولاہ فعلی مولاہ))

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: آگاہ رہو! بے شک اللہ پر اولی ہے اور میں ہر مؤمن کا ولی ہوں، وہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔“

1- حام الدین ہندی نے اسے کنز العمال 608 : 11)، رقم 32945 : ) میں روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث ابو عیم نے فضائل الصحابة میں زید بن ارقم اور براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔

<sup>4</sup> ابن حجر عسقلاني، الاصحاب في تمييز الصحابة، 328 : 4.

حدیث نمر : 16

(عن أبي يزيد الأودي عن أبيه، قال :دخل أبو هريرة المسجد فاجتمع إليه الناس، فقام إليه شاب، فقال :أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم يقول :من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم إِنِّي مُنْوَّلٌ مِّنْ وَالاَهِ .فقال :أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم يقول :من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم إِنِّي مُنْوَّلٌ مِّنْ وَالاَهِ، و عاد من عاداه))

”ابو یزید او دی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ (ایک دفعہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے ایک جوان نے کھڑے ہو کر کہا : میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنائے کہ جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے، اے اللہ اجو علی کو دوست رکھے اُسے تو دوست رکھ؟ اس پر انہوں نے کہا : میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے : جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے، اے اللہ اجو اسے دوست رکھے اُسے تو دوست رکھا اور جو اس سے عراوت رکھے اُس سے توعراوت رکھ۔“

ابو يعلى، المسند، 307 : 11، رقم. 64232 : ابن ابي شيبة، المصنف، 68 : 12، رقم. 121413 : بشّي، مجمع الزوائد، 105 : 9، رقم. 1064 : ابن كثير، البداية والنهاية، 1741 : 14، احمد بن حنبل، المسند، 3662 : 5 نسائي، خصائص امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه 90 :، رقم. 833 : احمد بن حنبل، فضائل الصحابة، 598 : 2، رقم 1021 : فضاء مقدسي، الاحاديث الختارة، 105 : 2، رقم. 4795 : بطيق، السنن الكبرى، 1316 : 5 بشّي، مجمع الزوائد، 9.

104

امانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

ضیاء مقدسی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

امام پیغمبر نے احمد بن حنبل کے رجال کو صحیح قرار دیا ہے۔

17۔ ابن کثیر نے البدیہ والنہایہ (4:170) میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی اسناد جدید ہیں۔

حدیث نمبر 17:

((عن عميرة بن سعد رضي الله عنه، أنه سمع علياً رضي الله عنه وهو ينشد في

الرحبة : مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ فَعُلِّيٌّ  
مَوْلَاهُ فَقَامَ سَتَةُ نَفْرٍ فَشَهَدُوا ))

”عمرہ بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھلے میدان میں قسم دیتے ہوئے  
ناکہ کس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے : جس کا میں مولا ہوں، اُس کا  
علیٰ مولا ہے تو (اس پر) چھ افراد نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔“

1. نسائی، خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 89 :، رقم 82، 91، 852 طبرانی، الحجۃ الاوست، : 3.  
134، رقم 22753 : بیہقی، السنن الکبری، 1324 : 5 مزی، تہذیب الکمال، 397 : 22، 3985 ابن کثیر نے  
البدایہ والنہایہ (4"171) میں عمرہ بن سعد رضی عنہ سے جو روایت لی ہے اُس میں ہے کہ گواہی دینے والے بارہ (12) آدمی  
تھے۔ جن میں حضرت ابو ہریرہ، ابو سعید اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔

### حدیث نمبر 18:

((عن أبي الطفيلي، عن زيد بن أرقم، قال : نَشَدَ عَلَى النَّاسِ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خَمٍ : أَلْسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى  
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ قَالُوا : بَلٌّ، قَالَ : فَمَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ فَعُلِّيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ إِنَّا مِنْ وَالَّهِ، وَعَادُ مِنْ  
عَادَهُ . فَقَامَ أَثْنَا عَشْرَ رَجُلًا فَشَهَدُوا بِذَلِكِ))

”ابو طفیل زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے حلفاً  
پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم کے دن یہ فرماتے ہوئے  
سنا ہو : کیا تم نہیں جانتے کہ میں مؤمنوں کی جانب سے قریب تر ہوں؟ انہوں نے کہا : کیوں نہیں۔  
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جس کا میں مولا ہوں اُس کا علیٰ مولا ہے، اے اللہ اجواء سے  
دعاوت رکھے تو بھی اُسے دعاوت رکھ، اور جو اس سے دعاوت رکھے تو اُس سے دعاوت رکھ۔ (سیدنا علیٰ  
رضی اللہ عنہ کی اس گفتگو پر) بارہ آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس واقعہ کی شہادت دی۔“

1. طبرانی، الحجۃ الاوست، 576 : 2، رقم 19872 : بیہقی، مجمع الزوائد، 1063 : 9 جام الدین ہندی، کنز  
العمال، 157 : 13، رقم 364854 : شوکانی، درالصحابہ 211 :

### حدیث نمبر 19:

((عن سعید بن وهب وعن زيد بن يشيع قال : نَشَدَ عَلَى النَّاسِ فِي الرَّحْبَةِ مَنْ سَمِعَ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خَمٍ لَا قَامَ . قَالَ : فَقَامَ مِنْ قَبْلِ  
سعِيدٍ سَتَةٌ وَمِنْ قَبْلِ زَيْدٍ سَبْتَةٌ، فَشَهَدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  
وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ غَدِيرِ خَمٍ : أَلِيْسَ اللَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ؟ قَالُوا : بَلٌّ.

قال : اللهم امن كنت مولاه فعلی مولاہ، اللهم اوال من والاہ و عادِ من عاداہ ))  
 ”سعید بن وہب اور زید بن شیع روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھلے میدان میں لوگوں کو  
 قسم دی کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم کے دن کچھ فرماتے ہوئے سنا ہو کھڑا ہو  
 جائے۔ راوی کہتے ہیں : چھ (آدمی) سعید کی طرف سے اور چھ زید کی طرف سے کھڑے ہوئے اور  
 انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم کے دن حضرت علی رضی اللہ  
 عنہ کے حق میں یہ فرماتے ہوئے سنا : کیا اللہ مؤمنین کی جانوں سے قریب تر نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا:  
 کیوں نہیں ! پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : اے اللہ ! جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا  
 ہے، اے اللہ اتواء سے دوست رکھ جو اس سے دوست رکھے اور تو اُس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت  
 رکھے ۔“

1. احمد بن حنبل، المسند، 1182 : 1 نسائی، خصالہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب 90 :، رقم 84، 100 :، رقم 1953. ابن  
 ابی شیبہ، المصنف 67 : 12، رقم 121404. 121404 : طبرانی، الحجۃ الاوسط، 69 : 134، 3 :، رقم 2130 :،  
 22755. طبرانی، الحجۃ الصغیر، 656 : 1 ضیاء مقدسی، الاحادیث الخوارہ، 105 : 106، 2 :، رقم 4807. ابو حیم، حلیۃ  
 الاولیاء وطبقات الاصفیاء، 268 : 5 یعنی، مجمع الزوائد، 107 : 9 : 1089. حسام الدین ہندی، کنز العمال، 13 :  
 157 :، رقم 36485

نسائی کی بیان کردہ دونوں روایات کی اسناد صحیح ہے۔

یعنی نے طبرانی کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔

### حدیث نمبر 20:

((عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدتُ علياً رضي الله عنه في الرحبة يشد الناس: أنسد الله مَنْ سمع رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم يقول يوم غدير خم: مَنْ كُنْتُ مولاه فعلی مولاہ. لما قام فشهد، قال عبد الرحمن: فقام إثنا عشر بدريًا كأنى أنظر إلى أحدهم، فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم يقول يوم غدير خم: الستُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجى أمهااتهم؟ فقلنا: بلى، يا رسول الله، قال: فمن كنت مولاه فعلی مولاہ، اللهم اوال من والاہ، و عادِ من عاداہ ))  
 ”عبد الرحمن بن أبي ليلى روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وسیع میدان میں دیکھا،  
 اُس وقت آپ لوگوں سے حلفاً پوچھ رہے تھے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدیر خم کے  
 دن جس کا میں مولا ہوں، اُس کا علی مولا ہے، فرماتے ہوئے سنا ہو وہ کھڑا ہو کر گواہی دے۔ عبد الرحمن  
 نے کہا : اس پر بارہ بدربی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے، گویا میں اُن میں سے ہر ایک کی طرف

دیکھ رہا ہوں۔ ان (بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدرِ خم کے دن یہ فرماتے ہوئے تھا: کیا میں مومنوں کی جانب سے قریب تر نہیں ہوں، اور میری بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں؟ اس نے کہا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں، اُس کا علی مولا ہے، اے اللہ! جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھو اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھو۔

1. احمد بن حنبل، المسند، 1192: 1 طحاوی، مشکل الآثار، 3083: 2 ضیاء مقدسی، الاحادیث المغارہ، 80: 2، رقم. 4584: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، 2365: 14 پیغمبیری، مجمع الزوائد، 105: 9، 1066 حام الدین ہندی، کنز العمال، 170: 13، رقم. 365157: ابن کثیر، البداية والنهاية، 1708: 4 شوکانی، دراسات الحجۃ، 209: پیغمبیری فرماتے ہیں کہ اے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال کو لفظ ہیں۔

حام الدین ہندی فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابن جریر، سعید بن منصور اور ابن اثیر جزری نے بھی روایت کیا ہے۔

احمد بن حنبل نے یہ حدیث مبارکہ المسند 88: 1) میں زیاد بن ابی زیاد سے بھی روایت کی ہے۔ اے پیغمبیری نے مجمع الزوائد 106: 9) میں نقل کیا ہے اور اس کے رجال کو لفظ قرار دیا ہے۔

### حدیث نمبر 21:

((عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: خطب على رضي الله عنه فقال: أنسد الله أمره نشارة الإسلام سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يوم غدير خم أخذ بيدي، يقول: ألسْتُ أولى بكم يا معاشر المسلمين من أنفسكم؟ قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: مَنْ كنْتُ مولاه فعلي مولاه، اللهم! إِنِّي مُنْ وَالله، وَعَادِي مَنْ عادَه، وَاتَّصُرْ مَنْ نصرَه، وَأَخْذُلْ مَنْ خذله، إِلَّا قَامَ فَشَهَدَ، فَقَامَ بِضَعْةِ عَشْرِ رِجَالًا فَشَهَدُوا، وَكَتَمَ فَمَا فَتَنَا مِنَ الدِّينِ إِلَّا عَمَّا وَبَرَصَوْا))

”عبدالرحمٰن بن ابی ليلى سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا اور فرمایا: میں اس آدمی کو اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدرِ خم کے دن میرا ہاتھ پکڑے ہوئے یہ فرماتے تھا ہو: اے مسلمانو! کیا میں تمہاری جانب سے قریب تر نہیں ہوں؟ اس نے جواب دیا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے، اے اللہ! جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھو، جو اس (علی) سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھو، جو اس (علی) کی مذکوری تھے تو اس کی مذکوری مدد فرماء، جو اس کی رسولی چاہے تو اسے رسول کر کر اس پر تیرہ سے زائد افراد نے کھڑے ہو کر گواہی دی اور جن لوگوں نے نیہ باتیں

چھپائیں وہ دنیا میں اندھے ہو کر یا برص کی حالت میں مر گئے۔“  
1. حسام الدین ہندی، کنز العمال، 158 : 13، رقم 36487 :

### حدیث نمبر 22:

((عن الأصبغ بن نباتة، قال : نَشَدَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ : مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خَمٍ ؟ مَا قَالَ إِلَّا قَامَ، وَلَا يَقُولُ إِلَّا مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، فَقَامَ بِضَعْعَةِ عَشَرَ رَجُلًا فِيهِمْ : أَبُو أَيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو عُمَرَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو زَيْنَبٍ، وَسَهْلَ بْنَ حَنْيَفَ، وَخَزِيمَةَ بْنَ ثَابَتَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ ثَابَتَ الْأَنْصَارِيَّ، وَحُبْشَى بْنَ جَنَادَةَ السَّلْوَلِيَّ، وَعَبْدَهُ بْنَ عَازِبَ الْأَنْصَارِيَّ، وَالنَّعْمَانَ بْنَ عَجَلَانَ الْأَنْصَارِيَّ، وَثَابَتَ بْنَ وَدِيعَةَ الْأَنْصَارِيَّ، وَأَبُو فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيَّ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ عَبْدِ رَبِّ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالُوا : نَشَهَدُ أَنَا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَلِيٌّ وَأَنَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا إِنَّمَا كُنْتُ مُوْلَاهُ فَعْلَيَّ مُوْلَاهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي مَنْ وَالَّهُوَ، وَعَادِي مَنْ عَادَاهُ، وَاحْبَبَ مَنْ أَحْبَبَهُ، وَأَبغَضَ مَنْ أَبْغَضَهُ، وَأَعْنَمْ مَنْ أَعْنَاهُ))

”اصبغ بن نباتة سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھلے میدان میں لوگوں کو قسم دی کہ جس نے غدر خم کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے تھا ہو، وہ کھڑا ہو جائے۔ اس پر تیرہ سے زائد افراد کھڑے ہوئے جن میں ابوایوب النصاری، ابو عمرہ بن محسن، ابو زینب، کہل بن حنیف، خزیمه بن ثابت، عبد اللہ بن ثابت النصاری، حبشی بن جنادہ سلوی، عبید بن عازب النصاری، نعمان بن عجلان النصاری، ثابت بن ودیعہ النصاری، ابو فضالہ النصاری اور عبد الرحمن بن عبد رب النصاری رضی اللہ عنہم تھے۔ ان سب نے کہا : ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا : لوگو! آگاہ رہو! اللہ میراولی ہے اور میں مؤمنین کا ولی ہوں۔ خبردار! (آگاہ رہوا) جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے، اے اللہ! جو اس سے دوست رکھے تو اس سے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ اور جو اس کی مدد کرنے تو اس کی مدد فرم۔“

1. ابن اثیر، اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابة. 32: 465 طحاوی، مشکل الآثار، 2: 308.

### حدیث نمبر 23:

((عن عمرو بن ذی مُرْ و سعید بن وهب و عن زید بن یشیع قالوا: سمعنا علیاً يقول  
نشدلت الله رجلاً سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول يوم غدیر خم، لم اقام

، فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: الست اولی بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا: بلی، يا رسول الله! قال: فاخذ بید علی، فقال: من کنت مولاہ فهذا مولاہ، اللهم! اوال من والاہ، وعاد من عاداہ، واحب من احبه، وابغض من يبغضه و انصر من نصره، واجحدل من خذله))

”عمرو بن ذی مر، سعید بن وصب اور زید بن شیع سے روایت ہے کہ انہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ہر اس آدمی سے حلقاً پوچھتا ہوں جس نے غدیر خم کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو، اس پر تیرہ آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا میں مومنین کی جانب سے قریب تر نہیں ہوں؟“ سب نے جواب دیا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! راوی کہتا ہے، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے، اے اللہ! جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس (علی) سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، جو اس (علی) سے محبت کرنے تو اس سے محبت کر، جو اس (علی) سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ، جو اس (علی) کی نصرت کرے تو اس کی نصرت فرم اور جو اسے رسوا (کرنے کی کوشش) کرے تو اسے رسوا کر۔“

1. حسام الدین ہندی، کنز العمال، 131 : 13، رقم: 364172 : ابن عساکر، تاریخ دمشق الکبیر، 1583 : 145 ابن اثیر کی اسد الغابہ 487 : 3) میں ابو حاتم سے لی گئی روایت میں ہے: زید بن ودیعہ اور عبد الرحمن بن مدح گواہی چھپانے کے سبب بیماری میں متلا ہوئے۔

### حدیث نمبر 24:

((عن زاذان بن عمر قال: سمعت علياً رضي الله عنه في الرحبة وهو ينشد الناس: من شهد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال، فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا انهم سمعوا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وهو يقول: من كنت مولاہ فعلی مولاہ))

”زادان بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجلس میں لوگوں سے حلقاً یہ کہتے سنا، کس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غدیر خم کے دن کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ اس پر تیرہ (13) آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا علی ہے۔“

1. ابن اثیر، اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابة، 4652 : 3 طحاوی، مشکل لاہار، 3083 : 2 - ابن اثیر نے اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابة 362 : 2) میں یعلیٰ بن مروہ سے ایک روایت بیان کی ہے جس میں

گواہان میں زید یا زید بن شراحیل کا بھی ذکر ہے، جبکہ یعلیٰ بن مرہ سے ہی بیان کردہ ایک اور روایت (3) 137 : ) میں عامر بن سلیل کا ذکر ہے، ایک اور مقام 282 : 5) پر گواہان میں ناجیہ بن عمرو کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

### حدیث نمبر 25:

((عن زید بن أرقم، قال استشهد على الناس، فقال: أنشد الله رجلاً سمع النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم يقول: اللهم إمن كنت مولاـه، فعلى مولاـه، اللهم إوالـ من والـه، وعادـ من عادـه، قال: فقام ستة عشر رجلاً، فشهدوا))

”زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے گواہی طلب کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے اے اللہ اجس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے، اے اللہ تو اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے اور تو اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے۔ پس اس (موقع) پر رسول آدمیوں نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔“

1. احمد بن خبل، المسند، 3702 : 5 طبرانی، المجمع الكبير، 171 : 5، رقم. 49853 : محبت طبری، ذخیر العقلي في مناقب ذوى القربى 125 : . 2. محبت طبری، الرياض النضر في مناقب العشر، 1275 : 3 ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، 4616 : 5 یعنی، مجمع الزوائد، 106 : 9 یعنی نے کہا ہے کہ جنہوں نے اس واقعہ کو چھپایا اُن کی بصارت چل گئی۔

### حدیث نمبر 26:

((عن عمیر بن سعد أَن عَلِيًّا جَمَعَ النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَقَالَ: أَنْشَدَ اللَّهَ رَجُلًا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَنْتَ مَوْلَاهُ فَعَلَى مَوْلَاهٍ، فَقَامَ ثَمَانِيَّةُ عَشْرَ رَجُلًا فَلَيَسْهُدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا نَبِيًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَالِكُ))

”عمیر بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھلے میدان میں یہ قسم دیتے ہوئے سنائے کہ کس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنائے کہ جس کا میں مولی ہوں اس کا علی مولا ہے؟ تو اٹھارہ افراد نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔“

1- یعنی نے مجمع الزوائد 108 : 9) میں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد حسن ہیں۔ 2- حسام الدین ہندی، کنز الثمال، 154 : 13، 155 : 13، رقم. 364803 : شوکانی، درالصحابہ 211 :

### حدیث نمبر 27:

((عن أبي الطفيل، قال: جَمَعَ عَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسَ فِي الرَّحْبَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَنْشَدَ

الله کل امرِ مسلم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یوم غدیر خم ما سمع لاما قام، فقام ثلاثةون من الناس، و قال أبو نعیم : فقام ناس کثیر فشهدوا حين اخذہ بیده، فقال للناس : أتعلمون أنی اولی بالمؤمنین من انفسهم؟ قالوا : نعم، يا رسول اللہ اقال : من كنت مولاہ فهذا مولاہ، اللهم اوال من والاه و عاد من عاداہ، قال فخرجت و کان فی نفسي شیاً فلقيت زید بن ارقم فقلت له : إني سمعت علياً رضي الله عنه يقول کذا و کذا، قال فما تناکر قد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ذلك له))

”ابو طفیل سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک کھلی جگہ (رجیہ) میں جمع کیا، پھر ان سے فرمایا : میں ہر مسلمان کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غدرِ خم کے دن (میرے متعلق) کچھ فرماتے ہوئے سنائے وہ کھڑا ہو جائے۔ اس پر تیس افراد کھڑے ہوئے جبکہ ابو عیم نے کہا کہ کثیر افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ (ہمیں وہ وقت یاد ہے) جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں سے فرمایا: کیا تمہیں اس کا علم ہے کہ میں مؤمنین کی جانب سے قریب تر ہوں؟ سب نے کہا: ہاں، یا رسول اللہ اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اُس کا یہ (علی) مولا ہے، اے اللہ اتواء دوست رکھ جو اے دوست رکھے اور تو اُس سے عداوت رکھ جو اس نے عداوت رکھے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے لکھا تو میرے دل میں کچھ لٹک تھا۔ اسی دوران میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنائے۔ (اس پر) زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا: تو کیسے انکار کرتا ہے جبکہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایسا ہی فرماتے ہوئے سنائے؟“

- 1- احمد بن حبیل نے المسند 370 : 4) 2. نسائی، خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: 84 رقم: 723 بزار، المسند، 1334 : 2 احمد بن حبیل، فضائل الصحابة، 682 : 2، رقم 11675 : 11، ابن حبان کی اتحجج 376 : 15، رقم: 6931 ) 6. ابن ابی عاصم، کتاب النہ 603 : ، رقم 13667 : - حاکم نے المسند رک 109 : 3، رقم 4576 : کی میں اسے شیخین کی شرط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ 8- یہیقی، السنن الکبری، 1349 : 5- یہ حدیث مختصر الفاظ سے طبرانی نے اتحجج الكبير 195 : 5)، رقم 5071 : ) میں روایت کی ہے۔ 10- محب طبری، الزیاض الانضرة فی مناقب الشہر، 127 : 3.
11. یہیقی، مجمع الزوائد، 10412 : 19 ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ 171 : 4) میں لکھا ہے کہ رجبہ سے مراد کوفہ کی مسجد کی کھلی جگہ ہے۔ 13- یہیقی نے الصواعق المحرقة (ص 122) میں لکھا ہے کہ یہ حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کی ہے اور اس کے طرق کی کثیر تعداد صحیح یا حسن کے ذیل میں آتی ہے۔ 14- شوکانی، راسحابہ 209 :

نائی نے اسے ابو طفیل کے علاوہ عامر بن واٹلہ سے بھی روایت کیا ہے۔  
ابن حبان نے ابو طفیل کی سند کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کے رجال کو ثقہ کہا ہے۔  
حاکم نے اسے شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔

### حدیث نمبر 28:

((عن ریاح بن حرث قال : جاء رهط إلى علی رضی اللہ عنہ بالوہبة فقالوا : السلام عليك يا مولانا ! قال : كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب ؟ قالوا : سمعنا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يوم خدیر خم يقول : من كنت مولاه فان هذا مولاہ، قال ریاح : فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء ؟ قالوا : نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري))

”ریاح بن حرث سے روایت ہے کہ ایک وفد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا : اے ہمارے مولا ! آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا : میں کیسے آپ کا مولا ہوں حالانکہ آپ تو قوم عرب ہیں (کسی کو جلدی قائد نہیں مانتے)۔ انہوں نے کہا : ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدیر خم کے دن سنائے : جس کا میں مولا ہوں بے شک اس کا یہ (علی) مولا ہے۔ حضرت ریاح رضی اللہ عنہ نے کہا : جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے ان سے جا کر پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ انصار کا ایک وفد ہے، ان میں حضرت ابوایوب الانصاری رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔“

1. احمد بن حنبل، المسند، 4192، رقم 5: 4192، حنبل، فضائل الصحابة، 572: 2، رقم 9673: ابن أبي شيبة، المصنف، 12، رقم 121224: طبرانی، مجمع الکبیر، 173: 4، 174: 4، رقم 40535: 40535، یعنی، مجمع الزوائد، 103: 9، 60، 1046: محب طبری، الریاض المنظر، فی مناقب العترة، 1697: 2، ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، 172: 4، یعنی نے اس روایت کے رجال کو ثقہ قرار دیا ہے۔

### حدیث نمبر 29:

((عن عمر رضی اللہ عنہ : وقد نازعه رجل فی مسأله، فقال : يبني و بینك هذا الجالس، وأشار إلى علی بن أبي طالب رضی اللہ عنہ، فقال الرجل : هذا الأبطن ! فنهض عمر رضی اللہ عنہ عن مجلسه و أخذ بعليبیه حتى شاله من الأرض، ثم قال : أتدری من صغرت، مولای و مولی کل مسلم))

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ کسی مسئلے میں جھگڑا کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے اور تیرے درمیان یہ بیٹھا ہوا آدمی فیصلہ کرے گا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس آدمی نے کہا : یہ بڑے پیٹ والا (ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا) ! (حضرت

عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے، اسے گریبان سے پکڑا یہاں تک کہ اسے زمین سے اوپر اٹھالیا، پھر فرمایا : کیا تو جانتا ہے کہ تو جسے حقیر گرداتا ہے وہ میرے اور ہر مسلمان کے مولیٰ ہیں۔“

محب طبری، الریاض العضرہ فی مناقب العشر، 128، 3

محب طبری نے کہا ہے کہ ابن سماں نے اس کی تخریج کی ہے۔

### حدیث نمبر 30:

((وَعَنْ عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ جَاءَهُ أَعْرَابِيَانٍ يَخْتَصِّمُونَ، فَقَالَ لِعَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِفْضِيْ بَيْنَهُمَا يَا أَبَا الْحَسْنَ إِفْقَضِيْ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هَذَا يَقْضِيْ بَيْنَنَا! فَوَثَّبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَخْذَ بِتَلْبِيهِ، وَقَالَ: وَيَحْكُمُ إِمَامَ تَدْرِيْ  
مِنْ هَذَا؟ هَذَا مَوْلَائِيْ وَمَوْلَىٰ كُلِّ مُؤْمِنٍ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ))

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس دو بد و جھگڑا کرتے ہوئے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا : اے ابو الحسن! ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمادیں۔ پس آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ (کیا) یہی ہمارے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے رہ گیا ہے؟ (اس پر) حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف بڑھے اور اس کا گریبان پکڑ کر فرمایا : تو ہلاک ہو! کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون ہیں؟ یہ میرے اور ہر مؤمن کے مولا ہیں (اور) جو ان کو اپنا مولا نہ مانے وہ مؤمن نہیں۔“

1- محب طبری نے یہ روایت خاتم العجمی فی مناقب ذوی القریب (ص 126) میں بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اسے ابن سماں نے اپنی کتاب الموافقة میں ذکر کیا ہے۔ 2- محب طبری، الریاض العضرہ فی مناقب العشر، 128، 3

### حدیث نمبر 31:

((عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَىٰ مَوْلَىٰ مِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَوْلَاهُ عَنْ سَالِمٍ قَبْلَ لِعُمُرٍ: إِنَّكَ تَصْنَعُ بِعَلَىٰ شَيْئًا مَا تَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّهُ مَوْلَائِي))

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے مولا ہیں علی رضی اللہ عنہ اس کے مولا ہیں۔ حضرت سالم سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا (امتیازی) برداشت کرتے ہیں جو آپ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے (عموماً) نہیں کرتے اس پر) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (جو ابا) فرمایا : وہ (علی) تو میرے مولا (آقا) ہیں۔“

1. محب طبری، الریاض العضرہ فی مناقب العشر، 128، 3

حدیث نمبر 32:

((عن یزید بن عمر بن مورق قال : كنت بالشام و عمر بن عبد العزیز يعطى الناس ، فتقدمت إليه فقال لي : من أنت ؟ قلت : من قريش ، قال : من أى قريش ؟ قلت : من بنى هاشم ، قال : من أى بنى هاشم ؟ قال : فسكت . فقال : من أى بنى هاشم ؟ قلت : مولى علىؑ ، قال : من علىؑ ؟ فسكت ، قال : فوضع يده على صدرى وقال : و أنا والله مولى علىؑ بن أبي طالب رضي الله عنه ، ثم قال : حدثني عدة أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه و آله وسلم يقول : من كنت مولاً له فعل ما لدك مولاً ، ثم قال : يا مزاحم اكم تعطى أمثاله ؟ قال : مائة أو مائتى درهم ، قال : اعطيه خمسين ديناراً ، وقال ابن أبي داؤد : ستين ديناراً لولايته علىؑ بن أبي طالب رضي الله عنه ، ثم قال : الحق بيدك فسيأتيك مثل ما يأتي نظرك ))

”یزید بن عمر بن مورق روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر میں شام میں تھا جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ لوگوں کو نواز رہے تھے۔ پس میں ان کے پاس آیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس قبلیے سے ہیں؟ میں نے کہا: قریش سے۔ انہوں نے پوچھا کہ قریش کی کس (شاخ) سے؟ میں نے کہا: بنی هاشم سے۔ انہوں نے پوچھا کہ بنی هاشم کے کس (خاندان) سے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا۔ انہوں نے (پھر) پوچھا کہ بنی هاشم کے کس (خاندان) سے؟ میں نے کہا: مولا علی (کے خاندان سے)۔ انہوں نے پوچھا کہ علی کون ہے؟ میں خاموش رہا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا: بخدا امیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں۔ اور پھر کہا کہ مجھے بے شمار لوگوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضور نبیؐ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے تھا: جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔ پھر مزاحم سے پوچھا کہ اس قبل کے لوگوں کو کتنا دے رہے ہو؟ تو اُس نے جواب دیا: سو یادوسود رام۔ اس پر انہوں نے کہا: علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قرابت کی وجہ سے اُسے پچاس دینار دے دو، اور امین ابی داؤد کی روایت کے مطابق سانچھ دینار دینے کی ہدایت کی، اور (آن سے مخاطب ہو کر) فرمایا: آپ اپنے شہر تشریف لے جائیں، آپ کے پاس آپ کے قبل کے لوگوں کے برابر حصہ پکنچ جائے گا۔“

1. ابویعیم، حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء، 3644 : 15، بن اثیر، اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابة، 427 : 6، 428 :

حدیث نمبر 33:

((عن الزہری قال : سمعت أبا جنیدة جندع بن عمرو بن مازن ، قال .: سمعت النبیؑ يقول : من كذب علىؑ متعمداً فليتبوا مقعده من النار ، و سمعته و إلا صُمتا ، يقول . و

قد انصرف من حجة الوداع فلما نزل غدیر خم قام في الناس خطيباً وأخذ بيده على رضي الله عنه، وقال : من كنت وليه فهذا وليه، اللهم إوال من وآله، وعاد من عاداه. قال عبيد الله : فقلت للزهري : لا تحدث بهذا بالشام، وأنت تسمع ملء أذنيك سب على رضي الله عنه، فقال : و الله إإن عندي من فضائل على رضي الله عنه ما لو تحدث بها لفُلتُ )

”زہری سے روایت ہے کہ ابو جنیدہ جندع بن عمرو بن مازن نے کہا : میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا : جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ (اور یہ فرمان) میں نے خود سنائے ورنہ میرے دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس لوئے اور غدریخ کے مقام پر پہنچے، لوگوں کو خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھام کر فرمایا: جس کا میں ولی ہوں یہ (علی) اس کا ولی ہے، اے اللہ اجواسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھ اور جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ عبید اللہ نے کہا : میں نے زہری سے کہا: ایسی باتیں ملک شام میں بیان نہ کرنا ورنہ تو وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت میں اتنی باتیں سنے گا کہ تیرے کاں بھر جائیں گے۔ (اس کے جواب میں) امام زہری نے فرمایا: اللہ کی قسم! حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اتنے فضائل میرے پاس محفوظ ہیں کہ اگر میں انہیں بیان کروں تو مجھے قتل کر دیا جائے۔“

ابن اثیر، اسد الفاقہ فی معرفۃ الصحابة، 572، 1 : 573

### حدیث نمبر 34:

((عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال : سئل رجل عن علي رضي الله عنه، قال : يا عمرو! إن أشياعنا سمعوا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم يقول : من كنت مولاه فعلی مولاه، فحق ذلك أم باطل؟ فقال عمرو : حق و أنا أزيدك : إنه ليس أحد من صحابة رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم له مناقب مثل مناقب علي))

”حضرت عمر بن العاص رضي الله عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا: اے عمرو! ہمارے بزرگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے شاکہ جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔ یہ بات درست ہے یا غلط؟ عمرو نے کہا: درست ہے، اور میں آپ کو مزید بتاؤں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے مناقب نہیں ہیں۔“

(ابن قتیبه دینوری، الامام والسياسة، 113 : 1)

### حدیث نمبر 35:

((عن علی رضی اللہ عنہ قال: عَمِّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يوْمَ غَدَیرِ خَمْ بِعِمَامَةٍ سَدَّلَهَا خَلْفِي، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمْدَنِي يَوْمَ بَدرٍ وَّ حَنِينَ بِمَلَائِكَةٍ يَعْتَمِدُونَ هَذِهِ الْعُمَّةَ، فَقَالَ: إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةٌ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالإِيمَانِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدریخم کے دن ایسے عمامے سے میری دستار بندی کروائی جس کا شملہ پیچھے لٹکا دیا پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بدر و حنین میں (جن) فرشتوں کے ذریعے میری مدد کی، انہوں نے اسی بیت کے عمامے باندھ رکھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پیشک عمامة کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔“

1. حلیلی، المسند 23 :، رقم 1542 : حام الدین ہندی، کنز العمال، 306 : 15، 482، رقم 41141 :.

419093. ہیئت، السنن الکبریٰ، 14 : 10 :

حام الدین ہندی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو طیلی ای کے علاوہ ہیئت، طبرانی، ابن ابی شیبہ اور ابن منج نے بھی روایت کیا ہے۔ حام الدین ہندی نے ان العمامة حاجزۃ بین المسلمين والمرکبین کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ عبد العالی بن عدی سے بھی یہ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدریخم کے دن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلا یا اور اُن کی دستار بندی فرمائی اور دستار کا شملہ پیچھے لٹکا دیا۔ یہ حدیث درج ذیل کتب میں ہے: 1. ابن اشیر، اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابة، 1702 : 3 محبت طبری، الریاض النظر فی مناقب العشرہ،

3 : 194

### حدیث نمبر 36:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مَنْ كَنْتُ مُولاًهُ فَعُلِيُّ مُولاًهُ۔ اللَّهُمَّ وَالْمَوْلَاهُ وَعَادُهُ وَعَادُهُ مِنْ عَادَهُ وَأَنْصَرُهُ وَأَخْدَلُهُ مِنْ خَذَلَهُ، وَالْعَنْ مِنْ ظَلَمَهُ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اے اللہ! جو انہیں دوست رکھے تو اسے دوست رکھا اور جو انہیں دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھا اور اس کی مدد کر جوان کی مدد کرے اور اس کی مدد نہ کر جوان کی مدد نہ کرے اور اس پر لعنت کر جس نے ان پر ظلم کیا۔“

### حدیث نمبر 37:

((عن شعبہ، عن سلمة بن کھیل، قال: سمعت أبا الطفیل یحدهث عن أبي بسیرحة، أو زید بن أرقیم، (شك شعبہ) عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال: مَنْ كَنْتُ مُولاًهُ فَعُلِيُّ مُولاًهُ)) (قال) وقد روی شعبہ هذا الحديث عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقیم عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم))

”شعبہ، سلمہ بن کہل سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابوظفیل سے سنا کہ ابو سریح یا زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (شعبہ کو راوی کے متعلق شک ہے) کہ حضور نبیؐ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں، اُس کا علیؑ مولا ہے۔“

شعبہ نے اس حدیث کو میمون ابو عبد اللہ سے، انہوں نے زید بن ارقم سے اور انہوں نے حضور نبیؐ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔

1. ترمذی، الجامع الحسنی، 79 : 6، ابواب الناقب، رقم. 37132 : طبرانی، المجمع الكبير، 195 : 204، 5 : 1370، 1367، 1364، 1363 : 1361، رقم 604 : 603، السنة 603 : 1361، رقم 5071 : 50963، ابن ابی عاصم، السنة 602 : 13552، رقم 6 : 32072، ابن ابی شیبہ، المصنف، 366 : 6، رقم 13542 : طبرانی، المجمع الكبير، 173 : 4، رقم 40523 : طبرانی، المجمع الأوسط، 229 : 1، رقم 348 : حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مندرجہ ذیل کتب میں روایت کی گئی ہے۔ 1: ابن ابی عاصم، السنة 602 : 605، رقم 1358 : 13752، نیاء مقدسی، الاحادیث الخوار، 139 : 3، رقم 937 : یہ حدیث ابن بریدہ رضی اللہ عنہ سے مندرجہ ذیل کتب میں منقول ہے۔ 1: ابن ابی عاصم، السنة 601 : 13532، رقم 13592 : حام الدین ہندی، کنز المعامل، 602 : 11، رقم 32904 : یعنی نے موارد الظہار (ص 544 : 2204 : ) میں ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث عبد الرزاق نے، المصنف، 225 : 11، رقم 20388 : میں روایت کی ہے۔ یہ حدیث جبھی بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے ان کتب میں مروی ہے۔ 1: ابن ابی عاصم، السنة 602 : 608، رقم 32946 : 11، رقم 412 : 3) میں عبد اللہ بن یاسیل سے یہ روایت نقل کی ہے۔ طبرانی نے یہ حدیث المجمع الكبير 179 : 3، رقم 3049 : ) میں حذیفہ بن اوسید غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کی ہے۔ یہ حدیث حضرت مالک بن حوریث رضی اللہ عنہ سے ان کتب میں مروی ہے 1: طبرانی، المجمع الكبير، 19 : 252، رقم 6462 : 106 : 9، یعنی، مجمع الزوائد، 106 : 9

### حدیث نمبر 38:

((عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ، قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ما تریدون مِنْ عَلَیٖ؟ مَا تریدون مِنْ عَلَیٖ؟ مَا تریدون مِنْ عَلَیٖ؟ إِنَّ عَلَیًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَ

هو ولی کل مؤمن من بعدی)

”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ علی کے متعلق کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ علی کے متعلق کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ علی کے متعلق کیا چاہتے ہو؟ پھر فرمایا: بیٹک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔“

1. ترمذی، الجامع صحیح، 78 : 6، ابواب المناقب، رقم. 37122 : نسائی، خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 77 : 92، رقم 65 : 86 نسائی کی بیان کردہ دونوں روایات کی اسناد صحیح ہیں۔ 3. نسائی، السنن الکبریٰ، 132 : 5، رقم

84844 : احمد بن حنبل کی المسند 437 : 4، 438) میں بیان کردہ روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں: و قد تغیر

وجهه، فقال: دعوا علينا، دعوا علينا، ان على مني و انا منه، وهو ولی کل مؤمن بعدی (اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی (کی مخالفت کرنا) چھوڑ دو، علی (کی مخالفت کرنا) چھوڑ دو، بیٹک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے)۔ 5. احمد بن حنبل، فضائل الصحابة، 620 : 2، رقم. 10606 : ابن ابی شیبہ، المصنف، 80 : 12، رقم 121707 : حاکم نے المستدرک (3)

4579 : 111، 110، رقم 373 : ) میں اس روایت کو مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے، جبکہ ذہبی نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ 8. ابن حبان نے اصح 373 : 15، 374، رقم 6929 : ) میں یہ حدیث قوی سند سے روایت کی ہے۔ 9. ابو یعلی

نے المسند 293 : 1)، رقم 355 : ) میں اسے روایت کرتے ہوئے کہہا ہے کہ اس کے رجال صحیح ہیں، جبکہ ابن حبان نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ 10. طیاسی کی المسند (ص 111 :، رقم 829 : ) میں بیان کردہ روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضور

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما هم لعلی (انہیں علی کے پارے میں اتنی تشویش کیوں ہے)؟ 11. ابو قاسم، حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء، 29412 : 6 محب طبری، الریاض العظر فی مناقب العشر، 12913 : 3 یعنی، موارد

الظہار، 543، رقم 220314 : حسام الدین ہندی، کنز العمال، 142 : 13، رقم 36444 :

### حدیث نمبر 39:

((عن سعد بن أبي وقاص، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ كَنْتُ مُولَاهُ فَعُلَيَّ مُولَاهٌ، وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَنْتَ مُنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي ، وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا أَعْطِيَنَّ الرَّأْيَ الْيَوْمَ رَجُلًا يَحْبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ))

”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جس کا میں ولی ہوں اُس کا علی ولی ہے۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (حضرت علی رضی اللہ عنہ سے) یہ فرماتے ہوئے سنا: تم میری جگہ پر اسی طرح ہو جیسے ہارون، موسیٰ کی جگہ پر تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (غزوہ خیبر کے موقع پر) یہ بھی فرماتے ہوئے سنا: میں آج اس شخص کو علم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول ہے مجتب کرتا ہے۔“

1- ابن ماجہ السنن 90 : 1، المقدمہ، رقم 121 : )

2۔ امام نسائی نے یہ حدیث خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (ص 32، 33، رقم 91) میں ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ تقلی کی ہے۔

3۔ ابن ابی عاصم، کتاب النہ 608 :، رقم 13864 : حزی، تجھۃ الاشراف، معرفۃ الاطراف، 302 : 3، رقم 3901 :

### حدیث نمبر 40:

((عن البراء بن عازب، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق، فامر الصلاة جامعة، فأخذ بيدي علی رضي الله عنه، فقال: ألسْتُ أولی بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى، قال: ألسْتُ أولی بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، قال: فهذا أولی من أنا مولاه، اللهم إوالی من والاه، اللهم إعاد من عاداه))

”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز پا جماعت (قائم کرنے) کا حکم دیا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ پڑکر فرمایا: کیا میں مؤمنین کی جانب سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا میں اس کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اے اللہ! جو سے دوست رکھے اُسے تو دوست رکھے (اور) جو اس سے عداوت رکھے اُس سے تو عداوت رکھ۔“

1. ابن ماجہ، السنن، 88 : 1، المقدمہ، رقم 1162 :، ابن ابی عاصم نے کتاب النہ (ص 603 :، رقم 1362 : ) میں مختصر ذکر کی ہے۔ 2. ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، 1684 : 4 حسام الدین ہندی، کنز العمال، 602 : 11، رقم 32904 :  
یہ حدیث صحیح ہے۔

### حدیث نمبر 41:

((عن البراء بن عازب رضی الله عنه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم في سفر، فنزلنا بعد دير خم فنودى فيما الصلاة جامعة وكسح لرسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم تحت شجرتين فصلى الظهر وأخذ بيدي علی، فقال: ألسْتُ علمون أنی أولی بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، قال: هأخذ بيدي علی، فقال: من كنت مولا فعلى مولا، اللهم إوالی من والاه وعاد من عاداه قال: فلقيه عمر رضي الله عنه بعد ذلك، فقال له: هنیئاً يا ابن ابی طالب! اصبحت وامسيت مولی کل مؤمن ومؤمنة))

”حضرت براء بن عازب رضي اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے، (راستے میں) ہم نے غدریخ میں قیام کیا۔ وہاں ندادی گئی کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دودرختوں کے شیخے صفائی کی گئی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازو ظہر ادا کی اور حضرت علی رضي اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی قریب تر ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی قریب تر ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! راوی کہتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضي اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ! اُسے تو دوست رکھ جو اسے (علیٰ کو) دوست رکھے اور اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے۔ راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر رضي اللہ عنہ نے حضرت علی رضي اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے کہا: اے ابن ابی طالب! مبارک ہو، آپ صحیح و شام (ہمیشہ کے لئے) ہر مومن و مومنہ کے مولا بن گئے۔“

1- احمد بن خبل نے المسند 281 : 4) میں حضرت براء بن عازب رضي اللہ عنہ سے یہ حدیث دو مختلف اسناد سے بیان کی ہے۔ 2- احمد بن خبل، المسند، 13: 119۔ احمد بن خبل، فضائل الصحابة، 2: 610، رقم: 10424، ابن ابی شیبہ، المصنف، 78 : 12، رقم 121675 : 1256 : محبت طبری، ذخیر العقیمی فی مناقب ذوی القربی۔ 3- محدث طبری، الریاض الخضراء فی مناقب العترة، 126 : 3، 1277 : 3۔ مناوی نے فیض القدر 217 : 6) میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر و عمر رضي اللہ عنہما نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول من كنت مولا فعلي مولا سناتو (حضرت علی رضي اللہ عنہ سے) کہا: اے ابو طالب کے بیٹے! آپ صحیح و شام (ہمیشہ کے لئے) ہر مومن اور مومنہ کے مولا قرار پائے۔ 4- حسام الدین ہندی، کنز الممال، 133 : 134، 13، رقم 364209 : ۔ امام احمد بن خبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابة 610 : 2، رقم: 1042 میں سیدنا عمر فاروق رضي اللہ عنہ والی حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: و عاد من عاده و النصر من نصره، و احب من احبه۔ قال شعبۃ: او قال: و ابغض من ابغضه (اے اللہ! جو (علیٰ) سے عداوت رکھے اُس سے تو عداوت رکھ جو (علیٰ) کی مدد کرے اُس کی تقدیر فرماء، جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ شعبہ کا کہنا ہے کہ اس کی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو (علیٰ) سے بغض رکھے تو (بھی) اس سے بغض رکھ۔ 5- ذہبی نے سیر اعلام المبلاع 623 : 2، 624) میں کہا ہے کہ حضرت عمر رضي اللہ عنہ نے ہنہیا لک یا علی (اے علیٰ آپ کو مبارک ہو) کے الفاظ کہے۔ 6- ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، 169 : 4 :

### حدیث نمبر 42:

((عن ابن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: مَنْ كَثُرَ وَلَيْهِ فَعْلَىٰ وَلَيْهِ))

حضرت ابن بريدة رضي اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا: جس کا میں ولی ہوں، اُس کا علی ولی ہے۔“

1. احمد بن حبیل، المسند، 3612 : 5 احمد بن حبیل، فضائل الصحابة، 563 : 2، رقم. 9473 : ابن ابی عاصم، کتاب السنہ، 12 : 601، رقم 1351 : 603، رقم 13664 : 13664 حاکم، المسند رک، 131 : 2، رقم. 25895 : ابن ابی شیبہ، المصنف، 12 : 57، رقم. 121146 : طبرانی، مجمع الکبیر، 166 : 5، رقم. 49687 : طبرانی، مجمع الاوسط، 100 : 101، رقم 3290510 : 9. حسام الدین ہندی، کنز العمال، 602 : 11، رقم 36511 : 169، رقم 36511 : 168 (15)، رقم 3290510 : 9. حسام الدین ہندی، کنز العمال، 602 : 11، رقم 36511 : 169، رقم 36511 : 168 (15) میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے اور کہا ہے کہ اسے ابن راہویہ اور ابن جریر نے روایت کیا ہے۔

### حدیث نمبر 43:

((عن زید بن ارقام رضی الله عنه قال : لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَزَلَ غَدَيرَ خَمْ، أَمْرَ بِذِوْحَاتٍ، فَقَمَنَ، فَقَالَ : كَأَنِّي قَدْ دُعِيْتُ فَأَجَبْتُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيمَكُمُ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ : كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، وَعَنْتَرَى؛ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخَلَّفُونِي فِيهِمَا، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرْدَا عَلَى الْحَوْضِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَ مُولَىِّ وَأَنَا مُولَىِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ . ثُمَّ أَخْدَبَ يَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ : مَنْ كَنْتُ مُولَاهُ فَهُدَا وَلِيَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي مُنْ وَالَّاهُ وَعَادِ مِنْ عَادَاهُ))

”حضرت زید بن ارقام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تحریف لائے تو غدری خم پر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائبان لگانے کا حکم دیا اور وہ لگادیئے گئے، پھر فرمایا: مجھے لگتا ہے کہ عنقریب مجھے (وصال کا) بلا و آنے کو ہے، جسے میں قبول کروں گا۔ تحقیق میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ایک دوسرے سے بڑھ کر اہمیت کی حامل ہیں: ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری آل۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اور وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی، یہاں تک کہ حوض (کوٹھ) پر میرے سامنے آئیں گی۔ پھر فرمایا: بے فک اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مؤمن کا مولا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: جس کا میں مولا ہوں، اُس کا یہ ولی ہے، اے اللہ اجواسے (علی کو) دوست رکھے اسے تو دوست رکھا اور جو اس سے عداوت رکھے اُس سے تو عداوت رکھ۔“

1. حاکم، المسند رک، 109 : 3، رقم. 45762 : طبرانی، مجمع الکبیر، 166 : 5، رقم 4969 : 5، رقم 8464 : 8148، رقم 130، 5 : 45، رقم 94: 169، نسائی، السنن الکبری، 45 : 5، رقم 3.

### حدیث نمبر 44:

((عن ابن واثلة انه سمع زید بن ارقام، يقول: نزل رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بین مکہ و المدینہ عند شجرات خمس دو حات عظام، فکنس الناس ما تحت الشجرات، ثم راح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیشة، فصلی، ثم قام خطیباً فحمد اللہ و اثنی علیہ و ذکر و وعظ، فقال ما شاء اللہ أَن يقول : ثم قال : أيها الناس ! إنی تارکٌ فیکم امریں، لَن تضلوا إِن اتبعتموهما، و هما کتاب اللہ و أهل بيته عترتی، ثم قال : أتعلمون إنی أولی بالمؤمنین مِن أنفسهم؟ ثلاث مراتٍ، قالوا : نعم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : مَن كَنْتُ مولاًه فعَلَّی مولاًه))

”ابن واٹلہ سے روایت کہ انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان پانچ بڑے گھنے درختوں کے قریب پڑا تو کیا اور لوگوں نے درختوں کے نیچے صفائی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکھد دیر آرام فرمایا۔ نماز ادا فرمائی، پھر خطاب فرمانے کیلئے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان فرمائی اور وعظ و نصیحت فرمائی، پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : اے لوگو امیں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کی بیروی کرو گے کبھی گمراہ ہیں ہو گے اور وہ (دو چیزیں) اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت راولاد ہیں۔ اس کے بعد فرمایا : کیا تمہیں علم ہیں کہ میں مؤمنین کی جانوں سے قریب تر ہوں؟ ایسا تین مرتبہ فرمایا۔ سب نے کہا : ہاں آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔“

1. حاکم، المسعد رک، 109، 3 : 110، 3، رقم 4577 :

2. ابن کثیر، الہدایہ والنهایہ، 1684 : 4 حام الدین ہندی، کنز العمال، 381 : 1، رقم 1657 :

### حدیث نمبر 45:

((عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، قال : خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتى انتهينا إلى غدير خم، فامر برؤح لکسح في يوم ما أتى علينا يوم كان أشد حراً منه، فحمد اللہ و اثنی علیہ، وقال : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا قَطُّ إِلَّا مَا عَاشَ نَصْفَ مَا عَاشَ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَإِنِّي أَوْشَكُ أَنْ أَدْعُ فَاجِبًا، وَإِنِّي تارکٌ فیکم ما لَنْ تَضْلُّوا بَعْدَهُ کتاب اللہ عزوجل . ثم قام و أخذ بيده علی رضی اللہ عنہ، فقال : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِمَّنْ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ؟ قالوا : اللہ و رسولہ أعلم، أَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ؟ قالوا بلى، قال : مَنْ كَنْتُ مولاًه فعَلَّی مولاًه))

”زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تک، یہاں تک کہ غدر خم پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائبان لگانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم اس دن تھا واث محسوس کر رہے تھے اور وہ دن بہت گرم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و شایان کی اور فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی مجیم ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی سے نصف زندگی پائی، اور مجھے لگتا ہے کہ عنقریب مجھے (وصال کا) بلاوا آنے کو ہے جسے میں قبول کرلوں گا۔ میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے تم ہرگز گمراہ نہیں ہو گے، وہ کتاب اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قمام لیا اور فرمایا: اے لوگو! کون ہے جو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے؟ سب نے کہا: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ (پھر) فرمایا: کیا میں تمہاری جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں!

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔“

1. حاکم، المبتدر ک، 533 : 3، رقم. 62722 : طبرانی، الحجۃ الکبیر، 171 : 172، 5، رقم. 49863 : بیشی نے مجموع الزوائد (105:9) میں کہا ہے کہ اس حدیث کے ایک راوی حبیب بن خلاد النصاری کو میں نہیں جانتا جبکہ اس کے بقیہ رجال نہ ہیں۔ 4. حسام الدین ہندی، کنز العمال، 602 : 11، رقم 32904 :

یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے اور امام ذہبی نے بھی اسے صحیح ترا دردیا ہے۔

#### حدیث نمبر 46:

((عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال : لقد سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآلہ وسلم يقول في علیٰ ثلاث خصال، لأن يكُون لى واحدة منها أحب إلىٰ من حمر النعم . سمعته يقول : إنَّه بمنزلة هارون من موسى، إِلَّا أَنَّه لَا نَبِي بَعْدِي، وَ سمعته يقول : لَا عطينَ الرَايَةَ غَدَأَرْجَلًا يَحْبَبُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَ يَحْبَبُ اللهُ وَرَسُولُهُ سمعته يقول : مَنْ كَنَّتْ مَوْلَاهُ، فَعَلَيْهِ مَوْلَاهٌ))

”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تین خصلتیں ایسی ہتائی ہیں کہ اگر میں اُن میں سے ایک کا بھی حامل ہوتا تو وہ مجھے سُرخ اُونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (ایک موقع پر) ارشاد فرمایا: علی میری جگہ پر اسی طرح ہیں جیسے ہارون موسیٰ کی جگہ پر تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور فرمایا: میں آج اس شخص کو علم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (اس موقع پر) یہ فرماتے ہوئے بھی سنا: جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔“

1. نبی، خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ 33 : 34، 88، رقم 10 : 802. نبی نے یہ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص سے میں کنت مولا فعلی مولا کے الفاظ سے بھی خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

ص: 88، رقم: 80) میں بیان کی ہے۔ 3۔ حام الدین ہندی نے کنز العمال 163 : 15)، رقم 36496 : ) میں عامر بن حدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت چند الفاظ کے اضافے کے ساتھ ذکر کی۔  
اس حدیث کی اسناد صحیح ہیں۔

### حدیث نمبر 47:

((أخرج سفيان بن عيينة عن سعد بن أبي وقاص في مناقب علي رضي الله عنهم، إن له لمناقب أربع : لأن يكون لى واحدة منها أحب إلى من كذا و كذا، ذكر حمر النعم قولها : لأعطيين الرأية، و قولها : بمنزلة هارون من موسى، و قولها : من كنت مولاه، و نسي سفيان الرابعة))

”حضرت سفیان بن عینہ (مناقب علی رضی اللہ عنہ کے ضمن میں) سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چار خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر میں ان میں سے کسی ایک کا بھی حامل ہوتا تو اسے فلاں للاں چیز حتیٰ کہ سرخ اونٹوں سے زیادہ محظوظ رکھتا۔ وہ چار خوبیاں یہ تھیں: (پہلی خوبی انہیں غزوہ خیر کے موقع پر) جہنم کے کاعطا ہونا ہے۔ (دوسری خوبی) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے متعلق یہ فرمانا کہ (تیرا اور میرا متعلق ایسے ہے) جیسے ہارون اور موسیٰ کا (متعلق ہے)۔ (تیسرا خوبی) حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے متعلق یہ فرمانا کہ جس کا میں مولا ہوں (اس کا علی مولا ہے)۔ (راوی حدیث) سفیان بن عینہ کو چوتھی خوبی بھول گئی۔“

البن ابی عاصم، کتاب السنہ 607 :، رقم 13852 : احمد بن حبیل، نضائل الصحابة، 643 : 2، رقم 10933 : ضیاء مقدسی، الاحادیث المغارہ، 151 : 3، رقم 948 :

### حدیث نمبر 48:

((عن عبد الرحمن بن سابط (في مناقب علي)، قال : قال سعد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم يقول في على ثلاثة خصال، لأن يكون لى واحدة منها أحب إلى من الدنيا وما فيها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم يقول : من كنت مولاه، وانت مني بمنزلة هارون من موسى، و لأعطيين الرأية))

”عبد الرحمن بن سابط (مناقب علی کے ضمن میں) روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تین ایسی خصلتیں بیان فرماتے ہوئے سنائے کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے عطا ہو تو وہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محظوظ ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں (اس کا علی مولا ہے)، اور علی میری جگہ ایسا ہے جیسے موسیٰ کی جگہ ہارون، اور میں اسے علم عطا کروں گا (جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حبیب ہے

اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جبیب ہیں)۔“

1. ابن الی عاصم، کتاب السنہ 608 :، رقم. 13862 : ابن الی شیبہ، المصنف، 61 : 12، رقم. 121273 : مقدی، الاحادیث المخارہ، 207 : 3، رقم. 10084 : ابن عساکر، تاریخ دمشق الکبیر، 88 : 45، 89 :

ضیاء مقدی نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

### حدیث نمبر 49:

((عن رفاعة بن إیاس الضبی، عن أبيه، عن جده، قال : كننا مع علیٰ رضی الله عنہ یوم الجمل، فبعث إلی طلحة بن عبید الله أبا القنی، فأتاه طلحة، فقال : نشدك الله، هل سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول : مَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَیَّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِّيْ مِنْ وَالِّيْ وَعَادِ مِنْ عَادَاهُ؟ قال : نعم، قال : فَلِمَ تَقَاتِلُنِی؟ قال : لِمَ أَذْكُرُ، قال : فَانْصُرْ فَطَلحَةً))

”رفاعہ بن ایاس ضی اپنے والد سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کی طرف ملاقات کا پیغام بھیجا۔ پس حضرت طلحہ اُن کے پاس آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اے اللہ! جو علی کو دوست رکھتے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے عداوت رکھتے تو اس سے عداوت رکھ؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: ہاں! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: تو پھر میرے ساتھ کیوں جنگ کرتے ہو؟ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے یہ بات یاد نہیں تھی۔ راوی نے کہا: (اس کے بعد) حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ واپس لوٹ گئے۔“

1. حاکم المستدرک، 371 : 3، رقم. 55942 : تحقیق، الاعتقاد 3733 : ۳۷۳۳ : ۳۷۱ (تلمذی نے مجمع الزوائد 107 : 9) میں کہو ہے کہ یہ حدیث بزار نے ذمہ سے روایت کی ہے۔ 4- حام الدین ہندی، کنز العمال، 332 : 11، رقم 31662 :

### حدیث نمبر 50:

((عن بریدة بن الحصیب، قال : غزوتُ مع علیٰ الیمن فرأیتُ منه جفوة، فلما قدمت علی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکرُتُ علیا، فتنقصته، فرأیتُ وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتغیر، فقال : يَا بَرِیدَةُ إِلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ؟ قلْتُ : بَلِی، يَا رَسُولَ اللهِ ! قال : مَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَیَّ مَوْلَاهُ))

”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں کے غزوہ میں شرکت کی جس میں مجھے آپ سے کچھ شکوہ ہوا۔ جب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس

(جگت سے) واپس آیا تو میں نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر نامناسب انداز سے کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسے بریدہ! کیا میں موئین کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ تو میں نے کہا: کیوں نہیں، یا رسول اللہ! اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔

احمد بن حبیل، المسند، 3472 : 15 احمد بن حبیل، فضائل الصحابة، 584 : 2، رقم. 585، 9893 : نسائی، السنن الکبریٰ، 130 : 5، رقم. 84654 : حاکم، المستدرک، 110 : 3، رقم. 45785 : ابن الیثیب، المصنف، 84 : 12، رقم. 121816، 3267 شاشی، المسند، 1278 : 1 طبرانی، الجمیل الاوسط، 1 : 229، رقم. 3489 : مبارکپوری، تحفۃ الاحوذی، 14710 : 10 ابو قیم، حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء، 2311 : 4۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ 168 : 4)؛ 457 : 5) میں کہا ہے کہ نسائی کی بیان کردہ روایت کی اسناد جید توی ہیں اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ 12 حام الدین ہندی، کنز العمال، 134 : 13، رقم 36422 :

### حدیث نمبر 51:

((عن میمون ابی عبد اللہ، قال: قال زید بن ارقم رضی اللہ عنہ و أنا أسمع: نزلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بواڈ يقال له وادی خم، فأمر بالصلاۃ، فصلالها بهجیر، قال: فخطبنا و ظلل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بثوب علی شجرة سمرة من الشمس، فقال: ألستم تعلمون أو لستم تشهدون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فإن علياً مولاه، اللهم! اعاد من عاده و وال من والا))

”حضرت میمون ابو عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک وادی جسے وادی خم کہا جاتا تھا، میں اترنے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا حکم دیا اور سخت گرمی میں جماعت کروائی۔ پھر ہمیں خطبہ دیا درآ نحالیکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج کی گرمی سے بچانے کے لئے درخت پر کپڑا لٹکا کر سایہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نہیں جانتے یا (اس بات کی) گواہی نہیں دیتے کہ میں ہر مومن کی جان سے قریب تر ہوں؟ لوگوں نے کہا: کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پس جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ! تو اُس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے اور اسے دوست رکھ جو اسے دوست رکھے۔“

1. احمد بن حبیل، المسند، 3722 : 4 بیہقی، السنن الکبریٰ، 1313 : 5۔ طبرانی نے یہ حدیث الجمیل الکبریٰ، رقم 5068 : ) میں ایک اور سند سے روایت کی ہے۔ 4 بیہقی، مجمع الزوائد، 1045 : 9 حام الدین ہندی، کنز العمال، 157 : 13، رقم 364856 : ) ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، 172 : 4) میں اس روایت کی سند کو جید اور رجال کو ثقہ قرار

دیا ہے۔

### حدیث نمبر 52:

((عن عطیۃ العوفی، قال : سألت زید بن ارقم، فقلتُ له : أَنْ خَتَنَأَلی حَدِیثَنِی عَنْكَ بِحَدِیثٍ فِی شَانِ عَلیٰ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ غُدَیرِ خَمْ، فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ، فَقَالَ : إِنَّكُمْ مُعْشَرَ أَهْلِ الْعَرَاقِ فِی كُمْ مَا فِی كُمْ، فَقَلَتْ لَهُ : لَیْسَ عَلَیْکَ مِنِّی بِأَسْ، فَقَالَ : نَعَمْ، كُنَا بِالْجَحَفَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا ظَهِیرًاً وَهُوَ أَخْذَ بِعَضِدِ عَلیٰ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّی أَوَّلُى بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ أَنفُسِمْ؟ قَالُوا : بَلَیْ، قَالَ : فَمَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلَیٰ مَوْلَاهُ، قَالَ : فَقَلَتْ لَهُ : هَلْ قَالَ : اللَّهُمَّ أَوَّلُ مَنْ وَالَّهُ وَعَادَ مَنْ عَادَهُ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا أَخْبُرُكَ كَمَا سَمِعْتُ))

”عطیۃ عوفی“ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم سے پوچھا: میرا ایک داما ہے جو خدیر خم کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ کی روایت سے حدیث بیان کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ سے (براہ درست) سنوں۔ حضرت زید بن ارقم نے کہا: آپ اہل عراق نہیں تمہاری عادتیں تمہیں سلامت رہیں۔ پس میں نے کہا: میری طرف سے تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچے گی۔ (اس پر) انہوں نے کہا: ہم جھنہ کے مقام پر تھے کہ ظہر کے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بازو تھا میں ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! کیا تمہیں علم نہیں کہ میں مؤمنین کی جانب سے بھی قریب تر ہوں؟ تو انہوں نے کہا: کیوں نہیں! تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ عطیہ نے کہا: میں نے مزید پوچھا: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: اے اللہ! جو علی کو دوست رکھے اُسے تو دوست رکھ اور جو اس (علی) سے عداوت رکھے اُس سے تو عداوت رکھ؟ زید بن ارقم نے کہا: میں نے جو کچھ سناتھا وہ تمہیں بیان کر دیا ہے۔“

1. احمد بن حبیل، المسند، 368 : 4.

2- نسائی نے یہ حدیث حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے خاص کش امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (ص 97 : رقم 92) میں الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس کے بارے میں شیشی نے مجمع الزوائد 107 : 9) میں کہا ہے کہ اسے بزار نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔

3. طبرانی، مجمع الکبیر، 195 : 5، رقم 50704 : حسام الدین ہندی، کنز العمال، 105، 13 : 36343 رقم :

5- میمون ابو عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی۔ حسام الدین ہندی نے یہ حدیث کنز العمال 104 : 13)، رقم 36342 (:

میں بیان کی ہے۔

### حدیث نمبر 53:

((عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمما قال: كنا بالجحفة بغدير خم إذ خرج علينا رسول الله، فأخذ بيده على رضي الله عنه فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه)) حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنهمما سے روایت ہے کہ ہم جھفہ میں غدریم کے مقام پر تھے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاہ تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضي الله عند کہا تھا پکڑ کر فرمایا : جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے۔

1- ابن ابی شیبہ، المصنف، 59 : 12، رقم 121212 : - ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ 173 : 4) میں حاصل ہے کہ ہمارے شیخ ذہبی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ 3- حام الدین ہندی، کنز العمال، 137 : 13، رقم 3243 :

### حدیث نمبر 54:

((عن علی رضي الله عنه، أن النبی قام بحفرة الشجرة بخم، و هو آخذ بيده على رضي الله عنه فقال: أيها الناس! ألستم تشهدون أن الله ربكم؟ قالوا: بلى، قال: ألستم تشهدون أن الله و رسوله أولى بكم من أنفسكم قالوا: بلى، و أن الله و رسوله مولاكم؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فإن هذا مولاه))

حضرت علی رضي الله عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام خم پر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضي الله عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری جانوں سے بھی قریب تر ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اُس کا یہ (علی) مولا ہے۔

1- ابن ابی عاصم، کتاب السنہ 603 :، رقم 13602 : - حام الدین ہندی نے یہ حدیث کنز العمال 140 : 13)، رقم 36441 میں نقل کی ہے اور کہا ہے کہ اسے ابن راہویہ، ابن جریر، ابن ابی عاصم اور حمائلی نے امامی میں روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔

### حدیث نمبر 55:

((عن حذیفة بن أسد الغفاری فقال: يا أيها الناس إنی قد نبأني اللطیف الخبیر أنه لن یعمر نبی إلا نصف عمر الذی یلیه من قبله، و إنی لأظن انی یوشک أن أدعی فاجیب، و إنی مسؤول، و إنکم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت و

جهد و نصحت، فجزاك الله خيراً، فقال : أليس تشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبد الله، وأن جنته حقٌ وناره حقٌ، وأن الموت حقٌ، وأن البعث بعد الموت حقٌ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا : بلى، نشهد بذلك، قال : اللهم اشهد، ثم قال : يا أيها الناس إن الله مولاى وأنا مولى المؤمنين و أنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاً فهذا مولاً يعني علياً رضي الله عنه اللهم إوال من والاه، و عاد من عاداه . ثم قال : يا أيها الناس إنني فرطكم وإنكم واردون على الحوض، حوضٌ أعرض ما بين بصرى و صناعه ، فيه عدد النجوم قد حان من فضة، وإنني سائلكم حين تردون على عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، الثقل الأكبر كتاب الله عزوجل سبب طرفه ييد الله و طرفه بأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا تبدلوا، و عترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنما لن ينقضيا حتى يردا على الحوض))

”حضرت حدیث بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو مجھے لطیف و خبیر ذات نے خبر دی ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنے سے پہلے نبی کی نصف عمر عطا فرمائی اور مجھے گمان ہے مجھے (عنقریب) بلاوا آئے گا اور میں اُسے قبول کرلوں گا، اور مجھے سے (میری ذمہ داریوں کے متعلق) پوچھا جائے گا اور تم سے بھی (میرے متعلق) پوچھا جائے گا، (اس بابت) تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں انتہائی جدوجہد کے ساتھ دین پہنچایا اور بھلائی کی باقاعدہ ارشاد فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاۓ خیر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبوذ نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنت و دوزخ حق ہیں اور موت اور موت کے بعد کی زندگی حق ہے، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ اہل قبور کو دوبارہ اٹھائے گا؟ سب نے جواب دیا: کیوں نہیں! ہم ان سب کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! تو گواہ بن جا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! پیشک اللہ میرا مولی ہے اور میں تمام مؤمنین کا مولا ہوں اور میں ان کی جانوں سے قریب تر ہوں۔ جس کا میں مولا ہوں اُس کا یہ (علی) مولا ہے۔ اے اللہ! جو اسے دوست رکھے تو اسے دوست رکھو، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھو۔ اے لوگو! اسیں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور تم مجھے حوض پر ملوگے، یہ حوض بصرہ اور صناعہ کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ چوڑا ہے۔ اس میں ستاروں کے برابر چاندی کے پیالے ہیں، جب تم میرے پاس آؤ گے میں تم سے دو انتہائی اہم چیزوں کے متعلق پوچھوں گا، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تم میرے پیچھے ان دونوں سے کیا سلوک کرتے ہوئے

پہلی اہم چیز اللہ کی کتاب ہے، جو ایک حیثیت سے اللہ سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری حیثیت سے بندوں سے تعلق رکھتی ہے۔ تم اسے مضبوطی سے تھام لو تو گمراہ ہو گئے نہ (حق سے) منحرف، اور (دوسری اہم چیز) میری عترت یعنی اہل بیت ہیں (آن کا واسن تھام لیتا)۔ مجھے لطیف خبری ذات نے خبر دی ہے کہ بیشک یہ دونوں حق سے نہیں ہیں گی یہاں تک کہ مجھے حوض پر ملیں گی۔“

1- طبرانی، مجمع الکبیر، 180، رقم. 30522 : 181، 3 : 3، رقم. 67 : 26833 : طبرانی، مجمع الکبیر، 166 : 167، 5، رقم. 49714 : بیشی، مجمع الزوائد، 164 : 9، 165 : 9

## حدیث نمبر 56:

((عن جریر قال : شهدنا الموسم في حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم، و هي حجة الوداع، فبلغنا مكاناً يقال له غدير خم، فنادى : الصلاة جامعة، فاجتمعنا المهاجرون والأنصار، فقام رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم وسطنا، فقال : أيها الناس إيم تشهدون؟ قالوا : نشهد أن لا إله إلا الله؟ قال : ثم مه؟ قالوا : و أن محمداً عبده و رسوله، قال : فمن وليكم؟ قالوا : الله و رسوله مولانا، قال : من وليكم؟ ثم ضرب بيده إلى عضد على رضي الله عنه، فأقامه فنزع عضده فأخذ بذراعيه، فقال : من يكن الله و رسوله مولياه فإن هذا مولاه، اللهم إوال من وآله، و عاد من عاده، اللهم إمن أحبه من الناس فكن له حبيباً، ومن أبغضه فكن له مبغضاً))

”حضرت جریرؑ سے روایت ہے کہ ہم جو حجه الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ایک ایسی چکھے پنچھے جسے غدری خم کہتے ہیں۔ نماز باجماعت ہونے کی ندائی تو سارے مہاجرین و انصار جمع ہو گئے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور خطاب فرمایا: اے لوگو! تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا: اہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پھر کس کی؟ انہوں نے کہا: بیشک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہارا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا: تمہارا ولی اور کون ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے) دونوں بازو تھام کر فرمایا: اللہ اور اس کا رسول جس کے مولا ہیں اُس کا یہ (علی) مولا ہے، اے اللہ اجوعلی کو دوست رکھ تو اسے دوست رکھ (اور) جو اس (علی) سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، اے اللہ اجول سے محبوب رکھے تو اس سے محبوب رکھا اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔“

1- طبرانی، مجمع الکبیر، 357، رقم. 25052 : 2، رقم. 1063 : 9۔ حسام الدین ہندی، کنز العمال،

: 36437، 139، 13 : 138

### حدیث نمبر 57:

((عن عمرو ذی مرو زید بن ارقم قالاً : خطب رسولُ اللهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يوم غدیر خم، فقال : من كنتُ مولاه فعلىّ مولاه، اللهم إوالٍ من والاه وعادٍ من عاداه، وانصرُ من نصره واعنِ من أعانه))

”حضرت عمروذی مرا اور حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی مولا ہے، اے اللہ اجواء سے دوست رکھئے تو اسے دوست رکھو اور جو اس سے عداوت رکھئے تو اس سے عداوت رکھو، اور جو اس کی نصرت کرے اُس کی توفیرت فرماء، اور جو اس کی اعانت کرے تو اس کی اعانت فرماء۔“

1- طبرانی، الجامع الكبير، 192، رقم 50592 : نسائی نے خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (ص) میں عمروذی مرسے روایت لی ہے۔ 3- یعنی، مجمع الزوائد، 104، 9، رقم 1064 : ابن کثیر، المدح والنهایہ، 1705 : 4- حام الدین ہندی، کنز العمال، 609، 11، رقم 32946 :

☆☆☆

### فصل نمبر 30:

#### ذکر قول النبی من كنت وليه فعلی وليه:

**رسول اللہ کا فرمان کہ جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی ہے**

### حدیث نمبر 1:

((اخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن جماد قال: اخبرنا ابو عوانة عن سليمان، قال: حدثنا حبيب بن ابى ثابت، عن ابى الطفیل، عن زيد بن ارقم قال: لما دفع (رجع) رسول الله النبی صلی اللہ علیہ و وسلم من حجۃ الوداع و نزل غدیر خم (أمر) بدوحات فقدم من ثم قال: کانی دعیت فاجبته و انی تارک فیکم الثقلین: احدهما کبر من الآخر، كتاب الله و عترتي اهل بيته، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فانهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض، ثم قال: ان الله مولاي و أنا ولی کل مومن، ثم أخذ بيده على، فقال: من كنت ولیه فهذا ولیه، اللهم وال من والاه، و عاد من عاداه، فقلت لزيد: سمعته من رسول الله؟ فقال: ما كان في البوحات احد الا رآه بعينيه، و سمعه بادئي))

(السن الكبيرى للنسائى ج 7 ص 310 رقم 436، ص 6092 رقم 410، طبع آخر 5 ص 45 رقم  
8464 رقم 130، مند احمد ج 1 ص 118، رقم 370، دج 4 ص 950، فضائل الصحابة ج 2  
ص 8148، رقم 724، 991، 992، 738، دج 1016، رقم 739، دج 413، حليل ص 197، كتاب السنة لابن أبي عاصم  
ص 590، رقم 1354، 1376، مند البر ارج 3 ص 35، رقم 786، صحيح ابن حبان ج 9 ص 42، رقم 6892، وطبع محقق  
ج 15 ص 375، المستدرك للحاكم ج 3 ص 108، رقم 4633، 4634، 4635، 4636، أجمم الكبير للطبراني  
رقم 4669، أجمم الصغير للطبراني ج 1 ص 119، رقم 129، دج 175، رقم 191، جزء فيه مانتقاه ابو بكر بن مردويه من حدیث  
الطبراني لأهل البصرة ص 101، رقم 105، كتاب التوحيد لابن خزيمة ج 1 ص 74، كتاب الفضعاء للعقلاني ج 3 ص 989،  
مختصر حارث دمشق ج 17 ص 348، تطفف الاذهار المتناثرة في الحدیث المتواترة للسيوطی ص 277)

و"حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے پلے اور "غدرِ خم" کے مقام پر اترے اور خیمے کھڑے کرنے کا حکم دیا تو وہ کھڑے کر دیئے گئے۔ پھر فرمایا: گویا مجھے بلا یا گیا ہے تو میں نے بلا واقبول کیا ہے اور میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوٹنے والا ہوں، ان میں سے ہر ایک دوسری سے بڑی ہے: اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میرے اولاد میرے اہل بیت۔ پس تم غور کرنا کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں تم میرا کتنا لاحاظہ رکھتے ہو؟ بلاشبہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسری سے جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض پر آئیں گی۔ پھر فرمایا: پیشک اللہ تعالیٰ میرا مولیٰ ہے اور میں ہر موسم کا مولیٰ ہوں۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: جس شخص کا میں مولیٰ ہوں تو یہ بھی اس کا مولیٰ ہیں۔ اے اللہ! تو اس شخص سے محبت کر جو علی کو محبوب رکھے اور اس شخص سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: کیا یہ ارشاد آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنائے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں (میں بھی اور میرے سوا) جو کوئی شخص بھی خیموں میں موجود تھا اس نے اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے دیکھا اور اپنے کا نوں سے سنائے۔

حدیث نمبر 2

((اَخْبَرَنَا اَبُو كَرِيبٍ مُحَمَّدٌ بْنُ الْعَلَاءِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَثَنَا اَبُو مَعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَثَنَا  
الْاعْمَشُ، عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبْيَدَةَ، عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ عَنْ ابْيَهِ قَالَ: بَعْثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ (فِي سُرِّيَّةِ) وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا عَلِيًّا فَلَمَّا رَجَعْنَا سَالَنَا: كَيْفَ رَأَيْتُمْ صَاحِبَةَ صَاحِبِكُمْ؟  
فَامَا شَكَوْتَهُ اَنَا، وَامَا شَكَاهُ غَيْرِي فَرَقَعْتَ رَأْسِي وَكُنْتَ رَحْلًا مَكْبَابًا (مِنْ مَكَّةَ) وَادْأَرْجَهُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احمر، فقال: من كنت وليه فعليه وليه))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 309، رقم 437، وص 8089، وص 8092، وص 411، رقم آخر  
ج 5 ص 350، رقم 130، وص 8145، وص 8465، وص 45، مند احمد ج 5 ص 23349)

و ص 358 رقم 23416 و ص 361 رقم 23445، فضائل الصحابة ج 2 ص 696 رقم 947 و ص 849 رقم 1167، المحرر ال Zar المعرف بمسند المزارج 10 ص 257 رقم 4352 و ص 258 رقم 4354، کتاب السنة لابن أبي عاصم ص 590 رقم 1354)

”حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد (بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا اور ہمارا امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ پس ہم واپس لوئے تو آپ نے ہم سے دریافت کیا کہ تمہارے امیر تمہارے ساتھ کیسے رہے؟ اس پر میں نے یا کسی اور شخص نے شکایت کی اور میں سر جھکا کر بات کرنے والا شخص تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: میں جس شخص کا مولیٰ ہوں تو علی بھی اس کے مولیٰ ہیں۔“

### حدیث نمبر 3:

((خبرنا محمد بن المثنی) قال: حدثنا ابو احمد، قال: اخبرنا عبد الملک بن ابی غنیة، عن الحکم، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس قال: حدثی بریدہ قال: بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی الیمن، فرأیت منه جفوة، فلیما رجعت شکوت (شکوته) الی الشی صلی اللہ علیہ وسلم، فرفع رأسه الی وقال: یا بریدہ! من كنت مولا فعلى مولا))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 930 و 908 و 89 و 84 و 12 و 43 و 37 و 84 و 130 و 8145 رقم 723 و 989، فضائل الصحابة ج 2 ص 722، المستدرک للحاکم ج 3 ص 109 رقم 3635، مسند المزارج 10 ص 4352، مختصر زوائد المزارج 2 ص 1910 و 306 رقم 211 و 6685)

”حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد (حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کی طرف بھیجا تو میں نے آپ سے جفا کیکھی۔ پھر جب میں پلٹ کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی شکایت کی تو آپ نے سرا اقدس اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا: ایے بریدہ! میں جس کا مولیٰ ہوں تو علی بھی اس کا مولیٰ ہے۔“

### حدیث نمبر 4:

((خبرنا ابو داود) قال: حدثنا ابو نعیم قال: حدثنا عبد الملک بن ابی غنیة، قال: اخبرنا الحکم، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، عن بریدہ، قال: خرجت مع علی رضی اللہ

تعالیٰ عنہ الی الپھن فرایت منہ جفوہ، فقدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت علیاً فتنقص صحتہ، فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر وجهہ، فقال: یا بریدہ! الست اولی بالمومنین من انفسہم؟ قلت: بلی! یا رسول اللہ، قال: من کنت مولاہ فعلی مولاہ))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 930 رقم 384 و طبع آخر ج 5 ص 45 رقم 131 ص 8145 و ص 131 رقم 8467، مندادہ ج 5 ص 347 رقم 23333، فضائل الصحابة ج 2 ص 723 رقم 989، الہادی والثانی ج 4 ص 325 رقم 2357، مختصر تاریخ دمشق ج 17 ص 348، جمع الجواعی ج 14 ص 132 رقم 9759۔

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یعنی گیاتو میں نے ان سے زیادتی دیکھی، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شکوہ کیا تو ان کی تنقیص کی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس مشیخ ہونا شروع ہوا، پھر آپ نے فرمایا: اے بریدہ! کیا میں مومنین کی جانوں کا ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ! فرمایا: پھر میں جس کا مالک ہوں تو علی اس کے مالک ہیں۔“

### حدیث نمبر 5:

((خبرنا ذکریا بن یحییٰ قال: حدثنا نصر بن علی قال: حدثنا عبد الله بن داؤد عن عبد الواحد بن ایمن، عن ابیه ان سعداً قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: من کنت مولاہ فعلی مولاہ))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 5 ص 131 رقم 8468 و طبع آخر ج 7 ص 438 رقم 8414، کتاب السنۃ لابن ابی عاصم ص 1359 رقم 591)

”حضرت عبد الواحد بن ایمن اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں جس کا مولیٰ ہوں تو علی بھی اس کا مولیٰ ہیں۔“

### حدیث نمبر 6:

((خبرنا نقیبۃ بن سعید، قال: حدثنا ابن ابی عدی، عن عوف، عن میمون ابی عبد اللہ عن زید بن ارقم قال: قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنی علیہ، ثم قال: الستم تعلمون انی اولی بکل مومن من نفسہ؟ قالوا: بلی (نحن) نشهد لانت اولی بکل مومن من نفسہ، قال: فانی من کنت مولاہ فهذا مولاہ، واحذ بید علی))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 438 وطبع آخر ج 5 ص 131 رقم 8469، مندرج 4 ص 372 رقم 10540  
19543، البحر الزخاری ج 10 ص 211 رقم 3298 وص 233 رقم 14327) مجمع الکبیر ج 5 ص 202، کتاب النہ لابن الی  
عاصم ص 591 رقم 1362

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمادیوئے پھر  
اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء فرمائی پھر فرمایا: کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن سے اُس کی ذات سے زیادہ قریب  
(یعنی محبوب) ہوں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ ہر مومن سے اُس کی جان سے بھی زیادہ قریب  
ہیں۔ فرمایا: تو میں جس سے زیادہ قریب ہوں تو یہ بھی اس سے زیادہ قریب ہیں اور آپ نے حضرت علی  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔“

### حدیث نمبر 7:

((خبرنا محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ النیسا بوری، واحمد بن عثمان بن حکیم (الاوی)  
قالا: حدثنا عبید الله بن موسى قال: أخبرنا هانی ء بن ایوب، عن طلحة الایامی، عن  
عمیرة بن سعد انه سمع عليا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وهو ينشد في الرحبة: من سمع رسول  
الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول: من كنت مولاه فعلى مولاه؟ فقام ستة نفر (بضعه عشر)  
فشهدوا))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 438 رقم 8416، طبع آخر ج 5 ص 131 رقم 8470، مجمع الاوسط ج 2 ص 576  
9187، مجمع الصیرج ج 1 ص 119 رقم 175، مجمع الزوائد ج 9 ص 108 رقم 14634)

”حضرت عمیرۃ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو  
بیان کرتے ہوئے سنا در آتما لیکہ آپ ایک کشاور مقام میں قائم دے کر پوچھ رہے تھے: کس کس نے رسول  
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ”میں جس کا مولیٰ ہوں تو علی بھی اُس کا مولیٰ ہے؟“ تو دس  
سے زائد حضرات نے کھڑے ہو کر گواہی دی۔“

### حدیث نمبر 8:

((خبرنا محمد بن المثنی، قال: حدثنا شعبہ عن ابی اسحق، قال:  
حدثنی سعید بن وہب قال: قام خمسة او ستة من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم فشهادوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من كنت مولاه فعلى مولاه))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 439 رقم 8417 وطبع آخر ج 5 ص 131 رقم 471، مندرج 5 ص 366 رقم 23495  
البداية والنهاية ج 5 ص 362 وطبع جدید ج 7 ص 575)

”حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سحاق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے

حضرت سعید بن وہب سے بنا کیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ یا چھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے گواہی دی کہ پیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: میں جس کا مولیٰ ہوں تو علی اس کے مولیٰ ہیں۔“

### حدیث نمبر 9:

((اخبرنا علیٰ بن محمد بن علیٰ قاضی المصیصۃ) قال: حدثنا خلف قال: حدثنا اسبرائیل عن ابی اسحاق قال: حدثی سعید بن وہب انه قام صحابة ستة، وقال: يزید (زید) بن یشیع وقام ممايلی المنبر ستة، فشهدوا انهم سمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: من كنت مولاہ فعلى مولاہ))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 439 رقم 8418 طبع آخر ج 5 ص 131 رقم 8472)

”حضرت ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت سعید بن وہب نے بتایا کہ میرے قریب سے چھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور زید بن یشیع نے کہا کہ منبر کی جانب سے چھ حضرات نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سن: میں جس کا مولیٰ ہوں تو علی بھی اس کے مولیٰ ہیں۔“

### حدیث نمبر 10:

((اخبرنا ابو داؤد قال: حدثنا عمران بن ابیان، قال: حدثنا شریک، قال: حدثنا ابو اسحاق عن زید بن یشیع، قال: سمعت علیٰ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقول على منبر الكوفة: انی انشد اللہ رجلاً ولا یشهد الا اصحاب محمد، (من) سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم يقول: من كنت مولاہ فعلى مولاہ، اللہم وال من والا، وعد من عاده، فقام ستة من جانب المنبر (وستة من الجانب) الآخر، فشهدوا انهم سمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلك قال شریک: فقلت لابی اسحاق: هل سمعت البراء بن عازب یحدث بهذا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال: نعم قال ابو عبد الرحمن: عمران بن ابیان الواسطی ليس بقوى في الحديث))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 439 رقم 8419 طبع آخر ج 5 ص 132 رقم 8473، البحر الز خارج 10 ص 212 رقم 4299، الاحادیث الخمارۃ ج 2 ص 105 رقم 380، نیز عن ابن عمر البحر الز خارج 12 ص 286 رقم 6103)

”ابو اسحاق روایت کرتے ہیں: زید بن یشیع نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہ کے منبر پر بیان کرتے ہوئے سن: انہوں نے فرمایا: میں اُس شخص کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور حضور صلی

اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ اور کوئی دوسرا شخص گواہی نہ دے (فقط وہ شخص گواہی دے) جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غدریخم کے دن فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں جس کا مولیٰ ہوں تو علی بھی اس کے مولیٰ ہیں۔ اے اللہ! اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے اور اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے، تو منبر کی ایک جانب سے چھافڑا کھڑے ہوئے اور دوسری جانب سے بھی چھ حضرات نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ شریک کہتے ہیں کہ میں نے ابو سحاق سے دریافت کیا: کیا آپ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عمران بن ابیان الواسطی حدیث میں قویٰ نہیں ہیں۔“

### حدیث نمبر 11:

((اخبارنا فتیبة بن سعید قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: جهز رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جيشاً واستعمل عليهم على بن ابی طالب، فمضى في السرية، فاصاب جارية، فانكرها عليه وتعاقدوا الربعة من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: اذا بعشنا (لقينا) رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اخبرناه صنع، وكان المسلمون اذارجعوا من سفر بدأوا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسلموا عليه، ثم انصرفوا الى رحالهم، فلما قدمت السرية فسلموا على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فقام احد الربعة فقال: يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم! الم تران على ابن ابی طالب صنع كذا وكذا، فاعرض عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ثم قام الثاني، ثم الثالث، فقال (مثل) مقالته، ثم قام الرابع، فقال مثل ما قالوا، فاقبل اليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والغضب يبصر في وجهه، فقال: ما تريدون من على؟ ان علياً مني وانا منه، وهو ولی كل مومن من بعدي))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 440 رقم 8420 وطبع آخر ج 5 ص 132 رقم 8474، البدریۃ والنحلیۃ ج 7 ص 571)

”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور ان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد از جہاد ایک لوٹدی حصہ میں آئی اور آپ نے اس سے قرابت کی تو لوگوں کو یہ بات ناگوار گز ری اور چار شخصوں نے آپس میں طے کیا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے تو آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کریں گے اور مسلمانوں کا معاملہ تھا کہ جب وہ سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے۔ پس جب وہ جہاد سے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوئے اور ان چار شخصوں میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ علی بن ابی طالب کو نہیں دیکھتے کہ اس نے ایسے ایسے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے چہرہ اقدس پھیر لیا۔ پھر دوسرا شخص اٹھا تو اس نے بھی وہی کچھ کہا، پھر تیرا کھڑ ہوا تو اس نے بھی وہی گفتگو کی، پھر چوتھا کھڑا ہوا تو اس نے بھی انہیں کی طرح کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور غصہ کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے، آپ نے فرمایا: تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ پیشک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کا محبوب ہے۔“

### حدیث نمبر 12:

((اخبرنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي، عن ابن فضيل، عن الاجلح، عن عبد الله بن بريدة، عن ابيه قال: بعثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن مع خالد بن ولید، وبعث عليا رضي الله تعالى عنه 'علي جيش آخر'، وقال ان التقىتما فعلى علي الناس، وان تفرقتما فكل واحد منكم على جنده، فلقينا بنى زيد من اهل اليمن، وظفر المسلمون على المشركين، فقاتلنا المقاتلة وسبينا الذريه، فاصطفى علي جارية لنفسه من السبي، وكتب بذلك خالد بن ولید الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وامرني ان انا ا منه، قال: فدفعت الكتاب اليه ونزلت من علي رضي الله تعالى عنه، فتغير وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، (فقلت: هذا مكان العائد، بعثني مع رجل، وامرني بطاعته، فبلغت ما ارسلت به، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تقنعني يا بريدة في علي) وقال: لا تبغضن يا بريدة عليا، فان عليا مني وانا منه وهو عليكم بعدى))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 441 رقم 8421 وطبع آخر ج 5 ص 133 رقم 8475 من احمد ج 5 ص 356 وطبع آخر ج 7 ص 635 رقم 23400، فضائل الصحبة ج 2 ص 856 رقم 1175، الجراح خارج 10 ص 283 رقم 14391، كشف الاستار عن زوائد الميز ارج 3 ص 200، البدایة والختایر ج 7 ص 570)

”حضرت عبد اللہ بن ب瑞دة اپنے والد ب瑞دة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خالد بن ولید کی قیادت میں یعنی بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور لشکر پر امیر مقرر فرمایا کہ اگر دونوں لشکر اکٹھے ہو جائیں تو تمام لوگوں کے قائد علی ہوں گے اور اگر اکٹھے نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک اپنے لشکر کا قائد ہوگا۔ پس یعنی کے علاقہ بنو زید کے مقام پر ہم جمع ہو گئے اور مسلمانوں کو مشرکین پر غالبہ اور فتح حاصل ہوئی۔ ہم نے خوب جہاد کیا تھا اور دشمنوں کو قیدی بھی

بنایا تھا، ان قیدیوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوٹدی کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا اور مجھے حکم کیا کہ میں وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ سو میں نے آپ کو وہ خط پیش کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر آثار غضب، ایاں ہوئے تو میں نے کہا: یہ پناہ مانگنے کا مقام ہے، آپ نے مجھے ایک شخص کے ساتھ بھیجا اور آپ نے مجھے اس کی فرمانبرداری کا حکم فرمایا، پس میں نے تو وہ کچھ پہنچایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے بریدہ! علی کی بڑائی میں مت وجہی لوا اور اس سے بغض من رکھو! پیشک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور وہ میرے بعد تمہارا ولی ہے۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 31:

### من خطبات علی رضی الله عنہ:

## حضرت علی المرتضی کے خطبات

### یوم قیامت:

((وَمِنْ خُطْبَةِ لَهُ: تَجْرِي هَذَا الْمُجْرِي وَ ذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلَيْنَ وَ الْآخِرِينَ لِنِقَاشِ الْحِسَابِ وَ جَزَاءِ الْأَوَّلَعَمَالِ، خُضُوعًا قِيَاماً، قُدْأَهُ لِجَمَاهِمُ الْعَرَقِ، وَ رَجَفَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ، فَاءَهُ حَسَنَهُمْ حَالًا مَنْ وَجَدَ لِقَدَمِهِ مَوْضِعًا، وَ لِنَفْسِهِ مُتَسَعًا مِنْهَا: فَتَنَّ كَفِيعُ الدَّلِيلِ الْمُظْلِمِ، لَا تَقُومُ لَهَا قَائِمَةٌ، وَ لَا تُرَدُّ لَهَا رَأْيَةٌ، تَأْتِيكُمْ مَزْمُومَةً مَرْحُولَةً يَحْفِرُهَا قَائِدُهَا، وَ يَجْهَدُهَا رَاكِبُهَا، اهْلُهَا قَوْمٌ شَدِيدٌ كَلَّبُهُمْ، قَلِيلٌ سَلَبُهُمْ يَجْاهِدُهُمْ فِي اللَّهِ قَوْمٌ أَءَذَلَّهُ عِنْدَ الْمُتَكَبِّرِينَ، فِي الْأَوَّلَرِضِ مَجْهُوْلُونَ، وَ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ فَوَيْلٌ لَكِ يَا بَصْرَةُ عِنْدَ ذَلِكِ مِنْ جَيْشٍ مِنْ نِقَمِ اللَّهِ لَا رَهْجَ لَهُ وَ لَا حَسَنٌ، وَ سَيِّتَلَى أَهْلُكِ بِالْمَوْتِ الْأَوَّلَ حُمَرٌ، وَ الْجُوعُ الْأَوَّلَ غَبَرٌ))

”حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حساب و جزاے اعمال کے لیے گزشتہ و آئندہ میں سے تمام خلائق کو جمع کرے گا۔ یہ سب لوگ نہایت عاجزو خاکسار بن کر حاضر ہوں گے اور (ریادتی جمیعت و شدت گری کے باعث) پسند ان کے منہ تک پہنچ گیا ہوگا اور زلزلہ

زمین نے ان میں تحریری پیدا کر دی ہوگی، پس ان میں سے نیک ترین اور خوشحال ترین وہ شخص ہو گا کہ دنیا میں کردار پسندیدہ کے باعث جس نے اپنے قدم جمانے کے لیے کوئی جگہ بنالی ہوگی اور اپنی آسائش کے لیے کوئی فراخ مقام بنالیا ہوگا (تاکہ اس دن کی سختیوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکے)۔ میرے بعد جن فتنوں سے تم دوچار ہو گئے وہ شب تارک کی مختلف ساعات کی طرح ہوں گے۔ ان فتنوں کا نہ کوئی چوس مداوا کر سکے گا، نہ کوئی پرچم فوج انہیں روکر سکے گا۔ یہ اس مہارواںے اور پالان سے بندے ہوئے اونٹ کے مانند نمایاں ہوں گے جسے اس کا سار بان تیزی سے ہائک رہا ہوا اور جس کا سوار شدت سے دوڑ رہا ہو۔ جو گروہ فتنے والے ہوں گے وہ آزاد بہنچانے اور اذیت دینے میں بڑھے چڑھے ہوں گے اور ان کی طبع بہت ہوگی۔ وہ بہت معمولی قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے وہی لوگ چھاؤ کریں گے جو گردن کشوں کی نظر میں بیچ اور ذلیل ہوں گے۔ رونے زمین پر یہ مجہول (غیر مشہور) ہوں گے اور آسمانوں پر مشہور۔ پس اے بصرہ! تجھ پر افسوس ہے۔ جب جیش الہی (یکا یک) تجھ پر حملہ آور ہو گا جس کے ساتھ نہ گرد و غبار ہو گا نہ آواز قصد، نہ قدموں کی چاپ اور آہٹ! بہت جلد وہ وقت آئے والا ہے کہ تیرے سا کئین مرگ سرخ اور گریگی غبار آلوہ میں بتلا ہوں گے۔

### حقیقت دنیا:

((وَمِنْ خُطْبَةِ اللَّهِ: أَنْظُرُوا إِلَى الدُّنْيَا نَظَرَ الزَّاهِدِينَ فِيهَا، الصَّادِفِينَ عَنْهَا، فَإِنَّهَا وَاللَّهُ عَمَّا فَلِيلٌ تُزِيلُ الثَّاوِي السَّاكِنَ، وَتَفْجَعُ الْمُتَرَفَ الْأَمِنَ، لَا يَرْجِعُ مَا تَوَلَّى مِنْهَا فَاءَ دُبَرَ، وَ لَا يُدْرِي مَا هُوَ آتٍ مِنْهَا فَيُنْتَظَرَ، سُرُورُهَا مَشْوُبٌ بِالْحُزْنِ، وَ جَلْدُ الرِّجَالِ فِيهَا إِلَى الْضَّعْفِ وَ الْوَهْنِ، فَلَا يَغْرِيَنَّكُمْ كَثْرَةً مَا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا، لِقَلْلَةِ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا رَحْمَ اللَّهِ امْرًا تَفَكَّرَ فَاعْتَبَرَ، وَ اعْتَبَرَ فَاءَ بُصَرَ، فَكَاءَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ، وَ كَاءَنَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْآخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزَلْ، وَ كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ، وَ كُلُّ مُتَوَقَّعٍ آتٍ وَ كُلُّ آتٍ، قَرِيبٌ دَانَ مِنْهَا: الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ، وَ كَفَى بِالْمُرْءِ جَهْلًا إِنْ لَا يَعْرِفَ قَدْرَهُ، وَ إِنَّ مِنْ أَهْبَاطِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعْبَدًا وَ كَلَّهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ، جَائِرًا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، سَائِرًا بِغَيْرِ دَلِيلٍ، إِنْ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الدُّنْيَا عَمِلَ، وَ إِنْ دُعِيَ إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَسِيلَ، كَاءَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَ كَاءَنَّ مَا وَنِي فِيهِ سَاقِطٌ عَنْهُ وَ مِنْهَا: وَ ذَلِكَ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٌ نُوْمَةً، إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرَفْ، وَ إِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقدْ إِنْ وَلَيْكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى، وَ إِنْ عَلَامُ السَّرَّى، لَيْسُوا بِالْمَسَابِيحِ، وَ لَا الْمَذَابِيعُ الْبُذْرِ، إِنْ وَلَيْكَ يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ أَبَوابَ رَحْمَتِهِ، وَ يَكْسِفُ عَنْهُمْ ضَرَاءَ نِقْمَتِهِ إِنْ يَهَا النَّاسُ، سَيَّاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُكَفَّا فِيهِ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكَفَّا إِلَيْهِ بِمَا فِيهِ، إِنْ يَهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ إِ

كَعَادَ كُمْ مِنْ أَءَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ، وَلَمْ يُعْذِّبْ كُمْ مِنْ أَءَنْ يَبْتَلِيَكُمْ، وَقَدْ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ : إِنَّ فِي ذِلِّكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنْ أَلْمَبْتَلِينَ )

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے لوگو! دنیا کی طرف اس طرح دیکھو جیسے وہ لوگ دیکھتے ہیں جو زہد رکھنے والے اور اس سے نظر بچانے والے ہوتے ہیں کہ عنقریب یہ اپنے ساکنوں کو ہٹا دے گی اور اپنے خوشحالوں کو رنجیدہ کر دے گی۔ اس میں جو چیز منہ پھیر کر جا چکی وہ پلٹ کر آنے والی نہیں ہے اور جو آنے والی ہے اس کا حال نہیں معلوم ہے کہ اس کا انتظام کیا جائے۔ اس کی خوشی رنج سے مخلوط ہے اور اس میں مردوں کی مضبوطی ضعف و ناتوانی کی طرف مائل ہے۔ خبردار! اس کی دل بھانے والی چیزیں تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دیں کہ ان میں ساتھ جانے والی چیزیں بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے اس شخص پر جس نے غور و فکر کیا تو عبرت حاصل کی تو بصیرت پیدا کر لی کہ دنیا کی ہر موجود شے عنقریب ایسی ہو جائے گی جیسے تھی ہی نہیں اور آخرت کی چیزیں اس طرح ہو جائیں گی جیسے ابھی موجود ہیں۔ ہر گفتگی میں آئے والا کم ہونے والا ہے اور ہر وہ شے جس کی امید ہو وہ عنقریب آنے والی ہے اور جو آنے والا ہے وہ گویا کہ قریب اور بالکل قریب ہے۔ عالم وہ ہے جو اپنی قدر خود بچانے اور انسان کی جہالت کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی قدر کو نہ بچانے۔ اللہ کی نگاہ میں بدترین بندہ وہ ہے جسے اس نے اسی کے حوالہ کر دیا ہو کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا ہے اور بغیر رہنمای کے چل رہا ہے۔ اسے دنیا کے کار و بار کی دعوت دی جائے تو عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے اور آخرت کے کام کی دعوت دی جائے تو سست ہو جاتا ہے گویا کہ جو کچھ کیا ہے وہی واجب تھا اور جس میں سستی بر تی ہے وہ اس سے ساقط ہے۔ وہ زمانہ ایسا ہو گا جس میں صرف وہی موسن شجاجات پاسکے گا جو گویا کہ سورہ ہو گا کہ جمع میں آئے تو لوگ اسے پہچان نہ سکیں اور غائب ہو جائے تو کوئی تلاش نہ کرے۔ یہی لوگ ہدایت کے چدائی اور راتوں کے مسافروں کے لئے نشان منزل ہوں گے۔ نہ ادھر ادھر لگاتے پھریں گے اور نہ لوگوں کے عیوب کی اشاعت کریں گے۔ ان کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا اور ان سے عذاب کی سختیوں کو دور کر دے گا۔ لوگو! عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں اسلام کو اسی طرح الٹ دیا جائے گا جس طرح برتن کو اس کے سامان سمیت الٹ دیا جاتا ہے۔ لوگو! اللہ نے تمہیں اس بات سے پناہ دے رکھی ہے کہ وہ تم پر ظلم کرے، لیکن تمہیں اس بات سے محفوظ نہیں رکھا ہے کہ تمہارا امتحان نہ کرے۔ اس مالک جل جلالہ نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ ”اس میں ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ہم بہر حال تمہارا امتحان لینے والے ہیں۔“

### حق و باطل کا فرق:

((وَمِنْ خُطْبَةِ لَهُ: إِنَّمَا بَعْدَ فِيَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بَعْثَتْ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَلَيْسَ إِنَّمَا حَدَّدَ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُهُ كِتَابًا، وَلَا يَدْعُ عَنِ الْبُوَّةِ وَلَا وَحْيًا، فَقَاتَلَ بِمَنْ أَعْنَاهُ، مَنْ عَصَاهُ

سُوْفَهُمْ إِلَى مَنْجَاتِهِمْ، وَيُبَادِرُ بِهِمُ السَّاعَةَ إِذْ تَنْزِلَ بِهِمْ، يَحْسِرُ الْحَسِيرُ، وَيَقْفُ  
الْكَسِيرُ، فَيُقْيِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْحِقَهُ غَايَتَهُ، إِلَّا هَالِكًا لَا خَيْرَ فِيهِ، حَتَّى إِذْ رَاهُمْ مَنْجَاتِهِمْ، وَ  
بَوَاءَهُمْ مَحَلَّتِهِمْ، فَاسْتَدَارَثُ رَحَاهُمْ، وَاسْتَقَامَتْ قَنَاتِهِمْ وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ مِنْ  
سَاقِيَّهَا حَتَّى تَوَلَّتْ بِحَدَّ افِيرِهَا، وَاسْتَوْسَقَتْ فِي قِيَادِهَا، مَا ضَعُفتْ، وَلَا جَبَّتْ، وَلَا  
خُنْتْ، وَلَا وَهَنْتْ وَأَيْمُ اللَّهِ لَا إِبْرَوْنَ الْبَاطِلَ حَتَّى إِذْ خُرَجَ الْحَقُّ مِنْ خَاصِرَتِهِ)

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے محمد مصلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو عربوں میں نہ  
کوئی آسمانی کتاب کا پڑھنے والا تھا اور نہ کوئی نبوت و وحی کا دعوے دار۔ آپ نے اطاعت کرنے والوں کو  
لے کر مخالفوں سے جنگ کی۔ درآں حالیکہ آپ ان لوگوں کو نجات کی طرف لے جا رہے تھے اور قبل اس  
کے کہ موت ان لوگوں پر آپے ان کی بہادیت کے لیے بڑھ رہے تھے۔ جب کوئی تھکا ماندہ رک جاتا تھا  
اور خستہ و درماندہ پھر جاتا تھا تو آپ اس کے سر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اس سے اس کی منزل مقصد تک  
پہنچاویتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ایسا تباہ حال ہو جس میں ذرہ بھر بھلائی ہی نہ ہو۔ یہاں تک کہ آپ  
نے انہیں نجات کی منزل دکھاوی اور انہیں ان کے مرتبہ پر پہنچا دیا۔ چنانچہ ان کی چکی گھومنے لگی اور ان کے  
نیزے کا خم جاتا رہا۔ اللہ کی قسم! میں بھی انہیں ہنکانے والوں میں تھا۔ یہاں تک کہ وہ پوری طرح پسپا  
ہو گئے اور اپنے بندھنوں میں جکڑ دیئے گئے۔ اس دوران نہ میں عاجز ہوانہ بزدی دکھائی۔ نہ کسی قسم کی  
خیانت کی اور نہ مجھ میں کمزوری آئی۔ اللہ کی قسم! میں اب بھی باطل کو چیر کر حق کو اس کے پہلو سے نکال لوں  
گا۔“

### دنیا اور مسلمان:

(وَ مِنْ خُطْبَةِ لَهُ: بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَهِيداً وَبَشِيراً وَنَذِيراً خَيْرَ  
الْبَرِّيَّةِ طِفُلاً، وَإِنْ تُجْبَهَا كَهْلًا، وَإِنْ تَطْهَرَ الْمُطَهَّرِينَ شَيْمَةً، وَإِنْ جَوَدَ الْمُسْتَمْطِرِينَ  
دِيمَةً، فَمَا احْلَوْتُ لَكُمُ الدُّنْيَا فِي لَذَّتِهَا، وَلَا تَمْكَنْتُمْ مِنْ رَضَاعِ اخْلَافِهَا، إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا  
صَادَفْتُمُوهَا جَانِلًا بِخَطَايَاهَا، قَلِقاً وَضِيْنَهَا، قَدْ صَارَ حَرَامَهَا عِنْدَ إِذْ قَوَامَ بِمَنْزِلَةِ السَّدْرِ  
الْمُخْضُودِ، وَحَلَالُهَا بَعِيدًا غَيْرَ مَوْجُودٍ، وَصَادَفْتُمُوهَا، وَاللَّهُ، ظِلًا مَمْدُودًا، إِلَى إِذْ  
جُلَ مَعْدُودٍ، فَإِلَاءَ رُضُّ لَكُمْ شَاغِرَةً وَإِيْدِيكُمْ فِيهَا مَبْسوَطَةً، وَإِيْدِي القَادِهِ عَنْكُمْ  
مَكْفُوفَهُ، وَسُيُوفُكُمْ عَلَيْهِمْ مُسْلَكَهُ، وَسُيُوفُهُمْ عَنْكُمْ مَقْبُوضَهُ إِلَاءً لَا وَإِنَّ لِكُلِّ دَمٍ ثَائِرًا،  
وَلِكُلِّ حَقٍّ طَالِبًا، وَإِنَّ الشَّائِرَ فِي دِمَائِنَا كَالْحَاكِمِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا  
يُعْجِزُهُ مَنْ طَلَبَ، وَلَا يَقُولُهُ مَنْ هَرَبَ؛ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ يَا بَنِي إِذْ مُيَّهَ عَمَّا قَلِيلٍ لَتَعْرِفُنَّهَا فِي  
إِيْدِي غَيْرِكُمْ وَفِي دَارِ عَدُوِّكُمْ إِذْ لَا إِنَّ إِذْ بُصَرَ الْأَيُّوبُ صَارَ مَا نَفَذَ فِي الْخَيْرِ طَرْفُهُ، إِذْ

لَا إِنَّ أَسْمَعَ الْأَوَّلَ سَمَاعًا مَا وَعَى التَّذَكِيرَ وَ قَبْلَهُ أَءَ يَهَا النَّاسُ اسْتَصْبِرُوا مِنْ شُعْلَةِ  
مِصْبَاحٍ وَاعِظٍ مُتَعَظِّي وَ امْتَاحُوا مِنْ صَفْوِ عَيْنٍ قَدْ رُوِقَتْ مِنَ الْكَدَرِ عِبَادُ اللَّهِ لَا تَرْكُنُوا  
إِلَى جَهَاهَ السُّكُمْ وَ لَا تُنْقَادُوا لِأَهْوَائِكُمْ فَإِنَّ النَّازِلَ بِهَذَا الْمُنْزِلِ نَازِلٌ بِشَفَافِ جُرُفٍ هَارِ  
يَنْقُلُ الرَّدَى عَلَى ظُهُورِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ لَوْاَنِي يُحْدِثُهُ بَعْدَ رَاءِي يُرِيدُ أَءَنْ يُلْصِقَ  
مَا لَا يُلْتَصِقُ وَ يُقْرَبَ مَا لَا يَتَقَارَبُ فَاللَّهُ أَءَنْ تَشْكُوا إِلَى مَنْ لَا يُشْكِي شَجُونَكُمْ وَ لَا  
يَنْقُضُ بِرَاءِي مَا قَدْ أَءَ بِرَمَ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُمِلَ مِنْ أَءَمْرِ رَبِّهِ الْإِبْلَاغُ فِي  
الْمُوْعِظَةِ وَ الْاجْتِهَادِ فِي النَّصِيْحَةِ وَ الْإِحْيَاءِ لِلسُّنْنَةِ وَ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى مُسْتَحْقِيَهَا وَ  
إِصْدَارِ السُّهْمَانِ عَلَى أَءَهْلِهَا فَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَصْوِيْحِ نَبِيِّهِ وَ مِنْ قَبْلِ أَءَنْ تُشْغَلُوا  
بِأَنْفُسِكُمْ عَنْ مُسْتَشَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ وَ انْهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهُوا عَنْهُ فَإِنَّمَا أَءَ  
مِرْتُمْ بِالنَّهِيِّ بَعْدَ التَّنَاهِيِّ ))

"حضرت علیٰ رضیٰ اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ بزرگ و برتر نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت و نبوت کے  
منصب سے سرفراز فرمایا کہ نیکو کاروں اور بدکاروں کے آپ گواہ بینیں اور نیکو کاروں کو ان کے اعمال  
حسنہ کے صلہ میں مژده دیں اور معصیت کاروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ آپ عہد طفیلی و خور دسالی  
میں بھی بہترین خلاق اور نبوت میں (چالیس سال کی عمر میں) کریم ترین و برگزیدہ ترین شخصیت تھے۔  
آپ کی طبیعت اور خلقت جملہ پاکان عالم سے پاک تر تھی اور آپ کی بخشش تمام داد دہش کرنے  
والوں سے کہیں زیادہ تھی۔ دنیا تمہارے لیے شیریں اور لذیذ نہیں بن سکتی اور اس کے لئے پستان سے  
دو دھپینے کی تو انہی تم میں نہیں آئی، مگر اس کے بعد کہ تم نے اسے اس حالت میں پالیا کہ اس کی مہار دھیلی  
تھی، اس کا پالان جنبش میں تھا اور یہ اسی کا اثر تھا کہ اس دنیا کا حرام ان صاحبانِ خلافت قوموں قبیلوں کے  
زدیک بے کانے کی بیری تھی اور حلال نہ صرف دور بلکہ موجود ہی نہیں تھا اور یہ گمان نہ کرنا کہ یہ حکومت  
اسی طرح قائم رہے گی بلکہ اللہ کی قسم! تم نے اسے ایک عرصہ دراز تک پھیلیے ہوئے سایہ کے مانند پایا۔ پس  
زمیں تمہارے لیے خالی ہے، تمہارے ہاتھ پھیلیے ہوئے ہیں، پیشوایان (حقیقی) کے ہاتھ تم سے روکے  
ہوئے ہیں، تمہاری تلواریں ان پر مسلط ہیں اور ان کی تلواریں تم سے روک لی گئی ہیں۔ خبردار! ہر خون  
(ناحق) کا بدلہ لینے والا اور ہر حق کا طلب گار ہوتا ہے اور ہمارے خون کا خونخوار ایسا حاکم ہے کہ خود اپنے  
بارے میں بدن و لیل و گواہ حکم صادر کرتا ہے اور ہمارا خون خواہ اور ہمارے حق کا طلب گار وہ اللہ عز و جل  
ہے کہ جسے وہ طلب کرنے اس سے وہ عاجز نہیں اور جو بھاگے وہ اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ پس میں  
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بہت جلد تم دیکھ لو گے کہ ریاست و دولت دنیا تم سے جھن کر دوسروں کے ہاتھ  
میں آجائے گی اور تمہارے دشمنوں کے گھر میں منتقل ہو جائے گی۔ خبردار! بنیا ترین آنکھ وہ آنکھ ہے کہ جس

کی نظر خیر و صلاح پر ہو۔ ہوشیار ہو جاؤ کہ شنوواترین وہ کان ہے کہ جو پند و نصیحت کو سنتا اور اسے قبول کرتا ہے۔ اے لوگو! (اپنی سعادت و خوش بختی کا) چراغ نصیحت کرنے اور نصیحت قبول کرنے والوں کی لوتے ہے جلواؤ اور چشمہ صاف سے پانی کھینچ لو کہ گندے لے پن سے پاک ہے! اللہ کے بندو! اپنے جہل و نادائی پر اعتقاد نہ کرو نہ خواہشات نفس کی پیروی کرو کیونکہ اس منزل پر وار و ہونے والا گویا اس نہر کے کنارے اترنے والا ہے جس کا شکاف قریب بے انہدام ہے اور ہلاکت کا بوجھ اپنی پیٹھ پیچھے لا د کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے۔ وہ ایک خیال سے دوسرے خیال پر تکتا رہتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو چیز چپاں نہیں ہو سکتی اسے چپاں کر دے اور جو چیز زدیک نہیں ہو سکتی اسے زدیک کر دے۔ پس اللہ سے ڈرو! ایسا نہ کرو کہ اپنی شکایتیں ایسے شخص کے سامنے پیش کرنے لگو جو تمہارے غم و اندوہ کو بطرف نہ کر سکے اور نہ اپنی رائے سے انہیں توڑ سکے جو (احکام الہی) کہ تم پر لازم کیے جا چکے ہیں۔ امام و حاکم پر ان چیزوں کا قیام واجب ہے جن کا پروردگار نے اسے حکم دیا ہے اور یہ پانچ چیزیں ہیں: موعظت کا پہنچانا، نصیحت میں کوشش، سنت کی تجدید اور اس کا احیاء، لائق تعزیر پر حد جاری کرنا اور بیت المال سے لوگوں کو ان کا صحیح حصہ دینا اپس حصول علم و دانش کے لیے جلدی کرو قبل اس کے کہ اس کی گیاہ خشک ہو جائے۔ اور قبل اس کے کہ اپنے آپ کو دوسری چیزوں میں مشغول کرو۔ کب نور (علم و دانش) اس کے اہل سے حاصل کرو۔ مرتکبین کو روکو اور خود بھی باز رہو، کیونکہ تمہیں نبھی کا حکم خود باز آچکنے کے بعد ہی دیا گیا ہے!

### اللہ کی عہد بانیاں اور لوگوں کا رویہ:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اسلام کا قانون معین کیا تو اس کے ہر گھاث کو وار و ہونے والے کے لئے آسان بنا دیا اور اس کے ارکان کو ہر مقابلہ کرنے والے کے مقابلہ میں مشکم بنا دیا۔ اس نے اس دین کو وابستگی اختیار کرنے والوں کے لئے چائے امن اور اس کے دائرہ میں داخل ہو جانے والوں کے لئے محل سلامتی بنا دیا ہے۔ یہ دین اپنے ذریعہ کلام کرنے والوں کے لئے بربان اور اپنے دیلہ سے مقابلہ کرنے والوں کے لئے شاہد قرار دیا گیا ہے۔ یہ روشنی حاصل کرنے والوں کے لئے نور، سمجھنے والوں کے لئے فہم بلکر کرنے والوں کے لئے مفرک کلام، تلاش منزل کرنے والوں کے لئے نشان منزل، صاحبان عزم کے لئے سامان بصیرت، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے عبرت، تصدیق کرنے والوں کے لئے نجات، اعتداد کرنے والوں کے لئے قابل اعتماد، اپنے امور کو پردازینے والوں کے لیے راحت اور صبر کرنے والوں کے لئے سپر ہے۔ یہ بہترین راستہ اور واضح ترین داخلہ کی منزل ہے۔ اس کے میانہ بلند راستے روشن چراغ ضو باز میدان عمل باوقار اور مقصد بلند ہے۔ اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے اور اس کی طرف سبقت اور اس کا انعام ہر ایک کو مطلوب ہے۔ اس کے

شہسوار باعزت ہیں۔ اس کا راستہ تصدیق الہی و رسول ہے اور اس کا منارہ شیکیاں ہیں۔ موت ایک ایسا مقصد ہے جس کے لئے دنیا گھوڑ دوڑ کا میدان ہے اور قیامت اس کے اجتماع کی منزل ہے اور پھر جنت اس مقابلہ کا انعام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روشنی کے طلب گار کے لئے آگ روشن کر دی اور ہر گم کردہ راہ پھرے ہوئے مسافر کے لئے نشان منزل روشن کر دیے۔ پروردگارا وہ تیرے معتبر امانتدار اور روز قیامت کے گواہ ہیں۔ تو نے انہیں نعمت بنا کر بھیجا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ اے اللہ! تو اپنے انصاف سے ان کا حصہ عطا فرم اور پھر اپنے فضل و کرم سے ان کے خیر کو ڈگنا چوگنا کر دے۔ اے اللہ! ان کی عمارت کو تمام عمارتوں سے بلند تر بنادے اور اپنی بارگاہ میں ان کی باعزت طور پر میزبانی فرم اور ان کی منزلت کو بلندی عطا فرم۔ انہیں وسیلہ، رفت، فضیلت اور کرامت فرم اور ہمیں ان کے گروہ میں محسوس فرم۔ جہاں نہ رُسو اہوں اور نہ شرمندہ ہوں، نہ حق سے مخرف ہوں، نہ عہد شکن ہوں، نہ گمراہ ہوں، نہ گمراہ کن اور نہ کسی فتنہ میں بستلا ہوں۔ اے لوگو! تم اللہ کی دی ہوئی کرامت سے اس منزل پر پہنچ گئے جہاں تمہاری کنیزوں کا بھی احترام ہونے لگا اور تمہارے ہمسایہ سے بھی اچھا برتاو ہونے لگا۔ تمہارا احترام وہ لوگ بھی کرنے لگے جن پر نہ تمہیں کوئی فضیلت حاصل تھی اور نہ ان پر تمہارا کوئی احسان تھا اور تم سے وہ لوگ بھی خوف کھانے لگے جن پر نہ تم نے کوئی حملہ کیا تھا اور نہ تمہیں کوئی اقتدار حاصل تھا۔ مگر افسوس کہ تم عہد اللہ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور تمہیں غصہ بھی نہیں آتا ہے، جب کہ تمہارے باپ دادا کے عہد کو توڑا جاتا ہے تو تمہیں غیرت آ جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ کے امور تم ہی پرواہ ہوتے تھے اور تمہارے ہی پاس سے باہر نکلتے تھے اور پھر تمہاری ہی طرف پلٹ کر آتے تھے، لیکن تم نے ظالموں کو اپنی منزلوں پر قبضہ دے دیا اور ان کی طرف اپنی زمام امر بڑھا دی اور انہیں سارے امور پر دکر دیے کہ وہ شبہات پر عمل کرتے ہیں اور خواہشات میں چکر لگاتے رہتے ہیں اور اللہ گواہ ہے کہ اگر یہ تمہیں ہر ستارہ کے نیچے منتشر کر دیں گے تو بھی اللہ تمہیں اس دن جمع کر دے گا جو ظالموں کے لئے بدترین دن ہو گا۔

### خطبہ ملام:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو اپنی خلقت و آفرینش کی بناء پر خلاائق پر آٹھ کارا ہوا اور اپنی محبت و برہان و آثار قدرت کے باعث قلوب مخلوق کے نزدیک ظاہراً اور نمایاں ہوا۔ جس نے فکر و اندیشہ کو کام میں لائے بغیر مخلوق کو ایجاد فرمایا، کیونکہ فکر و اندیشہ اس کے لیے سزاوار ہے جو ضمیر رکھتا ہو اور اللہ نے نفسہ ہماری جیسی تضییر نہیں رکھتا (کیونکہ وہ قوائے اور اکیلہ کا محتاج نہیں) اس کے علم نے پس پر دہ غیب (ماضی و مستقبل) کے راز ہائے درون کو چاک کر دیا ہے (کیونکہ ذات و اجنب کے لیے کوئی حاجب اور مانع نہیں) اور افکار و عقائد کے بھیدوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ سبحان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیغروں کے شجرہ

(آل ابراہیم) سے فالوس نور سے بزرگی کی چوٹی سے ناف بطيحی (کہ معمظہ) سے تاریکی کے چراغ اور سرچشمہ حکمت سے برگزیدہ کیا۔ تمہارا امام اور طبیب (روحانی) ہے کہ اپنے معالجہ اور طب کے وسیلے سے ( بلاکت آفرین امراض باطنی سے بچانے کے لیے) ان کی رجوع اور بازگشت ہوئی، لیکن تم نے تمگروں کو اپنی منزل پر قابو دیا اور اپنی زمام کارا پنے ہاتھ سے نکال کر ان کے ہاتھ میں دے دی اور احکام الہیہ انہیں سونپ دیئے جو شہرات پر عمل کرتے ہیں اور شہوات (کے میدان میں) سیر کرتے ہیں۔“

### مالک حقیقی:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”ہر شے اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہے اور ہر چیز اسی کے دم سے قائم ہے۔ وہ ہر فقیر کی دولت کا سہارا اور ہر ذلیل کی ہزت کا آسرا ہے۔ ہر کمزور کی طاقت وہی ہے اور ہر فریادی کی پناہگاہ وہی ہے۔ وہ ہر بولنے والے کے نطق کو سن لیتا ہے اور ہر خاموش رہنے والے کے راز کو جانتا ہے۔ جو زندہ ہے اس کا رزق اس کے ذمہ ہے اور جو مزگیا اس کی بازگشت اسی کی طرف ہے۔ اے اللہ! آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے بارے میں خبر دے سکیں۔ تو تمام تو صیف کرنے والی مخلوقات کے پہلے سے ہے۔ تو نے مخلوقات کو تہائی کی وحشت کی بناء پر نہیں خلق کیا ہے اور نہ انہیں کسی فائدے کے لئے استعمال کیا ہے۔ تو جسے حاصل کرنا چاہے وہ آگے نہیں جاسکتا ہے اور جسے پکڑنا چاہے وہ فیض کرنہیں جاسکتا ہے۔ نافرمانوں سے تیری سلطنت میں کمی نہیں آتی ہے اور اطاعت گزاروں سے تیرے ملک میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جو تیرے فیصلہ سے ناراض ہو وہ تیرے حکم کو ٹھال نہیں سکتا ہے اور جو تیرے امر سے روگردانی کرے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر راز تیرے سامنے روشن ہے اور ہر غیب تیرے لئے حضور ہے۔ تو ابدی ہے، تیری کوئی انتہا نہیں ہے اور تو انتہا ہے تو تجھ سے کوئی چھکارہ نہیں ہے۔ تو سب کی وعدہ گاہ ہے تو تجھ سے نجات حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر زمین پر چلنے والے کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے اور ہر چاند ارکی بازگشت تیری ہی طرف ہے۔ پاک و بے نیاز ہے تو۔ تیری شان کیا باعظمت ہے اور تیری مخلوقات بھی کیا عظیم الشان ہے اور تیری قدرت کے سامنے ہر عظیم شے کس قدر حقیر ہے اور تیری سلطنت کس قدر پر ٹھکوہ ہے اور یہ سب تیری اس مملکت کے مقابلہ میں جو نجاہوں سے او جھل ہے کس قدر معمولی ہے۔ تیری نعمتیں اس دنیا میں کسی قدر مکمل ہیں اور پھر یہ نعمات آخرت کے مقابلہ میں کس قدر مختصر ہیں۔ یہ تیرے ملائکہ ہیں جنہیں تو نے آسمانوں میں آباد کیا ہے اور زمین سے بلند تر بنایا ہے۔ یہ تمام مخلوقات سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں اور تجھ سے خوف زدہ رہتے ہیں اور تیرے قریب تر بھی ہیں۔ یہ شہ اصلاب پر میں رہنے ہیں اور نہ ارجام مادر میں اور نہ حقیر نطفہ سے پیدا کئے گئے ہیں اور نہ ان پر زمانہ کے انقلابات کا کوئی اثر ہے۔ یہ تیری بارگاہ میں ایک خاص مقام اور منزلت رکھتے ہیں۔ ان کی تمام تر

خواہشات صرف تیرے بارے میں ہیں اور یہ بکثرت تیری ہی اطاعت کرتے ہیں اور تیرے حکم سے ہرگز غافل نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تیری عظمت کی تہہ تک پہنچ جائیں تو اپنے اعمال کو حقیر ترین تصور کریں گے اور اپنے نفس کی مددت کریں گے اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے اور حق اطاعت کے برابر اطاعت نہیں کی ہے۔ تو پاک و بے نیاز ہے خالقیت کے اعتبار سے بھی اور عبادت کے اعتبار سے بھی۔ میری تسبیح اس بہترین برہتاو کی بنابر ہے جو تو نے مخلوقات کے ساتھ کیا ہے۔ تو نے ایک گھر بنایا ہے، اس میں ایک دستِ خوان بچھایا ہے، جس میں کھانے، پینے، زوجیت، خدمت، قصر، نہر، زراعت اور شمر سب کا انتظام کر دیا ہے اور پھر ایک داعی کو اس کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیج دیا ہے، لیکن لوگوں نے نہ داعی کی آواز پر بلیک کہی اور نہ جن چیزوں کی طرف تو نے رغبت دلائی تھی راغب ہوئے اور نہ تیری تسبیح کا شوق پیدا کیا۔ سب اس مردار پر ٹوٹ پڑے جس کو کھا کر رسوا ہوئے اور سب نے اس کی محبت پر اتفاق کر لیا اور ظاہر ہے کہ جو کسی کا بھی عاشق ہو جاتا ہے وہ شے اسے اندھا بنا دیتا ہے اور اس کے دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا بھی ہے تو غیر سلیم آنکھوں سے اور سنتا بھی ہے تو غیر سبیح کانوں سے۔ خواہشات نے ان کی عقولوں کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور دنیا نے ان کے دلوں کو مردہ بنادیا ہے۔ انہیں اس سے والہانہ لگاؤ پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس کے بندے ہو گئے ہیں اور ان کے غلام بن گئے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں تھوڑی سی بھی دنیا ہے کہ جس طرف وہ جھکتی ہے یہ بھی جھک جاتے ہیں اور جدھروہ مڑتی ہے یہ بھی مڑ جاتے ہیں۔ نہ کوئی روکنے والا انہیں روک سکتا ہے اور نہ کسی واعظ کی تصحیح ان پر اڑانداز ہوتی ہے۔ جب کہ انہیں دیکھ رہے ہیں جو اسی دھوکہ میں پکڑ لئے گئے ہیں کہ اب نہ معافی کا امکان ہے اور نہ واپسی کا۔ کس طرح ان پر وہ مصیبت نازل ہو گئی ہے جس سے ناواقف تھے اور فراق دنیا کی وہ آفت آگئی ہے جس کی طرف سے پاکل مطمئن تھے اور آخرت میں اس صورت حال کا سامنا کر رہے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب تو اس مصیبت کا بیان بھی ناممکن ہے جہاں ایک طرف موت کے سکرات ہیں اور دوسری طرف فراق دنیا کی حرث۔ حالت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں اور رنگ اڑ گیا ہے۔ اس کے بعد موت کی دخل اندازی اور بڑھی تو وہ گفتگو کی راہ میں بھی حائل ہو گئی کہ انسان گھروالوں کے درمیان ہے، انہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کان سے ان کی آوازیں سن رہا ہے، عقل بھی سلامت ہے اور ہوش بھی برقرار ہے۔ یہ سوچ رہا ہے کہ عمر کو کہاں برپا دیکیا ہے اور زندگی کو کہاں گزارا ہے۔ ان اموال کو یاد کر رہا ہے جنہیں جمع کیا تھا اور ان کی جمع آوری میں آنکھیں بند کر لی تھیں کہ بھی واضح راستوں سے حاصل کیا اور بھی مشتبہ طریقوں سے کہ صرف ان کے مجمع کرنے کے اثرات باقی رہ گئے ہیں اور ان سے جدائی کا وقت آگیا ہے۔ اب یہ حال بعد والوں کے لئے رہ جائے گا جو آرام کریں گے اور مزے اڑائیں گے، یعنی مزہ دوسروں کے لئے ہو گا اور بوجھا اس کی پیٹھ پر ہو گا لیکن انسان اس مال کی

زنجروں میں جکڑا ہوا ہے اور موت نے سارے حالات کو بے نقاب کر دیا ہے کہ نہ امت سے اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہے اور اس چیز سے کنارہ کشی ہونا چاہتا ہے جس کی طرف زندگی بھر راغب تھا۔ اب یہ چاہتا ہے کہ کاش جو شخص اس سے اس مال کی بنا پر حسد کر رہا تھا یہ مال اُس کے پاس ہوتا اور اس کے پاس نہ ہوتا۔ اس کے بعد موت اس کے جسم میں مزید در اندازی کرتی ہے اور زبان کے ساتھ کانوں کو بھی شامل کر لیتی ہے کہ انسان اپنے گھروالوں کے درمیان نہ بول سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے۔ ہر ایک کے چہرہ کو حشرت سے دیکھ رہا ہے۔ ان کی زبان کی جنبش کو بھی دیکھ رہا ہے لیکن الفاظ کو نہیں سن سکتا ہے۔ اس کے بعد موت اور چپک جاتی ہے تو کانوں کی طرح آنکھوں پر بھی قبضہ ہو جاتا ہے اور روح جسم سے پرواہ کر جاتی ہے۔ اب وہ گھروالوں کے درمیان ایک مردار ہوتا ہے۔ جس کے پہلو میں بیٹھنے سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے اور لوگ دور بھاگنے لگتے ہیں۔ یہاں نہ کسی رونے والے کو سہارا دے سکتا ہے اور نہ کسی پکارنے والے کی آواز پر آواز دے سکتا ہے۔ لوگ اسے زمین کے ایک گڑھ تک پہنچا دیتے ہیں اور اسے اس کے اعمال کے حوالہ کر دیتے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب قسمت کا لکھا اپنی آخری حد تک اور امر الہی اپنی مقررہ منزل تک پہنچ جائے گا اور آخرین کو اولین سے ملا دیا جائے گا اور ایک نیا حکم الہی آجائے گا کہ خلقت کی تجدید کی جائے تو یہ امر آسمانوں کو حرکت دے کر شکافۃ کر دے گا اور زمین کو ہلا کر کھوکھلا کر دے گا اور پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اڑادے گا اور بیت و جلال الہی اور خوف سطوت پروردگار سے ایک دوسرے سے مکرا جائیں گے اور زمین سب کو باہر نکال دے گی اور انہیں دوبارہ یوسیدگی کے بعد تازہ حیات دے دی جائے گی اور انتشار کے بعد جمع کر دیا جائے گا اور مختلف اعمال پوشیدہ افعال کے سوال کے لئے الگ الگ کر دیا جائے گا اور مخلوقات دو گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک گروہ مرکز نعمات ہو گا اور دوسری محل انقاص۔ اہل اطاعت کو اس جوارِ رحمت میں ثواب اور دارِ جنت میں چھیٹکی کا انعام دیا جائے گا جہاں کے رہنے والے کوچ نہیں کرتے ہیں اور نہ ان کے حالات میں کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے اور نہ ان پر رنج و الہم طاری ہوتا ہے اور نہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور نہ کسی طرح کا خطرہ سامنے آتا ہے اور نہ سفر کی زحمت بے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اہل معصیت کے لئے بدترین منزل ہو گی۔ جہاں ہاتھ گردن سے بند ہے ہوں گے اور پیشانیوں کو پیروں سے جوڑ دیا جائے گا۔ تارکوں اور آگ کے رہا شیدہ لباس پہنانے کے جائیں گے۔ اس عذاب میں جس کی گرمی شدید ہو گی اور جس کے دروازے بند ہوں گے اور اس جہنم میں جس میں شرارے بھی ہوں گے اور شور و غوغای بھی۔ بھڑکتے ہوئے شعلے بھی ہوں گے اور ہولوک چھینیں بھی۔ نہ یہاں کے رہنے والے کوچ کریں گے اور نہ یہاں کے قیدیوں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ یہاں کی بیڑیاں جدا ہو سکتی ہیں۔ نہ اس گھر کی کوئی مدت ہے جو تمام ہو جائے اور نہ اس قوم کی کوئی اجل ہے جو ختم کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ہمیشہ صغیر و حنیر اور

ذلیل و پست تصور کیا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ پروردگار نے اس دنیا کو آپ سے الگ رکھا ہے اور دوسروں کے لئے فرش کر دیا ہے تو یہ آپ کی عزت اور دنیا کی حقارت ہی کی بنیاد پر ہے، لہذا آپ نے اس سے دل سے کنارہ کشی اختیار کی اور اس کی یاد کو دل سے بالکل نکال دیا اور یہ چاہا کہ اس کی زیختیں نگاہوں سے او جھل رہیں تاکہ نہ عمدہ لباس زیب تن فرمائیں اور نہ کسی خاص مقام کی امید کریں۔ آپ نے پروردگار کے پیغام کو پہنچانے میں سارے عذر تمام کر دیئے اور امت کو عذاب الہی سے ڈرتے ہوئے نصیحت فرمائی۔ جنت کی بشارت سن کر اس کی طرف دعوت دی اور جہنم سے نچنے کی تلقین کر کے اس کا خوف پیدا کرایا۔ جہنم بوت کا شجرہ رسالت کی منزل ملائکہ کی رفت و آمد کی جگہ علم کے معدن اور حکمت کے چشمے ہیں۔ ہمارا مددگار اور محبت ہمیشہ منتظر رحمت رہتا ہے اور ہمارا دشمن اور کینہ پرورد ہمیشہ منتظر لعنۃ و انقاص الہی رہتا ہے۔“

### صفات مسلم:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کہ وہ اسلام کی سر بلند چوٹی ہے، کلمہ توحید کہ وہ فطرت کی آواز ہے، نماز کی پابندی کہ وہ عین دین ہے، زکوٰۃ ادا کرنا کہ وہ فرض و واجب ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی پس ہیں، خانہ کعبہ کا حج و عمرہ بجالانا کہ حج و عمرہ فقر کو دور کرتے اور گناہوں کو وحدوتیتے ہیں، اور عزیزوں سے حسن سلوک کرنا کہ وہ مال کی فروانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے، مختلف طور پر خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے، کھلمن کھلا خیرات کرنا کہ وہ بری موت سے بچاتا ہے اور لوگوں پر احسانات کرنا کہ وہ ذلت و رسوائی کے موقع سے بچاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑھنے چلو۔ اس لئے کہ وہ بہترین ذکر ہے اور اس چیز کے خواہشمند بنو کہ جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا ہے۔ نبی کریم کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے۔ اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے۔ قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے، اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے، اس کے نور سے شفاء حاصل کرو کہ سینوں کے اندر جھپٹی ہوئی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور اس کی خوبی کے ساتھ تلافت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رسان ہیں۔ وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سرگردان جاہل کے مانند ہے جو جہالت کی سرمیتیوں سے ہوش میں نہیں آتا، بلکہ اس پر اللہ کی جمیت زیادہ ہے اور حسرت و افسوس اس کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اور اللہ کے تزوییک وہ زیادہ قابل ملامت ہے۔“

### دنیا اور متارع دنیا:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تمہیں دنیا میں (دل ادا کرنے سے) میں ڈرا تارہتا ہوں، کیونکہ دنیا (کامزدہ اہل دنیا کے نزدیک) شیریں اور (ان کی نظر میں) سر بزر و شاداب ہے وہ خواہشوں اور فسافی آرزوؤں میں گھری ہوئی ہے۔ یہ اپنی ذرا سی آرائش پر اتراتی اور اپنے فریب سے بھی ہوئی ہے۔ اس کی مسرت پائیدار نہیں، اس کے دررو اندوہ سے آسودگی نہیں حاصل ہو سکتی، بڑی فرمبی اور زیاد رسماءں ہے، حالات میں تغیر کرتی رہتی ہے (تو نگری کو درویشی سے، آسانش کوختی سے، صحت کو بیماری سے اور زندگی کو موت سے بدلتی رہتی ہے) یہ نیست و نابود کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے۔ اس کی شکم سیری یہ ہے کہ سب کو ہلاک کر دے۔ جو لوگ اس سے رغبت اور چاہت رکھتے ہیں جب یہ ان کی آرزو تک پہنچتی ہے تو دنیا جیسی کچھ ہے اس سے تجاوز نہیں کرتی جیسا کہ اللہ فرماتا ہے: ”دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے، جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پس اس سے مل کر زمین کی گھاس سر بزر ہوئی اور پھر وہی ایسی گیاہ خشک بن گئی جسے ہوا میں پر اگنده کر دیتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“ کوئی شخص بھی متاع دنیا سے مسرو و شادماں نہیں رہتا مگر وہ قحف کہ گریے گلوگیر کے لیے تیار رہا ہو اس کی خوشیوں سے کوئی بھی بہرہ مند نہیں ہوتا، مگر وہ شخص کہ اس کی بدی کی زیاد کاری سے دوچار نہ ہوا ہو۔ اس دنیا میں آرام و راحت کا بادل اسی پر برستا ہے جس پر پے در پے بلاوں کا پانی گرتا ہے (ہیں جب دنیا کی رفتار یہ یہ ہے) تو پھر اگر کسی پر صحیح امداد (کامیابی) بنے تو شام صورت بدل کر غم و اندوہ کے ساتھ آئے۔ دنیا کا ایک پہلو اگر خوشنگوار اور شیریں ہے تو دوسرا تنخ اور اندوہ گئیں۔ جو شخص اس کی سر بزری اور شادابی سے نہال ہوتا ہے اسے یہ بلاوں کی سختی سے ٹھٹھاں کر دیتی ہے اور جو اس کے نرم و نازک پروں کے سایہ میں شام کرتا ہے اس کی صحیح خوف و دہشت کے بازوؤں پر ہوتی ہے۔ یہ فریب کار ہے اور اس میں سوا فریب کے کچھ نہیں۔ یہ فانی ہے اور اس کی پشت پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ لہذا پر ہیز گاری کے سوا کوئی تو شہ اچھا نہیں۔ جس شخص نے اس سے (مال و منال) کم لیا اس نے گویا بہت زیادہ چیز لے لی جو سے عذاب الہی سے بچا لے گی اور جس نے اس سے خوب (مال و منال) لیا۔ اس نے وہ چیز زیادہ سے زیادہ لے لی جو سے تباہ و بر باد کر دے گی اور بہت جلد زائل ہو جائے گی۔ کتنے ہی اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں جن کو اس نے بتلائے معصیت کیا اور کتنے ہی اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں جنہیں اس نے پچھاڑ دیا۔ کتنے ہی ارباب جاہ و جلال ہیں جنہیں اس نے حقیر و ذلیل کر دیا۔ کتنے ہی نجوت پرست ہیں جن کو اس نے ذلیل کر دیا۔ اس کا اقتدار گردش کرتا رہتا ہے۔ اس کی زندگی کی مکدر ہے، اس کا شیریں پانی تنخ ہے، اس کی مٹھاں میں کڑواہٹ ملی ہوئی ہے، اس کی غذا زہر ملی ہے، اس کے رشتے کمزور ہیں، اس کا ہر زندہ موت کے سامنے، اس کا ہر تندرست بیماری کے حوالے ہے، اس کا ملک چھن چائے گا، اس کا باعزم ذلیل ہو گا اور اس کا مال تباہ اور ہمسایہ لٹ جائے گا۔ کیا تم انہی لوگوں کے گھروں میں اقامت گزیں ہو جو تم سے پہلے والوں کے گھر تھے؟ ان کی عمر میں

دراز تر اور ان کے آثار پائندہ تر تھے؟ ان کی آرزوں میں بیشتر ان کی چیزیں آمد اور ان کے لشکر انبوہ تر تھے؟ انہوں نے دنیا کو کس کس طرح پوچا اور کس کس طرح سے اسے چاہا، لیکن آخر کار انہوں نے یہاں سے کوچ کیا (مر گئے) بغیر کسی سامان سفر کے جسے ساتھ لے جاتے یا سواری کے کہ اس پر چڑھ کر راہ پیمای کرتے۔ کیا تمہیں یہ خبر بھی ملی کہ اس دنیا نے کبھی ان کا فردیہ دیا یا ان کی اعانت و شکری کی؟ یا (اخلاقاً) کبھی انہیں مدد پہنچائی؟ نہیں! یہ کچھ نہیں کیا (بلکہ) اس نے انہیں گرفتار مصائب کیا آفات سے انہیں کمزور بنایا، دست مصیبت کو جنبش دی، ان کی ناکیں زمین پر رکھ دیں، ان کو اپنے پاؤں تلے رومندا اور ان کے مقابلہ میں حادث و مصائب کی مدد کی۔ جو لوگ اس دنیا کے اطاعت گزار تھے اور آخرت پر اسے ترجیح دیتے تھے اور ہمہ تن اس کی طرف مائل تھے ان کے ساتھ تم نے اس کا ظلم و ستم دیکھ لیا۔ پس جب وہ اس سے دائیٰ مفارقت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تو کیا اس نے بھوک اور گرنسکی کے سوا بھی انہیں کوئی تو شہ دیا؟ شک مزمل (قبر) کے سوا کہیں اور انہیں اتنا را؟ یا تاریکی کے سوا کوئی چراغ ان کے لیے جلا دیا؟ یا ندامت و پیشہ اس شخص کے سوا کچھ اور انہیں عطا کیا؟ تم اس دنیا کو پسند کرتے ہو یا اس سے مطمئن ہو یا اس پر حریص ہو؟ یہ دنیا اس شخص کے لیے بدترین گھر ہے جو اسے قلیل الزام نہ قرار دے اور اس میں رہ کر اس سے خوف زدہ نہ ہو! جان لو! اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا، یہاں سے تم کوچ کرنا ہو گا لہذا ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ لیکن انہیں لادر قبروں کی طرف نے جایا گیا۔ کسی نے سوارنہ کیا باوجود اس کے کہ قبروں میں اتارے گئے لیکن مہمان کہہ کر بلاۓ زمین میں ان کی قبریں بنائی گئیں اور مشی کے کفن دیئے گئے، گلی ہوئی ہڈیاں ہمسائے قرار دیئے۔ اب وہ نہ کسی پکارنے والے کو جواب دے سکتے ہیں، نہ کسی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ نہ نوحہ و ماتم کی پرواکرتے ہیں۔ اگر انہیں پارش سے شاد کام کیا جائے تو خوش نہیں ہوتے اور اگر قحط غذانہ دی جائے ہو تو ماہیوں نہیں ہوتے۔ یہ الگ الگ ہونے کے باوجود مجتمع ہیں اور پڑوی ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے دور ہیں۔ نزدیک ہیں مگر ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ قریب ہیں لیکن لطف قربت سے محروم ہیں۔ ایسے حلیم ہیں جن کے کنبے دور ہو چکے ہیں۔ اتنے بے حس ہیں کہ عدا توں کو بھول چکے ہیں۔ اب نہ ان سے ایذا رسانی کا خوف کیا جاسکتا ہے، نہ مخالفت کی امید کی جاسکتی ہے۔ انہوں نے زمین کی پیٹھ سے اس کے پیٹ کو کشادگی سے شکنگی کو، اہل و عیال سے غربت اور تہائی کو اور نور سے تاریکی کو بدل لیا ہے۔ جس طرح اسے چھوڑا تھا، اسی طرح پھر شکنگے پاؤں بس اتارے ہوئے اس کے پاس بخیج گئے اور اس سے اپنے اعمال کا توشہ لے کر دائیٰ زندگی بر کرنے کے لیے جادوائی گھر کی طرف کوچ کر گئے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ہم نے جس طرح آغاز تخلیق میں انہیں پیدا کیا تھا اسی طرح انہیں دوہارہ پھر لوٹا کیا گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم ایسا بہر حال کریں گے۔“

## ذمت دنیا کا بیان:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذمت دنیا کے بارے میں فرمایا:

”میں تمہیں دنیا سے خبردار کئے دیتا ہوں کہ یہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لئے قرار نہیں اور ایسا گھر ہے جس میں آب و دانہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ یہ اپنے باطل سے آراستہ ہے اور اپنی آرائشوں سے دھوکا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے۔ چنانچہ اس نے حلال کے ساتھ حرام اور بھلاکیوں کے ساتھ برائیاں اور زندگی کے ساتھ موت اور شیرینیوں کے ساتھ تلخیاں غلط ملط کر دی ہیں اور اپنے دوستوں کے لئے اسے بے غل و غش نہیں رکھا اور نہ دشمنوں کو دینے میں بخل نہیں کیا۔ اس کی بھلاکیاں بہت ہی کم ہیں اور برائیاں (جہاں چاہو) موجود۔ اس کی جمع پونچی ختم ہو جانے والی اور اس کا ملک چھن جانے والا ہے اور اس کی آبادیاں ویران ہو جانے والی ہیں۔ بھلا اس گھر میں خیر و خوبی ہی کیا ہو سکتی ہے۔ جو مسماں عمارت کی طرح ختم ہو جائے اور اس مدت میں جو چلنے پھرنے کی طرح تمام ہو جائے۔ جن چیزوں کی تمہیں طلب و تلاش رہتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بھی داخل کرلو اور جو اللہ نے تم سے چاہا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق بھی اس سے مانگو۔ موت کا پیغام آنے سے پہلے موت کی پکار اپنے کانوں کو سناؤ۔ اس دنیا میں زاہدوں کے دل رو تے ہیں، اگر چہ وہ نہ رہے ہوں اور ان کا غم و اندوہ حد سے بڑھا ہوتا ہے، اگر چہ ان کے چہروں سے صرت پک رہی ہو اور انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی بیرہوتا ہے اگر چہ اس رزق کی وجہ سے جوانہیں میسر ہے ان پر رُنگ کیا جاتا ہو۔ تمہارے دلوں سے موت کی یاد جاتی رہی ہے اور جھوٹی امیدیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی ہے اور وہ عقبی سے زیادہ تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تم اللہ کے دین کے سلسلہ میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، لیکن بد نیتی اور بد نظری نے تم میں تفرقہ ڈال دیا ہے، نہ تم ایک دوسرے کو بوجھ بیٹاتے ہو، نہ باہم پندوں صحت کرتے ہو، نہ ایک دوسرے پر کچھ خرج کرتے ہو اور نہ تمہیں ایک دوسرے کی چاہت ہے۔ تھوڑی سی دنیا پا کر خوش ہونے لگتے ہو اور آخرت کے پیشتر حصہ سے بھی محرومی تمہیں غزدہ نہیں کرتی۔ ذرا سی دنیا کا تمہارے ہاتھوں سے لکھنا تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بے چینی تمہارے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے اور کھوئی ہوئی چیز پر تمہاری بے صبریوں سے آشکارا ہو جاتی ہے، گویا یہ دنیا تمہارا مستقبل مقام ہے اور دنیا کا ساز و برگ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم میں سے کسی کو بھی اپنے کسی بھائی کا ایسا عیب اچھا لئے سے کہ جس کے ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے صرف یہ امر مانع ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا ویسا ہی عیب کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا۔ تم نے آخرت کو ٹھکرائے اور دنیا کو چاہنے پر سمجھوتہ کر رکھا ہے۔ تو لوگوں کا دین تو یہ رہ گیا ہے کہ جیسے ایک دفعہ زبان سے چاٹ لیا جائے یعنی صرف زبانی اقرار اور تم تو اس شخص کی طرح مطمئن ہو چکے ہو کہ جو اپنے کام و ہندوؤں سے فارغ ہو گیا ہوا اور اپنے

مالک کی رضامندی حاصل کر لی ہو۔“

### ملک الموت:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے ملک الموت کے قبض، روح اور مخلوقات کے توصیف الہی سے عاجزی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”کیا جس وقت ملک الموت گھر میں داخل ہوتے ہیں تمہیں کوئی احساس ہوتا ہے اور کیا انہیں روح قبض کرتے ہوئے تم نے کبھی دیکھا ہے؟ بھلا وہ شکم مادر میں پچھے کس طرح مارتے ہیں؟ کیا کسی طرف سے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا روح ہی ان کی آواز پر لبیک گئی ہوئی نکل آتی ہے یا پہلے سے پچھے کے پہلو میں رہتے ہیں۔ سو چو! کہ جو شخص ایک مخلوق کے کمالات کو نہ سمجھ سکتا ہو وہ خالق کے اوصاف کو کیا بیان کر سکے گا؟“

### لوگوں کو وعظ و نصیحت..... خیثت الہی

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے حمد کو نعمت سے اور نعمت کو شکر سے پیوستہ کر دیا۔ ہم اس کی نعمتوں پر اسی طرح اس کی حمد کرتے ہیں جس طرح اس کی آزمائش پر اور ہم اس سے مدد چاہتے ہیں۔ ان لفوس کا اہل وست پر کہ جو عبادت و بندگی پر مامور ہیں اور جن چیزوں سے انہیں روکا گیا ہے نافرمانی اور محصیت سے ان کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہیں، ہم ان گناہوں سے آمر زش طلب کرتے ہیں جن پر اس کا علم محیط ہے اور اس کی کتاب (لوح محفوظ) جنہیں جبٹ کر چکی ہے وہ علم کے قاصر و کوتاہ (صغیر و کبیر) کو اور وہ کتاب کہ جس نے کچھ بھی لکھنے سے چھوڑا نہیں اور اس پر ہمارا ایمان اس شخص کی طرح ہے جس نے پہاں (سکرات و سختی مرگ، سوال قبر و حساب و دادرسی قیامت وغیرہ) کو آشکار دیکھ لیا ہوا اور موعودہ چیز سے مثلاً بہشت جادواں نیک کرداروں اور دائیٰ جلتی آگ گناہ گاروں کے لیے ہے) آگاہ ہو (ہم وہ) ایمان رکھنے والے ہیں کہ جو شکر کو زائل کر چکا ہے اور جس کا شکر یقین سے بدل چکا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور فرستادے ہیں اور یہ دو گواہیاں (از روئے ہمیں قلب و خلوص نیت) گفتار نیکو اور کردار پسندیدہ کو اونج و رفتہ ذینے والی ہیں۔ ترازو کے جس پلڑے میں یہ دو گواہیاں رکھ دی جائیں وہ سبک نہیں ہو سکتا اور جس سے یہ دونوں اٹھائی جائیں وہ بھاری نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ کے بندوں! میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کہ یہی زاد معاد (تو شہر سفر آخرت) ہے اور عذاب الہی سے پناہ ہے۔ وہ تو شہر کہ دارندہ کو منزل پر پہنچا دیتا ہے ایسی پناہ کہ سختی اور مصیبت سے رہا کر دیتی ہے اسنوں اترین داعی (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) نے اسی کی طرف دعوت وی اور بہترین اوزار کرنے والے نے اس کا درک کیا (اس پر عمل کیا) پس اس کی دعوت دینے والے نے سب کچھ سناؤ یا اور اس کا یاد

رکھنے والا کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ کے بندو! خوف الہی نے اللہ کے دوستوں کو کار حرام سے باز رکھا ہے اور یہی خوف و تقویٰ ہے جس نے ان کے دلوں کو شان ترا عطا فرمائی۔ یہاں تک کہ انہیں راتوں کو نماز کے لیے بیدار رکھا اور شدت گرمی میں دلوں کو برائے روزہ پیاسا رکھا۔ پس انہوں نے آخرت کی آسائش کو رنج (دنیا) سے اور اس دن کی سیرابی کو آج کی تفہیق سے بدل لیا۔ انہوں نے موت کو تریب سمجھا اور عمل کی طرف پیش قدمی کی، انہوں نے دنیا کی امید کو جھٹلایا اور گویا موت کا نظارہ کر لیا۔ بلاشبہ دنیا فنا کا گھر ہے تکلیف کا گھر ہے، انقلاب اور عبرت کا گھر ہے۔ فنا نیستی کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمانے نے (نابود کرنے کے لیے) اپنے تیر کو چلنے کمان میں رکھ لیا۔ اس کا تیر کبھی خط انہیں جاتا، اس کا زخم کبھی مد او پذیر نہیں ہوتا، یہ ہر زندہ پر موت کا، ہر تدرست پر بیماری کا، ہر ستفار پر ہلاکت اور بر بادی کا تیر چلاتا ہے۔ یہ وہ کھانے والا ہے کہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ وہ پینے والا ہے کہ جس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اس کے اسباب سختی و رنج میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جو کچھ جمع کرتا ہے اسے کھانہیں پاتا جو (شاندار عمارتیں) بناتا ہے اس میں رہنیں پاتا اور جب (مرکر) اللہ کی طرف جاتا ہے تو نہ مال و دولت ساتھ لے جاتا ہے نہ قصر و محل۔ اس (دنیا) کے تغیر حالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جس آدمی پر فقر و پریشانی کے باعث رحم کیا جاتا تھا اب دولت و ثروت اور تو گنگری کے باعث اس پر رحم کیا جاتا ہے اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ نعمتوں سے محروم ہو گیا اور مصائب کا شکار بن گیا۔ اور دنیا کی عبرتوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنی امیدوں اور آرزوؤں سے قریب پہنچ جاتا ہے تو موت اس کا رشتہ زندگی قطع کر دیتی ہے اور اب نہ کوئی آرزو حاصل ہو سکتی ہے، نہ صاحب آرزو (جنہیں) مرگ سے فتح سکتا ہے۔ سبحان اللہ! اس دنیا کی سرست کتنی پر فریب اور اس کی سیرابی کس قدر سبب تفہیق آخرت ہے اور اس کا سایہ کیسا گرمی دوزخ کا موجب ہے۔ نہ آنے والی چیز موت روکی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز واپس مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ! — زندہ مردہ سے کس قدر قریب ہے اس سے مل جانے کے لیے اور مردہ زندہ سے کس قدر دور ہے اس سے کبھی نہ مل سکنے کے لیے (دنیا میں) بدی میں عذاب الہی سے بدر کوئی چیز نہیں اور اچھائیوں میں ثواب الہی سے زیادہ بہتر کوئی اچھائی نہیں۔ دنیا کی ہر چیز کا سنتا، اس کے دیکھنے سے زیادہ اچھا ہے اور آخرت کی ہر چیز کا دیکھنا اس کے سنبھلے سے کہیں بہتر ہے، لیکن تمہارے لیے غیب و پنهان کی خبریں معلوم کرنا ہی کافی ہے۔ یاد رکھو! جیسے دنیا میں کم ملے گا وہ آخرت میں زیادہ پائے گا اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آخرت میں کم ملے اور دنیا میں زیادہ۔ پس بہت سی کم چیزیں مفید ہیں اور بہت سی زیادہ چیزیں ہیں نقصان رسان۔ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ فراغ تر اور آسان تر ہیں، ان چیزوں سے کہ جن سے روکا گیا اور منع کیا گیا ہے۔ وہ چیزوں کے تم پر حلال کی گئیں، زیادہ ہیں ان چیزوں سے کہ جو حرام قرار دی گئیں۔ لہذا تھوڑے کو بہت کی خاطر چھوڑو اور دشوار کو آسان کے مقابلہ میں ترک کر دو۔ تمہاری روزی کی ضمانت اللہ کی طرف سے کی جا چکی ہے اور

عمل صالح پر تم مامور کئے گئے ہو۔ پس کہیں ایسا نہ ہو کہ جس روزی کی تمہارے لیے ضمانت کی جا چکی ہے اس کی طلب تمہیں اس سے غافل کر دے جو تم پر واجب کیا گیا ہے (لیکن اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں) کہ شک و تردید نے تمہارے عقاید اور دین میں جگہ کر لی اور تمہارا یقین متزلزل ہو گیا، گویا جس روزی کی تمہارے لیے ضمانت دی جا چکی تھی وہ تو واجب ہو گیا اور جو عمل صالح تم پر واجب کیا گیا تھا وہ ساقط ہو گیا۔ پس عمل کی طرف جلدی کرو اور ناگہانی موت سے ڈرو کیونکہ پازگشت عمر کی ایسی امید نہیں جیسی بازگشت رزق کی امید کی جاسکتی ہے۔ آج اگر روزی کا کچھ حصہ کم ہو گیا تو کل اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور کل گزشتہ جتنی عمر جا چکی ہے آج وہ واپس نہیں آسکتی۔ آئندہ روزی کی امید ہے اور گزشتہ عمر سے نا امیدی ہی بہتر ہے، لہذا اللہ کہتا ہے: عذاب الہی سے ڈرو اور پر ہیز گار بنا ایسی پر ہیز گاری جو اس کے لیے سزاوار ہے اور نہ مرو مگر مسلمان بن کر۔

### صحت و موعظت:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو صحت کرتے ہوئے فرمایا:

”لوگو! اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی طرف بلانے والا اور مخلوق کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو پہنچایا۔ نہ اس میں کچھ سستی کی نہ کوتا ہی اور اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے جہاد کیا۔ جس میں نہ کمزوری دکھائی نہ حیلے بھانے کئے۔ وہ پر ہیز گاروں کے امام اور ہدایت پانے والے کی آنکھوں کے لیے بصارت ہیں۔ جو چیزیں تم سے پرده غیب میں پیش دی گئی ہیں۔ اگر تم بھی انہیں جان لیتے جس طرح میں جانتا ہوں تو بلاشبہ تم اپنی بداعمالیوں پر رو تے ہوئے اور اپنے نقوں کا اتم کرتے ہوئے اور اپنے مال و متناع کو بغیر کسی نگہبان اور بغیر کسی نگہداشت ررنے والے کے یونہی چھوڑ چھاؤ کر کھلے میدان میں لکل پڑتے اور ہر شخص کو اپنے ہی نفس کی پڑی ہوتی۔ کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتا، لیکن جو تمہیں یاد دلایا گیا تھا اسے تم بھول گئے اور جن چیزوں سے تمہیں ڈرایا گیا تھا ان سے تم عذر ہو گئے۔ اس طرح تمہارے خیالات بھلک گئے اور تمہارے سارے امور دراهم برآتم ہو گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو تم سے زیادہ میرے حقدار ہیں۔ اللہ کی قسم! وہ ایسے لوگ ہیں جن کے خیالات مبارک اور عقلیں شہوں تھیں۔ وہ کھل کر حق بات کہنے والے اور سرکشی و بغاوت کو چھوڑنے والے تھے۔ وہ قوم آگے بڑھا کر اللہ کی راہ پر ہو لیے اور سیدھی راہ پر بے کھلکھلے دوڑے چلے گئے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیشہ رہنے والی آخرت اور عمدہ و پاکیزہ نعمتوں کو پالیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ تم پر بنی ثقیف کا ایک لڑکا اسلط پائے گا وہ دراز قد ہو گا اور مل کھا کر چلے گا۔ وہ تمہارے تمام سبزہ زاروں کو چڑھانے گا اور تمہاری چربی تک پکھلا دے گا۔“

## طلب پارش کی دعا:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے پارش طلب کرتے ہوئے عرض کیا:

”اے اللہ! ہمارے پہاڑوں کا سبزہ خشک ہو گیا ہے اور ہماری زمین پر خاک اُٹر رہی ہے۔ ہمارے جانور پیاسے ہیں اور اپنی منزل کی تلاش میں سرگردان ہیں اور اسپنے بچوں کے حق میں اس طرح فریادی ہیں جیسے زن پر مردہ پر۔ سب چہاگا ہوں کی طرف پھیرے لگانے اور تالابوں کی طرف والہانہ طور پر دوڑنے سے عاجز آگئے ہیں۔ اے اللہ! اب ان کی فریادی بکریوں اور اشتیاق آمیز پکارنے والی اونٹیوں پر رحم فرم۔ اے اللہ! ان کی راہوں میں پریشانی اور منزلوں پر حیخ و پکار پر رحم فرم۔ اے اللہ! ہم اس وقت گھر سے نکل کر آئے ہیں جب قحط سالی کے مارے ہوئے لا غرائب ہماری طرف پلٹ پڑے ہیں اور جن سے کرم کی امید تھی وہ باول آ آ کر چلے گئے ہیں۔ اب درد کے ماروں کا تو ہی آسرا ہے اور التجا کرنے والوں کا تو ہی سہارا ہے۔ ہم اس وقت دعا کر رہے ہیں جب لوگ ماہیوں ہو چکے ہیں۔ باولوں کے خیر کو روک دیا گیا ہے اور جانور ہلاک ہو رہے ہیں تو اے اللہ! ہمارے اعمال کی بنا پر ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اور ہمیں ہمارے گناہوں کی گرفت میں مت لے لینا۔ اپنے دامن رحمت کو ہمارے اوپر پھیلادے برستے والے باول، موسلا دھار برسات اور حسین سبزہ کے ذریعہ۔ ایسی برسات جس سے مردہ زمینوں زندہ ہو جائیں اور گئی ہوئی بہار واپس آجائے۔ اے اللہ! ایسی سیرابی عطا فرم اجوز ندہ کرنے والی، سیراب بنانے والی، کامل دشائل، پاکیزہ و مبارک، خوشگوار دشاداب ہو کہ جس کی برکت سے باتات پھلنے پھولنے لگیں۔ شاخیں پارا اور ہو جائیں۔ پتے ہرے ہو جائیں۔ کمزور بندوں کو اٹھنے کا سہارا مل جائے۔ مردہ زمینوں کو زندگی عطا ہو جائے۔ اے اللہ! ایسی سیرابی عطا فرم اجس سے ٹیلے سبزہ پوش ہو جائیں۔ نہریں جاری ہو جائیں۔ آس پاس کے علاقے شاداب ہو جائیں۔ پھل لکلنے لگیں۔ جانور جی اٹھیں۔ دور دراز کے علاقہ بھی تر ہو جائیں اور کھلے میدان بھی تیری اس وسیع برکت اور عظیم عطا سے مستفیض ہو جائیں جو تیری تباہ حال تخلوق اور آوارہ گرد جانوروں پر ہے۔ ہم پر ایسی پارش نازل فرماؤ پانی سے شرایور کر دینے والی، موسلا دھار، مسلسل برستے والی ہو، جس میں قطرات، قطرات کو دھکیل رہے ہوں اور یوندیں یوندوں کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہوں۔ نہ اس کی بجلی دھوکہ دینے والی ہو اور نہ اس کے باول پانی سے خالی ہوں۔ اس کی سر سبزیوں سے خوشحال ہو جائیں اور خشک سالی کے شکار اس کی برکت سے جی اٹھیں۔ اس لئے کہ تو ہی ماہیوں کے بعد پانی بر سانے والا اور دامن رحمت کا پھیلانے والا ہے اور تو ہی قابل حمد و ستائش سر پرست و مددگار ہے۔“

## بجل و خوف مرگ

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تم حد درجہ بخیل و مسک ہوا تم نے اپنے اموال کو ان لوگوں پر جن کی اس میں روزی تھی صرف نہیں کیا (فقراء ضعفاء پر احسان نہیں کیا) اور اپنی زندگی کو جان آفرین کے لیے خطرہ میں نہیں ڈالا (اپنے آپ کو میدان جہاد میں حاضر نہیں کیا) دینِ الہی کے سبب اس کے بندوں کے درمیان تو معزز بن گئے لیکن اللہ کو اس کے بندوں کے درمیان قابل احترام نہ بتایا، (اس کے احکام و نواعی کی پیروی نہیں لی) اپنے پیش روؤں کے مکانوں میں رہنے سے عبرت اور اپنے قریب ترین بھائیوں سے علیحدہ ہو جانے کے خوف سے سبق لو۔“

### جہاد کی ترغیب:

امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور انہیں جہاد پر آمادہ کرنا چاہا تو وہ لوگ دیر تک چپ رہے تو آپ نے فرمایا:

”تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ کیا تم گونگے ہو گئے ہو۔؟“

تو ایک گروہ نے کہا:

”اے امیر المؤمنین! اگر آپ چلیں تو ہم بھی آپ کے ہمراہ چلیں گے۔“

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تمہیں کیا ہو گیا ہے۔؟ تمہیں ہدایت کی توفیق نہ ہوا اور نہ سیدھی راہ دیکھنا نصیب ہو۔ کیا ایسے حالات میں میں ہی نکلوں۔؟ اس وقت تو تمہارے جوانمردوں اور طاقتوروں میں سے جس شخص کو میں پسند کروں اسے جانا چاہئے۔ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں لشکر، شہر، بیت المال، زمین کے خارج کی فراہمی، مسلمانوں کے مقدرات کا تصفیہ اور مطالبة کرنے والوں کے حقوق کی دیکھ بھال چھوڑ دوں اور لشکر لیے ہوئے دوسرے لشکر کے پیچے نکل کھڑا ہوں۔ اور جس طرح خالی ترکش میں بے پیکاں کا تیر ہلتا جلتا ہے جنبش کھاتا رہوں۔ میں چکی کے اندر کا وہ قطب ہوں کہ جس پر وہ گھومتی ہے، جب تک میں اپنی جگہ پر ٹھہر ارہوں اور اگر میں نے اپنا مقام چھوڑ دیا تو اس کے گھومنے کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا اور اس کا پیچے والا پتھر بھی بے ٹھکانے ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم! یہ بہت بُرا مشورہ ہے۔ اللہ کی قسم! اگر دشمن کا مقابلہ کرنے سے مجھے شہادت کی امید نہ ہو جب کہ وہ مقابلہ میرے لئے مقدر ہو چکا ہو تو میں اپنی سواریوں کو سوار ہونے کے لیے قریب کر لیتا اور تمہیں چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتا اور جب تک جنوبی و شمالی ہواں میں چلتی رہتیں تمہیں کبھی طلب نہ کرتا۔ تمہارے شمار میں زیادہ ہونے سے کیا فائدہ جب کہ تم ایک ول نہیں ہو پاتے۔ میں نے تمہیں صحیح راستے پر لگایا ہے کہ جس میں ایسا ہی شخص تباہ و بر باد ہو گا جو خود اپنے لیے ہلاکت کا سامان کیے بیٹھا ہو اور جو اس راہ پر جما رہے گا وہ جنت کی طرف اور جو پھل جائے گا وہ دوزخ کی جانب بڑھے گا۔“

صالح ساختی:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے نیک کردار ساتھیوں کے بارے میں فرمایا:

”تم حق کے سلسلہ میں مددگار اور دین کے معاملہ میں بھائی ہو۔ جنگ کے روز میری سپر اور تمام لوگوں میں میرے رازدار ہو۔ میں تمہارے ہی ذریعہ روگردانی کرنے والوں پر تلوار چلاتا ہوں اور راستہ پر آنے والوں کی اطاعت کی امید رکھتا ہوں، لہذا اللہ کے لیے میری مددکرواس نصیحت کے ذریعہ جس میں ملاوٹ نہ ہو اور کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو کہ اللہ کی قسم! میں لوگوں کی قیادت کے لئے تمام لوگوں سے اولیٰ اور احق ہوں۔“

نیک نامی اور امر الہی:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ کی قسم! میں پیامات الہی کی تبلیغ سے اور اللہ کے وعدوں کے اتمام سے اور کلمات (حکمت) کی انہما سے (خوب) واقف ہوں۔ ہم اہل بیت رسولؐ کے پاس حکمت کے دروازے اور امر الہی کی روشنی موجود ہے۔ خبردار اور دین کی شریعتیں واحد ہیں اور اس کے راستے سید ہے ہیں جو اسے پالے گا وہ حق سے جا لمے گا اور فائدہ میں رہے گا اور جو اسے نہ پاس کا، گمراہ ہو گا اور پیشیاں ہو گا۔ عمل کرو! اس دن کے لیے جس کے لیے اعمال حسنہ کے ذخیرے جمع کیے جاتے ہیں۔ جب تمام راز فاش ہو کر رہیں گے، جس دن عقل دانہ دیشہ حاضر سے کوئی فائدہ نہ ہو گا اور عقل غائب، عاجز اور درماندہ ہو گی۔ اس آگ سے نپختے کی کوشش کرو، جس کی گرمی سخت اور جس کی گہرائی بہت زیادہ ہو گی۔ جس کا زیور لو ہا اور جس کا پانی زردآب ہو گا یاد رہے کہ جسے اللہ لوگوں میں نیک نامی عطا فرماتا ہے وہ بہتر (خوش نصیب) ہے اس مال سے جس کا وہ دوسرے کو دارث تو بناتا ہے مگر کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا۔“

مودی صرف:

جب لیلۃ الہریٰ کے بعد آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ آپ نے پہلے ہمیں حکم بنانے سے روکا اور پھر اسی کا حکم دے دیا تو آخران دونوں میں سے کون سی بات صحیح تھی؟ تو آپ نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرمایا:

”افسوس بہی اس کی جزا ہوتی ہے جو عہد و پیمان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یاد رکھو! اگر میں تم کو اس ناگوار امر (جنگ) پر مأمور کر دیتا جس میں یقیناً اللہ نے تمہارے لئے خیر کھانا تھا اس طرح کہ تم سید ہے رہے تو تمہیں ہدایت دیتا اور ٹیڑ ہے ہو جاتے تو سیدھا کر دیتا اور انکار کرتے تو اس کا علاج کرتا تو یہ انتہائی مشکم طریقہ کار ہوتا، لیکن یہ کام کس کے ذریعہ کرتا اور کس کے بھروسہ پر کرتا؟ میں تمہارے ذریعہ قوم کا علاج کرنا چاہتا تھا لیکن تمہیں تو بیماری ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کائنے سے کائنات کا لا جائے جب کہ اس کا

جھکاؤ اسی کی طرف ہو۔ اے اللہ! گواہ رہنا کہ اس مودی مرض کے اطباء عاجز آچکے ہیں اور اس کنویں سے رسی نکالنے والے تھک چکے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو فوراً قبول کر لی اور انہوں نے قرآن کو پڑھا تو باقاعدہ عمل بھی کیا اور چہاد کے لئے آمادہ کئے گئے تو اس طرح شوق سے آگے بڑھے جس طرح اونٹی اپنے بچوں کی طرف بڑھتی ہے۔ انہوں نے تلوار کو نیاموں سے نکال لیا اور دستہ دستہ، صف بے صف آگے بڑھ کر تمام اطراف زمین پر قبضہ کر لیا۔ ان (صحابہ) میں بعض چلے گئے اور بعض باقی رہ گئے۔ انہیں نہ زندگی کی بشارت سے دلچسپی تھی اور نہ مردوں کی تعزیت سے۔ ان کی آنکھیں خوف الہی میں گریے سے سفید ہو گئی تھیں۔ پیٹ روزوں سے ڈھنس گئے تھے ہونٹ دعا کرتے کرتے خشک ہو گئے تھے۔ چہرے شب بیداری سے زرد ہو گئے تھے اور چہروں پر خاکساری کی گرد پڑی ہوئی تھی۔ یہی میرے پہلے والے بھائی تھے جن کے بارے میں ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی طرف پیاسوں کی طرح نگاہ کریں اور ان کے فرق میں اپنے ہی ہاتھ کا ٹھیں۔ یقیناً شیطان تمہارے لئے اپنی راہوں کو آسان بنادیتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایک ایک کر کے تمہاری ساری گریبیں کھول دے۔ وہ (شیطان) تمہیں اجتماع کے بجائے افتراق دے کر فتنوں میں بنتلا کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کے خیالات اور اس کی جھاڑ پھوک سے منہ مودے رہو اور اس شخص کی نصیحت قبول کر دو جو تمہیں نصیحت کا تحفہ دے رہا ہے اور اپنے دل میں اس کی گرد پاندھلوں۔“

### ہمی صلح:

جب خوارج تحریکم کے نہ مانے پڑا گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پڑاؤ کی طرف تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا:

”کیا تم سب کے سب ہمارے ساتھ صفين میں موجود تھے۔؟“

انہوں نے کہا:

”ہم میں سے کچھ تھے اور کچھ نہیں تھے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”پھر تم دو گروہوں میں الگ الگ ہو جاؤ۔ ایک وہ جو صفين میں موجود تھا اور ایک وہ جو وہاں موجود نہ تھا کہ میں ہر ایک سے جو گفتگو اس سے مناسب ہو وہ کرو۔“

پھر لوگوں سے پکار کر کہا:

”بس اب آپس میں بات چیت نہ کرو اور جس سے ہم گواہی طلب کریں وہ اپنے علم کے مطابق جوں کی توں گواہی دے۔“

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے ایک طویل گفتگو فرمائی۔ محمد اس کے یہ فرمایا:

”جب ان لوگوں نے جیلہ دے کر اور جعل و فربیب سے قرآن نیزوں پر اٹھائے تھے تو کیا تم نے ہمیں کہا تھا: وہ ہمارے بھائی بند اور ہمارے ساتھ اسلام کی دعوت قبول کرنے والے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ ہم جنگ سے ہاتھ اٹھائیں اور وہ اللہ سبحانہ کی کتاب پر سمجھوتہ کے لیے پھر گئے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ ان کی بات مان لی جائے اور ان کی گلوخلاصی کی جائے۔ تو میں نے تم سے کہا تھا کہ اس چیز کے باہر ایمان اور اندر کیسہ و عناد ہے۔ اس کی ابتداء شفقت و مہربانی اور نتیجہ ندامت و پیشہ مانی ہے۔ لہذا تم اپنے رویہ پر پھرے رہو، اپنی راہ پر مضبوطی سے جنم رہو اور جہاد کے لئے اپنے دانتوں کو صحیح لو اور اس چلانے والے کی طرف وصلیان نہ دو کہ اگر اس کی آواز پر بلیک کبی گئی تو یہ گمراہ کرے گا اور اگر اس سے یونہی رہنے دیا جائے تو ذیل ہو کر رہ جائے گا، لیکن جب تحکیم کی صورت انجام پائی تو میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم ہی اس پر رضا مندی دینے والے تھے۔ اللہ کی قسم! اگر میں نے اس سے انکار کر دیا ہوتا تو مجھ پر اس کا کوئی فریضہ واجب نہ ہوتا اور نہ اللہ مجھ پر اس کے ترک کا گناہ عائد کرتا اور اللہ کی قسم! اگر میں اس کی طرف بڑھا تو اس صورت میں بھی میں ہی وہ حق پرست ہوں جس کی پیروی کی جانا چاہئے اور کتاب اللہ میرے ساتھ ہے اور جب سے میرا اس کا ساتھ ہوا ہے میں اس سے الگ نہیں ہوا۔ ہم جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور قتل ہونے والے وہی تھے جو ایک دوسرے کے باپ، بیٹے، بھائی اور رشتہ دار ہوتے تھے، لیکن ہر مصیبت اور سختی میں ہمارا ایمان بڑھتا تھا اور حق کی پیروی اور دین کی اطاعت میں زیادتی ہوتی تھی اور زخمیوں کی ٹیکیوں پر صبر میں اضافہ ہوتا تھا، مگر اب ہم کو ان لوگوں سے کہ جو اسلام کی رو سے ہمارے بھائی کھلا تے ہیں جنگ کرنا پڑ گئی ہے، چونکہ ان کی وجہ سے اس میں گمراہی، بھی، شہادت اور غلط ملطتا و یلات داخل ہو گئی ہیں تو جب ہمیں کوئی ایسا ذریعہ نظر آئے کہ جس سے ممکن ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے اور اس کی وجہ سے ہمارے درمیان جوباتی ماندہ لگاؤ رہ گیا ہے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے قریب ہوں تو ہم اسی کے خواہشمند ہیں گے اور کسی دوسری صورت سے جو اس کے خلاف ہو ہاتھ روک لیں گے۔“

### باعزت موت اور اس کا حصول:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کے وقت اپنے ساتھیوں سے فرمایا:

”جنگ و پیکار کے وقت تم میں سے جو شخص اپنے اندر قوت قلب (دلیری) محسوس کرتا ہے اور اپنے کسی بھائی میں خوف و ترس مشاہدہ کرتا ہے تو اس برتری اور دلیری کے سبب جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے دشمن کو اپنے بھائی سے دفع کرے، جس طور پر کہ خود اپنے اوپر سے دفع کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو اسے بھی اس کے مانند شجاع و بیباک بنادے گا۔ (یاد رکھو) کہ موت وہ طالب تیز کار ہے کہ دلیری سے میدان جنگ میں کھڑا ہوا شخص بھی اس کے پیچے سے نجٹ نہیں سکتا اور جو اس سے گریزاں ہوؤہ اسے عاجز و ناتوان

نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو! باعزت موت (راہِ الہی میں) قتل ہو جانا ہے۔ اس ہستی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں پسرا بطالب کی جان ہے کہ مجھ پر تواریکی ہزار چوتھیں بستر پر (ایڑیاں رگڑ کے) مر جانے سے زیادہ بہتر ہیں۔“

### طریق جنگ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کو جنگ پر آمادہ کرتے ہوئے فرمایا:

”زرہ پوش افراد کو آگے بڑھاؤ اور بغیر زرہ لوگوں کو پیچھے رکھو۔ دانتوں کو ٹھیک لوکہ اس سے تکواریں سرے اچھت جاتی ہیں اور نیزوں کے اطراف سے پہلوؤں کو بچائے رکھو کہ اس سے نیزوں کے رُخ پلٹ جاتے ہیں۔ نگاہوں کو نیچار کھو کہ اس سے قوت قلب میں اضافہ ہوتا ہے اور حوصلے بلند رہتے ہیں۔ آوازیں دھیکی رکھو کہ اس سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ دیکھو! اپنے پرچم کا خیال رکھنا۔ وہ نہ چکنے پائے اور نہ اکیلا رہنے پائے۔ اسے صرف بہادر افراد اور عزت کے پاسانوں کے ہاتھ میں رکھنا کہ مصائب پر ہمہ کرنے والے ہی پرچموں کے گرد جمع ہوتے ہیں اور دانہ بائیں، آگے پیچھے ہر طرف سے گھیرا ذال کراس کا تحفظ کرتے ہیں۔ نہ اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ اسے دشمنوں کے حوالے کر دیں اور نہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ تنہ رہ جائے۔ دیکھو! ہر شخص اپنے مقابل کا خود مقابلہ کرے اور اپنے بھائی کا بھی ساتھ دے اور خبردار! اپنے مقابل کو اپنے ساتھی کے حوالہ نہ کر دینا کہ اس پر یہ اور اس کا ساتھی دونوں مل کر حملہ کروں۔ اللہ کی قسم! اگر تم دنیا کی تواریخ سے نج کر بھاگ بھی لکھے تو آخرت کی تواریخ سے نج کرنہیں چاہکے ہو۔ پھر تم تو عرب کے جوانمرد اور سر بلند افراد ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ فرار میں اللہ کا غصب بھی ہے اور ہمیشہ کی ذلت بھی۔ فرار ہونے والا شہ اپنی عمر میں اضافہ کر سکتا ہے اور نہ اپنے وقت کے درمیان حائل ہو سکتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی طرف یوں جائے جس طرح پیاساپانی کی طرف جاتا ہے۔ جنت نیزوں کے اطراف کے سایہ میں ہے۔ آج ہر ایک کے حالات کا امتحان ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم! مجھے دشمنوں سے جنگ کا اشتیاق اس سے زیادہ ہے جتنا انہیں اپنے گھروں کا اشتیاق ہے۔ اے اللہ! یہ ظالم اگر حق کو رد کر دیں تو ان کی جماعت کو پر اگنده کر دے، ان کے کلمہ کو متحذہ ہونے دے، ان کو ان کے کئے کی سزا دیدے کہ یہ اس وقت تک اپنے موقف سے نہ ہیں گے جب تک نیزے ان کے جسموں میں نیم سحر کے راستے نہ بنادیں اور تکواریں ان کے سروں کو شکستہ ہڈیوں کو چور چور اور ہاتھ پیر کو شکستہ نہ بنادیں اور جب تک ان پر لشکر کے بعد لشکر اور سپاہ کے بعد سپاہ حملہ آور نہ ہو جائیں اور ان کے شہروں پر مسلسل فوجوں کی یلغار نہ ہو اور گھوڑے نے ان کی زمینوں کو آخر تک روشنہ ڈالیں اور ان کی چڑا گاہوں اور سبزہ زاروں کو پامال نہ کر دیں۔“

### کتاب اللہ کا فیصلہ:

یہ خطبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج سے ارشاد فرمایا جبکہ انہوں نے تھیکیم رجال سے انکار کیا اور آپ کے

ساتھیوں کی نہ مت کی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”ہم نے لوگوں کو حکم نہیں بنایا تھا، ہم نے قرآن کو حکم بنایا تھا اور یہ قرآن ایک تحریر ہے کہ جلد کی روشنیوں کے درمیان مرقوم ہے، چونکہ یہ بول نہیں سکتی، لہذا اس کے لیے ترجمان لازم ہے (کہ اس کا مفہوم بیان کر سکے) بلاشبہ لوگ اسی کو سامنے رکھ کر بات کر سکتے ہیں چونکہ اہل شام نے چاہا کہ ہم قرآن کو حکم قرار دیں تو ہم نے ان کی درخواست قبول کر لی، کیونکہ ہم ان لوگوں میں نہیں تھے جو کتاب اللہ سے روگردانی کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے: اگر تمہارے مابین کسی بات پر جھگڑا ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔ پس نزارع و دشمنی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس کی کتاب کا حکم مانیں اور رسول کی جانب رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت رسول کو پیش نظر رکھیں۔ پس اگر کتاب الہی سے سچائی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے تو ہم بہ نسبت دوسروں کے اس کے زیادہ سزاوار ہیں۔ اگر سنت رسول کو پیش نظر رکھ کر حکم دیا جائے تو اس پر عمل کرنے میں سب سے زیادہ اولی ہم ہی ہیں۔ رہا تمہارا یہ قول کہ آپ نے اپنے اور ان کے مابین تھکیم میں مهلت کیوں دی؟ تو میں نے مهلت اس لیے دی کہ جاہل تحقیق کرے اور عالم ثابت قدم ہو جائے اور شاید اس امت کے معاملات مثار کہ جنگ سے درست کر دے اور ان پر کوئی سختی نہ کرنا پڑے تاکہ حق کو پہچانے میں جلدی کر کے انہیں گمراہی کے سامنے سرنگوں نہ کر دیا جائے، خوب ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اور ضد یا غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ بلاشبہ اللہ کے نزدیک صاحب عزت آدمی وہ ہے جو عمل حق کو باطل کے مقابلہ میں زیادہ دوست رکھتا ہے، اگرچہ حق پر چلنے سے اسے نقصان کیوں نہ پہنچ جائے، اسے غم و اندوہ سے پالا ہی کیوں نہ پڑے اور اگرچہ باطل سے اسے نفع ہی کیوں نہ ہو بہرہ مندی کیوں نہ حاصل ہو۔ پس تم کیوں حیران و سرگشته ہو اور یہ بلا قسم پر کہاں سے آگئی ہے کہ اس گروہ سے جنگ کرنے میں سستی کر رہے ہو۔ جو حق سے دور ہو کر حیران و سرگشته ہو رہا ہے اور ظلم و جور کا یوں خوگر ہو چکا ہے کہ اس سے منہ نہیں موزتا جو کتاب الہی سے دور اور راہ حق سے نفور ہے (پھر کتنے افسوس کا مقام ہے کہ) تم میں وہ شان اعتماد نہیں کہ تم پر بھروسہ کر سکوں، نہ یاران باوفا میں ہو کہ (پریشانی میں) امید ہمراہی رکھوں۔ تم آتش جنگ کو بھڑکانے میں بہت برے ہو۔ افسوس! ہے تم پر! تمہارے سبب سے میں سختی میں بھلا ہوں، کبھی میں تمہیں نصرت دین کے لیے پکارتا ہوں، کبھی میں تم سے دشمن سے لڑنے کے لیے سرگوشی کرتا ہوں، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ نہ پکار کے وقت کھرے دوست ثابت ہوئے اور نہ سرگوشی کے وقت بھروسہ کے قابل بھائی۔“

### احکام دین اور خوارج کے شبہات:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے خوارج سے فرمایا:

”اگر تمہارا اصرار اسی بات پر ہے کہ مجھے خطا کار اور گمراہ قرار دو تو ساری امت پیغمبر کو کیوں خطا کار

قرار دے رہے ہو؟ اور میری "غلطی" کا مواخذہ ان سے کیوں کر رہے ہو؟ اور میرے "گناہ" کی بنا پر انہیں کیوں کافر قرار دے رہے ہو؟ تمہاری تلواریں تمہارے کندھوں پر رکھی ہوئی ہیں، جہاں چاہتے ہو خطاؤ بے خطأ چلا دیتے ہو اور گنہگار اور بے گناہ میں کوئی فرق نہیں کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والے مجرم کو سنگسار کیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی تھی اور اس کے اہل کو وارث بھی قرار دیا تھا اور اسی طرح قاتل کو قتل کیا تو اس کی میراث بھی تقسیم کی اور چور کے ہاتھ کا ٹیا غیر شادی شدہ زنا کار کو کوڑے لگوانے تو انہیں مال غنیمت میں حصہ بھی دیا اور ان کا مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کرایا گویا کہ آپ نے ان کے گناہوں کا مواخذہ کیا اور ان کے بارے میں حق اللہ کو قائم کیا لیکن اسلام میں ان کے حصہ کو نہیں روکا اور نہ ان کے نام کو اہل اسلام کی فہرست سے خارج کیا۔ مگر تم بدترین افراد ہو کہ شیطان تمہارے ذریعہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتا ہے اور تمہیں صحراۓ ضلالت میں ڈال دیتا ہے۔ غنقریب میرے بارے میں دو طرح کے افراد گمراہ ہوں گے۔ محبت میں غلوکرنے والے جنہیں محبت غیر حق کی طرف لے جائے گی اور عداوت میں زیادتی کرنے والے جنہیں عداوت باطل کی طرف کھیچ لے جائے گی۔ بہترین افراد وہ ہوں گے جو درمیانی منزل پر ہوں۔ لہذا تم بھی اسی راستے کو اختیار کرو اور اسی نظریہ کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ کہ اللہ کا ہاتھ اسی جماعت کے ساتھ ہے اور خبردار! تفرقہ کی کوشش نہ کرنا کہ جو ایمانی جماعت سے کٹ جاتا ہے وہ اسی طرح شیطان کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح گلمے سے الگ ہو جانے والی بھیڑ بھیڑیے کی نذر ہو جاتی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی اس انحراف کا نعرہ لگائے اسے قتل کر دو! چاہے وہ میرے ہی عمامہ کے نیچے کیوں نہ ہو۔ ان دونوں افراد (حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص) کو حکم بنایا گیا تھا تاکہ ان امور کو زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے اور ان امور کو مردہ بنادیں جنہیں قرآن نے مردہ بنادیا ہے اور زندہ کرنے کے معنی اس پر اتفاق کرنے اور مردہ بنانے کے معنی اس سے الگ ہو جانے کے ہیں۔ ہم اس بات پر تیار تھے کہ اگر قرآن ہمیں دشمن کی طرف کھیچ لے جائے گا تو ہم ان کا اتباع کر لیں گے اور اگر انہیں ہماری طرف لے آئے گا تو انہیں آنا پڑے گا لیکن اللہ تمہارا برا کرے اس بات میں میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا اور نہ تمہیں کوئی دھوکا دیا ہے اور نہ کسی بات کو شبہ میں رکھا ہے، لیکن تمہاری جماعت نے دو آدمیوں کے انتخاب پر اتفاق کر لیا اور میں نے ان پر شرط لگادی کہ قرآن کے حدود سے تجاوز نہیں کریں گے؟

### مختلف فتنہ پرور لغکر:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کے اندر برپا ہونے والے ہنگاموں کا تذکرہ کر رہے ہوئے فرمایا:

"اے اخف! میں اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک اپنے لغکر کو یہ کہ بڑھو ہا ہے کہ جس میں نہ گرد و غبار ہے، نہ شور و غوغائے لگاموں کی کھڑکھڑا ہت ہے اور نہ گھوڑوں کے ہنہٹانے کی آواز۔

وہ لوگ زمین کو اپنے پیروں سے جو شتر مرغ کے پیروں کے مانند ہیں روند رہے ہوں گے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں سے کہ جن کے قتل ہو جانے والوں پر نہیں کیا جاتا اور گم ہونے والوں کو ڈھونڈھا نہیں جاتا تھا تھاری آن آباد گلیوں اور بجے سجائے مکانوں کے لیے تباہی ہے کہ جن کے چھبے گدوں کے پروں اور ہاتھیوں کی سوٹوں کے مانند ہیں۔ میں دنیا کو اوندھے منہ گرانے والا اور اس کی بساط کا صحیح اندازہ رکھنے والا اور اس کے لائق حال تھا ہوں سے دیکھنے والا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے چہرے ان ڈھالوں کی طرح ہیں کہ جن پر چڑے کی تمہیں ہندی ہوئی ہوں، وہ ابریشم دیبا کے کپڑے پہنچتے ہیں اور حیل گھوڑوں کو عزیز رکھتے ہیں اور وہاں کشت و خون کی گرم بازاری ہوگی۔ یہاں تک کہ زخمی کشتوں کے اوپر سے ہو کر گزریں گے اور نجع کر بھاگ نکلنے والے اسیر ہونیوالوں سے کم ہوں گے۔ اس موقع پر آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے جو قبیلہ بنی کلب سے تھا، عرض کیا: یا امیر المؤمنین! آپ کو علم غیب حاصل ہے۔ اس پر آپ نے اور فرمایا: اے برادر کلبی! یہ علم غیب نہیں بلکہ ایک صاحب علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں۔ علم غیب تو قیامت کی گھڑی اور ان چیزوں کے جانے کا نام ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ نے ان اللہ عنده علم الساعة والی آیت میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ اللہ ہی جانتا ہے کہ شکموں میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، بد صورت ہے یا خوبصورت، سخی ہے یا بخیل، بد بخت ہے یا خوش نصیب اور کون جہنم کا ایندھن ہوگا اور کون جنت میں نبیوں کا رفیق ہوگا۔ یہ وہ علم غیب ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جافتا۔ رہا دوسرا چیزوں کا علم تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا اور میرے لیے دعا فرمائی کہ میرا سینہ انہیں محفوظ رکھتے اور میری پسلیاں انہیں سمیٹے رہیں۔

### حضرت ابوذر غفاری سے خطاب:

جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ربڑہ کی طرف جلاوطن کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”اے ابوذر! تم اللہ کے لیے غصب ناک ہوئے ہو تو پھر جس کی خاطر یہ تمام غم و غصہ ہے اسی سے امید بھی رکھو۔ ان لوگوں کو تم سے اپنی دنیا کے متعلق خطرہ ہے اور تمہیں ان سے اپنے دین کے متعلق اندیشہ ہے۔ لہذا جس چیز کے لیے انہیں تم سے کھکا ہے وہ انہیں کے ہاتھ میں چھوڑو اور جس شے کے لیے تمہیں ان سے اندیشہ ہے اسے لے کر ان سے بھاگ نکلو۔ جس چیز سے تم انہیں محروم کر کے جا رہے ہو کاش کہ وہ سمجھتے کہ وہ اس کے کتنے حاجتمند ہیں اور جس چیز کو انہوں نے تم سے روک لیا ہے اس سے تم بہت ہی بے نیاز ہو اور جلد ہی تم جان لو گے کہ کل فائدہ میں رہنے والا کون ہے اور کس پر حسد کرنے والے زیادہ ہیں۔ اگر یہ آسمان و زمین کسی عہدے پر بند پڑے ہوں اور وہ اللہ سے ڈرے تو وہ اس کے لیے زمین و آسمان کی راہیں کھول دے گا۔ تمہیں صرف حق سے دلچسپی ہونا چاہئے اور صرف باطل ہی سے گھبراانا چاہئے۔ اگر تم

ان کی دنیا قبول کر لیتے تو وہ تمہیں چاہنے لگتے اور تم اس میں کوئی حصہ اپنے لیے مقرر کر لیتے تو وہ تم سے مطمئن ہو جاتے۔

### مقدار خلافت:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اے زنگارِ نگ مزانِ حج اوز پر انگندی و پریشانِ دل رکھنے والا جن کے جسم حاضر اور عقل میں غائب ہیں، میں تمہیں حق کے راستے پر لے چلنا چاہتا ہوں، لیکن تم اس سے یوں بھاگتے ہو، جس طرح کمری شیر کی دھاڑ سن کر بھاگتی ہے۔ کس قدر مشکل ہے یہ کام کہ تمہاری کمک سے عدل پہاں کو آشکار کروں اور حق کو راست کر دوں۔ اے اللہ! تو آگاہ ہے کہ جو کچھ ہم نے تبلیغ کا کام کیا وہ اس لیے نہ تھا کہ ہم سلطنت و خلافت کی طرف میل و رغبت رکھتے تھے نہ اس لیے تھا کہ متاع دنیا سے ہم کچھ حاصل کرتے، بلکہ صرف اس لیے تھا کہ تیرے دین کے آثار میں (جو تغیر ہو گیا تھا ہم نے چاہا کہ) اسے واپس لا میں اور تیرے شہروں میں اصلاح و آسانی کو برقرار کر دیں تا کہ تیرے ستم کشیدہ بندے امن و آسودگی حاصل کر لیں اور تیرے احکام جو ضائع کیے جا رہے تھے پھر جاری ہو جائیں۔ اے اللہ! میں وہ سب سے پہلا شخص ہوں جس نے حق کی طرف رجوع کیا، حق کی دعوت سنی اور حق کی صد اپر لبیک کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے مجھ سے پہلے نماز نہیں پڑھی۔ تم جانتے ہو کہ وہ شخص ناموس و خون عوام، غنیمت، احکام اسلام اور امامت مسلمین کا نسراً اور نہیں جو بخیل ہو کہ وہ طمع و حرص میں بستا ہو جائے گا، نہ اسے جاہل ہونا چاہئے ورنہ اپنی نادانی سے دوسروں کو گمراہ کر دے گا۔ نہ تغیر ایام سے ذر نے والا ہونا چاہئے ورنہ وہ ایک طاقتو ر گرفہ سے مل کر دوسرے کمزور گروہ کو ذریل و خوار کرے گا۔ نہ اسے رشت لینے والا ہونا چاہئے کہ بال لے کر باطل کو حق کو باطل کر دے، ورنہ حقوق ضائع ہو جائیں گے اور حدود الہی نافذ نہ ہو سکیں گے نہ سنت کا معطل کرنے والا ہونا چاہئے، ورنہ وہ امامت کو ہلاک کر دے گا۔“

### اللہ، رسول، قرآن اور دنیا:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”دنیا و آخرت دونوں نے اپنی باغِ ذورِ اللہ کے حوالہ کر رکھی ہے اور زمین و آسمان نے اپنی کنجیاں اسی کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اس کی پارگاہ میں صبح و شام سر بزر و شاداب درخت سجدہ دری رہتے ہیں اور اپنی لکڑیوں سے چمکدار آگ لکاتے رہتے ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق پکے ہوئے پھل پیش کرتے رہتے ہیں۔ کتاب اللہ نگاہ کے سامنے ہے۔ یہ وہ ناطق ہے جس کی زبان عاجز نہیں ہوتی ہے اور یہ وہ گھر ہے جس کے ارکان متحدم نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وہ عزت ہے جس کے اعلان و انصار بخکست خورد نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب رسولوں کا سلسہ رکا ہوا تھا اور زپا نہیں آپس

میں مکرار ہی تھیں۔ آپ کی ذریعہ رسولوں کے سلسلہ کو تمام کیا اور وحی کے سلسلہ کو متوقف کیا تو آپ نے بھی اس سے انحراف کرنے والوں اور اس کا ہمسر خبرانے والوں سے جم کر جہاد کیا۔ یہ دنیا اندھے کی بصارت کی آخری منزل ہے جو اس کے ماوراء کچھ نہیں دیکھتا ہے، جب کہ صاحب بصیرت کی نگاہ اُس پار نکل جاتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ منزل اس کے ماوراء ہے۔ صاحب بصیرت اس سے کوچ کرنے والا ہے اور انہوں نے اس کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ بصیر اس سے زادراہ فراہم کرنے والا ہے اور انہوں نے اس کے لیے زادراہ اکٹھا کرنے والا ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا میں جو شے بھی ہے اس کا مالک سیر ہو جاتا ہے اور اُکتا جاتا ہے علاوہ زندگی کے کوئی شخص موت میں راحت نہیں محسوس کرتا اور یہ بات اس حکمت کی طرح ہے جس میں مردہ دلوں کی زندگی، اندھی آنکھوں کی بصارت، بہرے کا نوں کی ساعت اور پیاسے کی سیرابی کا سامان ہے اور اسی میں ساری مالداری ہے اور مکمل سلامتی ہے۔ یہ کتاب اللہ ہے جس میں تمہاری بصارت اور ساعت کا سارا سامان موجود ہے۔ اس میں ایک حصہ دوسرے کی وضاحت کرتا ہے اور ایک دوسرے کی گواہی دیتا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں اختلاف نہیں رکھتا ہے اور اپنے ساتھی کو اللہ سے الگ نہیں کرتا ہے۔ مگر تم نے آپس میں کینہ وحد پر اتفاق کر لیا ہے اور اسی گھورے پر بزرہ اُگ آیا ہے۔ امیدوں کی محبت میں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو اور مال جمع کرنے میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ شیطان نے تمہیں سرگردان کر دیا ہے اور فریب نے تم کو بہکا دیا ہے۔ اب اللہ ہی میرے اور تمہارے نفسوں کے مقابلہ میں ایک سہارا ہے۔“

### چشمہ حق:

حضرت علیؐ رضی اللہ عنہ نے بیت کے بارے میں فرمایا:

”میرے ہاتھوں پر تمہاری بیعت کوئی ناگہانی حادث نہیں ہے اور میرا اور تمہارا معاملہ ایک جیسا بھی نہیں ہے۔ میں تمہیں اللہ کے لئے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے فائدہ کے لئے چاہتے ہو۔ لوگو! اپنی نفسانی خواہشات کے مقابلہ میں میری مدد کرو۔ اللہ کی قسم! میں مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا اور ظالم کو اس کی ناک میں نکیل ڈال کر کھینچوں گا تاکہ ایک چشمہ حق پر دار دکر دوں، چاہے وہ کسی قدر ناراض کیوں نہ ہو۔“

### بد کوئی وغیبت:

حضرت علیؐ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی بد کوئی اور غیبت سے روکتے ہوئے فرمایا:

”جو لوگ معاصلی سے دور ہیں گناہ کے مرتكب نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں گناہوں سے پرہیز کی نعمت بخشی ہے ان کے لیے سزاوار یہ ہے کہ ان لوگوں پر جو گناہ گار ہیں اور جن کا شمار اہل ذنب و معصیت میں ہے ان پر حکم کریں، ان کی غیبت نہ کریں، ان پر بہتان نہ باندھیں بلکہ مناسب طریقے سے انہیں راہ

ہدایت کی طرف مائل کریں۔ شکر و سپاس گزاری ان پر غالب رہے یعنی اس امر کا شکر کرو وہ خود گناہ نہیں کرتے اور اس امر کی سپاس گزاری کہ دوسرے گناہ گاروں کی غیبت نہیں کرتے۔ وہ عیب چیز جو اپنے بھائی کی نذمت کرتا ہے، کیا یہ ان گناہ گاروں کی غیبت کرتا ہے جن سے بڑھ کر اس نے خود گناہ کئے اور اللہ نے ان کی پردہ پوشی فرمائی؟ اور یہ اپنے بھائی کے پیٹھے پیچھے کیسے اس کی نذمت کرتا ہے، حالانکہ خود بھی اس کشتمی کا سوار ہے۔ ویسے ہی گناہ کا مرتكب نہیں ہے تو ایک دوسرے گناہ (غیبت) کا ارتکاب کر رہا ہے جو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ اللہ کی قسم! اگر گناہ بکیرہ کا ارتکاب نہیں کیا اور گناہ صغیرہ سرزد ہوا ہے تو بھی ہر آئینہ عیب جوی (غیبت) کی جارت گرتا؛ اس گناہ سے بزرگ تر ہے! اے اللہ کے بندے! کسی کے گناہ کے باعث اس کی عیب چینی نہ کرنا۔ شاید! توبہ و انبات واستغفار اس نے کر لیا ہو اور اللہ نے اس کے گناہ کو بخش دیا ہو۔ تو اپنے نفس سے گناہ صغیرہ پر بھی آسودہ و بے خوف نہ رہ! چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو اور اسے چشم تقارت سے نہ دیکھ۔ ممکن ہے اس کے باعث تو گرفتاذاب ہو جائے اور تم میں سے جو شخص کسی کے عیب سے واقف ہے اسے چاہئے کہ اپنے عیوب کو پیش نظر رکھے، اس کی غیبت سے باز رہے اور اللہ کا شکر کرے کہ اس نے اس گناہ سے بچایا جس میں دوسرا بعتلا ہے۔

### قطosalی کے وقت:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے طلب باراں کے سلسلہ میں فرمایا:

”دیکھو یہ زمین جو تمہیں اٹھائے ہوئے ہے اور یہ آسمان جو تم پر سایہ کرتا ہے دونوں تمہارے پروردگار کے زیر فرمان ہیں۔ یہ اپنی برکتوں سے اس لیے تمہیں مالا مال نہیں کرتے کہ ان کا اول تم پر کڑھتا ہے یا تمہارا تقرب چاہتے ہیں یا کسی بھلائی کے تم سے امیدوار ہیں، بلکہ یہ تو تمہاری منفعت رسائی پر ماہور ہیں جسے بجالاتے ہیں اور تمہاری مصلحتوں کی حدود پر انہیں ٹھہرایا گیا ہے چنانچہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ البتہ اللہ سبحانہ بندوں کو ان کی بد اعمالیوں کے وقت پھلوں کے کم کرنے، برکتوں کے روک لینے اور العامت کے خزانوں کے بند کر دینے سے آزماتا ہے تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کرے، انکار و سرکشی سے باز آنے والا باز آجائے، نصیحت و عبرت حاصل کرنے والا نصیحت و بصیرت حاصل کرنے اور گناہوں سے رکنے والا رک جائے۔ اللہ سبحانہ نے توبہ و استغفار کو روزی کے اتر نے کا سبب اور خلق پر حرم کھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کا ارشاد ہے کہ اپنے پروردگار سے توبہ و استغفار کرو۔ بلاشبہ وہ بہت سمجھنے والا ہے۔ وہی تم پر موسلا دھار میںہ بر ساتا ہے اور مال و اولاد سے تمہیں سہارا دیتا ہے۔ اللہ اس شخص پر حرم کرے جو توبہ کی طرف متوجہ ہو اور گناہوں سے ہاتھ اٹھانے اور موت سے پہلے نیک اعمال کرے۔ بارا اللہ! تیری رحمت کی خواہش کرتے ہوئے اور نعمتوں کی فراؤانی چاہتے ہوئے اور تیرے عذاب و غضب سے ڈرتے ہوئے ہم پردوں اور گھروں کے گوشوں سے تیری طرف نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت جب کہ چوپائے چیخ

رہے ہیں اور پچے چلا رہے ہیں۔ اے اللہ! ہمیں بارش سے سیراب کر دے اور ہمیں مایوس نہ کر اور خشک سالی ہمیں ہلاک نہ ہونے دے اور ہم میں سے کچھ بے وقوفون کے کرتوت پر ہمیں اپنی گرفت میں نہ لے۔ اے رحم کرنے والوں میں بہت رحم کرنے والے! جب ہمیں سخت تنگیوں نے مضطرب و بے چین کر دیا اور خط سالیوں نے بے بس بنادیا اور شدید حاجتمندوں نے لاچار بناؤالا اور منہ زور فتوں کا ہم پر تاثتا بندھ گیا تو ہم تیری طرف نکل پڑے ہیں گلے کراس کا جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اے اللہ! ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں محروم نہ پلتا اور نہ اس طرح کہ ہم اپنے نفسوں پر چیخ و تاب کھار ہے ہوں اور ہمارے گناہوں کی بنا پر ہم سے عتاب آمیز خطاب نہ کر اور ہمارے کئے کے مطابق ہم سے سلوک نہ کر۔ اے اللہ! تو ہم پر پار ان و برکت اور رزق و رحمت کا دامن پھیلا دے اور ایسی سیرابی سے ہمیں نہال کر دے جو فائدہ بخشے والیا اور سیراب کرنے والی اور گھاس پاتا گانے والی ہو کہ جس سے تو گئی گزری ہوئی کھیتیوں میں پھر سے روئیدگی لے آئے اور مردہ زمینوں میں حیات کی لہریں دوڑا دے۔ وہ ایسی سیرابی ہو کہ جس کی تروتازگی سرتاسر فائدہ مند اور پختے ہوئے چلوں کے انبار لیے ہو جس سے تو ہموار زمینوں کو جل تخل بنا دے اور ندی نالے بہادے اور درختوں کو برگ و بار سے سر بز کر دے اور ناخوں کو ستا کر دے۔ بلاشبہ تو جو چاہے اس پر قادر ہے۔“

### ہمال جس کی تعریف کریں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”یاد رکھو! غیر مسخن کے ساتھ احسان کرنے والے اور نااہل کے ساتھ نیکی کرنے والے کے حصہ میں کہیں لوگوں کی تعریف اور بدترین افراد کی مدح و شناہی آتی ہے اور وہ جب تک کرم کرتا رہتا ہے جہاں کہتے رہتے ہیں کہ کس قدر کریم اور سخنی ہے یہ شخص حالانکہ اللہ کے معاملہ میں یہی شخص بخیل بھی ہوتا ہے۔ دیکھو! اگر اللہ کسی شخص کو مال دے تو اس کا فرض ہے کہ قرابتداروں کا خیال رکھے، مہمان نوازی کرے، قیدیوں اور خستہ حالوں کو آزاد کرائے، فقیروں اور قرضاہوں کی امداد کرے، اپنے نفس کو حقوق کی ادائیگی اور مصالح پر آمادہ کرے کہ اس میں ثواب کی امید پائی جاتی ہے اور ان تمام خصلتوں کے حاصل کرنے والی میں دنیا کی شرافتیں اور کرامتیں ہیں اور انہیں سے آخرت کے فضائل بھی حاصل ہوتے ہیں۔ انشاء اللہ!“

### سلطنت میں حاکم کی حیثیت:

جب حضرت عمر ابن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا:

”اس امر میں کامیابی و ناکامیابی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا۔ یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے

سب دینوں پر غالب رکھا ہے اور اسی کا شکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پہلی کراپنے موجودہ پھیلا و پر آگیا ہے۔ ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدہ کو پورا کرے گا اور اپنے شکر کی خود ہی مدد کرے گا۔ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی جوانہیں سمیٹ کر رکھتا ہے۔ جب ڈوراٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمجھ نہ سکیں گے۔ آج عرب والے اگر چہ کتنی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد بنا ہی کے سب سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں۔ آپ اپنے مقام پر کھوٹی کی طرح جسے رہیں اور عرب کاظم نقی برقرار رکھیں اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دیں۔ اس لیے کہ اگر تم نے اس سر زمین کو چھوڑا تو عرب اطراف و جواب سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ کر گئے ہو۔ کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے تو آپس میں یہ کہیں گے کہ یہ ہے سردار عرب! اگر تم نے اس کا قلع قلع کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے تو اس کی وجہ سے ان کی حرث و طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی، لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللدان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا بحث ہے اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بد لئے اور روکنے پر بہت قدرت رکھتا ہے اور ان کی تعداد کے متعلق جو کہتے ہو کہ وہ بہت ہیں تو ہم سابق میں کثرت کے مل بوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی تائید و نصرت کے سہارے پر۔“

### نمود دنیا و بدعت:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”لوگو! تم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہو جہاں موت کے تیروں کے مستقل ہدف ہو۔ یہاں ہر گھونٹ کے ساتھ اچھو ہے اور ہر لمحہ کے ساتھ گلے کا پھنڈہ۔ یہاں کوئی نعمت اس وقت تک نہیں ملتی ہے جب تک دوسری ہاتھ سے نکلنہ جائے اور یہاں کی زندگی میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں ہوتا ہے جب تک ایک دن کم نہ ہو جائے۔ یہاں کے کھانے میں زیادتی بھی پہلے رزق کے خاتمه کے بعد ہاتھ آتی ہے اور کوئی اثر بھی پہلے نشان کے مٹ جانے کے بعد ہی زندہ ہوتا ہے۔ ہر جدید کے لئے ایک جدید کو قدیم بنانا پڑتا ہے اور ہر گھاس کے اگانے کے لئے ایک کھیت کو کاشا پڑتا ہے۔ پرانے بزرگ جو ہماری اصل تھے گزر گئے اب ہم ان کی شاخیں ہیں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اصل کے چلے جانے کے بعد فرع کی بقا ہی کیا ہوتی ہے۔؟ کوئی بدعت اس وقت تک ایجاد نہیں ہوتی ہے جب تک کوئی سنت مردہ جائے۔ لہذا بدعتوں سے ڈر اور سیدھے راستہ پر قائم رہو کہ مخلکم ترین معاملات ہی بہتر ہوتے ہیں اور دین میں جدید ایجادات ہی بدترین شے ہوتی ہے۔“

## وقت وصال نصائح:

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے وصال سے پہلے فرمایا:

”اوے لوگو! ہر شخص اسی چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کئے ہوئے ہے اور جمال زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے، وہی حیات کی منزل ملتہا ہے اور موت سے بھاگنا سے پالیتا ہے۔ میں نے اس موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا ہی زمانہ گزارا مگر مشیت ایز دی یہی رہی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں۔ اس کی منزل تک رسائی کہاں وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے۔ وہاں میری وصیت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ضائع و بر باد نہ کرو۔ ان دونوں ستونوں کو قائم و برقرار رکھو اور ان دونوں چڑاغوں کو روشن کئے رہو۔ جب تک منتشر و پرا گنڈہ نہیں ہوتے تم میں کوئی برائی نہیں آئے گی۔ تم میں سے ہر شخص اپنی وسعت بھر بوجھا اٹھائے۔ نہ جانے والوں کا بوجھ بھی ہلاکار کھا گیا ہے کیونکہ اللہ رحم کرنے والا ہے، دین سیدھا ہے کہ جس میں کوئی الجھاؤ نہیں اور پیغمبر عالم و دانا ہے۔ میں کل تمہارا ساتھی تھا اور آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا۔ اللہ مجھے اور تمہیں مغفرت عطا کرے۔ اگر اس چھسلنے کی جگہ پر قدم چھیرے ہے تو خیر اور اگر قدموں کا جماؤ اکھڑ گیا تو ہم بھی انہی گھنی شاخوں کی چھاؤں، ہوا کی گزر گا ہوں اور چھائے ہوئے ابر کے سایوں میں تھے لیکن اس کے تھے بہ تھے جھے ہوئے لکھ چھٹ گئے اور ہوا کے نشانات مت مٹا گئے۔ میں تمہارا ہمایہ تھا کہ میرا جسم چند دن تمہارے پڑوں میں رہا اور میرے مرنے کے بعد مجھے جسد بے روح پاؤ گے کہ جو حرکت کرنے کے بعد تھم گیا اور بولنے کے بعد خاموش ہو گیا تاکہ میرا یہ سکون اور ٹھہراو اور آنکھوں کا مندھ جاتا اور ہاتھ دیپروں کا بے جس و حرکت ہو جاتا تھیں پند و فیحث کرے، کیونکہ عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ منظر بلخ کلمبوں اور کان میں پڑنے والی بالتوں سے زیادہ موعظت و عبرت دلانے والا ہوتا ہے۔ میں تم سے اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشم براہ ہو۔ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آجائیں گی اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسروں کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزلت کی پہچان ہو گی۔“

## گمراہی کا سبب:

حضرت علیٰ المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اہل بصرہ کے بارے میں فرمایا:

”دیکھو باغی گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے تو اللہ کی راہ میں کام کرنے والے کہاں چلے گئے جب کہ ان کے لئے راستے مقرر کر دیئے گئے ہیں اور انہیں اس کی اطلاع دی جا چکی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ ہر گمراہی کا ایک سبب ہوتا ہے اور ہر عہد ٹکن ایک شبہ ڈھونڈھ لیتا ہے، لیکن میں اس شخص کے مانند نہیں ہو سکتا ہوں جو ماتم کی آواز سنتا ہے، موت کی سنانی کا نوں تک آتی ہے، لوگوں کا گریدہ دیکھتا ہے اور پھر عبرت حاصل نہیں

کرتا۔“

### لاتفاقات ربانی:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو خلق کائنات سے اپنے وجود کا اور پیدا شدہ مخلوقات سے اپنے قدیم و ازلی ہونے کا اور ان کی باہمی شبہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پوتہ دینے والا ہے۔ نہ حواس اسے چھو سکتے ہیں اور نہ پردوے اسے چھپا سکتے ہیں چونکہ بنانے والے اور بننے والے، گھرنے والے اور گھرنے والے، پالنے والے اور پروشوں پانے والے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک ہے لیکن شویسا کہ جو شمار میں آئے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے لیکن نہ اس معنی سے کہ اسے حرکت کرنا اور تعجب اٹھانا پڑے۔ وہ سننے والا ہے لیکن کسی عضو کے ذریعہ سے نہیں اور دیکھنے والا ہے لیکن نہ اس طرح کہ آنکھیں پھیلائے۔ وہ حاضر ہے لیکن نہ اس طرح کہ چھوا جاسکے۔ وہ جدا ہے نہ اس طرح کہ بیج میں فاصلہ کی دوری ہو۔ وہ ظاہر ہے مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ذات پوشیدہ ہے۔ وہ سب چیزوں سے اس لیے علیحدہ ہے کہ وہ ان پر چھایا ہوا ہے اور ان پر اقتدار کرتا ہے۔ تمام چیزیں اس لیے اس سے جدا ہیں کہ وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی اور اس کی طرف پلتئے والی ہیں۔ جس نے ذات کے علاوہ اس کے لیے صفات متجوہ کیں اس نے اس کی حد بندی کر دی اور جس نے اسے محدود دخیال کیا وہ اسے شمار میں آنے والی چیزوں کی قطار میں لے آیا اور جس نے اسے شمار کے قابل سمجھ لیا اس نے اس کی قدامت ہی سے انکار کر دیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کیسا ہے؟ وہ اس کے لیے الگ سے صفتیں ڈھونڈھنے لگا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے اسے کسی جگہ میں محدود سمجھ لیا۔ اس وقت بھی عالم تھا جب کہ معلوم کا وجود نہ تھا اور اس وقت بھی رب تھا جب کہ پروشوں پانے والے نہ تھے اور اس وقت بھی قادر تھا جب کہ یہ زیر قدرت آنے والی مخلوق نہ تھی۔ ابھرنے والا ابھر آیا، چمکنے والا چمک اٹھا اور ظاہر ہونے والا ظاہر ہوا۔ شیر ہے معاملے سیدھے ہو گئے۔ اللہ نے جماعت کو جماعت سے اور زمانہ کو زمانہ سے بدل دیا ہے۔ ہم اس انقلاب کے اس طرح منتظر تھے جس طرح لحطہ زدہ بارش کا منتظر ہوتا ہے۔ بلاشبہ آخر اللہ کے ظہراۓ ہوئے حاکم ہیں اور بندوں کو اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جسے ان کی معرفت ہو اور وہ بھی اسے پہچانیں۔ دوزخ میں وہی ڈالا جائے گا جو نہ انہیں پہچانے اور نہ وہ اسے پہچانیں۔ اللہ نے تمہیں اسلام کے لئے مخصوص کر لیا ہے اور اس کے لیے تمہیں چھانٹ لیا ہے اور یہ اس طرح کہ اسلام سلامتی کا نام اور عزت انسانی کا سرمایہ ہے، اس کی راہ کو اللہ نے تمہارے لئے جتن لیا ہے اور اس کے کھلے ہوئے احکام اور چھپی ہوئی حکتوں سے اس کے دلائل واضح کر دیئے ہیں۔ نہ اس کے عجائبات منٹے والے ہیں اور نہ اس کے لطاائف ختم ہونے والے ہیں۔ اسی میں نعمتوں کی بارشیں اور تاریکیوں کے چراغ ہیں۔ اسی کی کنجیوں سے

نیکوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اسی کے چداغوں سے تیرگیوں کا دامن چاک کیا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کے منوعہ مقامات سے روکا ہے اور اس کی چرائگاہوں میں چرنے کی اجازت دی ہے۔ شفا چاہنے والے کے لیے اس میں شفا اور بے نیازی چاہنے والے کے لیے اس میں بے نیازی ہے۔“

### معاشرتی برائیاں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جن لوگوں کا دامن خطاؤں سے پاک صاف ہے اور لفضل الہی گناہوں سے محفوظ ہیں انہیں چاہئے کہ وہ گناہگاروں اور خطاكاروں پر حرم کریں اور اس چیز کا شکر کریں کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے بچائے رکھا ہے، ان پر غالب اور دوسروں کے عیب اچھائی سے مانع رہے، چہ جائیکہ وہ عیب لگانے والا اپنے کسی بھائی کی پیٹیہ پیچھے برائی کرے اور اس کے عیب بیان کر کے طعن و تشنج کرے۔ یہ آخر اللہ کی اس پر وہ پوشی کو کیوں نہیں یاد کرتا جو اس نے خود اس کے ایسے گناہوں پر کی ہے جو اس گناہ سے بھی جس کی وہ غیبت کر رہا ہے بڑے تھے اور کیونکر کسی ایسے گناہ کی بنا پر اس کی برائی کرتا ہے جب کہ خود بھی ویسے ہی گناہ کا مرتكب ہو چکا ہے اور اگر بعدینہ ویسا گناہ نہیں بھی کیا تو ایسے گناہ کے ہیں کہ جو اس سے بھی بڑھ چڑھ کرتے ہے۔ اللہ کی قسم! اگر اس نے گناہ کبیرہ نہیں بھی کیا تھا اور صرف صغیرہ کا مرتكب ہوا تھا تو بھی اس کا لوگوں کے عیوب بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ کے بندے! جھٹ سے کسی پر گناہ کا عیوب نہ لگا! شاید اللہ نے وہ بخش دیا ہو اور اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے لیے بھی اطمینان نہ کر شاید کہ اس پر تجھے عذاب ہو۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی کسی دوسرے کے عیوب جانتا ہو اسے ان کے اظہار سے باز رہنا چاہیے اس علم کی وجہ سے جو خود اسے اپنے گناہوں کے متعلق ہے اور اس امر کا شکر کہ اللہ نے اسے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے کہ جن میں دوسرے بتلا ہیں کسی اور طرف سے متوجہ نہ ہونے دے۔

### الف سے خالی خطبہ:

((قال ابن ابی الحدید : وهى خطبة خالية من حرف الالف رواها كثير من الناس له رضى الله عنه قالوا: تذاكر قوم من اصحاب رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلم : ای حروف الحجاجاء ادخل فى الكلام؟ فاجمعوا على الالف، فقال علی رضى الله عنه [مر تجلام من غير سابق فكر ولا تقدم رواية] حمدت من عظمت منه وسبقت نعمته وسبقت غضبه رحمته ، (سبقت رحمته غضبه) و تمت كلمته، ونفذت مشيئته و بلغت فضيئه، حمدته حمد (عبد) مقرب برببيته متخضع لعبوديته متنصل من خطبيته، معترف بتتوحيده مستعينه من وعيده، مومن منه مغفرة تنجيه يوم يشغل عن فضيلته و بينه و نستعينه و نسترشده و نستهديء و نؤمن به و نتوكل عليه ، وشهدت له شهود

مخلص مومن وفردته تفرید مومن متین، وواحثه توحید عبد مذعن (بانہ) لیس له شریک فی ملکه، ولم یکن له ولی فی صنعته، جل عن مشیر وزیر وعن عون و معین و نصیر و نظیر))


”ابن ابی الحدید نے اس خطبہ کے بارے میں کہا کہ یہ خطبہ حرف الف سے خالی ہے اور ہت سے لوگوں نے اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک دن اصحاب رسول کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ کون سے حرف کا کلمات میں سب سے زیادہ کردار ہے؟ سب نے الف کے بارے میں بتایا۔ ان کے درمیان میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فی البدیہہ بغیر الف کے خطبہ پڑھا۔ وہ اس خطبہ کا ترجمہ درج ذیل ہے: میں تعریف کرتا ہوں اس کی جس کا احسان عظیم اور نعمت کامل ہے، اس کی رحمت اور بخشش اس کے غصب اور غصے سے زیادہ ہے اور اس کا کلام مکمل اور کامل ہے اور اس کا ارادہ نافذ ہے۔ میں اللہ کی حمد و شاء اس بندے کی حمد و ثناء کی طرح کرتا ہوں جو اس کی ربویت اور وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور نہایت ہی عاجزی اور انکساری سے اس کی پرستش کرتا ہے اور اس نے اپنے گناہوں سے رہائی پائی ہے اور جو اس کے واحد دیکتا ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کے خوف اور ذر سے اس کی پناہ لیتا ہے اور اس سے بخشش کی امید رکھتا ہے کہ جس دن آدمی اپنے اتراء اور اپنی اولاد سے جدا ہو جائے گا تو اللہ اس کیلئے ما بین جات ہو گا۔ ہم اس سے مدد مانگتے ہیں، ہدایت اور ارشاد کو اس سے طلب کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر توکل کرتے ہیں۔ میں خود اس کی گواہی دیتا ہوں جو اخلاص اور یقین کا مالک ہے، اہل ایمان اور اہل یقین کے اعتقاد کی طرح میں بھی اس کو واحد اور دیکتا مانتا ہوں، میری لگاہ میں اس کی توحید ایسی ہے جیسی اس بندے کی توحید جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور فرمان میں کسی کو شریک نہیں لیتا اور آفرینش میں کوئی اس کا مددگار نہیں، اس کا مرتبہ عالی ہے اور یہ کہ وہ کسی سے مشورہ کرے یا کسی کی مدد کرنے میں کسی سے مدد لے وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کوئی کسی کی مدد کرنے کی ضرورت نہیں۔“

### توحید و رسالت:

((وَمِنْ خُطْبَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَالِيَةً مِنَ النَّقْطِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ أَهْلُ الْحَمْدِ وَمَا وَاهَ، وَلَهُ أَكْدَ الْحَمْدُ وَأَحْلَاهُ، وَاسْعَدَ الْحَمْدُ وَأَسْرَاهُ، وَاطَّهَرَ الْحَمْدُ وَأَسْمَاهُ، وَأَكْرَمَ الْحَمْدُ وَأَوْلَاهُ۔ الْوَاحِدُ إِلَّا الصَّمْدُ لَا وَالدُّلُهُ وَلَا وَلَدُ إِلَّا لَهُ الْأُولُ لَا مَعْدُولُ لَهُ، وَلَا رَادُ لِحُكْمِهِ، لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ السَّلَامُ الْمَصْوُرُ الْحَاكِمُ الْوَدُودُ، الْمَطَهُورُ الطَّاهِرُ، الْمُحْمَدُ امْرُهُ الْمَعْمُورُ حِرْمَهُ، الْمَامُولُ كِرْمَهُ، عَلِمُكُمْ كَلَامَهُ، وَارَأْكُمْ اعْلَامَهُ، وَحَصَلَ لَكُمْ احْكَامَهُ، وَخَلَلَ حَلَالَهُ، وَحَرَمَ حِرَامَهُ، وَحَمَلَ مُحَمَّدُ الرَّوْسَالَةَ، رَوْلَهُ الْمَكْرُومُ الْمَسُودُ الْمَسْدُدُ، الْطَّهُورُ الْمَطَهُورُ اطْهَرُ وَلَدُ آدَمَ مُولُودًا، وَاسْطَعْهُمْ سَعُودًا، وَاطْوَلُهُمْ عَمُودًا

وارواهم عوذا، واصحهم عهودا، واکرمهم مرداه کھولا اللهم لك الحمد و دوامه،  
والملك و كماله لا اله الا هو، وسع كل حلم حلمه، وسدد كل حكم حكمه، وحدر  
كل علم غلمه))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سب تعریفیں اس اللہ کی جو محمد اور تعریف کے لائق ہے، محکم اور  
خوبصورت ترین تعریف اس کی ہے، پر صرف اور اعلیٰ تعریف کا تعلق اس کی ذات سے ہے، پاکیزہ، اعلیٰ  
اور بہترین تعریف اس کیلئے ہے، وہی جو واحد اور یکتا اور بے نیاز ہے، نہ اس کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا۔  
جان لیں اس کی ذات سب سے پہلے تھی، اس کی کوئی مثل نہیں اور کوئی بھی اس کے حکم اور فرمان کو روک  
نہیں سکتا۔ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ حاکمِ سلامتی عطا کرنے والا مصور اور بہت ہی دانا اور پر مہرو  
محبتِ حکمران ہے۔ وہ مطہر اور طاہر ہے، اس کا حکم قابلِ ستائش و تعریف، اس کا حرم آباد اور اس کا فضل  
سب کی آرزو اور تمنا ہے، اس نے اپنے کلام کی تمہیں تعلیم دی اور اس کی نشانیاں اور علامتیں تمہیں بتائیں  
اور اس کے احکام تمہارے لئے مہیا کیے اور اپنے حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دیا۔ اس نے رسالت  
کے بوجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شہزادے کی ایجاد کیے اور کھلی اور کھلی اور پاک اور پاکیزہ بنایا۔ وہی جو  
نے سرداری اور بزرگی عطا کی اور ان کو سید ہے راستے کا ہادی بنایا اور انہیں پاک اور پاکیزہ بنایا۔ وہی جو  
آدم کی اولاد میں سے مطہر شمار ہوتے ہیں، وہی جن کا ستارہ سب سے زیادہ روشن اور جن کی استقامت  
اور پاسیداری سب سے زیادہ، وہ جن کی ثنوی سب سے زیادہ پر رونق اور تروتازہ اور اپنے عہد اور پیمان میں  
سب سے زیادہ وفادار، جو الہوں اور ضعیفوں سے عزیز تر ہیں۔ اے اللہ! سب تعریفیں ہمیشہ تیرے لئے  
ہیں اور تو مطلق العنان اور حاکم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا صبر اور تحمل ہر صبر  
اور تحمل سے وسیع تر ہے اس کا حکم اور فرمان ہر حکم سے محکم اور قدرت والا ہے اور اس کا علم ہر علم اور دانش سے  
اعلیٰ تر ہے۔“



فصل نمبر 32:

من اقوال علی:

## حضرت علی کی حکمت بھری باشیں

تواضع اور انعامات:

((وَقَالَ : وَ بِالْتَّوَاضُعِ تَتَمَّ النِّعْمَةُ))  
”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تواضع سے نعمت مکمل ہوتی ہے۔“

جسمانی تندرتی اور حسد:

((وَقَالَ الْعَجَبُ لِغُفْلَةِ الْحُسَادِ عَنْ سَلَامَةِ الْأَءْجُسَادِ))  
”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تعجب ہے کہ حاسد جسمانی تندرتی پر حسد کرنے سے کیون غافل ہو گئے۔“

ذلت کا قیدی

((وَقَالَ الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ الدُّلُّ))  
”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لا پچی ہمیشہ ذلت کی قید میں گرفتار رہتا ہے۔“

ایمان کیا ہے:

((وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الإِيمَانِ فَقَالَ: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقُلُبِ، وَ إِفْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَ عَمَلٌ بِالْأَيْمَانِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایمان کے متعلق دیافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ایمان دل کے عقیدے، زبان کے اقرار اور اعضاء و جوارح کے عمل کا نام ہے۔“

محبت دنیا کا انجام

((وَقَالَ يَهُنْ أَءَ صُبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِينًا فَقَدْ أَءَ صُبَحَ لِقَضَاءِ اللَّهِ سَاخِطاً، وَ مَنْ أَءَ صُبَحَ يَشْكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا يَشْكُو رَبَّهُ، وَ مَنْ أَءَ تَمَّاً غَنِيتَ فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغَنَاهُ ذَهَبَ ثُلَاثَ دِينِيهِ، وَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَا تَفَدَّ خَلَّ النَّارَ فَهُوَ كَانَ مِمَّنْ يَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوا، وَ مَنْ لَهِ حَقْ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا التَّاطَّقَ قَلْبُهُ مِنْهَا بِشَلَاثٍ: هُمْ لَا يُغْبَهُ، وَ حِرْصٌ لَا يَتُرْكُهُ، وَ أَءَ مَلِ لَا يُدْرِكُهُ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا: جو دنیا کے لیے اندوہ ناگ ہو وہ تضاوت در الہی سے ناراض ہے اور جو اس مصیبہ پر کہ جس میں جتنا ہے شکوہ گرے تو وہ اپنے پروردگار کا شاکی ہے اور جو کسی دولت مند کے پاس پہنچ گر اس کی دولت مندی کی وجہ سے بھکے تو اس کا دو تھائی دین جاتا رہتا ہے اور جو شخص قرآن کی تلاویت گرے، پھر مر کر دوزخ میں داخل ہو تو وہ ایسے ہی لوگوں میں سے ہو گا جو اللہ کی آسمتوں کا مذاق اڑائیتے تھے اور جس کا دل دنیا کی محبت میں وارفتہ ہو جائے تو اس کے دل میں دنیا کی یہہ تین چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں۔ ایسا غم کہ جو اس سے جدا نہیں ہوتا اور اسی حرص کہ جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور اسی امید کہ جو برٹھیں آتی۔“

### قیامت اور حسن خلق:

((وَقَالَ كَفَىٰ بِالْقَنَاعَةِ مُلْكًاٰ وَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ نَعِيْمًا))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا: ملک قیامت کا نی ہے اور حسن خلق سب سے زیادہ کافی نعمت ہے۔“

### قیامت کی رفعت

((وَ سُلَيْلٌ عَنْ قَوْلِ عَزَّ وَ جَلَّ : فَلَنْجُيْسْتَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَقَالَ : هِيَ الْقَنَاعَةُ))

”آپ سے دریافت کیا گیا کہ ”هم خیات طیبہ عنایت کریں گے“ اس آیت میں حیات طیبہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا قیامت۔“

### دولتِ مند بنے کا طریقہ:

((وَقَالَ : شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَءَ قَبْلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ فَإِنَّهُ أَءَ خُلُقُ الْغَنَىٰ ، وَ إِنَّ جُدَدَرُ بِإِقْبَالِ الْخُطُوطِ عَلَيْهِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا: جس کی طرف روزی کارخ ہو اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ یہ دولت مند بنے کا بہترین ذریعہ ہے اور خوش نصیبی کا بہترین قریبہ ہے۔“

### إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ كَيْفِيْر:

((وَقَالَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ : الْعَدْلُ : الْإِنْصَافُ ، وَ الْإِحْسَانُ : التَّفَضُّلُ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے قول: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ کے بارے میں فرمایا: اللہ احسان و عدل کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں النصف، احسان لیئے اور کرم و تفضل کرنے کا حکم فرماتا ہے۔“

### عاجز اور صاحب اقتدار

((وَقَالَ مَنْ يُعْطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةَ يُعْطِ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَا يَنْفَقُهُ الْمُرْءُ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْعَلُ الْجَزَاءَ عَلَيْهِ عَظِيمًا كَثِيرًا، وَالْيَدَانِ هَا هُنَا عِبَارَتَانِ عَنِ النَّعْمَتَيْنِ، فَفَرِقَ عَبْيُنَ نِعْمَةِ الْعَبْدِ وَنِعْمَةِ الرَّبِّ بِالْقَصِيرَةِ وَالْطَّوِيلَةِ؛ فَجَعَلَ تِلْكَ قَصِيرَةً وَهَذِهِ طَوِيلَةً، لَا نَعْمَمُ اللَّهَ إِنَّ بَدَاءَ تَضُعُفُ عَلَى نِعْمَ الْمَخْلوقِ إِنَّ ضُعْفًا كَثِيرَةً، إِذْ كَانَتْ نِعْمَ اللَّهِ إِنَّ أَصْلَ النِّعْمَ كُلُّهَا، فَكُلُّ نِعْمَةٍ إِلَيْهَا تَرْجَعُ وَمِنْهَا تُنْزَعُ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو عاجز ہاتھ سے دیتا ہے اسے صاحب اقتدار ہاتھ سے ملتا ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی کار خیر میں مختصر مال بھی خرچ کرتا ہے پروردگار اس کی جزا کو عظیم و کثیر بنادیتا ہے۔ یہاں دونوں ”یہ“ سے مراد دونوں نعمتیں ہیں۔ بندہ کی نعمت کو یہ قصیرہ کہا گیا ہے اور اللہ کی نعمت کو یہ طویلہ۔ اس لئے کہ اللہ کی نعمتیں بندوں کے مقابلہ میں ہزاروں گناہ زیادہ ہوتی ہیں اور وہی تمام نعمتوں کی اصل اور سب کا مر جمع و منشاء ہوتی ہیں۔

### باغی کی ہلاکت:

((وَقَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنَ: لَا تَدْعُونَ إِلَى مُبَارَزَةٍ، وَإِنْ دُعِيْتَ إِلَيْهَا فَأَءْجِبْ، فَإِنَّ الدَّاعِيَ بَاغٍ وَالْبَاغِيَ مَصْرُوعٌ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم کسی کو جنگ کی دعوت مت دینا اور جب کوئی لاکارے تو فوراً جواب دینا، کیونکہ جنگ کی دعوت دینے والا باغی ہوتا ہے اور باغی بہر حال ہلاک ہونے والا ہے۔“

### عورتوں کے خصائص

((وَقَالَ بِخِيَارٍ خِصَالِ النِّسَاءِ شَرَارٍ خِصَالِ الرِّجَالِ: الْزَّهُوُ وَالْجُنُونُ، وَالْبُخْلُ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُرْأَةُ مَزْهُوَةً لَمْ تُمْكِنْ مِنْ نَفْسِهَا، وَإِذَا كَانَتْ بَخِيلَةً حَفِظَتْ مَالَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا، وَإِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُعْرِضُ لَهَا))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عورتوں کی اچھی عادتیں مردوں کی بدتریں صفتیں ہیں، اترانا بزدی، سمجھوئی، جب عورت اتراتی ہوتی وہ اپنے اوپر کسی کو قابو نہیں حاصل کرنے دیتی اور جب سمجھوں ہوتی اپنا اور شوہر کا مال بچاتی ہے اور جب بزدی ہوتی ہے تو ہر آنے والی مصیبت (عزت و ناموس وغیرہ) سے ڈرتی ہے۔“

### مرد عاقل کی پیچان

((وَقِيلَ لَهُ: صِفْ لَنَا الْعَاقِلُ فَقَالَ: هُوَ الَّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ مَوَاضِعَهُ فَقِيلَ: فَصِفْ لَنَا الْجَاهِلُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ يَعْنِي أَءَنَّ الْجَاهِلَ، هُوَ الَّذِي لَا يَضَعُ الشَّيْءَ مَوَاضِعَهُ، فَكَاءَنَ تَرُكٌ صِفَتِهِ صِفَةً لَهُ، إِذْ كَانَ بِخَلَافٍ وَصُفْ الْعَاقِلِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گزارش کی گئی: ”مرد عاقل کی توصیف فرمائیں۔“ آپ نے فرمایا: ”عاقل وہ ہے جو ہر شے کو اس کی جگہ پر رکھتا ہے۔“ عرض کیا گیا: ”پھر جاہل کی تعریف کیا ہے؟“ آپ نے فرمایا: ”یہ تو میں بیان کر چکا۔“ مقصد یہ ہے کہ جاہل وہ ہے جو ہر شے کو بے محل رکھتا ہے اور اس کا بیان نہ کرنا ہی ایک طرح کا بیان ہے کہ وہ عاقل کی ضد ہے۔“

### نمذمت مال و دولت:

((وَقَالَ رَبُّ الْأَرْضَ لِلنَّاسِ كُمْ هَذِهِ أَهْوَانُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقٍ خَنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْدُومٍ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! تمہاری دنیا میرے زدیک کوڑی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی سے بھی زیادہ بدتر ہے۔“

### تین قسم کی عبادات:

((وَقَالَ إِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَقِيلَ عِبَادَةُ التُّجَارِ، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَقِيلَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَقِيلَ عِبَادَةُ الْأَءَحْرَارِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو لوگ اللہ کی عبادت شوق میں کرتے ہیں تو ان کی عبادات تاجرانہ ہے اور جو ذر کے عبادت بجالاتے ہیں ان کی عبادت غلامانہ ہے اور جو لوگ شکر نعمت کے طور پر عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت آزادوں کی ہی ہے۔“

### عورت سراپا شر:

((وَقَالَ الْمَرْأَةُ شَرٌ كُلُّهَا، وَشَرٌّ مَا فِيهَا إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عورت سراپا شر ہے اور اس کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اس کے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا۔“

### ستی کرنے والا:

((وَقَالَ: مَنْ أَطَاعَ طَاعَ التَّوَانَى ضَيْعَ الْحُقُوقَ، وَمَنْ أَطَاعَ طَاعَ الْوَاثِى ضَيْعَ الصَّدِيقَ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو آدمی ستی اور بدولی سے کام لیتا ہے وہ اپنے حقوق بھی برپا کر لیتا ہے اور جو چغل خور کی بات مان لیتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی کھو دیتا ہے۔“

### حرام مال کی تعمیر:

((وَقَالَ : الْحَجَرُ الْغَصْبُ فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: گھر میں لوٹ کا پھر دیرانے کے ہاتھ رہن ہے (حرام مال کی تعمیر مٹ کر ہے گے۔)“

### مظلوم و ظالم کا دن:

((وَقَالَ : يَوْمُ الْمُظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ إِذَا شَدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى الْمُظْلُومِ))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مظلوم کا دن (قیامت) ظالم کے لئے اس دن سے سخت تر ہوتا ہے جو ظالم کا مظلوم کے لئے ہوتا ہے۔“

### اللہ سے حیاء:

((وَقَالَ هَتَّى اللَّهَ بَعْضَ التَّقَىٰ وَإِنْ قَلَ، وَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سُرُّاً وَإِنْ رَفِٰٰ))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ سے ڈرتے رہو اگرچہ کم وقت ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے اور اس کے درمیان پردہ رکھو چاہے باریک ہی کیوں نہ ہو۔“

### مبہم جواب:

((وَقَالَ : إِذَا أَزْدَحَمَ الْجَوَابُ خَفَى الصَّوَابُ))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب جواب مبہم ہوتے ہیں تو حق واضح نہیں ہوتا۔“

### حق اللہ

((وَقَالَ : إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقًا، فَمَنْ أَعْدَاهُ زَادَهُ مِنْهَا، وَمَنْ قَصَرَ فِيهِ خَاطِرًا  
بِزَوَّالِ نِعْمَتِهِ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کا ہر نعمت میں ایک حق ہے جو اسے ادا کر دے گا اللہ اسی کی نعمت کو بڑھادے گا اور جو کوتا ہی کرے گا وہ موجودہ نعمت کو بھی خطرہ میں ڈال دے گا۔“

### طاقت و خواہش

((وَقَالَ إِذَا كَثُرَتِ الْمُقْدِرَةُ قَلَّتِ الشَّهَوَةُ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو شهوت (چاہت) کم ہو جاتی ہے۔“

### نعمتوں کے حقوق:

((وَقَالَ هَذِهِ رُوَايَةُ النَّعِيمِ فَمَا كُلُّ شَاءِ دُوِيْ بِمَرْدُوِيْ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نعمتوں کے حق ادا نہ کر کے انہیں دور کرنے سے ڈر د کہ ہرگئی ہوئی چیز

واپس نہیں آیا کرتی۔“

### جذبہ کرم:

((وَقَالَ الْكَرَمُ أَءَ عُطْفٌ مِنَ الرَّحِيمِ))

”حضرت علیؑ اللہ عنہ نے فرمایا: جذبہ کرم قرابت داری سے زیادہ مہربانی کا باعث ہوتا ہے۔“

### اچھا خیال

((وَقَالَ مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْرًا فَصَدِّقْ ظَنَّهُ))

”حضرت علیؑ اللہ عنہ نے فرمایا: ”جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھتا ہے اس کے خیال کو سچا کر وکھاؤ۔“

### بہترین عمل:

((وَقَالَ إِأْفُضْلُ الْأَعْمَالِ مَا إِأْكَرْهَتْ نَفْسَكَ عَلَيْهِ))

”حضرت علیؑ اللہ عنہ نے فرمایا: بہترین عمل وہ ہے جس پر تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔“

### پیچانِ الہی

((وَقَالَ عَرَفْتُ اللَّهَ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ، وَ حَلَّ الْعُقُودِ، وَ نَفْضِ الْهِمَمِ))

”حضرت علیؑ اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے پروردگار کوارادوں کے ثوٹ جانے نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے پیچانا ہے۔“

### دنیا و آخرت کی شیرینی و تلخی:

((وَقَالَ مَرَارَةُ الدُّنْيَا حَلَوَةُ الْآخِرَةِ، وَ حَلَوَةُ الدُّنْيَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ))

”حضرت علیؑ اللہ عنہ نے فرمایا: دنیا کی سختی آخرت کی شیرینی ہے اور دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے۔“

### احکاماتِ الہی کی توضیح:

((وَقَالَ فَرِضَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا مِنَ الشُّرُكِ، وَ الصَّلَاةَ تَزْيِيدًا عَنِ الْكِبِيرِ، وَ الزَّكَاةَ تَسْبِيبًا لِلرِّزْقِ، وَ الصَّيَامَ ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلُقِ، وَ الْحَجَّ تَقْوِيَةً لِلَّدَنِ، وَ الْجَهَادُ عِزَّاً لِلْإِسْلَامِ، وَ الْأَعْمَالُ مُرَبَّاً مَعْرُوفًا مَصْلَحةً لِلْعَوَامِ، وَ النَّهَىَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعًا لِلسُّفَهَاءِ، وَ صِلَةُ الرَّحِيمِ مَنْمَاهًا لِلْعَدُدِ، وَ الْقِصَاصُ حَقُّنَا لِلَّدَمَاءِ، وَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمُحَارِمِ، وَ تَرْكُ شُرُبِ الْخَمْرِ تَحْصِينًا لِلْعَقْلِ، وَ مُجَانَبَةُ السَّرِقَةِ إِيجَابًا لِلْعَفَقَةِ، وَ تَرْكُ الزَّنَاتِ حِصِّنًا لِلنَّسَبِ، وَ تَرْكُ الْلَّوَاطِ تَكْثِيرًا لِلنَّسْلِ، وَ الشَّهَادَاتِ اسْتِظْهَارًا عَلَى الْمُجَاهَدَاتِ، وَ

تَرْكُ الْكَذِبِ تَشْرِيفًا لِلصَّدْقِ، وَ السَّلَامُ أَءَمَانًا مِنَ الْمَخَاوِفِ، وَ أُلُوَّهَ مَانَةً نِيَّاتِهِ لِلْأَعْمَالِ  
مُّهَمَّةٌ، وَ الطَّاعَةُ تَعْظِيمًا لِلِّيَامَاتِ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ نے ایمان اس لیے فرض کیا کہ شرک سے طہارت رہے، نماز اس  
لیے کہ لوگ تکبر سے پاک رہیں، زکوٰۃ رزق کے لیے روزہ مخلوقات سے خلوص کی آزمائش کے لیے۔  
جہادِ اعزت اسلام کے لیے، امر بالمعروف اصلاح عوام کے لیے، نبی عن المنکر بے وقوف کرنے کے  
لیے اور صدر حرم تعداد افراد خاندان میں اضافہ کے لیے (اگر آپس میں تعاون نہ ہو تو خاندان خاندان نہیں  
رہتا) خون کا بدلہ خون ریزی بند کرنے کے لیے اور سزاوں کا حکم منوعات کی حفاظت کے لیے۔ شراب کی  
ممانعت عقل کی حفاظت کے لیے اور چوری سے بچنے کا حکم عفت کو باقی رکھنے کے لیے۔ زنا کو ترک کرنے  
کا حکم نسب کے بجاوے کے لیے اور لواطت چھوڑنے کا حکم زیادتی نسل کے واسطے۔ گواہیاں اس لیے قرار  
دیں کہ انکار حق کرنے والوں پر غلبہ حاصل کیا جائے اور جھوٹ کو چھڑایا ج کی عزت افزائی کے لیے۔ اسلام  
خوفناک مصائب سے امان اور خلافت کو امت کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی اطاعت منصب  
امامت کی عظمت کے پیش نظر ہے۔“

### ظالم کی قسم:

((وَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا حَلَّفُوا الظَّالِمُ إِذَا أَرَدْتُمْ يَمِينَهُ بِاءَنَّهُ بَرِيٌّ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ  
فَإِنَّهُ إِذَا حَلَّفَ بِهَا كَادِبًا غُوْجَلَ وَ إِذَا حَلَّفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُمْ يُعَاجِلُونَ  
وَحَدَّدَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کسی ظالم سے قسم لینا ہوتا اس طرح قسم اُوکھے وہ پروردگار کی طاقت اور  
قوت سے بیزار ہے اگر اس کا بیان صحیح نہ ہو کہ اگر اس طرح جھوٹی قسم کھائے گا تو فوراً بتلائے عذاب  
ہو جائے گا اور اگر اللہ وحدہ لا شریک کے نام کی قسم کھائی تو عذاب میں عجلت نہ ہوگی کہ بہر حال توحید  
پروردگار کا اقرار کر لیا ہے۔“

### خوداپناولی ووصی:

((وَقَالَ يَأَبْنَ آدَمَ، كُنْ وَصِيًّا لَنَفْسِكَ، وَ اعْمَلْ فِي مَا تُؤْثِرُ إِنَّ يُعَمَّلَ فِيهِ مِنْ  
بَعْدِكَ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابن آدم! اپنے مال میں اپنا وصی خودوں نے اور وہ کام خود سراجام  
دے جن کے بارے میں تو امید رکھتا ہے کہ لوگ تیرے بعد سراجام دیں گے۔“

### جلد بازی کی نہادت:

((وَقَالَ الْحَمَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ، لَا إِنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ  
مُسْتَحِكٌ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تیزی ایک قسم کا پاگل پن ہے، کیونکہ جلد باز شرمند ہوتا ہے اور اگر  
شرمند ہوتا تو سمجھ لو کہ اس کا پاگل پن پختہ ہو چکا ہے۔“

### بدن کی صحبت کا اہم ترین ذریعہ:

((وَقَالَ حِسْبَةُ الْجَسَدِ مِنْ قَلْةِ الْحَسَدِ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بدن کی صحبت کا ایک ذریعہ حسد کی قلت بھی ہے۔“

### کمیل بن زیاد کو وصیت:

((وَقَالَ لِكُمَيْلٍ بْنِ زِيَادٍ النَّبَّاعِيِّ يَا كُمَيْلُ، مُرْأَءَ هُلَكَ أَءَنْ يَرُو حُوا فِي كَسْبِ الْمَكَارِمِ،  
وَيُدْلِجُوا فِي حَاجَةٍ مَنْ هُوَ نَائِمٌ، فَوَاللَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَاءَ صُوَاتٌ مَا مِنْ أَهَدِ إِدَاعَ  
فَلْيَا يُسْرُوا إِلَّا وَخَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطْفًا، فَإِذَا نَزَّلْتُ بِهِ نَائِبَةً جَرَى إِلَيْهَا  
كَالْمَاءُ فِي الْحِدَارِ وَحَتَّى يَطْرُدَهَا عَنْهُ كَمَا تُطَرَدُ غَرِيبةُ الْإِبَلِ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے کمیل بن زیاد الحنفی سے فرمایا: ”اے کمیل! اپنے گھروں کو حکم دو کہ اچھی  
خصلتوں کو تلاش کرنے کے لیے دن کو تکلیں اور سوچانے والوں کی حاجت روائی کے لیے رات میں قیام  
کریں۔ قسم ہے اس ذات کی جو ہر آواز کو سننے والا ہے کہ کوئی شخص کسی دل میں سرو وار نہیں کرتا مگر یہ کہ  
اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سرور سے ایک لطف پیدا کر دیتا ہے اور اس کے بعد اگر اس پر کوئی مصیبت نازل  
ہوتی ہے تو وہ لطف اس کی طرف نشیب کی جانب پہنچے والے پانی کی طرح تیزی سے بڑھتا ہے اور اس  
 المصیبت کو یوں دور کر دیتا ہے جس طرح اجنبی اونٹ ہنکائے جاتے ہیں۔“

### صدقة کی عظمت:

((وَقَالَ إِذَا أَءَ مَلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب مفلس و بے زرہ وجاؤ تو صدقے کے ذریعے اللہ سے لین دین  
کرو۔“

### غداروں سے بے وفاگی:

((وَقَالَ الْوَقَاءُ لَا إِهْلَ الْغَدْرٍ عَذْرٌ عِنْهُ اللَّهُ، وَالْغَدْرُ بِاءَهُلِ الْغَدْرِ وَفَاءُ عِنْهُ اللَّهُ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: غداروں سے وفاداری بھی اللہ کے نزدیک ایک قسم کی غداری ہے اور

غداروں سے بیوفائی ایک طرح کی وفاداری ہے۔“

### دوسرا کا خزانچی:

((وَقَالَ يَا أَبْنَاءَ آدَمَ مَا كَسَبْتُ فَوْقَ قُوَّتِكَ فَأَءَنْتَ فِيهِ حَازِنٌ لِغَيْرِكَ))

حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے فرزند آدم! تو نے اپنی غذائے جوز یادہ کیا ہے اس میں تو دوسرا کا خزانچی ہے۔“

### دلوں سے نرمی کرنا:

((وَقَالَ إِنَّ لِلنَّاسِ لُكْلُوبٌ شَهُوَةً وَإِقْبَالًا وَإِدْبَارًا فَاتُوهَا مِنْ قَبْلِ شَهُورَتَهَا وَإِقْبَالَهَا، إِنَّ الْقُلُوبَ إِذَا أُءِدُّتُ مُكَرَّةً عَمِيَّ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دلوں کی کچھ خواہیں اور ثابت منفی رجحانات ہیں تو تم دل کو قابو میں رکھنے کے لیے خواہشات و ثابت رجحانات کے رخ سے آؤ (کہ ہماری اس کی اصلاح ہو سکے) کیونکہ جب دل کو مجبور کیا جاتا ہے تو وہ ناہینا ہو جاتا ہے (ضد میں جو چاہتا ہے کرگزرتا ہے)۔“

### غصرہ، حسد اور معافی:

((وَكَانَ يَقُولُ هَمَّيْ إِذَا شَفِيَ غَيْظِي إِذَا غَضِبْتُ؟ أَءَ حِينَ أَءْ عَجِزْ عَنِ الْإِنْقَامِ فَيُقَالُ لَيْ: لَوْ صَبَرْتَ؟ أَءَ مُحِينَ أَءْ قُدِرْ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَيْ: لَوْ عَفَوتَ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے غصرہ آجائے تو میں اس سے تسلیم کس طرح حاصل کروں۔؟ انقام سے عاجز ہو جاؤں گا تو کہا جائے گا کہ صبر کرو اور انقام کی طاقت پیدا کروں گا تو کہا جائے گا کہ کاش معاف کر دیتے۔“

### مال دنیا کی حقیقت:

((وَقَالَ وَقَدْ مَرَّ بِقَدَرٍ عَلَى مَزْبَلَةٍ: هَذَا مَا بَخَلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ، وَفِي خَبَرٍ آخَرَ أَئْتَهُ فَقَالَ: هَذَا مَا كُنْتُمْ تَتَنَبَّأُسُونَ فِيهِ بِالْأَلَاءِ مُسِ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ کا گزر کوڑے کے ایک ڈھیر پر ہوا جس پر غلطیں تھیں۔ آپ نے فرمایا: ”یہ وہ ہے جس کے ساتھ بخل کرنے والوں نے بخل کیا تھا۔“ ایک اور روایت میں ہے کہ اس موقع پر آپ نے فرمایا: ”یہ وہ ہے جس پر تم لوگ کل ایک دوسرے پر رنگ کرتے تھے۔“

### فائدہ مند مال:

((وَقَالَ لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَقَظَكَ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو مال تمہیں نصیحت کر جائے وہ مال گیا نہیں باقی ہے۔“

**حکمتیں:**

((وَقَالَ إِنَّ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَءَادَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ))  
”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ دل اسی طرح تھک جاتے ہیں جس طرح بدن تھکتے ہیں، لہذا ان کے لیے لطیف ترین حکمتیں تلاش کرو۔“

**الظمراء:**

((وَقَالَ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الْخَوَارِجِ (لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ): (كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ))  
”جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کا قول ”لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ“ (حکم اللہ سے مخصوص ہے) سناتو فرمایا: یہ جملہ صحیح ہے مگر جو اس سے مراد یا جاتا ہے وہ مخلط ہے۔“

**انتشار و اجتماع:**

وَقَالَ ذُرْبَنْ صِفَةُ الْغَوَّاغِرِ: هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلُبُوا، وَ إِذَا تَفَرَّقُوا لَمْ يُعَرَّفُوا وَ قِيلَ:  
بَلْ قَالَ : هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُوا وَ إِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا فَقِيلَ : فَدُ عَرَفَنَا مَضَرَّةً  
اجْتِمَاعَهُمْ، فَمَا مَنْفَعَةُ افْتِرَاقِهِمْ؟ فَقَالَ: يَرْجِعُ أَئْصَاحُ الْمِهَنِ إِلَىٰ مِهَنِهِمْ فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ  
بِهِمْ تَكُونُ جُمُوعُ الْبَنَاءِ إِلَىٰ بَنَائِهِ، وَ النَّسَاجُ إِلَىٰ مَنْسَجِهِ، وَ الْخَبَازُ إِلَىٰ مَخْبَزِهِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بازاری لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کے بارے میں فرمایا: ”یہی وہ لوگ ہیں جو مجتمع ہو جاتے ہیں اور منتشر ہو جاتے ہیں تو پہچانے بھی نہیں جاتے ہیں۔“ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمایا: ”جب مجتمع ہو جاتے ہیں تو نقصان دہ ہوتے ہیں اور جب منتشر ہو جاتے ہیں تبھی فائدہ مند ہوتے ہیں۔“ لوگوں نے عرض کیا: ”اجماع میں نقصان تو سمجھ میں آکیا لیکن انتشار میں فائدہ کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”سارے کاروبار والے اپنے کاروبار کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھایتے ہیں جس طرح معمار اپنی عمارت کی طرف چلا جاتا ہے، کپڑا بننے والا کارخانہ کی طرف چلا جاتا ہے اور روٹی پکانے والا تنور کی طرف پلٹ جاتا ہے۔“

**برائی کے وقت حاضر ہونے والے:**

((وَقَدْ أَءَيْتَنِي بِجَاهِنَّ وَ مَعْهُ غَوَّاغِءُ فَقَالَ: لَا مُرْحَبًا بِوُجُوهِ لَا تُرَىٰ إِلَّا عِنْدَ كُلِّ سَوْاءَةٍ))  
”آپ کے پاس ایک مجرم کو لا یا گیا جس کے ساتھ تماشائیوں کا ایک ہجوم تھا تو آپ نے فرمایا: ”ان چہروں پر پھٹکار ہو جو صرف برائی اور رسوائی کے موقع پر نظر آتے ہیں۔“

**مضبوطہ:**

((وَقَالَ إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكِيْنِ يَحْفَظَانِيْهِ، فَإِذَا جَاءَ الْقَدْرُ خَلَيْا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ إِنَّ الْأَءَ

### جَلَ جُنَاحَ حَصِينَةً

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اور موت کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور بے شک انسان کی مقررہ عمر اس کے لیے ایک مضبوط پر ہے۔“

### مدگار اور قوت:

((وَقَالَ رَبِّنَا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ وَالرَّحِيمُ: نُبَايِعُكَ عَلَى أَئَنَّا شُرَكَاؤُكَ فِي هَذَا الْأَاءَ مُرْفَقًا: لَا وَلِكُنَّ كُمَا شَرِيكًا فِي الْقُوَّةِ وَالإِسْتِعَانَةِ وَعَوْنَانِ عَلَى الْعَجْزِ وَالْأَءَادِيدِ))  
”حضرت طلحہ اور زیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم آپ سے بیعت تو کر رہے ہیں مگر کار و بار خلافت میں ہمیں شریک رکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نبی! لیکن تم دونوں قوت پر امداد میں شریک ہو اور میرے عاجز آنے اور انتہائی رحمت کے وقت مدگار ہو گے۔“

### گرفت کرنے والی:

((وَقَالَ أَئُ يَهْيَا النَّاسُ، أَتَقُولُوا إِلَهٌ إِلَّا إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ، وَإِنْ أَعْصَمَرْتُمْ عِلْمًا، وَبَادِرُوا الْمَوْتَ إِلَى إِنْ هَرَبْتُمْ أَدْرَكُوكُمْ وَإِنْ أَهْمَقْتُمْ أَعْيَّنَدَكُمْ وَإِنْ نَسِيْتُمُوهُ ذَكْرَكُمْ))  
”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اے لوگو! اللہ سے ذرو جو تمہاری ہر بات سنتا ہے اور تمہارے دل کے ہر راز سے واقف ہے۔ اے لوگو! اس موت کی طرف سبقت کرو، جس سے بھاگنا بھی چاہو گے تو وہ تمہیں پالے گی، بھڑجاؤ گے تو گرفت میں لے لے گی اور تم اسے بھول بھی چاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے گی۔“

### بھلائی کا شکریہ:

((وَقَالَ يَزِيدَنَكَ فِي الْمَعْرُوفِ مَنْ لَا يَشْكُرُهُ لَكَ، فَقَدْ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَسْتَمْتَعُ بِشَيْءٍ عَمِّنْهُ وَقَدْ تُدْرِكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ إِنْ شُكَرَ مِمَّا أَعْصَانَ الْكَافِرُ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کسی شخص کا تمہارے حسن سلوک پر شکر گزارنا ہونا تمہیں نیکی اور بھلائی سے بد دل نہ بنادے اس لیے کہ بسا اوقات تمہاری اس بھلائی کی وہ قدر کرے گا جس نے اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں انھیا اور اس نا شکرے نے جتنا تمہارا حق ضائع کیا ہے اس سے کہیں زیادہ تم ایک قدر درانی حاصل کر لو گے اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“

### ظرف علم:

((وَقَالَ: كُلُّ وَعَاءٍ يَضيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلا وَعَاءُ الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَسَعُ بِهِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر برتن تک ہے سوائے ظرف علم کے کہ وہ علم سے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔“

### سابر کا پہلا اجر:

((وَقَالَ إِنَّمَا أَعْوَضُ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ إِنَّ النَّاسَ إِذَا نُصَارُهُ عَلَى الْجَاهِلِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”صبر کرنے والے کو قوت برداشت پر پہلا اجر یہ ملتا ہے کہ لوگ جاہل کے مقابلہ میں اس کے مد دگار ہو جاتے ہیں۔“

### بردباری سے شباہت:

((وَقَالَ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلُّمْ، فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا وُشِكَ إِنْ يَكُونَ مِنْهُمْ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم بردار نہیں ہو تو بظاہر بردار بننے کی کوشش کرو کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی جماعت سے شباہت اختیار کرے اور ان میں سے نہ ہو جائے۔“

### علم یقین:

((وَقَالَ مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبَحَ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسَرَ، وَمَنْ خَافَ إِذَنَنِي، وَمَنْ اغْتَبَ إِذْ بَصَرَ، وَمَنْ إِذْ بَصَرَ فَهِمَ، وَمَنْ فَهِمَ عِلْمَ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس نے اپنے نفس کا جائزہ لیا وہ نفع میں رہا، جس نے غفلت کی اسے گھٹا ہوا، جو اللہ سے ذرا وہ بے خوف ہو گیا (غیر اللہ اور عذاب سے)، جس نے عبرت حاصل کی اس نے حقیقت کو دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا اور جو سمجھ گیا اسے علم یقین ہو گیا۔“

### دنیا کا جھکاؤ:

وَقَالَ لَتَعْطِفْنَ الَّذِينَ عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضُّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا وَتَلَأَ عَقِيبَ ذَلِكَ (وَنُرِيدُ إِنْ نَمَنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ دنیا منہ زوری دکھانے کے بعد ایک دن بہر حال ہماری جانب جھکے گی جس طرح کامنے والی اوثقی کو اپنے پچے پر رحم آتا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی:

((وَنُرِيدُ إِنْ نَمَنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ))

”هم چاہتے ہیں کہ ان بندوں پر احسان کریں جنہیں روئے زمین پر کمزور ہنا دیا گیا۔ ہم انہیں لوگوں کا امام بنائیں گے اور ہم انہیں وارث جنت بنائیں گے۔“

### دنیا سے الگ ہونے والا:

((وَقَالَ أَتَقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مَنْ شَمَرَ تَجْرِيدًا، وَجَدَ تَشْمِيرًا، وَأَءَكَمَشَ لِي مَهْلِكًا، وَبَاذَرَ عَنْ وَجْهِي، وَنَظَرَ فِي كَرَّةِ الْمُوئِلِ، وَعَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ، وَمَغْبَةِ الْمُرْجِعِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ سے ڈروں شخص کے ڈرنے کے مائد جس نے دنیا کی والیگیوں کو چھوڑ کر امن گردان لیا، دامن گردان کر کوشش میں لگ گیا، اچھائیوں کے لیے اس وقتہ حیات میں تیز گامی کے ساتھ چلا، خنطروں کے پیش نظر اس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا، اپنی قرارگاہ اور اپنے اعمال کے نتیجہ اور انجام کا رکی منزل پر نظر رکھی۔“

### سخاوت کی تعریف:

((وَقَالَ إِلْجُودُ حَارِسُ الْأَءَاغْرَاضِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سخاوت عزت و آبرو کی تکہیان ہے۔“

### اصل محافظ..... حلم:

((وَقَالَ إِلِحْلُمُ فِدَامُ السَّفِيهِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”حالم یوقوف کا دہانہ بند ہے (کہ یہ رسولی سے بچاتا ہے)“

### معافی اور کامیابی:

((وَقَالَ : وَالْعَفْوُ زَكَاةُ الظَّفَرِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: معافی کامیابی کی زکوٰۃ ہے۔“

### بھول جانا اور غداری:

((وَقَالَ وَالسُّلُوْعُ عَوَضُكَ مِمَّنْ غَدَرَ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھول جانا غداری کرنے والے کا بدل ہے۔“

### مشورہ عین ہدایت

((وَقَالَ : وَالإِسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهُدَى))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مشورہ کرنا عین ہدایت ہے۔“

### اپنی رائے پر عمل:

((وَقَالَ : وَقَدْ خَاطَرَ مَنْ اسْتَغْنَى بِرَاءَيْهِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس نے اپنی رائے ہی پر اعتماد کر لیا اس نے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈال دیا۔“

### صبر اور مصائب زمانہ:

((وَقَالَ : وَ الصَّابِرُ يُنَاضِلُ الْحِدْثَانَ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: صبر مصائب زمانہ سے مقابلہ کرتا ہے۔“

### بیقراری مددگار زمانہ:

((وَقَالَ : وَ الْجَزَعُ مِنْ أَءَعْوَانِ النَّزَّانِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیقراری زمانہ کی مددگاری ثابت ہوتی ہے۔“

### بہترین دولت مندی:

((وَقَالَ : وَ أَءَشْرَفُ الْغَنَى تَرْكُ الْمُؤْنَى))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بہترین دولت مندی تناول کا ترک کر دینا ہے۔“

### غلام عقلیں:

((وَقَالَ : وَ كُمْ مِنْ عَقْلٍ أَءَ سِيرٌ عِنْدَ هَوَى أَءَ مِيَرٍ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تلقیٰ ہی غلام عقلیں ہیں جو روساء کی خواہشات کے شیخے دبی ہوئی ہیں۔“

### توفیق الہی:

((وَقَالَ : وَ مِنَ التَّوْفِيقِ حِفْظُ التَّجْرِبَةِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تجربہ یاد رکھنا ایک توفیق الہی ہے۔“

### مفید رشتہ داری:

((وَقَالَ : وَ الْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: محبت ایک مفید رشتہ داری ہے۔“

### تک دل:

((وَقَالَ : وَ لَا تَأْمَنَنَّ مَلُوْلًا))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جو خود ہی دل تک ہوا سے مطمئن نہ رہو۔“

اپنی عقل سے حسد:

((وَقَالَ بُعْجُبُ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ إِنَّمَا حُسَادِ عَقْلِهِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا خود اپنی عقل سے حسد کرتا ہے۔“

تکلیف سے چشم پوشی:

((وَقَالَ إِنَّمَا غُصَّ عَلَى الْقَدَى وَإِلَّا لَمْ تُرْضَ إِنَّمَا))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تکلیف سے چشم پوشی کروورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔“

زرمی کی عظمت:

((وَقَالَ مَنْ لَأَنَّ عُودُهُ كَثُرَتْ إِنَّمَا غُصَانُهُ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس درخت کی لکڑی زرم ہوا س کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں (الہذا انسان کو زمدل ہونا چاہئے)“

مخالفت کے نقصانات:

((وَقَالَ هَلْخَلَافُ يَهُدِمُ الرَّاءُ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”مخالفت صحیح درست رائے کو بھی برہاد کر دیتی ہے۔“

دست درازی:

((وَقَالَ مَنْ نَالَ اسْتَكَانَ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جو منصب پالیتا ہے وہ دست درازی کرنے لگتا ہے۔“

انقلاب حالات اور لوگ:

((وَقَالَ إِنِّي تَقَلَّبُ الْأَهْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں کے جو ہر حالات کے انقلاب میں پہچانے جاتے ہیں۔“

محبت کی کمزوری:

((وَقَالَ بَحَسَدُ الصَّدِيقِ مِنْ سُقُمِ الْمَوَدَّةِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”دوسٹ کا حسد کرنا محبت کی کمزوری ہے۔“

طمع و حرص کی ندمت:

((وَقَالَ إِنَّ كَثُرَ مَصَارِعُ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اکثر عقولوں کا ٹھوکر کھا کر گرنا طمع و حرص کی بجلیاں چکنے پر ہوتا ہے۔“

### خيال پر فصلہ

((وَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الْثَّقَةِ بِالظَّنِّ))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الناصف یہ نہیں ہے کہ خیال پر فصلہ کر دیا جائے۔“

### بدترین زادراہ:

((وَقَالَ يَسُّ الرَّازِدُ إِلَى الْمَعَادِ، الْعُدُوُانُ عَلَى الْعِبَادِ))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قیامت کے وہ بندوں پر ظلم کرنا ہو گا۔“

### بلند کردار کی نشانی:

((وَقَالَ يَمْنُ أَءَ تُشَرِّفُ أَهْلَفُعالِ الْكَرِيمِ غَفْلَتُهُ عَمَّا يَعْلَمُ))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بلند انسان کے بہترین افعال میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے چشم پوشی کرے جنہیں وہ جانتا ہے۔“

### حیاء کی خلعت:

((وَقَالَ مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثُوبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جسے شرم اپنا خلعت ولباس پہنادیتی ہے، لوگ اس کے عیب نہیں دیکھ پاتے (وہ عیب کم کرتا ہے۔)“

### خاموشی کی ہیبت:

((وَقَالَ بِكَثِيرَةِ الصَّمْتِ تَكُونُ الْهَيْبَةُ))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: زیادہ خاموشی ہیبت کا سبب بنتی ہے۔“

### النصاف اور دوستی:

((وَقَالَ وَبِالنَّصَفَةِ يَكُثُرُ الْوَاصِلُونَ))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الناصف کرنے سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔“

### کرم و فضل اور قدر و منزلت:

((وَقَالَ وَبِالإِفْضَالِ تَعَظُّمُ الْأَقْدَارُ))  
”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کرم و فضل کرنے سے قدر و منزلت بلند ہوتی ہے۔“

☆☆☆

فصل نمبر 33:القضاکم علی رضی اللہ عنہ:

## حضرت علی تمہارے لئے بہترین حاکم ہیں

### حضرت علی کا فیصلہ حکم الہی کے عین مطابق ہوتا:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لقد قضی علی بن ابی طالب بینکما بقضاء الله عزوجل))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علینے تم دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کیا ہے، یہ جو تم دونوں کیلئے علی نے حکم سنایا ہے حکم الہی تھا۔“

بہترین فیصل:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اقضاکم علی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی تمہارے لئے بہترین حاکم ہے۔“

دانا اور عقل مندرجہ قاضی:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی اعلم الناس بفصل القضاء))

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی لوگوں کے جھگڑے اور دشمنی کے معاملات میں عظیم اور دانا ترین انسان ہے۔“

سب سے زیادہ سنت کو جاننے والے:

((بالاسناد، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اعلم امتی بالسنة والقضاء بعدی علی بن ابی طالب))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میری امت کے افراد میں سے میری سنت اور حکمرانی میں عظیم اور واثق ہے۔“

عدالت علی:

((بالاسناد، عن ابی عباس قال: قال زرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی بن ابی طالب اعلم امتی، واقضاهم فيما اختلفوا فيه من بعدی))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میری امت میں سے سب سے عاقل اور دانا ہے اور میرے بعد جو چیزیں باعث اختلاف ہوں گی اس میں ان کی

عدالت اور تقاضاً سب سے بہترین ہے۔“

### فیصلہ کرنے کی صلاحیت رسول اللہ کی عطا:

((قال علی رضی اللہ عنہ: یعنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الیمن، فقلت: یا رسول اللہ! انی ہدیث السن، قال: فوضع یہدہ علی صدری و قال: اذهب فان اللہ سیشت لسانک و یهدی قلبک، قال: فما شکكت فی قضاۓ بین خصمین قاما بین یدی (بعد))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کیلئے روائہ کیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں جوان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو میرے سینے پر رکھا اور فرمایا: اے اللہ! اس کے دل کو ہدایت فرماؤ اور اس کی زبان کو توی اور طاقتو رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے بعد میں نے لوگوں کے درمیان جو بھی فیصلے کیے کوئی بھی روئیں ہوا۔“

### دعائے رسول:

((بالاسناد عن علی رضی اللہ عنہ قال: یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی الیمن فقلت: یا رسول اللہ! یعنی وانا شاب اقضی بینهم ولا ادری بالقضاء، قال: فضرب بیدہ فی صدری ثم قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، قال: فما شکكت بعد فی قضاء بین اثنین))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف روائہ کیا۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں تو ایک جوان ہوں اور میں فیصلے کرنا بھی نہیں جانتا اور آپ مجھے یمن کی طرف روائے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر مارا اور فرمایا: اے اللہ! اس کے قلب کو ہدایت اور اس کی زبان کو ثابت فرماؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کے درمیان جو بھی حکم سنایا کبھی بھی اس پر اعتراض نہیں ہوا۔“



فصل نمبر: 34:

لماذج من قضاء علی رضی اللہ عنہ:

## حضرت علی کی معاملہ فہمی، اجتہادی قوت اور فیصلے

### فقہ و اجتہاد:

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقہ و اجتہاد میں بھی کامل دستگاہ حاصل تھا، بلکہ علم و اطلاع کی وسعت سے دیکھا جائے تو آپ کو امت مسلمہ کا سب سے بڑا فقیہ، مدرس اور مجتہد مانا پڑے گا۔ بڑے بڑے صحابہ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضل و مکال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ فقہ و اجتہاد کے لیے کتاب و سنت کے علم کے علاوہ سرعت فہم اور دوراندیشی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور جانب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمالات حاصل تھے۔ مشکل سے مشکل اور چیزیں سے چیزیں مسائل کی تہہ تک آپ کی نکتہ رسنگاہ آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ آپ کے چند فقیہانہ نکتے حسب ذیل ہیں:

### مجنوں حدود شرعی سے مستثنیٰ:

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مجنوں زانیہ عورت پیش کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد جاری کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”یہ ممکن نہیں کیونکہ مجنوں حدود شرعی سے مستثنیٰ ہیں۔“

یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادہ سے باز آگئے۔

### حالت احرام میں شکار:

ایک دفعہ حجج کے موسم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شکار کا گوشت پکا کر پیش کیا گیا۔ لوگوں نے احرام کی حالت میں اس کے کھانے کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جواز کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا:

”حالت احرام میں خود شکار کر کے کھانا منع ہے، لیکن جب کسی غیر محرم نے شکار کیا ہے تو اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟“

دوسروں نے اس سے اختلاف کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا:

”اس مسئلہ میں قطعی فیصلہ کس سے معلوم ہوگا؟“

لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، چنانچہ انہوں نے اُن سے جا کر دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”جن لوگوں کو یہ واقعہ یاد ہو وہ شہادت دیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکار لایا گیا جب کہ آپ احرام کی حالت میں تھے، آپ نے فرمایا: یہ ان کو کھلادو جواحرام میں نہیں ہیں۔“

حاضرین میں سے بارہ صحابہ نے شہادت دی۔ یہن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء نے اس کھانے سے پرہیز کیا۔

### موزوں پسخ:

ایک دفعہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا:

”ایک بار پاؤں دھونے کے بعد کتنے دن تک موزوں پسخ کر سکتے ہیں؟“

آپ نے فرمایا:

”جتاب علی سے جا کر دریافت کرو۔ ان کو معلوم ہوگا کیونکہ وہ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔“

چنانچہ وہ سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا:

”مسافر تین دن تین رات تک اور مقیم ایک دن اور ایک رات تک۔“

(منابن ضبل، جلد 1 صفحہ 92)

### مخث کا ارشت میں حصہ:

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور ان کی اجتہادی قوت کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے حریف بھی واقعی اور مشکل مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دریافت کیا:

”دھنسی مشکل (مخث) کی مواثت کی کیا صورت ہے یعنی وہ مرد قرار دیا جائے یا عورت؟“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حریف بھی علم دین میں ہمارے محتاج ہیں۔“

پھر جواب دیا:

”پیشاب گاہ سے اندازہ کرنا چاہئے کہ وہ مرد ہے یا عورت۔“

### ندی کا ناقص وضو ہونا:

فقیہی مسائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وسعت نظر کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جوبات نہیں جانتے تھے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے۔ بعض ایسے مسائل جو شرم و حیاء اور اپنے رشتہ کی نزاکت کے باعث خود بر اہ راست نہیں پوچھ سکتے تھے اس کو کسی دوسرے کے ذریعہ سے دریافت کروا لیتے تھے۔ چنانچہ مرنی کا ناقص وضو ہونا آپ نے اسی طرح بالواسطہ دریافت کرایا تھا۔

### سب سے موزوں قاضی:

ان ہی خصوصیات کی بناء پر مقدمات کے فیصلوں اور قضاۓ کے لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی موزوں تھے اور اس کو صحابہ کرام عام طور پر تسلیم کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے:

((اقضاانا علی))

”هم میں مقدمات کے فیصلوں کے لئے سب سے موزوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔“  
(طبقات ابن سعد)

### مدینہ کے سب سے بڑے قاضی:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں:

”هم (صحابہ) کہا کرتے تھے کہ مدینہ والوں میں سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔“  
(مستدرک حاکم)

### اقضاہم علی:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہرشاس لگاہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس استعداد و قابلیت کا پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ”اقضاہم علی“ کی سندھل چکی تھی اور ضرورت کے اوقات میں قضاۓ کی خدمت آپ کے سپرد کی جاتی تھی۔

### قاضی یمن:

چنانچہ جب اہل یمن نے اسلام قبول کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے عہدہ قضاۓ کے لئے آپ کو منتخب فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

”یار رسول اللہ! وہاں نئے نئے مقدمات پیش ہوں گے اور مجھے قضاۓ کا تجربہ اور علم ہی نہیں۔“  
فرمایا:

”اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو راہ راست اور تمہارے دل کو ثبات و استقلال بخشنے گا۔“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی) اس (دعا) کے بعد مجھے مقدمات کے فیصلوں میں کبھی پریشانی نہ ہوئی۔“

(مسند ابن حبیل، جلد 1، صفحہ نمبر 3) (مستدرک حاکم، جلد 3، صفحہ نمبر 135)

قوانين قضاۓ:

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضا اور مقدمات کے بعض اصول بھی سکھائے۔

چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا:  
 ”اے علی! جب تم دو آدمیوں کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے لگو تو صرف ایک آدمی کا بیان سن کر فیصلہ نہ کرو،  
 اس وقت تک اپنے فیصلے کو روکو جب تک دوسرے کا بیان بھی نہ سن لو۔“  
 (مندابن خبل، جلد نمبر ۱، صفحہ نمبر 99)

اعتراف زنا کی مجرمه:

مقدمات میں علم یقین کے لئے اہل مقدمہ اور گواہوں سے جرح اور ان سے سوالات کرنا بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصول قضائیں داخل تھا۔ ایک مرتبہ ایک زانیہ عورت نے آپ کی عدالت میں اپنی نسبت جرم زنا کا اعتراض کیا۔  
 آپ نے اسے پرے درپے متعدد سوالات کے جب وہ آخر تک اپنے بیان پر قائم رہی تو اس وقت مزا کا حکم دیا۔  
 (مندابن خبل، جلد ۱، صفحہ نمبر 140)

گواہوں کی جرح:

اسی طرح لوگوں نے ایک شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ کر پیش کیا اور دو گواہ بھی پیش کر دیئے۔ آپ نے گواہوں کو حکمی دی:

”اگر تمہاری گواہی جھوٹی نکلی تو میں یہ سزادوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔“  
 اس کے بعد کسی دوسرے کام میں معروف ہو گئے۔ اس سے فراغت کے بعد دیکھا کہ دونوں گواہ موقع پا کر چل دیئے تھے تو آپ نے ملزم کو بے قصور پا کر چھوڑ دیا۔  
 (تاریخ الخلفاء، بحوالہ مصنف ابو شيبة)

تین آدمیوں کا بیٹا:

یمن نیازیا مسلمان ہوا تھا۔ پرانی باتیں ابھی تازہ تھیں۔ ایک عورت کا مقدمہ پیش ہوا جس سے ایک ماہ کے اندر تین نیازیا مسلمان ہوا تھا۔ تو ماہ بعد اس کے لڑکا ہوا جب کہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ لڑکا کس کا قرار دیا جائے۔ ہر ایک کے، پھر قریبہ ڈالا جس کے نام قریبہ لکھا اس کے حوالہ لڑکا کر دیا اور بقیہ دونوں کو دیت کے تین حصوں میں دو حصے پہلے آدمی سے لے کر دیئے۔ گویا غلام کے مسئلہ پر اس کو قیاس کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ سناتا تو آپ نے تبسم فرمایا۔  
 (مسند رک حاکم، جلد ۳، صفحہ 135)

## چار آدمیوں کا قصاص:

دوسرے اقتداء یہ پیش آیا کہ چند لوگوں نے شیر پھنسانے کے لئے ایک کنواں کھودا تھا۔ شیر اس میں گر گیا۔ چند اشخاص بُلی مذاق میں ایک دوسرے کو کنویں کی طرف دھکیل رہے تھے کہ اتفاق سے ایک کا پیر پھسلا اور وہ اس کنویں میں گر گیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لئے بدحواسی میں دوسرے کی کمر پکڑی، وہ بھی سنبل نہ سکا اور گرتے اس نے تیسرے کی کمر تھام لی اور تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا۔ غرض چاروں اس کنویں میں گر پڑے اور شیر نے چاروں کو مار ڈالا۔ ان مقتولین کے ورثاء آمادہ جنگ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس ہنگامہ و فساد سے روکا اور فرمایا:

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودگی میں یہ فتنہ و فساد مناسب نہیں۔ میں فیصلہ کرتا ہوں اگر وہ پسند نہ ہو تو دربارِ رسالت میں جا کر تم اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہو۔“

لوگوں نے رضا مندی ظاہر کی۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کنواں کھودا تھا ان کے قبیلوں سے ان مقتولین کے خون بہا کی رقم اس طرح وصول کی جائے کہ ایک پوری، ایک تہائی، ایک چوتھائی اور ایک آٹھی۔ پہلے مقتول کو ایک چوتھائی خون بہا، دوسرے کو ٹھیٹ، تیسرے کو نصف اور چوتھے کو پورا خون بہا دلا دیا۔ لوگ اس بظاہر عجیب و غریب فیصلہ سے راضی نہ ہوئے اور جمدة الوداع کے موقع پر حاضر ہو کر اس فیصلہ کا مراجعت (اپیل) عدالت نبوی میں پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلہ کو برقرار رکھا۔

(مسند ابن خبیل، جلد 1، صفحہ نمبر 77)

اب غور کیجئے کہ اصل جرم ان لوگوں کا تھا جنہوں نے آبادی کے قریب کنواں کھود کر شیر پھسانے کی غلطی کی تھی اس لئے کسی متغیر قاتل نہ ہونے کے سبب سے قامت کے اصول سے خون بہا کو ان کو کھونے والوں اور ان کے ہم قبیلوں پر عائد کر دیا۔

## تمن اور پارچ درہم:

دو شخص (غالباً مسافر) تھے۔ ایک کے پاس تین روپیاں تھیں اور دوسرے کے پاس پانچ۔ دونوں مل کر ایک ساتھ کھانے کو بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا مسافر بھی آگیا اور وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے سے جب فراغت ہوئی تو اس تیسرے نے آٹھ درہم اپنے حصہ کی روپیوں کی قیمت دے دی اور آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کی پانچ روپیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی پانچ روپیوں کی قیمت پارچ درہم اور دوسرے کو ان کی تین روپیوں کی قیمت تین درہم ادا کر دیئے، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور نصف کا مطالبه کیا۔ یہ معاملہ عدالت حیدری میں پیش ہوا۔ آپ نے دوسرے کو نصیحت فرمائی:

”تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کر لواں میں زیادہ نفع تمہارا ہے۔“

لیکن اس نے کہا:

”حق کے ساتھ جو فیصلہ ہو مجھے منظور ہے۔“

حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”حق تو یہ ہے کہ تم کو صرف ایک دراہم ملے اور تمہارے رفیق کو سات۔“

اس عجیب فیصلہ سے وہ تحریر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا:

”تم تین آدمی تھے، تمہاری تین روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی پانچ۔ تم دونوں نے برابر کھائیں اور ایک تیرے کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ تمہاری تین روٹیوں کے حصے تین جگہ کے جائیں تو نوکڑے ہوتے ہیں۔ تم اپنے نوکڑوں اور اس کے پندرہ نوکڑوں کو جمع کرو تو ٹوٹی چوبیں نوکڑے بنتے ہیں۔ تینوں میں سے ہر ایک نے برابر نوکڑے کھائے تو فی کس آٹھ نوکڑے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے نو سے آٹھ خود کھائے اور سات تیرے کو دیئے، اس لئے آٹھ دراہم میں سے ایک کے تم اور سات کا تمہارے رفیق مستحق ہے۔“

(تاریخ الخلفاء سیوطی بروایت زربن حیث)

### خواب میں زنا کی سزا:

بھی کبھی کوئی لغو مقدمہ پیش ہوتا تو آپ زندہ ولی کا ثبوت دیتے تھے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو یہ کہہ کر پیش کیا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ شخص میری ماں کی آبروریزی کر رہا ہے۔ حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”ملزم کو دھوپ میں لے جا کر کھڑا کرو اور اس کے سامنے کوس کوڑے مارو۔“

### جانوروں کے بارے میں فیصلہ:

ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرماتھے کہ دو آدمی لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے آئے۔ ایک نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ! میرا ایک گدھا تھا اس شخص کی گائے نے اس کو ماڑ دالا ہے۔“

حاضرین میں سے ایک نے کہا:

”جانوروں کے فعل کا کیا کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے۔؟“

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا:

”ان کے درمیان فیصلہ کرو۔“

حضرت علی نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا:

”وہ دونوں جانور بندھے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یا ان میں سے ایک بندھا ہوا تھا۔؟“

گدھے کے مالک نے کہا:

”میرا گدھا بندھا ہوا تھا اور اس کی گائے کھلی ہوئی تھی اور یہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔“

گائے کے مالک نے اس بات کی تصدیق کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”میرا یہ فیصلہ ہے کہ گائے کا مالک گدھے کے نقصان کا ذمہ دار ہے۔“

حضور نبیؑ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”علیؑ کا فیصلہ درست ہے۔“

چنانچہ وہی فیصلہ جاری کیا گیا۔

### سوال و جواب:

ابن عساکر نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا:

”مجھے بتائیے ہمارا رب کب سے ہے؟“

یہ من کر آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا:

”وہ ایسی ذات نہیں کہ کبھی نہیں تھا اور پھر پیدا ہو گیا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، نہ اس کی ابتداء ہے اور نہ اس کی انتہا ہے۔ تمام نہایتیں اس سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہر انتہا کی انتہا ہے۔“

یہ من کروہ یہودی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔

### ایک سوال اور دس جواب:

ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دس آدمی آئے اور انہوں نے کہا:

”ہمارا سوال ایک ہی ہے، لیکن ہم اس کا جواب الگ الگ چاہتے ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”لوچھو! کیا سوال ہے؟“

انہوں نے کہا:

”علم بہتر ہے یا مال؟“

آپ نے اس طرح جواب دینا شروع کیا:

1: علم افضل ہے اس لئے کہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے جبکہ علم تیری حفاظت کرتا ہے۔

2: علم افضل ہے اس لئے کہ مال فرعون وہاں کا ترک ہے اور علم انبیاء کی میراث ہے۔

3: علم اعلیٰ ہے مال سے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔

4: علم اعلیٰ ہے کہ مال سے کیونکہ مال دیر تک رکھنے سے فرسودہ ہو جاتا ہے مگر علم کو کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔

5: علم بہتر ہے مال سے کہ مال کو ہر وقت چوری کا خطرہ ہے علم کو نہیں۔

6: علم بہتر ہے کہ صاحب مال کبھی کبھی بخیل کھلاتا ہے مگر صاحب علم کریم ہی کھلاتا ہے۔

- 7: علم افضل ہے کہ اس سے دل کو روشنی ملتی ہے اور مال سے دل تیروتار ہو جاتا ہے۔
- 8: علم اعلیٰ ہے کہ مال سے بے شمار دشمن پیدا ہو جاتے ہیں مگر علم سے ہر دلعزیزی حاصل ہوتی ہے۔
- 9: علم بہتر ہے کہ یوم قیامت کو مال کا حساب ہو گا مگر علم پر کوئی حساب نہ ہو گا۔
- 10: علم افضل ہے مال سے کہ کفرت مال سے فرعون وغیرہ نے خدائی کا دھوکی کیا مگر کفرت علم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکساری و عاجزی کا درجہ لیا۔

### پانچ افراد پر مختلف حد:

((بالاسناد، عن الاصبع بن نباته قال : اتی عمر به خمسة نفر اخذوا في الزنا، فامر ان يقام على كل واحد منهم الحد، وكان امير المؤمنين على رضي الله عنه حاضراً فقال : يا عمر ! ليس هؤلا حكيمهم؟ قال عمر : فاقم انت الحد عليهم، فقدم رضي الله عنه واحداً منهم فضرب عنقه، وقدم الآخر فرجمه، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعذره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله، فقال عمر : يا ابا الحسن خمسة لهر في قصة واحدة ، اقمت عليهم خمسة حدود، ليس شيء منها يشبه الآخر ؟ !! فقال امير المؤمنين على رضي الله عنه : اما الاول : فكان ذميأ فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف واما الثاني : فرجل محسن كان حده الرجم واما الثالث : فغير محسن حده الحلد، واما الرابع : فبعد ضربناه نصف الحد . واما الخامس : مجنون مغلوب على عقله))

"اصبع بن نباتہ کہتے ہیں کہ پانچ زانیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لاایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اس کا حکم اس طرح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ ان پر حد جاری کریں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کی گردان اڑادی، دوسرے کو سنگسار کیا، تیسرا کو کوڑے لگائے، چوتھے پر آدمی حد جاری کی اور پانچوں کو تنبیہ کی یعنی شرعی حد سے کم سزا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حکم سے حیران ہو کر رہ گئے اور لوگوں نے بھی تجھب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ابوالحسن! آپ نے پانچوں افراد پر ایک ہی واقعہ میں مختلف حد جاری کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: پہلا فرد اہل ذمہ تھا، وہ اپنے ذمہ سے خارج ہو چکا تھا، اس پر تلوار کے علاوہ کوئی اور حد نہیں تھی، دوسرا فرد شادی شدہ تھا اس کو سنگسار ہی ہوتا تھا، تیسرا شخص کیونکہ غیر شادی شدہ تھا اس نے کوڑے کھائے، چوتھا فرد کیونکہ غلام تھا اس پر آدمی حد جاری کی گئی اور جو پانچوں شخص تھا وہ پاگل تھا اس لئے اس پر حد جاری نہیں کی گئی۔"

### لڑکے اور لڑکی پر جھگڑے کا حل:

((عن جابر الجعفی عن تمیم بن خرام الاسدی : انه دفع الى عمر منازعة جاریتین  
تنازعتا فی ابن و بنت ، فقال : این ابوالحسن مفرج الکرب؟ فدعی له به فقص عليه  
القصة، فدعى بقار و رتین فوزنهمَا، ثم امر كل واحدة فحلبت في قارورة، وزن  
القارورة تین فرجحت احد اهما على الاخری، فقال : الا بن للتي لبنتها ارجع ، والبنت  
للتي لبنتها اخف، فقال عمر : من این قلت ذلك يا ابا الحسن؟ فقال رضي الله عنه : لأن  
الله جعل للذكر مثل حظ الانثیين))

”جابر بن جحشی نے تمیم بن اسدی سے نقل کیا کہ دو کنیزیں جو ایک لڑکے پر آپس میں جھگڑا کر رہی  
تھیں انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لا یا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کہاں ہے ابوالحسن جو  
غم کو دور کرنے والے ہیں؟ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ  
سنا یا۔ حضرت علی نے دو ہیشان منگوائیں اور ان کا وزن کیا، اس کے بعد ان دو کنیزوں سے کہا کہ ان  
شیشیوں میں اپنا دودھ نکال کر لے آئیں۔ اس کے بعد دو دھکا وزن کیا، ان میں سے ایک کا وزن بھاری  
تھا۔ فرمایا: لڑکا اس عورت کا ہے جس کا دودھ بھاری ہے اور لڑکی اس کی ہے جس کا دودھ ہلکا ہے۔ حضرت  
عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابوالحسن! اس کو کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا: اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے  
مرد کے حصے کو عورت کے حصے سے دگنا قرار دیا ہے۔“

### ایک لڑکے کے بارے میں فیصلہ:

((وروی انا مراتین تنازعتا علی عهد عمر فی طفل ادعیته کل واحدة منه ما ولدالها بغير  
بینة ولم ينazuعه ما فيه غير هما، فالتبس الحكم فی ذلك علی عمر و فزع فیه اليه امير  
المؤمنین رضی اللہ عنہ ، فاستدعا امراتین و واعظہما و خوفہما ، فاقامتا علی التنازع  
والاختلاف ، فقال رضی اللہ عنہ عند تمدیہما فی النزاع : ایتونی بمنشار ، فقالت  
المراتان : ما تصنع ؟ فقال : اقده نصفین لکل واحدة منکما نصفہ فسکتت احدی هما  
وقالت الاخری : الله الله يا ابا الحسن ان کان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها فقال :  
الله اکبر هذا ابنک دونها ، ولو کان ابنها لرفقت علیه و اشفقت فاعترفت المرأة  
الاخري بان الحق مع صاحبتها والولد لها دونها ، فسری عن عمر و دعا لامیر المؤمنین  
رضی اللہ عنہ بما فرج عنہ فی القضاء))

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو عورتیں ایک بچے پر آپس میں لڑ رہی تھیں۔ ہر ایک عورت بغیر  
کسی گواہ کے یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ بچہ میرا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور دعوے دار نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی

الله عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا یا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں عورتوں کو طلب کیا، ان کو نصیحت کی اور انہیں سمجھایا، لیکن وہ دیسے ہی اپنے دعوے پر ڈلی رہیں۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ دونوں کا جھگڑا ختم نہیں ہو گا تو فرمایا: میرے لئے ایک آری لے آئیں۔ عورتوں نے پوچھا کیا کرو گے؟ فرمایا: اس بچے کو دو حصے کرتا ہوں اور ہر ایک کو اس کا آدھا حصہ دوں گا۔ اس وقت ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت چپ رہی، لیکن دوسری نے (روکر) کہا: اے ابو الحسن! اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو میں یہ بچہ اس عورت کو بخش دیتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ اکبر! یہ بچہ تمہارا بیٹا ہے، اس کا نہیں، اگر اس کا بیٹا ہوتا اس کا دل تڑپ جاتا اور اس پر رحم کھاتی۔ یہاں پر اس عورت نے اعتراف کیا کہ حق اس عورت کا ہے اور یہ بچہ بھی اس کا ہے۔ حضرت عمر اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیلئے دعا کی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کے ذریعے ان کی پریشانی کو دور کر دیا تھا۔

### درہموں کا فیصلہ:

((بالاسناد، عن حنث بن المعتمر قال: ان رجلىن اتيا امراة من قريش فاستودعا هامائة دينار وقال: لا تدفعيها الى احد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولاً، ثم جاء احد هما اليها وقال: ان صاحبى قد مات فادفعى الى الدنائير فابت شقل عليها باهلها، فلم يز الوابها حتى دفعتها اليه، ثم لبثت حولاً آخر فجاء الاخر فقال: ادفعى الى الدنائير فقالت: ان صاحبك جاءنى و زعم انك قدمت فدفعتها اليه، فاختصما الى عمر فارadan يقضى عليها وقال لها: ما اراك الله ضامنة، فقالت: انسدك الله ان تقضى بيننا وارفعنا الى علیہ بن ابی طالب فرفعها الى علی وعرف انهما قد مکرا بها، فقال:ليس قلت ما لا تدفعها الى واحد منا دون صاحبه؟ قال: بلی قال: فان مالک عندنا، اذهب فجیء بصاحبک حتى ندفعها اليکما فبلغ ذلك عمر فقال: لا ابقاني الله بعد ابن ابی طالب))

”حlesh بن معتمر کہتا ہے کہ دو مردوں نے ایک سو دینار بطور امانت ایک قریشی عورت کے پاس رکھے اور اسے کہا: اس امانت کو اگر ہم میں سے کوئی ایک آئے تو نہ دینا جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئیں۔ ایک سال گزر جانے کے بعد ان میں سے ایک شخص اس عورت کے پاس آیا اور کہا: میرا دوست مر چکا ہے، دینار مجھے دے دو۔ اس عورت نے دینے سے انکار کیا۔ وہ شخص اس عورت کے خانوادہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اس عورت نے کہیں کہ میری امانت واپس کر دے۔ اس کے خانوادہ نے اس عورت کو اتنا مجبور کیا کہ اس نے لا چار ہو کر وہ دینار اس مرد کو دے دیئے۔ مزید ایک سال گزر نے کے بعد اس مرد کا دوست آیا اور اس عورت سے کہا: دینار مجھے دے دو۔ عورت نے کہا: ایک سال پہلے تمہارا دوست میرے پاس آیا اور

مجھے کہا کہ تم مر چکے ہو، میں نے تو دینار اسے واپس کر دیئے۔ اس فیصلے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس عورت کے خلاف حکم صادر کریں۔ اس عورت سے کہا: تم ضامن ہو۔ عورت نے کہا: اللہ کے لئے میرا یہ فیصلہ آپ نہ کریں اسے علی پر چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ان دونوں نے اس عورت کے ساتھ وہ حکم اور فریب کیا ہے۔ آپ نے اس آدمی سے کہا: کیا تم دونوں نے اس عورت سے نہیں کہا تھا کہ دینار تم میں سے ایک شخص کو نہ دے۔ اس شخص نے کہا: جی ہاں! ہم نے اسے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا: آپ کا مال ہمارے پاس ہے۔ تم جاؤ اور اپنے دوسرے ساتھی کو ساتھ لے گراؤ تو تاکہ تمہاری امانت واپس کی جائے۔ جب اس فیصلے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے کہا: اے اللہ! مجھے ابو طالب کے بیٹے کے بعد زندہ نہ رکھنا۔“

### حضرت علیٰ اور ایک یہودی:

جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفين میں شرکت کے لئے تیار ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ گی زرہ کھو گئی ہے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور آپ کوفہ واپس تشریف لائے تو ایک یہودی کے پاس آپ نے اپنی زرہ دیکھی۔ آپ نے اس سے فرمایا:

”زرہ تو میری ہے، نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے اور نہ ہبہ کیا ہے پھر یہ تیرے پاس کیے آگئی۔؟“  
اس نے کہا:

”یہ زرہ میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔“

آپ نے فرمایا:

”میں قاضی کے پاس چاتا ہوں تاکہ وہ فیصلہ کر دے۔“

چنانچہ آپ قاضی شریع کے پاس آئے اور ان کے برابر بیٹھ گئے اور قاضی شریع سے کہا:

”اگر میرا مخالف یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے برابر ہی عدالت میں مخصوص مقام پر کھڑا ہوتا، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہود کو ختیر سمجھا ہے تو تم بھی ان کو ختیر سمجھو۔“  
قاضی شریع نے کہا:

”آپ کا دعویٰ کیا ہے۔؟“

آپ نے فرمایا:

”یہ زرہ میری ہے، نہ میں نے اس کو فروخت کیا ہے، نہ ہبہ۔“

قاضی شریع نے یہودی سے پوچھا:

”تمہارا کیا جواب ہے۔؟“

یہودی نے کہا:

”زرہ میری ہے اور میرے قبضہ میں ہے۔“

قاضی شریح نے کہا:

”یا امیر المؤمنین! آپ کا کوئی گواہ بھی ہے۔؟“

آپ نے فرمایا:

”ہاں ہے! میرا ایک غلام قنبر اور میرا فرزند حسن۔“

قاضی شریح نے کہا:

”بیٹے کی گواہی باب کے واسطے (مقدمہ میں) درست نہیں ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

”اہل جنت کی گواہی نادرست و ناجائز ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین اہل جنت کے سردار ہیں۔“

بات یہاں تک ہی پہنچی تھی کہ اس یہودی نے باؤاز بلند کہا:

”اے امیر المؤمنین! آپ مقدمہ کے تصفیہ کے لئے مجھے قاضی کے پاس لے آئے ہاں جو دیکھ آپ امیر المؤمنین (صاحب اختیار) ہیں اور پھر قاضی نے آپ سے اس طرح جرح کی جس طرح عام لوگوں سے کی جاتی ہے۔ یہی آپ کے دین کی سچائی ہے۔ بیشک زرہ آپ ہی کی ملکیت ہے۔ میں مسلمان ہوتا ہوں۔“

یہ کہہ کر کلمہ پڑھ لیا۔



## فصل نمبر 35

حزم علی رضی اللہ عنہ:

### حضرت علی رضی اللہ عنہ کی استقامت

مخالفین حق کے ساتھ جنگ:

((عن علی رضی اللہ عنہ : ولعمری ما علی من قتال من خالف الحق و خابط الغی من ادھان ولا ایهان))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے اپنی جان کی قسم! میں کبھی بھی حق کے مخالفین اور گمراہ لوگوں کے

ساتھ جنگ میں ستنیں کروں گا۔“

### حضرت علی اللہ کے معاملے میں خوشامد نہیں کرتے:


((عن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : لا تشكوا علينا، فوالله انه لا خشن في ذات الله))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی سے کوئی شکایت نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کے پارے میں خوشامد نہیں کرتا۔“

### حضرت علی دین کا ستون:

((وقال (النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) : على عمود الدين، وقال: هذا هو الذي يضرب الناس بالسيف على الحق بعدي))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی دین کا ستون ہے اور فرمایا: یہ وہ ہے جو حق کے دفاع کی خاطر تواراٹھا کر لوگوں سے لڑے گا۔“



فصل نمبر 36:

من کرامات علی:

### کرامات علی المرتضی

قبروالوں سے گفتگو:

حضرت سعید بن مسیتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں گئے تو آپ نے قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر باؤ ازا بلند فرمایا:

”اے قبروالو! السلام علیکم ورحمة اللہ! کیا تم لوگ اپنی خبریں ہمیں سناؤ گے یا ہم تم لوگوں کو تمہاری خبریں سنائیں؟“

اس کے جواب میں قبروں سے آواز آئی:

”وعليک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ“ اے امیر المؤمنین! آپ ہی ہمیں سنائیے کہ ہماری موت کے بعد ہمارے گھروں میں کیا کیا کیا معاملات ہوئے؟“

حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”قبروالو! تمہارے بعد تمہارے گھروں کی خبریہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے دوسرے لوگوں سے نکاح کر

لیا اور تمہارے مال و دولت کو تمہارے وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیا اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے پیغمبر ہو کر درپھر رہے ہیں اور تمہارے مضبوط اور اوپنے بھلوں میں تمہارے دشمن آرام اور چین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔“

اس کے جواب میں قبر والوں میں سے ایک مردہ کی یہ دردناک آواز آئی:

”اے امیر المؤمنین! ہماری خبر یہ ہے کہ ہمارے کفن پرانے ہو کر پھٹ پکے ہیں اور جو کچھ ہم نے دنیا میں خرچ کیا تھا اس کو ہم نے یہاں پالیا ہے اور جو کچھ ہم دنیا میں چھوڑ آئے تھے اس میں ہمیں گھانا اٹھانا پڑتا ہے۔“

(جیۃ اللہ علی العالمین، جلد 2، صفحہ 823)

### اللہ پر توکل:

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کے سامنے میں ایک مقدمہ کا فیصلہ فرمانے کے لئے بیٹھ گئے۔ درمیان مقدمہ میں لوگوں نے شور مچایا: ”اے امیر المؤمنین! یہاں سے اٹھ چائیے یہ دیوار گردہ ہی ہے۔“

آپ نے نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ فرمایا:

”مقدمہ کی کارروائی چاری رکھو! اللہ تعالیٰ بہترین حافظ و ناصروگہاں ہے۔“

چنانچہ اطمینان کے ساتھ آپ اس مقدمہ کا فیصلہ فرما کر جب وہاں سے چل دیئے تو فوراً وہ دیوار گرنی۔

### قہ خیر کا دروازہ:

جنگ خیبر میں جب گھسان کی جنگ ہونے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا پھاٹک اکھاڑ ڈالا اور اس کے ایک کوڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواروں کو روکتے تھے۔ یہ کوڑ اتنا بھاری تھا کہ جنگ کے خاتمہ کے بعد چالیس آدمی مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکے۔“

(زرقانی، جلد 2، صفحہ 230)

### غلام کا کٹا ہاتھ:

ایک جبشی غلام امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی مخلص محبت تھا۔ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی۔ لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن الکراء سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ابن الکراء نے پوچھا:

”تمہارا ہاتھ کس نے کٹا ہے؟“

غلام نے کہا:

”امیر المؤمنین و یعقوب اسلامیں داما در رسول وزوج بتول نے۔“

ابن الکراء نے کہا:

”علی نے تو تمہارا ہاتھ کاٹ دیا پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام اور مدح و شاء کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو؟“

غلام نے کہا:

”کیا ہوا؟ انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹ اور مجھے عذاب جہنم سے بچایا۔“

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور امیر المؤمنین سے اس کا تذکرہ کیا تو امیر المؤمنین نے اس غلام کو بلوا کر اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کی کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا۔ پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک غیبی آواز آئی:

”رومال ہٹاؤ۔!“

جب لوگوں نے رومال ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا۔

(تفسیر کبیر، جلد 5، صفحہ 479)

### نہر فرات کی طغیانی:

ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آگئی کہ سیلا ب میں تمام کھیتیاں غرق ہو گئیں۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربار گوہربار میں فریاد کی۔ آپ فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جہہ مبارک و عمائدہ زیب تن فرمایا کہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آدمیوں کی ایک جماعت جس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ کے ساتھ چل پڑی۔ آپ نے پل پر پہنچ کر اپنے عصاء سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو نہر کا پانی ایک گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید ایک گز کم ہو گیا۔ جب تیسرا بار اشارہ کیا تو تین گز پانی اتر گیا اور سیلا ب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے شور مچا دیا:

”امیر المؤمنین! بس کجھے! ابھی کافی ہے۔“

### آپ کو جھوٹا کہنے والا اندھا ہو گیا:

علی بن زازان کا بیان ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو ایک بد نصیب نے نہایت ہی بے ہا کی کے ساتھ کہہ دیا:

”اے امیر المؤمنین! آپ جھوٹے ہیں۔“

آپ نے فرمایا:

”اے شخص! اگر میں سچا ہوں تو ضرور تو قبر الہی میں گرفتار ہو جائے گا۔“

اس گستاخ نے کہہ دیا:

”آپ میرے لئے بد دعا کیجئے! مجھے اس کی پرواہیں ہے۔“

اس کے منہ سے ان الفاظ کا لکھنا تھا کہ بالکل ہی اچانک وہ شخص دونوں آنکھوں سے انداھا ہو گیا اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔

### فانج زدہ کا دعا سے صحت یا ب ہونا:

علامہ شااج الدین سکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”طبقات“ میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شاہراوگان امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ درمیانی رات میں ناگہاں یہ سنا کہ ایک شخص بہت ہی گڑگڑا کر اپنی حاجت کے لئے دعا مانگ رہا ہے اور زار زار رورہا ہے۔ آپ نے حکم دیا:

”اس شخص کو میرے پاس لاو۔“

وہ شخص اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے بدن کی ایک کروٹ فانج زدہ تھی اور وہ زمیں پر گھستا ہوا آپ کے سامنے آیا۔ آپ نے اس کا مقصد دریافت کیا تو اس نے عرض کیا:

”اے امیر المؤمنین! میں بہت ہی بے باکی کے ساتھ قسم کے گناہوں میں دن رات منہمک رہتا تھا اور میرا باپ جو بہت ہی صالح اور پابند شریعت مسلمان تھا بار بار مجھ کو نوکتا اور اور گناہوں سے منع کرتا رہتا تھا۔ میں نے ایک دن اپنے باپ کی نصیحت سے ناراض ہو کر اس کو مارا اور میری مار کھا کر میرا باپ رنج و غم میں ڈوبا ہوا حرم کعبہ میں آیا اور میرے لئے بد دعا کرنے لگا۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بالکل اچانک میری ایک کروٹ پر فانج کا اثر ہو گیا اور میں زمیں پر گھست کر چلنے لگا۔ اسی غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر اپنے باپ سے اپنے جرم کی معافی طلب کی۔ میرے باپ نے اپنی شفقت پدری سے مجبور ہر کر مجھ پر حرم کھایا، مجھے معاف کر دیا اور کہا: بیٹا! چل جہاں میں نے تیرے لئے بد دعا کی تھی اسی جگہ اب میں تیرے لئے صحت و سلامتی کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ میں اپنے باپ کو اونٹ پر سوار کر کے مکہ مظہرہ لارہا تھا کہ راستے میں بالکل ناگہاں اونٹی ایک مقام پر بدک کر بھاگنے لگی اور میرا باپ اس کی پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان ہلاک ہو گیا اور اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں آ کر دن رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی تند رستی کے لئے دعا میں مانگتا رہتا ہوں۔“

امیر المؤمنین نے ساری سرگزشت سن کر فرمایا:

”اے شخص! اگر واقعی تیرا باپ تجھ سے خوش ہو گیا تھا تو اطمینان رکھ کہ اللہ کریم بھی تجھ سے خوش ہو گیا ہے۔“

اس نے کہا:

”اے امیر المؤمنین! میں بے حلف شرعی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا بابا مجھ سے خوش ہو گیا تھا۔“

امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی حالت زار پر رحم کھا کر اس کو تسلی دی اور چند رکعت نماز پڑھ کر اس کی تندرتی کے لئے دعا مانگی۔ پھر فرمایا:

”اے شخص! اللہ کھڑا ہو جا۔“

یہ سنتے ہی وہ شخص بلا تکلف کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ آپ نے فرمایا:

”اے شخص! اگر تو قسم کھا کر یہ نہ کہا ہوتا کہ تیرا بابا مجھ سے خوش ہو گیا تھا تو میں ہرگز تیرے لئے دعا نہ کرتا۔“

(حجۃ اللہ علی العالمین، جلد 2، صفحہ 863)

### سابقہ باتوں سے باخبری:

امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ خلافت سے کچھ دور ایک مسجد کے پہلو میں دو میاں بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صحیح کو امیر المؤمنین نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا۔ شوہر نے عرض کیا:

”اے امیر المؤمنین! میں کیا کروں نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے انہا نفرت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی۔ پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لٹائی ہوتی رہی۔“

آپ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا کہ دیکھ میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا صحیح جواب دینا۔“

پھر آپ نے فرمایا:

”اے عورت! تیرا نام یہ ہے، تیرے بابا کا نام یہ ہے۔“

عورت نے کہا:

”بالکل ٹھیک ٹھیک آپ نے بتایا ہے۔“

پھر آپ نے فرمایا:

”اے عورت! یاد کر کہ تو زنا کاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی۔ جب دردزہ شروع ہوا تو تیری ماں تجھے اس گھر سے باہر لے گئی اور جب پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا، تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا لیکن وہ پتھر بچے کو لوگا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ تیری ماں کو بچے پر رحم آگیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئیں، اس کے بعد اس بچے کی تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہیں ملی۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟“

عورت نے کہا:

”ہاں اے امیر المؤمنین! یہ پورا وقوعہ حرف بحروف صحیح ہے۔“

پھر آپ نے فرمایا:  
”اے مرد تو اپنا سر کھول کر اس کو دکھادے۔“

مرد نے سر کھولا تو اس زخم کا نشان موجود تھا۔ امیر المؤمنین نے فرمایا:  
”اے عورت! یہ مرد تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ تیرا بیٹا ہے۔ تم دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم دونوں  
کو حرام کاری سے بچالیا۔ اب تو اپنے اس بیٹے کو لے کر اپنے گھر پہنچ جا۔“

### چشمہ کاظہور:

مقام صفين کو جاتے ہوئے حضرت علی کا شکر ایک ایسے میدان سے گزر اجہاں پانی نایاب تھا۔ پورا شکر پیاس کی  
شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں کے گھر جا گھر میں ایک راہب رہتا تھا اس نے بتایا کہ یہاں سے دو کوس کے فاصلے پر  
پانی مل سکتے گا۔ کچھ لوگوں نے اجازت طلب کی تاکہ وہاں سے جا کر پانی پیں۔ یہن کر آپ اپنے خچر پر سوار گئے اور  
ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا:

”اس جگہ تم لوگ زمین کو کھو دو۔“

چنانچہ لوگوں نے زمین کی کھدائی شروع کر دی تو ایک پتھر ظاہر ہوا۔ لوگوں نے اس پتھر کو نکالنے کی انتہائی کوشش  
کی لیکن تمام آلات بے کار ہو گئے اور وہ پتھرنہ نکل سکا۔ یہ دیکھ کر آپ کو جلال آگیا اور آپ نے اپنی سواری سے اتر کر  
ہستین چڑھائی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس پتھر کی درازی میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے  
ایک نہایت ہی صاف شفاف اور شیریں پانی کا چشمہ ظاہر ہو گیا اور تمام شکر اس پانی سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے  
جانوروں کو بھی پانی پلایا اور شکر کی تمام مشکلوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ نے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گر جا گھر کا عیمائی  
راہب آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سامنے آیا اور آپ سے دریافت کیا:

”کیا آپ فرشتہ ہیں؟“

آپ نے کہا:  
”نہیں۔“

اس نے پوچھا:

”کیا آپ نبی ہیں؟“

آپ نے فرمایا:  
”نہیں۔“

اس نے کہا:

”پھر آپ کون ہیں؟“

آپ نے فرمایا:

”میں پیغمبر مرسل حضرت محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔“

یہ سن کو وہ عیسائی را ہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا:

”تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہ کیا تھا؟“

راہب نے کہا:

”ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب جو ایک چشمہ پوشیدہ ہے اس چشمہ کو وہ شخص ظاہر کرے گا جو یا تو نبی ہو گایا نبی کا صحابی ہو گا۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ اب آپ نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد برآئی اس لئے میں نے آپ کے دین کو قبول کر لیا۔“

راہب کی تقریر سن کر آپ روپڑے اور اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا:

”الحمد للہ! ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میراذ کر ہے۔“

یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کے خادموں میں شامل ہو گیا اور آپ کے لشکر میں داخل ہو کر شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ آپ نے اس کو اپنے دست مبارک سے دفن کیا اور اس کے لئے مغفرت کی دعا فرمائی۔

(شوادر المبہوت، صفحہ 124)



## فصل نمبر 37

شجاعۃ علیٰ رضی اللہ عنہ:

### سیدنا علیٰ کی شجاعت و بہادری

اسد اللہ:

شجاعت میں حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی بے مثل تھی۔ اللہ نے آپ کو بازوئے خیبر و مکن اور پنجہ شیر افغان عطا فرمایا۔ بارگاہ نبوت سے اسد اللہ کا لقب عطا ہوا۔ غزوہ بدر سے شہادت تک قدم قدم پر فقید الشال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔

### ہمت و استقلال:

((وَكَانَ عَلَيَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : وَاللَّهُ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْأَعْرَابُ عَلَىٰ قَتَالٍ لَمَا وَلِيَتْ عَنْهَا،  
وَلَوْ أَمْكَنَتِ الْفَرَصَ مِنْ رِقَابِهَا، لَسَارَعَتِ الْيَهُودُ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا: اللہ کی قسم! اگر (کفار) عرب جنگ میں پوری طاقت کے ساتھ  
میرے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو میں کبھی بھی پیغامیں دکھاؤں گا اور اگر مجھے موقع ملا تو ان کی گرد نہیں  
ازانے کیلئے ان پر حملہ کروں گا۔“

### موت سے بھاگنا میں جاسکتا:

((عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَاطِبٍ: كَانَ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا أَرَادَ القَتْالَ هَلْلُ وَكَبْرٌ ثُمَّ قَالَ:)

إِنَّ يَوْمَ الْمَوْتِ إِنَّمَا يَوْمٌ افْرَارٌ

يَوْمٌ مَا قَدِرْتُمْ يَوْمٌ قَدْرٌ؟

”عبد الرحمن بن حاطب کہتے ہیں کہ جس وقت علیٰ رضی اللہ عنہ جنگ کا ارادہ کرتے تھے تو لا الہ الا اللہ اور  
نکبیر کہتے تھے اور فرماتے تھے: کس دن میں موت سے بھاگ سکتا ہوں؟ آیا اس دن کہ میری موت مقدر  
نہیں ہوئی یا اس دن کہ میری موت مقدر بی؟“

### حضرت علیٰ کو جرنیل بنا کر بھیجننا:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مَا بَعْثَتُ  
عَلَيَا فِي سَرِيَةٍ إِلَّا رَأَيْتُ جَبَرَائِيلَ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلَ عَنْ يَسِيرَهِ وَالسَّحَابَةَ تَظَلَّهُ حَتَّىٰ  
يُرْزَقَهُ اللَّهُ الظَّافِرَ))

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے  
کبھی بھی علیٰ کو لشکر کا سردار بنایا کرنہیں بھیجا مگر یہ کہ جبراًئیل ان کی دائیں طرف اور میکائیل کو ان کی بائیں  
طرف دیکھتا تھا اور باطل ان پر سایہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کا میابی ان کو نصیب کرتا۔“

### تموارذ والفقار:

((بِالْأَسْنَادِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: اعْطُانِي  
رَبِّي ذَا الْفَقَارَ (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ اعْطَانِي ذَا الْفَقَارَ) قَالَ يَا مُحَمَّدُ، خَذْهُ وَاعْطُهُ خَيْرًا  
أَهْلَ الْأَرْضِ، فَقُلْتَ: مَنْ ذَلِكَ يَا رَبِّي؟ قَالَ: خَلِيفَتِي فِي الْأَرْضِ عَلَىٰ بْنَ أَبِي طَالِبٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے

مجھے ذوالفقار عطا کی اور فرمایا: اے محمد! اس کو لے لو اور زمین پر لوگوں میں سے بہترین فرد کو دے دو۔ میں نے کہا: پروردگار اس زمین پر لوگوں میں سے بہترین فرد کون ہے؟ فرمایا: علی بن ابی طالب جو اس زمین پر میرا جائشیں ہے۔

### غزوہ بدر اور اکیس کفار:

حق و باطل کے اس پہلے معرکہ میں جب قریش کی صفت سے تین بہادر جو بڑے نامی تھے، نے نکل کر مسلمانوں کو مقابلہ کے لیے للاکارا تو ان کی دعوت پر تین انصاریوں نےلبیک کہا۔ قریش کے بہادرروں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ مدینہ کے نوجوان ہیں تو لڑنے سے انکار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوکارا:

”اے محمد! ہمارے مقابلہ میں ہمارے ہمسر آدمی بھیجو۔“

اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے تین عزیزوں کے نام لیے: حمزہ، علی اور عبیدہ۔ تینوں اپنے حریقوں کے سامنے میدان میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وارد میں تنقیح کر دیا، اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آکر عام جملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نفرہ تکبیر کے ساتھ کفار میں گھس گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے صفیں کی صفائی کی اور علی دیں اور ذوالفقار حیدری نے بھلی کی طرح چمک چمک کر اعداءے اسلام کے جسموں کو جہنم کا ایندھن بنایا۔ اس پیکر شجاعت نے اس معرکہ میں 21 کفار کو جہنم واصل کیا۔

((قال جعفر بن محمد: نادی ملک من السماء يوم بدر يقال له رضوان: لا سيف الا

ذوالفقار ولا فتنى الا على))

”امام جعفر بن محمد باقر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جنگ بدر میں ایک فرشتہ نے جس کا نام رضوان تھا آسمان سے صد ابلند کی: ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں اور علی کے علاوہ کوئی شجاع اور جوان مرنہ نہیں۔“

### غزوہ أحد:

بدر میں ذیل و خوار ہونے کے بعد مشرکین نے ارادہ کیا کہ اپنی تمام قوت کو یکجا کے کے مسلمانوں پر اس زور کا حملہ کیا جائے تاکہ وہ ختم ہو جائیں۔ عام لوگ شاید یہ خیال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو واحد میں شکست ہوئی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جس پہاڑ پر تعینات فرمایا تھا وہ وہاں سے یہ سمجھ کر آگے بڑھ گئے کہ کفار کو شکست ہو گئی ہے۔ جس مقام پر سے صحابہ نے جگہ چھوڑی اسی جگہ سے کفار نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے کفار آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور سر مبارک پر بھی زخم آیا۔ کافی صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھیڑا ڈال لیا تاکہ آپ کی حفاظت کی جائے۔ دوران حفاظت حضرت مصعب بن عمير رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ یہ شکل و شاہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس کے بعد علم (جنہڑا) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنہالا۔ مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے مقابلہ کے لئے للاکارا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر ایسا حملہ کیا کہ وہ خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور معرکہ کے بعد آپ کو گھر لے آئے اور آپ کی تیارواری میں لگ گئے۔

((وروى عن جعفر بن محمد عن علی بن الحسين عن أبيه قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم لعلی بن ابی طالب رضی الله عنہ : يا ابا الحسن! الواضع ایمان الخلائق واعمالهم فی کفة ووضع عملک یوم احد فی کفة اخری لرجوع عملک علی جميع الخلائق، والله تعالیٰ باهی بك یوم احد ملائكته المقربین، ورفع الحجاب من السماء، واشرقت بك الجنة وما فيها وابتھج ب فعلك العالمون وان الله تعالیٰ يعوضك بذلك اليوم ما يغبطك به کل نبی ورسوله وصديق و شهید))

”جناب جعفر بن محمد باقر نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے اپنے والد علی بن حسین زین العابدین سے اور انہوں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ابو الحسن! اگر تمام مخلوق کا ایمان اور اعمال کو ترازو کے ایک پڑے میں اور جنگ احمد میں تمہارے عمل کو دوسرے پڑے میں رکھا جائے تو تمہارا عمل مخلوق کے تمام اعمال سے افضل ہو گا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب ملائکہ کے ساتھ جنگ احمد میں آپ پر افتخار کیا ہے اور آسمان سے پرده ہٹا دیا، بہشت اور اس میں تمام چیزوں کو تمہارے وسیلہ سے نورانی کر دیا، اور عقل مند تمہارے عمل سے خوشحال ہیں، اور اللہ اس دن کے بد لے میں تمہیں ایسی چیزیں عطا کرے گا کہ ہر پیغمبر اور رسول اور صدیق اور شہید اس کے آرزومند ہوں گے۔“

### غزوہ خندق:

غزوہ خندق میں قریش اور دوسرے قبائل جن کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی خندق کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ان میں ایک دیو قامت شخص عمر و بن عبد و بھی تھا۔ جس کی دھماک اس کی جسمات کی وجہ سے دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عمر و بھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا تھا اور پانچ آدمیوں پر بھاری تھا۔ عکرمہ بن ابو جہل نے جواب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا:

”جو آپ میں سے سب سے بہادر ہے اسے لاو۔ وہ میرے اس آدمی کا مقابلہ کر کے اگر اس کو گرا دے تو تم ہم سب کو قتل کر دینا۔“

مسلمانوں کی قیام گاہ میں کھلبی بھی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بے قابو نہ ہونے دیا۔ عمر و بن عبد نے کہا:

”قسم ہے جہل اور عزم کی! تم میں سے مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا جو میرا مقابلہ کر سکے۔“

اس موقع پر حیدر کار جناب علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسالت مأب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ کائنات کے اس عظیم شجاع نے سیاح لامکاں کی بے مثل آنکھوں کی طرف دیکھا جہاں سے اذن مل چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اپنا عمامہ حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھا اور دعا دی۔ حضرت علیٰ عمر و کے مقابلہ میں گئے۔ وہ گھوڑے سے اتر اور حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس زور سے دار کیا کہ لوگ سمجھئے کہ اس کی تلوار نے حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام تمام کر دیا ہے، لیکن آپ وار بچا گئے۔ عمر نے کئی وار کیے اور حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر متوقع طور پر اپنے آپ کو بچایا اور پھر حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے اس زور کا حملہ کیا کہ عمر و کی گروں کث گئی اور نخوت و گھمنڈ کا یہ پہاڑ ریت کے ذریوف میں مل گیا اور جہنم واصل ہوا۔“

((عن النبیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ : انه قال: لضربة علىٰ لعمرو تعادل عبادة الثقلين))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ کا عمر و کو ایک ضرب لگانا جن و انس کی عبادت کے برابر ہے۔“  
((لما دعا عمرو بن عبدود الى البراز يوم الخندق ولم يجده احد قال علىٰ رضي الله عنه : جعلت فداك يا رسول الله! تاذن لي؟ قال : الله عمرو بن عبدود، قال : انا علىٰ بن ابي طالب، فخرج اليه فقتله))

”جس وقت جنگ خندق میں عمر بن عبدود نے جنگ کا مطالبہ کیا تو کسی نے بھی اس کو جواب نہ دیا۔ حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: آیا مجھے اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ عمر بن عبدود ہے۔ علیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں بھی علیٰ بن ابی طالب ہوں۔ بس اس کی طرف بڑھے اور اس کو واصل جہنم کیا۔“

((وروى الطبرسى اىضاً احاديث فى وقعة الخندق، وفيها: ان علياً رضي الله عنه قتل عمرو ابن عبدود كان بعد بالف فارس بعد ما دعا له النبىٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ، فقال : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق راسه ومن تحت قدميه))

”طبری نے خندق کے واقعہ کے بارے میں روایت لقول کی کہ حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے اس عمر بن عبدود کو قتل کیا جو ایک ہزار سوار کے برابر تھا۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیٰ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا کی اور فرمایا: اے اللہ! اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں سر سے لے کر قدموں تک اس کی حفاظت فرماء۔“

((عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لما برأ علىٰ الى عمرو بن عبدود قال النبىٰ صَلَّی

الله علیہ وسلم : بروز الایمان کلہ الی الشرک کلہ فلما قتلہ ، قال له ابشر یا علی فلووزن عملک الیوم بعمل امتی لرجوع عملک بعملهم))

”حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لقیل ہوا ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر و بن عبدود کے مقابلے کیلئے روانہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جارہا ہے۔ جس وقت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو واصل جہنم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے علی اختمیں مبارک ہو! تمہارے اس عمل کا امت کے اعمال سے وزن کیا جائے تو تمہارا عمل سب سے زیادہ بھاری ہو گا۔“

((ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اذن لعلی رضی اللہ عنہ فی لقاء عمرو بن عبدود و خرج الیه قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : بروز الایمان کلہ الی الشرک کلہ))

”جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو عمر و بن عبدود سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی اور علی رضی اللہ عنہ اس کی طرف روانہ ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پورا ایمان پورے شرک کے مقابلے میں ظاہر ہو گیا ہے۔“

((عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ضربة علی فی يوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القيامة))

”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنگ خندق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک ضرب قیامت تک میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔“

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال: لمبارزة علی بن ابی طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق افضل من عمل امتی الی یوم القيامة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب کا جنگ خندق میں عمر و بن عبدود سے جنگ کرنا قیامت تک میری امت کے تمام اعمال سے افضل ہے۔“

### غزوہ خیبر:

7 ہجری میں خیبر پر فوج کشی ہوئی۔ یہاں پر یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے موجود تھے جن کا مفتوج ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تسبیح پر مأمور ہوئے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔“

جب صحیح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ جھنڈا سے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”علی کہاں ہیں؟“

لوگوں نے عرض کیا:

”ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔“

فرمایا:

”انہیں بلاو۔“

چنانچہ انہیں لا یا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا العاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا۔ جناب علی ایسے اچھے ہو گئے کویا انہیں کوئی درد تھا ہی نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا اعطایا۔

(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

علم ملنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھے اور ہر سے یہودیوں کا سردار مرحب بڑھے جوش و خروش کیسا تھا یہ رجز پڑھتا ہوا کہا:

قد علمت خیرانی مرحب

شاکی السلاح بطل مجرب

اذ الحروب اقبلت تلهب

”خیر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش بہادر اور تجربہ کار ہوں جب کہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔“

فائر خیر نے اس متكلبرانہ رجز کا جواب دیا:

انا الذي سمعتني امي حيدره

كليث غابات كريه المنظره

”میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا۔“

یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے اور جھپٹ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قوت حیدری نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے ہی قلعہ کے دروازہ کو اکھاڑا ڈالا اور دوران جنگ ایک ہاتھ میں نکلا اور ایک ہاتھ میں دروازہ تھامے ہوئے تھے اور بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔

اس دروازہ کو چالیس آدمی ہمت کر کے اٹھا سکتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”اللہ قسم! اس دروازہ کو میں نے اپنی جسمانی قوت سے نہیں بلکہ ایمانی قوت کے ساتھ اکھاڑا تھا۔“

((وروی ان امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ قال : فی رسالتہ الی سہل بن حنیف : وَاللَّهُ مَا قلعت باب خیر بقوة جسدیة، ولا بحرکة غذائیة لکنی ایدت بقوۃ ملکوتی، ونفس بنور ربها مضیئة، وانا من احمد کالضوء من الضوء، والله لو تظاهرت العرب على قتالی، لما ولیت ولو امکنتنی الفرصة من رقابها لما بقیت ، وَمَنْ لَمْ يَبَلِ مُتَى حتفه عليه ساقط فجناه فی الملمات رابط))

”امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو خط سہیل بن حنیف کو لکھا اس خط میں فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے دروازہ خیر کو اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھاڑا اور نہ ہی غذا کی طاقت سے، بلکہ عالم ملکوتی اور روحانی قوت سے اور اللہ کے نور (قرآن) سے میری تاسید ہوئی ہے اور میری احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ایسے ہے جیسے روشنی کی روشنی سے۔ اللہ کی قسم! اگر عرب لوگ پوری طاقت سے میرے مقابلے کیلئے میدان جنگ میں آ جائیں تو میں پیغمبر نہیں دکھاؤں گا اور اگر ان پر مسلط ہونے کی فرصت ملی تو ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا، ہاں اگر کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ کس وقت موت آئے گی تو اس کا دل حالات اور واقعات سے مضبوط ہوتا ہے۔

((عن جابر بن عبد اللہ : ان علیاً رضی اللہ عنہ حمل الباب يوم خیر حتى صعد المسلمين عليه ففتحوها))

”حضرت چابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جنگ خیر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیر کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا یہاں تک کہ مسلمان قلعہ خیر پر چڑھ گئے اور خیر کو فتح کیا۔“

((عن ابن جریر الطبری صاحب المسترد: انه رضی اللہ عنہ حمل باب خیر بشمالہ وهو اربعۃ اذرع فی خمسۃ اشبار عمما حجراً صلداً دون یمینہ فاثر فیہ اصابعہ وحملہ بغیر مقبض یترس به فضارب الاقرن بسیفہ حتی هجم علیہم ثم زجه من ورائه اربعین ذراعاً))

”ابن جریر طبری صاحب مسترد سے نقل ہوا ہے کہ خیر کا دروازہ جو چار گز اور پانچ بالشت موٹا اور خالص پتھر سے بنا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے اس طرح اٹھایا کہ اس پر آپ کی الگیوں کے نشان پڑ گئے اور وہ دروازہ جو بغیر کنڈے کے تھا اس کو اٹھا کر اپنی ڈھال بنایا اور وہ شنوں پر وار کیے اس کے بعد دروازے کو اپنی پشت سے چار گز دور پھینک دیا۔“

((وفي رواية: انه كان طول الباب خمسة عشر ذراعاً، وعرض الخندق عشرة اذرع فوضع جانباً على طرف الخندق وضبط بيده جانبأً حتى غير عليه العسكر و كانوا

ثمانیہ آلاف و سبعمائہ رجیل و فیہم من کان یتردد و یجف علیه))

”خیر کے دروازے کی لمبائی پندر گز تھی اور (خیر میں کھوئی گئی) خندق کی چوڑائی دس گز تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دروازے کے ایک حصے کو خندق پر رکھا اور دوسرے حصے کو ہائٹھ پر اٹھایا یہاں تک کہ لشکر اس کے اوپر سے گزرا اور لشکر کی تعداد آٹھ ہزار سات سو افراد پر مشتمل تھی اور ان میں پیدل اور سوار بھی موجود تھے۔“

### جنگ صفين:

کامل ابن اثیر میں ہے کہ لشکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صرف ہارہ جال شاروں کو ساتھ لے کر لشکر معاویہ پر حملہ گردیا اور پورے لشکر کو بیرون ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ کے قریب پہنچ گئے اور پا کار کر فرمایا:


”اے معاویہ اطرافین کے لوگ مفت میں مارے جائیں کیا فائدہ؟ آؤ! میرے مقابلہ میں نکلو! جو اپنے حریف کو مار دے وہی مستقل ہو جائے۔“

عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا:

”علیٰ کی بات تو ثحیک ہے۔“

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا:

”تم جانتے ہو کہ ان کا مقابلہ کرنے جو جاتا ہے وہ زندہ نہیں پہتا؟ میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں تم مجھے مردا نا چاہتے ہو۔ مجھے معاف رکھو!“



### فصل نمبر 38:

### علیٰ صاحب اللواء:

## حضرت علیٰ صاحبِ عکم

### رسول اللہ کے علمبردار:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علیٰ صاحبِ لواء))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ میرے علم بردار ہیں۔“

### حمد و ثناء کے جھنڈے کے علمبردار:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علیٰ صاحبِ لواء الحمد))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی حمد و شکر کے علمدار ہیں۔“

### جنگ بدروں کے دن:

((عن ابن عباس : ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفع الرایہ الی علی رضی اللہ عنہ یوم بدروں ہو ابین عشرين سنہ))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدروں میں پرچم علی رضی اللہ عنہ کے پرداز کیا جو اس وقت بیس سال کے تھے۔“

### مختلف غزوات میں علم:

((عن ابن عباس قال : كانت رایة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع علی رضی اللہ عنہ فی المواقف كلها يوم بدروں و يوم احد و يوم حنين و يوم الاحزاب و يوم فتح مکہ، وكانت رایة الانصار مع سعد بن عبادۃ فی المواطن كلها، و يوم فتح مکہ و رایة المهاجرین مع علی رضی اللہ عنہ))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ تمام جنگوں میں مثلاً: جنگ احد، حنين، احزاب اور فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا پرچم ان تمام جنگوں میں اور فتح مکہ میں سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا اور مهاجرین کا پرچم بھی علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔“

### قیامت کے دن رسول اللہ کا جھنڈا:

((وفي حديث جابر بن سمرة قالوا : يا رسول الله من يحمل رايتك يوم القيمة؟ قال : من عسى ان يحملها يوم القيمة الا من كان يحملها في الدنيا على بن ابي طالب))

”حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ سے نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: قیامت کے دن آپ کا علم کون اپنے ہاتھ میں لے گا؟ آخھرست صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب کے علاوہ جو اس دنیا میں میرے علمدار ہیں قیامت کے دن کون میرے پرچم کو اٹھائے گا۔؟“

((عن جابر بن سمرة قال : قيل : يا رسول الله ، من صاحب لوانك في الآخرة؟ قال : صاحب لوانى في الآخرة صاحب لوانى في الدنيا ، على بن ابى طالب رضى الله عنہ))

”حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا: قیامت کے دن آپ کے علمدار کون ہیں؟ فرمایا: آخرت میں میرے علمداروں ہی ہیں جو اس دنیا میں میرے علمدار ہیں وہ علی بن ابی طالب ہیں۔“

### غزوہ خیر کا علم:

((عن سلمة بن عمرو بن الاکوع قال: بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا بکر برایته وکانت بیضاء، فيما قال ابن هشام الى بعض حضور خیر فقاتل فرجع ولم یک فتح وقد جهد، ثم بعث بعد الغد عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع ولم یک فتح وقد جهد، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :لا عطین الرایۃ غدًا رجلاً یحب اللہ ورسوله یفتح اللہ علیٰ یدیه لیس بفرار قال: یقول سلمة: فدع ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیاً وهو ارمد فتفل فی الخیر، ثم قال: شد هذه الرایۃ فامض بها حتى یفتح اللہ علیک))

”حضرت سلمہ بن عمرو بن اکوع سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو اپنے پرچم کے ساتھ جس کارگ سفید تھا، خیر کے قلعوں میں سے ایک قلعہ پر بھیجا جائی ابو بکر نے جنگ کی اور واپس لوٹ آئے۔ کافی کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے دوسرے دن حضرت عمر بن الخطاب کو بھیجا۔ انہوں نے بھی جنگ کی اور واپس لوٹ آئے۔ کوشش کے باوجود کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کل علم اس کو دوں گا جسے اللہ اور خیر دوست رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی بھاگنے والے نہیں اور اللہ نے بھی فتح اس کے ہاتھ میں قرار دی ہے۔ سلمہ کہتی ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلا یا، اس وقت علی رضی اللہ عنہ آنکھ کے درد میں بمتلا شتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ان کی آنکھ میں ڈالا اور فرمایا: اس پرچم کو لے کر چلیں تاکہ اللہ کامیابی اور فتح کو آپ کے ہاتھ میں قرار دے۔“

((عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : لا عطین الرایۃ غدًا رجلاً یحب اللہ ورسوله ویحیه اللہ ورسوله کروار اغیر فرار یفتح اللہ علیہ، جبرئیل عن یمنہ و میکائیل عن یسارہ، فبات الناس متشوقين، فلما اصبح قال : این علی؟ قالوا : یا رسول الله ما یبصر، قال : ائتو نی بہ، فلما اتی بہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ادن منی، فدنا منه، فتفل فی عینیہ ومسحها بیدہ فقام علی من بین یدیہ کانہ لم یرمد))

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں علم ایک ایسے مرد کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور خیر کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا خیر بھی اس کو دوست رکھتے ہیں۔ وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا اور ہرگز فرار بھی نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو اس کے ہاتھ میں قرار دیا ہے۔ جبرائیل اس کی دائیں طرف اور میکائیل دائیں طرف ہوں

گے۔ پس لوگوں نے بڑے شوق اور اشتیاق کے ساتھ پوری رات گزاری۔ صبح سوریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ کہا گیا: یا رسول اللہ! علی کی آنکھ میں درد ہے۔ فرمایا: ان کو میرے پاس لے آئیں۔ جس وقت علیٰ رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: میرے ترب آؤ! حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ان کی آنکھ میں ڈالا اور اس کو صاف کیا۔ حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایسی حالت میں اٹھے گویا کہ ان کی آنکھ میں درد ہی نہیں تھا۔“

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم :لا عطین الرایۃ غدار جلا کرارا غیر فرار  
یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله یفتح الله علی یدیه))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں علم اس مرد کے ہاتھ میں دوں گا جو دشمن کا مقابلہ کرے گا اور میدان نہیں چھوڑے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ اللہ کا میابی کو اس کے ہاتھ میں عطا کرے گا۔“

((فقال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم :لا عطین الرایۃ غدا رجلایحب الله  
ورسوله ویحبه الله ورسوله ، کرارا غیر فرار یا خذها عنوة وفى روایة: یا خذها بحقها،  
وفى روایة: لا يرجع حتى یفتح الله علی یده البخاری و مسلم انه قال :لما قال النبي  
صلی الله علیہ وآلہ وسلم حدیث الرایۃ بات الناس یذکرون لیلتهم ایهم یعطاهما، فلما  
اصبح الصبح غدوا علی رسول الله کلهم یرجو ان یعطاهما، فقال: این علی بن ابی  
طالب؟ فقيل: هو یشکی عینیه: فقال: فارسلوا اليه، فاتی به فتفل النبی صلی الله علیہ  
وآلہ وسلم فی غینیه و دعا له فبرء ، فاعطاه الرایۃ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا اور ہرگز فرار نہیں کرے گا اور پرچم کو بڑے کمال اور فروتنی سے حاصل کرے گا۔ ایک اور روایت میں نقل ہوا ہے کہ علم کو حق سے لے گا اور دوسری روایت میں نقل ہوا ہے کہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ذریعہ سے کامیابی حاصل نہیں کرے گا۔ بخاری اور مسلم میں بھی نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بعد لوگ اس فکر میں تھے کہ آیا کل یہ علم ہم میں سے کس کو دیا جائے گا۔ پوری رات بیدار رہے، صبح سوریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب کی خواہش یہی تھی کہ علم ان کو دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ کہا گیا: ان کی آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا: کسی کو ان کو بلانے کیلئے بھیجیں۔ علیٰ رضی اللہ عنہ تعریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن

ان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا فرمائی۔ علی رضی اللہ عنہ شفایا ب ہو گئے اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کو عطا کیا۔“

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال يوم خیبر: لا عطین الرایۃ غدار جلا  
یحب اللہ ورسوله، ويحبه اللہ ورسوله ليس بفارار، یفتح اللہ علی هدیه، ثم دعا بعلی  
وهو ارمد، فتفل فی عینیه ، واعطاہ الرایۃ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر میں فرمایا: کل میں پرچم ایک ایسے مرد کو دوں گا جو اللہ اور اس  
کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے دوست رکھتے ہیں۔ وہ کبھی بھی فرانشیں  
کرے گا اور اللہ اس کے دیلے سے کامیابی اور فتح عطا کرے گا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا۔  
علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں درد ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں  
لگایا اور علم ان کو عطا کیا۔“

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : لا عطین الرایۃ۔ غدار جلا یحبه اللہ  
ورسوله۔ او قال : یحب اللہ ورسوله یفتح اللہ علیہ فاذا نحن بعلی ومان رجوهم،  
 فقالوا: هذا علی، فاعطاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرایۃ ففتح اللہ علیہ))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کل علم اس کو دوں گا (یا مجھ سے وہ علم لے گا) جسے اللہ اور اس کا  
رسول دوست رکھتے ہیں (یا فرمایا: وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے) اور اللہ اسے کامیابی عطا  
کرے گا۔ حاضرین مجلس کہتے ہیں: دوسرے دن علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میں ان کے آنے کی  
امید نہیں تھی۔ سب نے کہا: علی آئے ہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کے پر دکیا اور اللہ  
نے ان کو کامیابی عطا کی۔“

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : لا دفعن الرایۃ الی رجل یحب اللہ  
ورسوله یحبه اللہ ورسوله یفتح اللہ بینہ۔ فاستشرف لها اصحابه فدفعها الی  
علی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں علم اسے پرداز کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا  
ہے اور اللہ اور رسول بھی اسے دوست رکھتے ہیں اور اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس وقت رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب نے سراخا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم علی رضی اللہ عنہ  
کے حوالے کیا۔“

فصل نمبر 39:عدد جراحات علی و حزن النبی له:

## جناب علی کے زخم اور ان پر رسول اللہ کا غمگین ہونا

زخموں کامنا:

((وعن انس قال : اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعلی رضی اللہ عنہ یوم شد یعنی یوم احد، وعلیہ نیف وستون جراحة من طعنة وضربة ورمیة فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمسحها وھی تلتئم باذن اللہ کان لم تکن))

"حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا: جنگ احد میں علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا یا گیا تو اس وقت انہیں ساٹھ کے لگ بھگ تیروں، تلواروں اور نیزوں کے زخم لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخموں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے اذن سے زخم آپس میں مل گئے گویا کہ زخم تھے ہی نہیں۔"

رسول اللہ کا زخم علی دیکھ کر روتا:

((عن ابی الدنیا المعمر المغربی قال : سمعت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یقول : جرحت فی وقعة خیبر خمس و عشرين جراحة، فجئت الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما رأی ما بی بکی واخذ من دموع عینیه فجعلها على الجراحات فاسترحت من ساعتی))

"ابوالدنیا مہتر مغربی کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے جنگ خیبر میں پھیپھی زخم کھائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت دیکھی تو روپڑے، اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو میرے زخموں پر گرے تو فوراً ہی مجھے سکون مل گیا۔"

ایک ہزار زخم:

((الاختصاص: ذکروا سبعين خصلة مجتمعة في امير المؤمنين رضي الله عنه : ترك الشكایة في موضع الم الجراحة و كتمان ما وجد في جسده من اثر الجراحات من قوله الى قدمه، وكانت الف جراحة في سبيل الله، وقالوا: انصرف امير المؤمنين رضي الله

عنه من احد و به ثمانون جراحة يدخل الفتايل من موضع و يخرج من موضع، فدخل عليه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عایداو هو مثل المضفة على نطع، فلما راه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکی و شكتا المرايانه ای الجراحات، الى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما يلقى وقالت: يا رسول الله قد خشينا علیه مما تدخل الفتاييل في موضع الجراحات من موضع الى موضع و كتمانه وما يجد من الالم، قال: فعدما به من اثر الجراحات عند خروجه من الدنيا فكانت الف جراحة من قرنه الى قدمه))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ستر خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ بھی تھی کہ کبھی بھی اپنے زخموں کے درد کو محسوس نہ کیا اور ان پر سر سے لے کر قدموں تک زخموں کے آثار تھے لیکن ان آثار کو چھپایا ہوا تھا۔ ان کو راه الہی میں ایک ہزار کے لگ بھگ زخم لگے تھے۔ روایت میں نقل ہوا ہے کہ جس وقت امیر المؤمنین جناب علی المرتضیٰ جنگ أحد سے واپس لوٹے تو اس وقت ان کے بدن پر اسی زخم تھے اور زخم اتنے گھرے اور عیق تھے کہ جس وقت زخم پر پٹی پاندھتے تھے تو دوسرے حصے سے زخم ظاہر ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کیلئے تشریف لائے، اس وقت علی رضی اللہ عنہ روندے ہوئے گوشت کی طرح ایک چڑے پر سوئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی تورونے لگے۔ وکنیریں جو علی رضی اللہ عنہ کے زخموں کی مرہم پٹی کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کی اور کہا: یا رسول اللہ! ہمیں علی کے زخموں کا خوف ہے۔ ہم جس جگہ پر بھی پٹی کرتی ہیں دوسری جگہ سے زخم ظاہر ہو جاتے ہیں اور انہوں نے درد کو چھپایا ہوا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد زخموں کے آثار کو گناہ گیا تو سر سے لے کر قدموں تک ایک ہزار زخموں کے آثار موجود تھے۔“

### غزوہ احد میں زخموں کی تعداد:

((عدد جراحات امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ باحد علی تسعون اربعون، وست

عشرہ ضربة، وسقط الى الارض في اربع منها، وثمانون))

”جنگ احد میں امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے زخموں کی تعداد نوے تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی کے زخموں کی تعداد چالیس تھی اور رسولہ ضربہ میں لگی ہوئیں تھیں اور چار ضربوں کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔“



## فصل نمبر 40:

### ذکر قول النبی من سب علیاً فقد سبّنی:

جس نے علی کو برا کھا پس اس نے مجھے (رسول اللہ کو) برا کھا

#### حدیث نمبر 1:

((احبرنا العباس بن محمد الدوری، قال: سمعت یحییٰ بن ابی بکیر، قال: اخبرنا اسرائیل، عن ابی عبدالله الجدلی، قال: دخلت علی ام سلمة، فقالت: ای سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم؟ فقلت: سب حان اللہ، او معاذ اللہ، قالت: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من سب علیاً فقد سبّنی))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 441 رقم 8422 طبع ۲ خرج ۵ ص 133 رقم 8476، منhadج 6 ص 323 رقم 4673، 4674، 4676، 4677، 4677، نظائل الصحابة ج 2 ص 36 رقم 1011، المستدرک للحاکم ج 3 ص 120 رقم 27284، شرف المصلیع ج 5 ص 502، اتحاف الخیرۃ الحمرۃ ج 7 ص 202 رقم 6670، مجمع الزوائد ج 9 ص 130 رقم 14740، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 266، مختصر تاریخ دمشق ج 17 ص 366، الریاض المنظرة ج 4 ص 106، سیر اعلام البدایل للذہبی (سیرت) ص 624، البدایل والنھایۃ ج 5 ص 469 طبع جدید ج 7 ص 584، مشکاة رقم 692، الجامع الصیغیر رقم 8736، ازالۃ الخفاء ج 4 ص 450، مناقب علی واحسین وامھما فاطمة الزهراء ص 32، السلسلۃ الصحیحة ملا البانی ج 3 ص 288)

”حضرت ابو عبد اللہ الجدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام المؤمنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا: کیا تمہاری مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا: سب حان اللہ یا معاذ اللہ! فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا: جس شخص نے علی کو سب و شتم کیا تو اس نے مجھے سب و شتم کیا۔“

#### حدیث نمبر 2:

((احبرنا عبدالاعلیٰ بن واصل بن عبدالاعلیٰ الكوفی، قال: حدثنا جعفر بن عون، عن شقیق بن ابی عبد اللہ، قال: حدثنا ابو بکر ابن خالد بن عرفطة، قال: رأیت سعد ابن ابی وقارص بالمدینۃ، فقال: ذکر لی انکم تسبوون علیاً، قلت: قد فعلنا، قال: لعلک سببته؟ (قلت: معاذ اللہ، قال: لا تسبه، فان وضع المنشار علی مفرقی علی ان اس ب علیاً ماسببته بعد ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما سمعت))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 441 رقم 423 و طبع آخر ج 5 ص 133 رقم 8477، مندا بابی یعلیٰ ج 1 ص 327 رقم 773، اتحاف الخیرۃ الکھرۃ ج 7 ص 201 رقم 6669، کتاب الشذلابن الی عاصم ص 590 رقم 1353، مصنف ابن الی شیبۃ ج 6 ص 375 رقم 32113، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 412، مختصر تاریخ دمشق ج 18 ص 28، جمع الجواجم ج 3 ص 137 رقم 467، المقصد العلیٰ فی زوائد مندا بابی یعلیٰ للموصلی رقم 7331، الطالب العالیٰ ج 4 ص 64 رقم 3967)

”حضرت ابو بکر بن خالد بن عرفطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سعد بن مالک بن ابی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ مقدسہ میں دیکھا تو آپ نے مجھے فرمایا: ہمیں ذکر کیا گیا ہے کہ تم حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہو؟ میں نے کہا: ہم نے ایسا کیا ہے۔ فرمایا: شاید تو نے بھی انہیں برا کہا ہے؟ میں نے کہا: مجاز اللہ۔ فرمایا: انہیں کبھی برامت کہنا! پس اگر میری چوٹی پر آری رکھ دی جائے تاکہ میں انہیں برا کہوں تو میں انہیں کہوں گا؛ بعد اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ساتھا جو ساتھا۔“



## فصل نمبر 41

### الترغیب فی مولاۃ علیٰ والترہیب من معاداته:

## علیٰ سے محبت کی ترغیب اور آپ سے عداوت پر ترہیب

### حدیث نمبر 1:

((اخبرنی هارون بن عبد اللہ البغدادی الحمال، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا فطر بن خلیفة عن ابی الطفیل و اخبرنا ابو داود قال: حدثنا محمد بن سلیمان قال: حدثنا فطر عن ابی الطفیل عامر بن وائلة قال: اجمع علی الناس فی الرحبة، فقال: انشد بالله کل امریء سمع من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال يوم غدیر خم (ما سمع فقام اناس، فشهدوا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال يوم غدیر خم) الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من الفسهم وهو قائم ثم اخذ بيده على فقال: من كنت مولاہ فعلی مولاہ، اللهم وال من والاہ، وعاد من عاداه قال ابو الطفیل: فخر جت وفی نفسی منه شیء فلقيت زید بن ارقم (فاخبرته، فقال: او ما تذكر؟) و اخبرنا، فقال: تشك؟ انا سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا بی داود))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 130 رقم 4092 وص 437 رقم 443 وص 410 رقم 8428 طبع آخر  
ص 5 رقم 45 وص 130 وص 134 وص 134 رقم 8464، مند احمد ج 1 ص 152 رقم 1311، مند ابی یعلیٰ ج  
ص 1 رقم 257 وص 563 وص 560 رقم 6392، تحفۃ الاخبار بترتیب شرح مشکل الآثار ج 9 ص 177 رقم 6586،  
ص 6487 رقم 6490، 6491، 6492، 6492، 3942، مصنف ابن ابی هبیبة ج 6 ص 371 رقم 32082 وص 32083،  
رقم 375 وص 32109، اتحاف الخیرۃ الکھر ۃ ج 7 ص 211، 6684، 6688، 6690، 6691، مختصر زاد المیز للعقلانی  
ج 2 ص 2302 رقم 900، 1901، 1902، 1907، الطالب العالیہ بزواں المسانید الشامیۃ للعقلانی  
ج 4 ص 60 رقم 3958، استحباب ارتقاء الغرف ج 1 ص 347)

”حضرت فطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو لطفیل عامر بن واٹلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک کشادہ مقام پر جمع کیا، پھر فرمایا: میں تم سے ہر اس شخص کو قسم دیتا ہوں جس نے ”غدرِ خم“ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا وہ بیان کرے۔ اس پر کچھ حضرات نے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ انہوں نے ”غدرِ خم“ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا: کیا تم نہیں جانتے کہ میں اہل ایمان کی جانوں سے بھی قریب تر ہوں؟ اور اس وقت آپ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا: میں جس کا مولیٰ ہوں علی بھی اس کا مولیٰ ہے۔ اے اللہ! جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت کرو اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ حضرت ابو لطفیل کہتے ہیں: میں باہر آیا اور میرے دل میں اس حدیث کے متعلق کچھ فک تھا، پس میری ملاقات حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو میں نے انہیں یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے فرمایا: کیا تم فک یا انکار کرتے ہو؟ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سناتھا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔“

## حدیث نمبر 2:

((اخبرنا زکریا بن یحییٰ، قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا ابراهيم، قال:  
حدثنا معن قال: حدثني موسى بن يعقوب، عن المهاجر بن مسما، عن عائشة بنت  
سعد وعامر بن سعد (عن سعد) ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خطب (الناس)  
فقال: اما بعد، ايها الناس! فاني ولیکم، قالوا: صدقت، ثم أخذ بيده على فرفعها، ثم قال:  
هذا ولیي والموذی عنی، والی الله من ولاه وعادی من عاداه))

(السنن الکبریٰ ج 7 ص 409 رقم 8340 وص 442 رقم 4425 وص 3897 رقم 107 وص 134 رقم 8479 طبع آخر ج 5 ص 134 وص 409 رقم 409)

”حضرت مهاجر بن مسما حضرت عائشہ بنت سعد اور عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تو حمد و ثناء کے بعد فرمایا: اے لوگو! پیشک میں تمہارا ولی ہوں۔ سب نے عرض کیا: آپ نے حق فرمایا۔ پھر

آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا، پھر ارشاد فرمایا: یہ میراولی ہے اور میری طرف سے ادا کرنے والا ہے۔ جو شخص اس کے ساتھ محبت کرے اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے اور جو اس سے دشمنی رکھے اللہ اس سے دشمنی رکھنے والا ہے۔“

### حدیث نمبر 3:

((احبرنا احمد بن عثمان البصری ابوالجوزاء) قال (حدثنا ابن عشمة) قال: حدثنا موسیٰ بن یعقوب عن المهاجرین مسمار) ابن عینیة بنت سعد عن سعد قال: اخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بید علی فخطب فحمد اللہ واثنی علیہ ثم قال: المستم تعلمون الم تعلمو انى اولی بکم من انفسکم قالوا: نعم صدقت يا رسول الله ثم اخذ بید علی فرفعها فقال: من كنت ولیه فهذا ولیه وان الله ليوالی من والا ويعادی من عاداه))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 442 رقم 8426 وطبع آخر ج 5 ص 134 رقم 8480)

”حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا: کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہاری جانوں سے بھی قریب تر ہوں۔ سب نے کہا: یا رسول اللہ! پیش ک آپ نے حق فرمایا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا: میں جس کا ولی ہوں تو یہ بھی اس کا ولی ہے اور بے شک اللہ اس شخص سے محبت رکھتا ہے جو اس سے محبت کرے اور اس سے دشمنی رکھتا ہے جو اس سے دشمنی رکھے۔“

### حدیث نمبر 4:

((احبرنا زکریا بن یحییٰ) قال: حدثنا (محمد بن یحییٰ) قال: حدثنا یعقوب بن جعفر بن ابی کثیر الزمعی عن مهاجرین مسمار) قال: أخبرتنی عائشة بنت سعد عن سعد قال: كنامع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بطريق مكة وهو متوجه (وجه) اليها فلما بلغ غدير خم وقف الناس ثم زد من مضى ولحقه من تخلف فلما اجتمع الناس اليه قال: ايها الناس (هل بلغت) قالوا نعم قال: اللهم اشهد ثلاث مرات يقولها ثم قال: ايها الناس من ولیکم؟ قالوا: الله ورسوله۔ ثلاثا۔ ثم اخذ بید علی فاقامه ثم قال: من كان الله ورسوله ولیه فهذا ولیه اللهم وال من والا وعاد من عاداه))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 443 رقم 8427 وطبع آخر ج 5 ص 135 رقم 8481)

”حضرت مهاجر بن مسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عائشہ بنت سعد نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ ہم مکہ مظہر کے راستہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور اس

وقت آپ مکہ المکرمة کی طرف جا رہے تھے جب آپ غدر خم کے مقام پر پہنچ تو لوگوں کو ظہرا دیا اور جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلا لیا اور جو پیچھے تھے وہ آپ پہنچے۔ سو جب تمام لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا: لوگو! کیا میں نے تبلیغ پوری کر دی؟ سب نے عرض کیا: جی ہاں، آپ نے تم مرتبتہ عرض کیا: اے اللہ! گواہ رہنا۔ پھر فرمایا: اے لوگو تمہارا ولی کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول۔ یہ سوال وجواب تین مرتبہ ہوا۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کھڑا کیا پھر فرمایا: جس شخص کا اللہ اور اس کا رسول ولی ہے تو یہ بھی اس کا ولی ہے۔ اے اللہ! اس سے محبت فرماجو اس سے محبت کرے اور اس سے نفرت فرماجو اس سے عداوت رکھے۔“

### حدیث نمبر 5:

((اخبرنا اسحق بن ابراهیم بن راہویہ) قال: اخبرنا النضر بن شمیل قال: اخبرنا الجلیل بن عطیة) قال: حدثنا عبد الله بن بردیدة قال: حدثني أبي قال: لم أجد الناس أبغض على (لم يكن أحد من الناس أبغض إلى) من علي بن أبي طالب حتى أحببت رجلاً من قريش، ولا أحبه إلا على بغض على، فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبه، (و) ما صحبه إلا على بغض على، قال: فاصبنا سبياً، قال: فكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبعث (إن يبعث) الينا من يخمسه، فبعث علينا علياً، وفي السبي وصيفة من أفضل السبي، فلما خمسه صارت (الوصيفة) في الخمس، ثم خمس فصارت في أهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم ثم خمس فصارت في آل علي، فاتانا ورأسه يقطر، فقلنا: ما هذا؟ فقال: الم تروى إلى الوصيفة، فانها صارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي، فوقيعات عليها، فكتب وبعث معنا مصدق للكتابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق لما قال على، فجعلت أقراعه يقول صدقاً (صدق) واقول: صدق، فامسك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بردیدة! أتبغض علياً؟ نعم، فقال: لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدادله حباً، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة، فما كان أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى من على رضي الله عنه قال عبد الله بن بردیدة: والله ما في الحديث بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 443 رقم 8428 وطبع آخر ج 5 ص 135 رقم 8482، بخاری رقم 4350 (مخصر)، منhadj ج 5 ص 351 رقم 23355 وص 356 رقم 23400 وص 359 رقم 23424، فضائل الصحبة ج 2 ص 856 رقم 1175، 1177، 1179، 1180، المستدرک للحاکم ج 2 ص 129 رقم 2635 و ج 3 ص 109 رقم 4635، تحفة الاخيار

بترتیب شرح مشکل الآثار ج 5 ص 496 رقم 3589، السنن الکبریٰ للباقی ج 6 ص 342 رقم 12957، معنی السنن والآثار للباقی رقم 4001، مختصر تاریخ دمشق ج 17 ص 348، 349، اریاض النظر ج 4 ص 111، 112 زاد المغافل ج 5 ص 637، مجمع الزوائد ج 9 ص 127 رقم 14730، مناقب علیٰ و الحسین للفواد عبد الباتی ص 724)

”حضرت عبد اللہ بن بریدۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد (بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میرے بزرگ کوئی شخص ناپسندیدہ نہیں تھا حتیٰ کہ ایک قریبی شخص سے میری دوستی ہو گئی اور اس کا سبب بھی بعض علی تھا۔ پس اس شخص کو ایک لشکر پر مقرر کیا گیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور میری اس نگت کا سبب بھی بعض علی تھا۔ پس ہم نے کچھ لوگوں کو قیدی بنایا تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ بھیجا کہ آپ ایسے شخص کو ہماری طرف روانہ فرمائیں جو ہمارے درمیان تقسیم کرے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور قیدیوں میں ایک ”وصیفہ“ (نوع مراثی کی) تھی جو تمام قیدیوں سے افضل تھی۔ پس جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصے کیے تو وہ اہل بیت کے خمس میں آگئی، پھر حصہ کیے تو آل علی کے حصہ میں آئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے تشریف لائے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹک رہے تھے۔ ہم نے کہا: یہ کیا؟ فرمایا: کیا تم نے اس وصیفہ کو نہیں دیکھا تھا؟ وہ خمس میں آگئی تھی، پھر اہل بیت کے حصہ میں چلی گئی تھی، پھر آل علی کے حصہ میں آئی تو میں نے اسے قربت بخشی۔ اس پر اس (میرے ساتھی) نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا اور مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتراف پر گواہ کے طور پر اس (پیغام رسائی) شخص کے ساتھ بھیجا۔ پس میں نے خط سنا تا شروع کیا اور وہ کہتا رہا: یہ حق ہے۔ یہ حق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا: اے بریدہ! کیا تو علی کے ساتھ بعض رکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: اس سے بعض نہ رکھ اور اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو محبت میں اضافہ کر۔ اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، خس میں آل کا حصہ اس وصیفہ سے زیادہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! اس حدیث میں میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ما بین میرے والد کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔“

### حدیث نمبر 6:

((أخبرنا الحسين بن حرثيث المروزي، قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن الأعمش، عن أبي اسحق، عن سعيد بن وهب، قال: قال عليٌ كرم الله وجهه في الرحمة: انشد بالله من سمع رسول الله صلی الله علیہ وسلم يوم عدیر خم يقول: إن الله ورسوله ولی المؤمنین، ومن كنت وليه، فهذا وليه، اللهم وال من والا وعاد من عاداه، وانصر من نصره؟ قال:

فقال سعید: قام الی جنبی ستة' وقال زید بن یثیع: قام عندي ستة' وقال عمرو ذی مر: احباب من احبه' وابغض من ابغضه' وساق الحديث۔ رواه اسرائیل عن ابی اسحق عن عمرو ذی مر: احب))

(سن الکبری للساکی ج 7 ص 439 رقم 419 وص 444 وص 466 رقم 489 وطبع آخر ص 132 رقم 136 وص 8473 وص 154 وص 8483 رقم 8542)

"حضرت سعید بن وصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کشادہ مقام میں (خطاب کے دوران) فرمایا: میں اس شخص کو قسم دیتا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غدرِ خم کے روز ارشاد فرماتے ہوئے سناتھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مومنوں کا ولی ہے اور جس شخص کا میں ولی ہوں تو یہ بھی اس کا ولی ہے۔ اے اللہ! اس شخص کا ولی ہو جا جو اس کو ولی بنائے اور اس سے عداوت فرما جو اس سے عداوت رکھئے اور اس کی مدد فرمائو۔ حضرت سعید بن وصب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میرے قریب سے چھو افراد کھڑے ہوئے اور حضرت زید بن یثیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میرے نزدیک بھی چھو افراد کھڑے ہوئے (اور گواہی دی)۔ عمرو ذی مر نے یہ الفاظ بھی نقل کیے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: اے اللہ! اس سے محبت فرما جو اس سے محبت کرے اور اس سے بغض فرما جو اس سے بغض رکھے۔ آخر حدیث تک، ان الفاظ کو اسرائیل نے ابو اسحاق شیباعی سے اور انہوں نے عمرو ذی مر سے روایت کیا ہے۔"

### حدیث نمبر 7:

((خبرنا علی بن محمد بن علی قال: حدثنا خلف (بن تمیم) قال: حدثنا اسرائیل، قال: حدثنا ابو اسحاق عن عمرو ذی مر، قال: شهدت عليا بالرحمة ينشد أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم: ايكم سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يوم غدير خم ما قال؟ فقام اناس فشهدوا انهم سمعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاها اللهم والي من والاها وعاد من عادها، وأحب من احبه، وابغض من ابغضه، وانصر من نصره))

(السنن الکبری للساکی ج 7 ص 444 رقم 430 وص 136 رقم 138، مند احمد ج 1 ص 118 رقم 950، مند المز ارج 3 ص 35 رقم 786، فیہ مانتقاہ ابن مردویہ ص 101 رقم 105)

"حضرت ابو اسحاق عمرو ذی مر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحن میں دیکھا۔ آپ اصحاب محمد کو قسم دے کر دریافت کر رہے تھے کہ تم میں سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غدرِ خم کے روز بیان کرتے ہوئے سناتھا: میں جس کا مولی ہوں تو علی بھی اس کا

مولیٰ ہے۔ اے اللہ! جو شخص اس سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھا اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھا اور جو اس سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 42:

### الفرق بين المؤمن والمنافق:

### مؤمن اور منافق میں فرق

#### حدیث نمبر 1:

((أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء الكوفي قال: حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عدی بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي كرم الله وجهه قال: والله الذي فلق الحبة برأ النسمة أنه لعهد النبي الامي صلني الله عليه وسلم انه لا يحبني الا مومن ولا يغضبني الا منافق))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 312 رقم 8097 وص 445 رقم 8431 وص 47 رقم 8153 وص 731 رقم 8485، من ذمہ حجج 1 ص 842 رقم 642 وص 731 وص 195 وص 128 رقم 1062 وص 292 رقم 2704 وذن سلمة فضائل الصحبة ج 2 ص 696 رقم 498 وص 704 رقم 961، صحیح مسلم رقم اکسلس 240 (78)، سنن الترمذی ص 849 رقم 3736، سنن النسائی ج 8 ص 116 رقم 5033، سنن ابن ماجہ رقم 114، مصنف ابن الہیۃ ج 6 ص 368 رقم 5037، سنن الحمیدی ج 1 ص 31 رقم 58، البحر الزخار المعروف بمسند ابی ارج 2 ص 182 رقم 560، کتاب الذ لابن الہیۃ عاصم ص 584 رقم 1325، مسند ابی یعلی ج 1 ص 154 رقم 276 وص 217 رقم 441، کتاب الایمان لابن مندة ج 1 ص 415 رقم 261، معزفہ علوم الحدیث للحاکم ص 180، البدایۃ والنحویۃ ج 5 ص 469، 470، الاحسان برتبی صحیح ابن حبان ج 9 ص 40 رقم 6885، مشکاۃ ج 2 ص 503 رقم 6088)

”حضرت زر بن حبیش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اُس اللہ جل جلالہ کی قسم جس نے دانے کو چیرا اور چاندار کو پیدا فرمایا! بیشک نبی اُمیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مجھے (علی) سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور میرے ساتھ بغض نہیں رکھے مگر منافق۔“

#### حدیث نمبر 2:

((أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا وكيع عن الاعمش عن عدی بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه قال: عهدي لي (الي) النبي صلني الله عليه

وسلم انه لا يجني الا مومن ولا يبغضنى الامنافق))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 445 رقم 8432 وطبع آخر ج 5 ص 137 رقم 486) بہامشقاۃ والغرائب الحسان للصوری ص 38))

”حضرت زر بن جیش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: پیشک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عہد دیا کہ مجھے (علی) سے محبت نہیں کرنے گا مگر مومن اور میرے ساتھ بغرض نہیں رکھے گا مگر منافق۔“

### حدیث نمبر 3:

((اخبرنا یوسف بن عیسیٰ (قال) اخبرنا الفضل بن موسیٰ 'عن الاعمش' عن عدی (بن ثابت) عن زرقا: (قال) علی : انه لعهد النبی (النبی) صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يحبك الا مومن ولا يبغضك الا منافق))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 445 رقم 8433 وطبع آخر ج 5 ص 173 رقم 8487)

”حضرت عدی بن ثابت حضرت زر بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نبی اُمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: اے علی! تجھے سے محبت نہیں کرنے گا مگر مومن اور تجھے سے بغرض نہیں رکھے گا مگر منافق۔“

☆☆☆

### فصل نمبر 43:

#### ذکر المثل الذي ضربه رسول الله لعلی:

**اس مثال کا ذکر جس کو رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے بیان فرمایا**

((اخبرنا ابو جعفر محمد بن عبد اللہ بن المبارک المخمری، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: اخبرنا ابو حفص البار، عن الحكم بن عبد الملك، عن الحارث بن حصيرة، عن ابي صادق، عن ربيعة بن ناجذ، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاعلی فیک مثل من مثل عیسیٰ، ابغضه اليهود حتی بهتوا امه، واحببته النصاری حتی انزلوه المنزد الذي ليس به))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 446 وطبع آخر ج 5 ص 137 رقم 8488، مند احمد ج 1 ص 160 رقم 1376، 1377)

فضائل الصحابة ج 2 ص 743 رقم 1025 وص 793 رقم 1087 وص 887 رقم 1221، البحر الزکار المعروف  
 بمسند المزدوج ج 3 ص 11 رقم 758، زوائد المسند لعبدالله بن احمد ص 411 رقم 195 وص 412 رقم 196، السنۃ لعبدالله بن احمد  
 ص 233 رقم 1266، 1267، 1268، 1269، 1270، 1271، من درابی یعلی الموصی ج 1 ص 247 رقم 530،  
 المستدرک للحاکم ج 3 ص 122 رقم 4680، کشف الاستار ج 3 ص 202 رقم 2566، ذخیر العقی ص 11، 112،  
 الریاض النظرۃ ج 4 ص 167، البدایۃ والنھایۃ ج 5 ص 470 وطبع آخر ج 7 ص 586، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص  
 293، مختصر تاریخ دمشق ج 17 ص 737، 374، مجمع الزوائد ج 9 ص 133 رقم 14762، الفتح لمیین فی فضل الخلفاء  
 الرashدین ص 249، مشکاة ج 2 ص 505 رقم 502، الصواعق الگرفۃ 123، اتحاف الخیرۃ الکفرۃ  
 ج 7 ص 205 رقم 6676)

”حضرت ربعیہ بن ناجذ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 نے فرمایا: اے علی تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی مانند مثال موجود ہے۔ ان کے ساتھ یہود نے بغض رکھا  
 حتیٰ کہ ان کی والدہ پر تھمت لگادی اور عیسائیوں نے ان سے محبت کی اور انہیں اس مرتبہ پر پہنچا دیا جس  
 کے وہ مستحق نہیں تھے۔“



فصل نمبر 44:

### ذکر منزلة علی وقربه من النبي:

## حضرت علی کی منزلت اور نبی کریم سے ان کی قربت

حدیث نمبر 1:

((اخبرنا اسماعیل بن مسعود البصري، قال: حدثنا (خالد، عن) شعبة عن أبي اسحاق،

عن العلاء بن عرار، سال رجل ابن عمر عن عثمان، قال: كان من الذين تولوا يوم التقى

الجماعان، فتاب الله عليه ثم اصاب ذنبًا فقتلوه، فسألهم الله عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،

فقال: لا يسأل عنه، الا ترى منزلة من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 446 رقم 8435 وطبع آخر ج 5 ص 137 رقم 8489، مصنف عبدالرازق ج 5 ص 311،

رقم 312 رقم 9829، فضائل الصحابة ج 2 ص 736 رقم 1012، مجمع الاوسط ج 2 ص 38 رقم 1166، مجمع البحرین ج

ص 374، مجمع الزوائد ج 9 ص 115 رقم 14675، ازالۃ الخفاء ج 4 ص 458)

”حضرت علاء بن عرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے غزوہ احمد میں پسپائی دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، پھر ان سے کچھ بھول ہوئی تو لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: ان کے متعلق مت پوچھو! کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا مرتبہ نہیں دیکھا؟۔“

### حدیث نمبر 2:

((خبرنی هلال بن العلاء بن هلال) قال: حدثنا زهير عن أبي اسحاق، عن العلاء بن عرار، قال: سالت عبد الله بن عمر قلت: الا تحدثني عن علي و عثمان؟ قال: أما على فهذا بيته من بيت (حب) رسول الله صلی الله علیہ وسلم ولا احدثك عنه بغيره، واما عثمان فإنه اذنب يوم احد ذنبًا عظيمًا (فعفا) عفى الله عنه، واذنب فيكم ذنبًا صغيرًا فقتلتموه))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 446 رقم 8436 وطبع آخر ج 5 ص 138 رقم 8490)

”حضرت علاء بن عرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ نہیں بتاتے؟ فرمایا: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ ان کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ایک محبوب گھر ہے اور میں تم کو ان کے متعلق اس کے سوا اور کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے أحد کے دن عظیم غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور تمہارے درمیان ان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی تو تم نے ان کو قتل کر دیا۔“

### حدیث نمبر 3:

((خبرنا احمد بن سليمان الرهاوی) قال: حدثنا عبد الله، قال: اخبرنا اسرائیل، عن ابی اسحق، عن العلاء بن عرار قال: سالت عن ذلك ابن عمر وهو في مسجد رسول الله صلی الله علیہ وسلم (عن علي و عثمان) قال: (فقال أما على: فلا تسلني عنه، وانظرالي منزله من رسول الله صلی الله علیہ وسلم، ليس) ما في المسجد بيت غير بيته واما عثمان فإنه اذنب ذنبًا عظيمًا تولى يوم التقى الجمعان فعفى الله عنه، وغفر له، واذنب فيكم ذنبًا دون ذلك فقتلتموه))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 447 رقم 8437 وطبع آخر ج 5 ص 138 رقم 8491)

”حضرت علاء بن عرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا اور اس وقت وہ (ابن عمر) مسجد

نبوی میں تھے تو فرمایا: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو مجھ سے مت پوچھ۔ ان کے گھر کی طرف دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ایک ہے، مسجد میں ان کے گھر کے سوا اور کوئی گھر نہیں اور رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے عظیم غلطی ہوئی تھی وہ احمد کے دن پشت پھیر کر بھاگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی مغفرت کر دی اور تمہارے درمیان ان سے اس سے چھوٹی سی غلطی ہوئی تو تم نے انہیں قتل کر دیا۔“

#### حدیث نمبر 4:

((خبرنا اسماعیل بن یعقوب بن اسماعیل، قال: حدثني محمد ابن موسى بن اعين ، قال: حدثني أبي، عن عطاء عن سعد بن عبيدة، قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن علي رضي الله تعالى عنه، قال لا أحدثك عنه، ولكن أنظر إلى بيته من بيوت رسول الله صلی الله علیہ وسلم، قال: فاني أبغضه، قال: به أبغضك الله))  
 (السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 447 وطبع آخر ج 5 ص 139 رقم 8492، بخاری رقم 3704)

”حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: میں تمہیں ان کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا، تم ان کے متعلق مت پوچھو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے مابین ان کے گھر کی طرف دیکھو! اس نے کہا: میں ان سے بغض رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اسی سبب سے اللہ تعالیٰ تم سے بغض رکھتا ہے۔“

#### حدیث نمبر 5:

((خبرنى هلال بن العلاء بن هلال، قال: حدثنا ابى حسین، قال: حدثنا (زهير) ابو اسحق، قال: سال عبد الرحمن بن خالد بن قشم بن العباس: من اين ورث على رسول الله صلی الله علیہ وسلم؟ قال: انه كان اولنا به لحوقاً، و اشدنا به لزوقاً خالفة زيد بن ابى انيسة في اسناده، فقال: عن خالد بن قشم))  
 (السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 447 رقم 8439 وطبع آخر ج 5 ص 139 رقم 8439، المجمع الکبیر ج 19 ص 40، المستدرک للحاکم ج 3 ص 125 رقم 4690 مختصر تاریخ دمشق ج 18 ص 20، ازالۃ الخفاء ج 4 ص 465)

”ابو سحاق بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن خالد بن قشم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن گئے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ ہم سب سے پہلے آپ کی قربت میں آئے اور ہم سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ وابستہ رہے۔ زید بن ایسہ نے اس سند میں اختلاف کیا اور کہا کہ یہ خالد بن قشم سے روایت ہے۔“

### حدیث نمبر 6:

((اخبرنی هلال بن العلاء ' قال: حدثني ابی ' قال: حدثنا عبد الله ' عن زید بن انس ' عن ابی اسحق عن خالد بن قشم ' انه قيل له: اعلى ورث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دون جدک و هو عمه؟ قال: ان علياً اولنا به لحوقاً و اشدنا به لزوقاً (لصوقاً))  
 (سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 447 رقم 8440 و طبع آخر ج 5 ص 139 رقم 8494)

”ابو اسحاق کہتے ہیں کہ خالد بن قشم سے دریافت کیا گیا: آپ کے دادا (عباس بن عبد المطلب) کو چھوڑ کر حضرت علیؑ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن گئے حالانکہ آپ کے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھا ہیں؟ انہوں نے کہا: بیشک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ہم سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ وابستہ رہے۔“

### حدیث نمبر 7:

((اخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي ' قال: اخبرنا عمرو بن محمد (العنقرى) ' قال: اخبرنا يونس بن ابی اسحق عن العizar بن حریث ' عن النعمان بن بشیر ' قال: استاذن ابوبکر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع صوت عائشة عالیاً وہی نقول: والله لقد علمت ان علياً احبابی منی ' فاھوی اليها ابوبکر لیلطمها ' وقال لها: یا بنت فلانة ' اراك ترفعين صوتک علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فامسکه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ' و خرج ابوبکر مغضباً ' فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یاعائشة کیف (رأیتی انقدتک) رأیت اهدبک من الرجل ' ثم استاذن (ابوبکر) بعد ذلك ' وقد اصطلح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و عائشة ' فقال: ادخلانی فی السلم كما ادخلتمانی فی الحرب ' فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: قد فعلنا))  
 (سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 448 رقم 8441 و ج 8 ص 256 رقم 110 و طبع آخر ج 5 ص 139 رقم 8495 و ص 365 رقم 9155، مسند احمد ج 4 ص 275 رقم 18611، مجمع الزوائد ج 9 ص 201 رقم 202 و 15194)

”حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آکر کاشانہ بیوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخلہ کی اجازت مانگی تو انہوں نے اندر سے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بلند آواز سنی وہ کہہ رہی تھیں: اللہ کی قسم! میں جانتی ہوں بیشک علی آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف بڑھتے تاکہ انہیں طما نچہ رسید کریں اور انہیں فرمایا: اے فلاں کی لڑکی: میں کیا دیکھ رہا ہوں، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند کرتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ

تعالیٰ عنہ غصہ کی حالت میں باہر چلے گئے۔ پھر نبیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! تم نے دیکھا کہ ہم نے تمہیں کیسے ایک شخص سے بچالیا؟ کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اندر آنے کی اجازت مانگی اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صلح ہو چکی تھی تو آپ نے عرض کیا: آپ مجھے اپنی صلح میں بھی اسی طرح شریک ہونے دیں جس طرح آپ نے مجھے اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پیشک ہم نے شریک کر لیا۔“

### حدیث نمبر 8:

((احبرنی محمد بن آدم بن سلیمان المصیصی) قال: حدثنا ابن أبي غنية، عن أبيه (عن أبي اسحاق) عن جمیع بن عمیر قال: دخلت مع امی علی عائشة وانا غلام، فذکرت لها علياً رضی الله تعالیٰ عنہ، فقالت: ما رأیت رجالاً احب الى رسول الله صلی الله علیہ وسلم منه، ولا امرأة احب الى رسول الله صلی الله علیہ وسلم من امرأته))

(السنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 448 رقم 8442 وطبع آخر ج 5 ص 139 رقم 8496، سنن الترمذی ص 3874، تحفۃ الاخیار بترتیب شرح مشکل الآثار ج 9 ص 87 رقم 394 وص 6395 وص 88 رقم 5395، المستدرک للحاکم ج 3 ص 153 رقم 474 وص 156 رقم 7498، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 260، 261، 262، مختصر تاریخ دمشق ج 17 ص 365، 366، مذکاۃ ج 2 ص 514، زخاری العقی ص 48، الریاض الخضراء ج 3 ص 100، الصواعق اخر قصص 121)

”حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی امی کے ساتھ امام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور اس وقت میں بچہ تھا۔ میری والدہ نے ان کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ کوئی شخص محبوب تھا اور نہ ہی ان کی الہیہ (سیدۃ نساء الہل الجنتۃ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) بے زیادہ کوئی خاتون محبوبہ تھیں۔“

### حدیث نمبر 9:

((احبرنا عمرو بن علی البصری) قال: حدثنا عبد العزیز بن الخطاب (روثقہ) قال: حدثنا محمد بن اسماعیل بن رجاء الزبیدی، عن ابی اسحق الشیبانی، عن جمیع بن عمیر، قال: دخلت مع (ابی) امی علی عائشة یسالها (فسمعتها تسالها) (من وراء الحجاب) عن علی رضی الله عنه، فقالت: تسالنی (تسالینی) عن رجل ما اعلم احداً كان احب الى رسول الله صلی الله علیہ وسلم ولا احب اليه من امرأته))

(السنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 448 رقم 8443 وطبع آخر ج 5 ص 140 رقم 8497)

”حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: میں اپنی امی کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ انہوں نے آپ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا تو میں نے پردہ کے پیچے سے سنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمادی تھیں: تم جس شخص کے متعلق مجھ سے سوال کر رہی ہوئیں نہیں جانتی کہ ان سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص محبوب تھا اور نہ ہی ان کی زوجہ (سیدہ فاطمہ) سے بڑھ کر کوئی خاتون محبوب تھی۔“

### حدیث نمبر 10:

((اخبرنی ذکریا بن یحییٰ، قال: اخبرنا ابراہیم بن سعید، قال: حدثنا شاذان، عن جعفر الاحمر، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بریدة: قال: جاء رجل الى ابی فساله: ای الناس كان احباب الى رسول الله صلی الله علیہ وسلم؟ قال: من النساء فاطمة، ومن الرجال على رضي الله تعالى عنه))

(اسنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 449 رقم 8444 طبع آخر ج 5 ص 140 رقم 8498، سنن الترمذی ص 3868 رقم 873، المسند رک للحاکم ج 3 ص 154 رقم 4788، مجمع الاوسط ج 8 ص 130 رقم 17258، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 260، مختصر تاریخ دمشق ج 17 ص 365، ذخیر العقی ص 48))

”حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والدے کسی شخص نے آکر دریافت کیا: تمام لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب کون تھا؟ انہوں نے فرمایا: خواتین میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مردوں میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔“

### حدیث نمبر 11:

((اخبرنا محمد بن وہب، قال: اخبرنا محمد بن سلمة، قال حدثني أبو عبد الرحيم، قال: حدثني زيد عن الحارث، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجوى سمع علياً رضي الله عنه، يقول: كنت أدخل على نبی الله صلی الله علیہ وسلم كل ليلة، فان كان يصلی سبح فدخلت، وإن لم يكن يصلی اذن لي فدخلت))

(اسنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 449 رقم 8445 طبع آخر ج 5 ص 140 رقم 8499)

”حضرت عبد اللہ بن نجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا: میں ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، پس اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو سجوان اللہ فرماتے تو میں اندر داخل ہو جاتا اور اگر نماز میں نہ ہوتے تو اجازت مرحمت فرماتے اور میں داخل ہو جاتا۔“

حدیث نمبر 12:

((اخبرنا زکریا بن یحییٰ قال: حدثنا (محمد بن عبیدو) ابو کامل، قال: (قالا) حدثنا عبد الواحد بن زیاد، قال: حدثنا عمارة بن القعفان عن الحارث العکلی عن ابی زرعة بن عمرو بن جریر، عن عبد الله بن نجیب، عن علی قال: کان لی ساعۃ من السحر أدخل فیها علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، فان کان فی صلاته سبح و ان لم يكن فی صلاته اذن لی))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 2 ص 41 رقم 1135 و ج 7 ص 449 رقم 8446 و طبع آخر ج 1 ص 360 رقم 1134 و ج 5 ص 141 رقم 8500، مند احمد ج 1 ص 77 رقم 570، مند ابی یعلیٰ ج 1 ص 265، المحرار خار المعروف بمند المزار ج 3 ص 100 رقم 882، السنن الصغریٰ للنسائی ج 3 ص 17 رقم 1210، السنن الکبریٰ للبیهقی ج 2 ص 247 رقم 3339، تلخیص الحجیر ج 1 ص 675، 676)

”حضرت عبد اللہ بن نجیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: وقت سحر (تجھد کے وقت) میرے لیے ایک مخصوص وقت تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، سو اگر آپ نماز میں ہوتے تو سبحان اللہ فرماتے اگر نماز میں نہ ہوتے تو اجازت مرحمت فرماتے۔“

حدیث نمبر 13:

((اخبرنی محمد بن قدامة، قال: حدثنا جریر، عن المغيرة، عن الحارث، عن ابی زرعة بن عمرو بن جریر، قال: حدثنا عبد الله بن نجیب، عن علی رضی اللہ عنہ، قال: کان لی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من السحر ساعۃ آتیہ فیها، و اذا آتیته استاذت، فان وجدتہ يصلی سبح، (فدخلت) و ان وجدتہ فارغاً اذن لی))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 2 ص 41 رقم 1135 و ج 7 ص 450 رقم 8447 و طبع آخر ج 1 ص 360 رقم 1134 و ج 5 ص 141 رقم 8501، السنن الصغریٰ للنسائی ج 2 ص 17 رقم 1210، زاد المعاون ج 1 ص 262)

”عمرو بن جریر کہتے ہیں کہ ہمیں عبد اللہ بن نجیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے لیے وقت سحر ایک مخصوص ساعت تھی جس میں حاضر ہوتا تھا اور جب میں آتا تو اجازت مانگتا، سو اگر میں آپ کو نماز میں پاتا تو آپ تشیع کہتے تو میں داخل ہو جاتا اور اگر میں آپ کو فارغ پاتا تو آپ اجازت دیتے۔“

حدیث نمبر 14:

((اخبرنی محمد بن عبید بن محمد (الکوفی) قال: حدثنا ابن عیاش عن المغيرة، عن

الحارث العکلی عن ابی نجی قال: قال علی رضی اللہ عنہ: کان لی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدخلان، مدخل باللیل و مدخل بالنهار، (فکنت) اذا دخلت باللیل تتحقق لی خالفه شرجیل بن مدرک فی اسناده، ووافقه علی قولہ: (تحقیق)

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 2 ص 41 رقم 1137 و 7 ص 450 رقم 8448 طبع آخر 1 ص 360 رقم 1136 و 1 و 5 ص 141 رقم 8502، السنن الصغریٰ للنسائی ج 3 ص 17 رقم 1211، سنن ابن ماجہ ج 4 ص 206 رقم 3708، مسند احمد ج 1 ص 80 رقم 845 و 608 و 107 رقم 25667، سیمیل الحدیٰ ج 1 ص 186، مناقب علی و الحسنین ص 56، زاد المعاون ج 1 ص 262)

”حضرت حارث عکلی عبد اللہ بن نجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے لئے دو مرتبہ داخلہ کا وقت تھا۔ ایک دن میں اور دو مرارات میں۔ پس جب میں ریاست کو حاضر ہوتا تو آپ کھنکارتے۔ شرحبیل بن مدرک نے اس حدیث کی سند میں اختلاف کیا ہے اور ”تحقیق“ (کھنکارنا) کے لفظ موافقت کی ہے۔“

### حدیث نمبر 15:

((اخبرنا القاسم بن زکریا بن دینار، قال: حدثنا ابواسامة، قال: حدثني شرجيل بن مدرک (الجعفی) قال: حدثني عبد الله بن نجی الحضرمي عن ابيه و كان صاحب مطهرة على۔ قال: على رضي الله عنه، كانت لى منزلة من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم تكن لاحد من الخلائق، فكنت آتیه كل سحر، فاقول (له): السلام عليك يا نبی الله، فان تتحقق انصرفت الى اهلي، والا دخلت عليه))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 2 ص 42 رقم 138 و 7 ص 450 و 459 طبع آخر 1 ص 360 رقم 1137 و 5 ص 451 و 502، السنن الصغریٰ للنسائی ج 3 ص 17 رقم 1212، البحر الز جار المعروف بمسند المز ارج 3 ص 98 رقم 879، مشکاة ج 2 ص 506 رقم 6106، جمع الجواعع ج 13 ص 25 رقم 5494، مناقب علی و الحسنین ص 56)

”شرحبیل بن مدرک الجعفی نے عبد اللہ بن نجی الحضرمی سے روایت کیا ہے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میرا اپیا مقام تھا جو مختلف میں سے کسی ایک کو حاصل نہیں تھا۔ میں ہر روز تجد کے وقت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا تھا: السلام عليك يا نبی الله! پس اگر آپ کھنکارتے تو میں اپنے گھر لوٹ جاتا اور نہ اندر حاضر ہو جاتا۔“

**حدیث نمبر 16:**

((اخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثني أبو المساور، قال: حدثنا عوف، عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملاني عن علي رضي الله تعالى عنه، قال: كنت اذا سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت، واذا سكت ابتداني))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 450 رقم 8450 وطبع آخر ج 5 ص 142 رقم 5804، فضائل الصحابة ج 2 ص 803 رقم 1099، سنن الترمذی ص 847 رقم 847، سنن ابن حیثیہ ج 6 ص 368 رقم 3729 ص 848، مصنف ابن ابی شیعیہ ج 3 ص 124 رقم 32060، اطراف الغرائب والافراد للدارقطنی ج 1 ص 108 رقم 402 المستدرک للحاکم ج 3 ص 124 رقم 3687، الاحادیث الخوارج 2 ص 235 رقم 614، مشکاة ج 2 ص 504 رقم 6095، حلیۃ الاولیاء لابی نعیم ج 4 ص 425 رقم 6083، المطبقات الکبری لابن سعد ج 2 ص 420، مختصر تاریخ دمشق ج 18 ص 16، الریاض النظرۃ فی مناقب العترة ج 3 ص 165، ذخایر العقی مص 114، جمع الجامع ج 13 ص 14 رقم 5423، الصواعق الحمرۃ مص 123، مناقب علی واحسین ص 19))

”حضرت عبد الله بن عمرو بن هندا الجملی حضرت علی رضي الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا تو آپ عطا فرماتے تھے اور جب خاموش رہتا تو آپ (اپنے کرم کی خود) ابتدافرماتے تھے۔“

**حدیث نمبر 17:**

((اخبرنا محمد بن المثنی، قال: حدثنا ابو معاویة قال: حدثنا الاعمش، عن عمرو بن مرة عن ابی البختی، عن علی رضي الله تعالى عنه، قال: كنت اذا سالت اعطيت، واذا سكت ابتدیت))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 451 رقم 8451 وطبع آخر ج 5 ص 142 رقم 1405)


”حضرت ابو البختی حضرت علی رضي الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو مجھے عطا کیا جاتا اور جب میں خاموش رہتا تو مجھ پر از خود کرم کیا جاتا۔“

**حدیث نمبر 18:**

((اخبرنا یوسف بن سعید قال: اخبرنا حجاج عن ابن جریح، عن ابی حرب، عن ابی الاسود ورجل آخر، عن زاذان، قالا: قال علی رضي الله تعالى عنه: كنت والله اذا سالت اعطيت واذا سكت ابتدیت))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 451 رقم 8452 وطبع آخر ج 5 ص 142 رقم 1406)

”حضرت زادان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تو مجھے عطا کیا جاتا اور جب میں خاموش رہتا تو مجھے پر از خود کرم کیا جاتا۔“



## فصل نمبر 45:

### ذکر مخصوص بہ امیر المؤمنین علی من صعودہ علی کی فضیلت


## نبی کریم کے کندھوں پر سوار ہونے میں حضرت علی کی فضیلت

((احبرنا احمد بن حرب قال: حدثنا اسياط، عن نعيم بن الحكيم المدائني، قال: أخبرنا أبو مريم قال: قال علی رضي الله تعالى عنه: انطلقت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى اتينا الكعبة فصعد رسول الله صلی الله علیه وسلم على منكبی فنهض به علی فلما رأى رسول الله صلی الله علیه وسلم ضعفی قال لی: اجلس، فجلست، فنزل النبی صلی الله علیه وسلم وجلس لی، وقال: اصعد على منكبی، فصعدت على منكبیه فنهض بی، فقال: على رضي الله تعالى عنه: انه يخیل الى لوشت لنلت افق السماء، فصعدت على الكعبة وعليها تمثال من صفر او فحاص، فجعلت اعاجله لازیله یمیناً وشمالاً وقداماً ومن بین يديه ومن خلفه، حتى استمکنت منه، فقال: نبی الله صلی الله علیه وسلم اقذفه، فقدفت به فكسرته كما يكسر (تكسر) القوارير، ثم نزلت فانطلقت انا رسول الله صلی الله علیه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية ان يلقانا احداً من الناس))

(اسنن الکبری للنسائی ج 7 ص 451 رقم 8453، طبع آخر 5 ص 142 رقم 850، مند احمد ج 1 ص 84 رقم 644 وص 151 رقم 1302، مصنف ابن ابی شہری ج 7 ص 404 رقم 36896، تہذیب الالاثار لابن جریر الطبری ج 1 ص 449، 450 رقم 1833، 1834، 1835، 1836، مند ابی یعلی ج 1 ص 155 رقم 366، رقم 3439 و ج 3 ص 4 رقم 4324، اجم الکبیر للطبرانی ج 17 ص 292، صفة المعرفة لابن الجوزی ج 1 ص 163، اتحاف الخيرة الکھرۃ برواائد المسانید اخڑہ ج 5 ص 200 رقم 4524، ذخیر العقی م 103، مجمع الزوائد 6 ص 23 رقم 8936، الریاض الخضرۃ ج 3 ص 146، 147، جمع الجواعی ج 3 ص 30 رقم 5514، انسان العيون الحلبی ج 3 ص 29، ازالة الخفاء ج 4 ص 411)

مناقب علی و الحسنین ص 55)

”حضرت نعیم بن حکیم الدائی کہتے ہیں: ہمیں ابوصریم نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلاحتی کہ تم کعبہ شریف میں پہنچے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھوں پر سوار کر لیا اور آپ کھڑے ہو گئے۔ سو مجھے یوں لگا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے کناروں کو پکڑ لوں، پھر میں کعبہ پر چڑھا اور اس پر پہنچیں یا تابنے کا ایک مجسمہ بنا ہوا تھا تو میں اس کو دائیں بائیں اور آگے پچھے سے اکھاڑنے لگا حتیٰ کہ میں اُسے مکمل اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کو پھینک دو تو میں نے پھینک دیا۔ پھر میں نے اسے یوں نکڑے نکڑے کر دیا جیسے شیشہ نکڑے نکڑے ہو جاتا ہے۔ پھر میں اتر آیا اور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چلنے لگے اور گھروں کی اوٹ لینے لگے تاکہ ہمارا کسی سے آمنا سامنا نہ ہو۔“



## فصل نمبر 46:

### ذکر النجوى وما خفف بعلی عن هذه الامة:

## سرگوشی کا ذکر اور حضرت علی کے طفیل امت مسلمہ پر آسانی

((خبرنی محمد بن عبد اللہ بن عمار (الموصلي) قال: حدثنا القاسم بن يزيد، الجرمي عن سفيان، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم، عن علي بن علقمة، عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت (يا ايها الذين امنوا اذا اناجيتم الرسول فقدمو ابين يدي نجواكم صدقة) (المجادلة: 12) قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لعلى رضي الله تعالى عنه : مرهם ان يتصدقوا قال: بكم يارسول الله؟ قال: بدينار، قال: لا يطيقون، قال: فنصف دينار، قال: لا يطيقون، قال: فبكم؟ قال: بشعرة، فقال (له) رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انك لزهيد فانزل الله ((اشفقتم ان تقدموا ب ابن يدي نجواكم صدقات) الآية (المجادلة: 13) وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول: خفف بي عن هذه الامة))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 464 رقم 484 وطبع آخر ج 5 ص 152، 153 رقم 8537، سنن الترمذی ص 750 رقم 3300، صحیح ابن حبان ج 9 ص 47، رقم 48 وطبع آخر ج 15 ص 390 رقم 6941، البحر الزخار المعروف بمسند المیز ارج 2 ص 258، رقم 668، مصنف ابن ابی هبیبة ج 6 ص 376، رقم 32116، مسند ابی یعلی ج 1 ص 204، رقم 396، المسند رک للحاکم ج 2 ص 481 وطبع جدید ج 3 ص 295، رقم 3846، الطالب العالمية

ج 3 ص 383 رقم 3769، جمع الجامع ج 13 ص 89 رقم 5868، تفسیر الطبری ج 14 ص 25، 26، تفسیر ابن کثیر ج 4 ص 349، 350، الدار المنشور ج 8 ص 83، 84، فتح البیان ج 14 ص 28، فتح القدیر ج 5 ص 228، لباب النقول للسيوطی ص 82، اسماں بذول القرآن الکریم للواحدی ص 432 رقم 797، الوسیط للواحدی ج 4 ص 266)

”حضرت علی بن علقمة حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب آیت (یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَنْجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدْ مَوَابَيْنِ يَدِيْ نَجْوَاكُمْ صَدْقَةً) نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا: لوگوں کو حکم دو کہ وہ خیرات کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کتنا؟ فرمایا: ایک دینار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: وہ طاقت نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو آدھا دینار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پھر کتنا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: ایک جو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک تم زاہد ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: (أَشْفَقْتُمُ إِنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدْقَاتٍ) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری وجہ سے اس امت پر تخفیف فرمائی گئی۔“



## فصل نمبر 47:

### ذکر صلاة امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب:

## حضرت علی کی نماز کا ذکر

### حدیث نمبر 1:

((اخبرنامحمد بن المثنی) قال: أَبْنَاءَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (أَعْنَى بِابْنِ مُهَدَّى) قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهْيَلٍ، قَالَ: سَمِعْتَ حَبَّةَ الْعَرْنَى، قَالَ: سَمِعْتَ عَلِيًّا كَرَمَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَقُولُ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 7، رقم 8332 وطبع ۲ خرج ۵ ص 105 رقم 105، منhad ح 1 ص 141 رقم 1191، فضائل الصحبۃ ج 2 ص 73 رقم 999، کتاب الاوائل لابن ابی عاصم ص 77 رقم 67، المصنف لابن ابی هشیة ج 6 ص 37 رقم 32.76، الاستیعاب ج 3 ص 200، اسد الغائب ج 4 ص 102، الاحادیث الشافی ج 1 ص 149، تاریخ دمشق لابن حساکر ج 42 ص 31، مختصر تاریخ دمشق، ج 17 ص 304، مجمع الزوائد ج 9 ص 103 رقم 14607)

”حضرت حبۃ العریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرماتے

ہوئے سنائے میں پہلا شخص ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔

حدیث نمبر 2:

((اخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة، عن زيد بن أرقم قال: أول من صلى مع رسول الله عليه السلام على رضي الله عنه))

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ (سیدنا) علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔“

حدیث نمبر ۳

((اخبرنا محمد بن المثنى قال: اخبرنا محمد بن جعفر عن داشر قال: حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن ابى حمزة عن زيد بن ارقم قال: اول من اسلم مع رسول الله عليه السلام علی بن ابى طالب رضي الله عنه))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 407 رقم 8334 وطبع آخر 5 ص 105 رقم 7392، کتاب الاول لابن ابی عاصم  
ص 78 رقم 80، الاحادیث الشافی لابن ابی عاصم ج 1 ص 149 رقم 180، المستدرک للحاکم ج 3 ص 135 رقم 4718، مصنف  
ابن ابی شیبۃ ج 6 ص 373 رقم 32097، ورواہ ایضاً ابن عباس: کتاب الاول لابن ابی عاصم ص 78 رقم 71، الاحادیث الشافی  
لابن ابی عاصم ج 1 ص 151 رقم 185، مجمع الکبیر للطبرانی ج 11 ص 25، مجمع الزوائد ج 9 ص 102 رقم 14600)  
”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم پر ایمان لا یا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔

حدیث نمبر ۴

((أخبرنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا ابن ادريس، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابا حمزة مولى الانصار، قال: سمعت زيد بن ارقم يقول: اول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآلها وسلم على بن ابى طالب رضى الله عنى، وقال فى موضع آخر:

اسلم علی رضی اللہ عنہ))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 306 رقم 8336 طبع آخر 5 ص 43 رقم 8137 وص 106 رقم 881 وص 408 رقم 306)

(8393)

”حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے ساکھہ سب سے پہلے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا: سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ علی الرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔“

### حدیث نمبر 5:

((خبرنا محمد بن عبید بن محمد الكوفى، قال: حدثنا سعيد بن خثيم عن أسد بن عبد الله (البجلى)، بن يزيد، عن أبي يحيى بن عفيف، عن أبيه عن جده عفيف قال: جئت فى الجاهلية الى مكة فنزلت على العباس بن عبد المطلب، وانا يريدان ابتعاث لاهلى من ليابها وعطرها، فاتيت العباس بن عبد المطلب، و كان رجلاً تاجراً، فانا عنده جالس، فلما ارتفعت الشمس، وحلقت فى السماء، وانظر الى الكعبة اذ جاء شاب فرمى به صره الى السماء، ثم قام مستقبل الكعبة، فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه، فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب، فركع الغلام والمرأة، فرفع الشاب، فرفع الغلام والمرأة فخر الشاب ساجداً فسجد امعه، فقلت: يا عباس امر عظيم، فقال العباس: امر عظيم، فقال: اتدري من هذا الشاب؟ فقلت: لا، فقال بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا ابن أخي، وقال اتدري من هذا الغلام؟ فقلت: لا، قال: على بن ابی طالب بن عبد المطلب، هذا ابن أخي، هل تدری من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت: لا، قال: هذه خديجة ابنة خویلد وزوجة ابن أخي هذا، ان ابن أخي اخیرنى ان رب السماء والأرض، امره بهذا الدين الذي هو عليه، ولا والله ما على ظهر الأرض كلها احد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 408 رقم 8337 طبع آخر 5 ص 106 رقم 8394، مسند احمد ج 1 ص 209، مسند ابی یعلیٰ ج 2 ص 75 رقم 154، المسند لعلیٰ رقم 1374، السیرۃ النبویة لابن اسحاق ص 182، المستدرک للحاکم ج 3 ص 182 رقم 4895، مجمع الکبیر ج 18 ص 100، 101، دلائل النبوة للینقی ج 2 ص 162، الاشراف علی مناقب الاشراف لابن ابی الدنیا ص 49، مجمع الصحابة لابن قاتم البغدادی ج 2 ص 134، كتاب الفتناء للعقیلی ج 1 ص 38 رقم 54، المطہرات الکبریٰ لابن سعد ج 8 ص 251، الوفایا حوالی مصطفیٰ لابن الجوزی ص 163، 164، اسد الغابة ج 4 ص 54 تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 34، 35، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 305، عيون الاثر ج 1 ص 181، السیرۃ

النبوۃ لابن کثیر ج 1 ص 447، البدایہ والنھایہ ج 2 ص 362، 363، الریاض المغفرۃ ج 4 ص 96، ذخیر العقی ص 74، مجع الزوائد ج 9 ص 103 رقم 14605، مجع الجواعی ج 15 ص 310 رقم 13956، سبل المحمدی ج 2 ص 297، اتحاف الخیرۃ الحمرۃ ج 7 ص 207 رقم 667 وص 246، 6778، انسان العیون فی سیرۃ الامین المامون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ج 1 ص 436، نساء اهل البیت ص 56، 57، مناقب علی واحسین واحمما فاطمة الزهراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلفظاً وعبد الباقی ص 11)

”حضرت ابویحییٰ بن عفیف اپنے والد عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں مکہ المکرہ آیا تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے کپڑے اور عطر وغیرہ خریدوں۔ پس میں حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور وہ ایک تاجر شخص تھے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آنتاب طلوع ہوا، اور اُس نے آسمان میں دائرہ بنایا، اور میں کعبہ کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان نمودار ہوا، پھر اُس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، پھر اس نے قبلہ رو ہو کر قیام کیا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک بچہ آیا تو وہ اس کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک خاتون آئی تو وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ پھر نوجوان نے رکوع کیا تو اُس پیچے اور خاتون نے بھی رکوع کیا، پھر اُس نوجوان نے سر اٹھایا تو لڑکے اور خاتون نے بھی سر اٹھایا، پھر نوجوان نے سجدہ میں سر جھکا دیا تو اُس لڑکے اور خاتون نے بھی سر جھکا دیئے۔ اس پر میں نے کہا: اے عباس! بڑی بات ہے۔ عباس نے بھی کہا: بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ بتایا کہ یہ محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب ہے۔ یہ میرا بھتیجا ہے۔ پھر پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ بچہ کون ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: یہ علی بن ابوطالب بن عبدالمطلب ہے۔ یہ بھی میرا بھتیجا ہے۔ پھر پوچھا: کیا تم جانتے ہو کہ یہ خاتون کون ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: یہ خدیجہ بنت خولید ہے۔ یہ میرے اس بھتیجے کی زوجہ ہے۔ میرے اس بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس کارب وہ ہے جوز میں و آسمان کارب ہے، اُسی نے اس کو اس دین کا حکم دیا ہے جس پر یہ قائم ہے۔ اللہ کی قسم روئے زمین پر ان تین نفوس کے علاوہ اور کوئی انسان اس دین پر نہیں ہے۔“

### حدیث نمبر 6:

((حدثنا احمد بن سليمان الرهاوي قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: حدثنا العلاء بن صالح، عن المنھال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله، قال: قال علی رضي الله تعالى عنه: انا عبد الله، واحر رسول الله، وانا الصديق الاكبر، لا يقولها بعدى الا كاذب، امنت (صلیت) قبل الناس سبع (سبع) سنین))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 409 رقم 8338، طبع آخر ج 5 ص 107 رقم 8396، سنن ابن ماجہ رقم 120، المستدرک للحاکم ج 3 ص 111 رقم 4641، مصنف ابن ابی هبیبة ج 6 ص 370 رقم 32075)

(1324 قم 5484)

”حضرت عباد بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں عبد اللہ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں۔ میرے بعد یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جو ٹھنڈا شخص میں تمام لوگوں سے سات برس پہلے ایمان لا چکا تھا۔“

حدیث نمبر 7:

((خبرنا علی بن المنذر الكوفی، قال: اخبرنا ابن فضیل، قال: اخبرنا الاجلح، عن عبد الله بن ابی الهذیل، عن علی رضی اللہ عنہ، قال: ما اعرف احداً عبد الله بعد نبینا غیری، عبد الله قبل ان یعبدہ احد من هذه الامة تسع سنین))  
(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 409 قم 339 وطبع آخر ج 5 ص 107 قم 8396، المستدرک للحاکم ج 3 ص 111 قم 409)

”حضرت عبد اللہ بن ابی الحدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی شخص نے (بھجے سے پہلے) اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو۔ میں نے اس امت کے ہر فرد سے نو سال پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔“

☆☆☆

فصل نمبر 48:ذکر منزلة علی ابی طالب من الله:

## اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت علیؐ کا مرتبہ

حدیث نمبر 1:

((خبرنا هلال بن بشیر البصری، قال: حدثنا محمد بن خالد، (وهو ابن عشمة) قال: حدثني موسى بن يعقوب، قال: حدثنا مهاجر بن مسمار، عن عائشة بنت سعد، قالت: سمعت ابی يقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجحفة، فاخذ بید علیؐ فخطب، وحمد اللہ واثنى علیه، ثم قال: يا ایها الناس! انی ولیکم، قالوا: صدقتم بیار رسول اللہ، ثم اخذ بید علیؐ فرفعها، فقال: هذا ولیّی، ویودی عنی دینی، وانا موالی من والاه، ومعادی من عاداه))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 409 قم 340 وطبع آخر ج 5 ص 107 قم 8397، کتاب النہل ابن عاصم ص 551 قم 409)

(1189)

”حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھٹے کے دن سنایا: آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا پھر خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء بیان فرمائی، پھر ارشاد فرمایا: لوگو! بیشک میں تمہارا ولی ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے حق فرمایا: پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر بلند فرمایا: پھر ارشاد فرمایا: یہ میرا ولی (دost) ہے اور یہ میری ذمہ داری پوری کرے گا، اور میں اس شخص کو دوست رکھتا ہوں جو اس کو دوست رکھے اور اس شخص سے عداوت رکھتا ہوں جو اس سے عداوت رکھے۔

## حدیث نمبر 2:

((اخبار ناقصیۃ بن سعید البلاخي، وهشام بن عمار الدمشقي، قالا: حدثنا حاتم، عن بکير بن مثنیما، عن عاصم بن سعد بن ابی وقار، عن ابیه، قال: أمر معاوية سعدا، فقال: ما يمنعك ان تسبب ايات راب؟ فقال: أنا ذكرت ثلاثة قالهن رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم فلن أسببه، لأن تكون لي واحدة منها احب الى من حمر النعم: سمعت رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم يقول له، وخلفه في بعض مغازييه، فقال له على: يارسول الله اتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال (له) رسول الله صلی الله علیه وسلم: اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لانبورة بعدي؟ وسمعته يقول يوم خير: كاعطين الرأية غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فعطاولنا اليها، فقال: ادعوا الى عليا، فاتى بى ارمدا، فبصق فى عينيه ودفع الرأية اليه ولما نزلت: (الما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويظهركم تطهيرا) دعا رسول الله صلی الله علیه عليه وسلم عليا، وفاطمة، وحسينا فقال: اللهم هولاء اهل بيته))

(اسن اکبری للنسائی ج 7 ص 410 رقم 8382 و 428 رقم 8385 و 51 رقم 8399 و 107 رقم 8439، مند سعد بن ابی وقار للدورقی ص 19، صحیح مسلم رقم 6220، مند احمد 1 ص 185 رقم 1608، سنن الترمذی ص 7 رقم 3724 رقم 1120، اسن اکبری للبیهقی ج 7 ص 63 رقم 13392، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 111، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 332، البدایة والنھایة لابن کثیر ج 5 ص 452 و طبع جدید ج 7 ص 564، سیر اعلام البیان للذھبی ص 619، الاصابة ج 4 ص 468، مناقب علی الفواد عبد الباقی ص 33، 60، 116، 117، الانوار الباهرة الطاهرۃ للتلییدی ص 41)

”حضرت عاصم بن سعد بن ابی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد (سعد بن ابی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں حضرت معاویہ نے امیر مقرر کیا، پھر ان سے پوچھا: ابو راب (مولیٰ علی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو برا کہنے سے تمہیں کیا چیز مانع ہے؟ انہوں نے کہا: جب تک مجھے وہ تمن باقی نہ یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں ارشاد فرمائی تھیں، میں انہیں ہرگز برآنہیں کہوں گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے اندر ہوتی تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ (پہلی خوبی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر جا رہے تھے اور حضرت علیؓ کو مدینہ میں چھوڑا تھا، حضرت علیؓ نے عرض کیا: کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ میری وہی نسبت ہو جو ہارون کی مویٰ کے ساتھ تھی مساوی نبوت کے؟ (دوسری خوبی) اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کے دن کہتے ہوئے سنا: میں کل جھنڈا اُسے دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پس ہم میں سے ہر ایک آرزو کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ اسے بلاو۔ پس جب وہ آئے تو ان کی آنکھوں میں بیماری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عابدہ، ان کا یا تو وہ بالکل درست ہو گئیں۔ پھر ان کو جھنڈا دیا گیا۔ (تیسرا خوبی) اور جب یہ آیت نازل ہوئی: (انما یرید اللہ لیذہ ب عنکم الرجس اهل الہیت و يطہر کم تطہیراً)۔ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے اہل بیت اوز قم کو خوب صاف سفر اکر دے۔ (تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ، سیدہ فاطمہ، اور حسن و حسین کو بلایا اور عرض کیا: اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔)

### حدیث نمبر 3:

((احبرنا حرمنی بن یونس بن محمد المودبؑ قال: اخبرنا ابو غسان، قال: اخبرنا عبد السلام عن موسی الصفیر، عن عبد الرحمن بن سابط، عن سعد (بن ابی وقار) قال: كنت جالساً فتنقصوا على بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقلت: لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في علی ثلاث خصال، لان يكون لی واحدة منهن احب الی من حمر النعم: سمعته يقول: انه بمنزلة هارون من موسی، الا انه لا نبی بعدی، و سمعته يقول: لاعظین الرایۃ غدار جلاً يحب اللہ و رسوله و يحبه اللہ و رسوله، و سمعته يقول: من كنت مولاہ، فعلى مولاہ))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 411 رقم 8343 وطبع آخر ج 5 ص 108 رقم 8399، سنن ابن ماجہ ج 1 ص 86 رقم 121، وطبع آخر ج 1 ص 56 رقم 121، تاریخ مدینہ مشہد لا بن عساکر ج 42 ص 115، 116)

”حضرت عبد الرحمن بن سابط حضرت سعد بن ابی وقار ص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ حضرت علیؓ بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرنے لگے تو میں نے کہا: پیشک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت علیؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کے اندر تین صفات ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صفت میرے اندر ہوتی تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ (پہلی خوبی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ میری وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھی مساوائے نبوت کے؟ (دوسری خوبی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کے دن فرمایا: میں کل جھنڈا اُسے دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ (تیسرا خوبی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔

#### حدیث نمبر 4:

((اخبرنا زکریا بن یحییٰ السجزی قال: اخبرنا نصر بن علیٰ، قال حدثنا عبد الله بن ذاود، عن عبد الواحد بن ایمن، عن ابیه، ان سعداً قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: لا دفع عن الرایة (غدا) الی رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ويفتح الله بیده، فاستشرف لها اصحابه، فدفعها الی علیٰ))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 411 رقم 8344 وطبع آخراج 5 ص 108 رقم 8400)

”حضرت عبد الواحد بن ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں ایک ایسے شخص کو پرچم تھماوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے اور اسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے فتح نصیب فرمائے گا۔ پس تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس پرچم کی آرزو کرتے رہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دیا۔“

#### حدیث نمبر 5:

((اخبرنا زکریا بن یحییٰ، قال: حدثنا الحسن بن حماد، قال: اخبرنا مسہر بن عبد الملک، عن عیسیٰ بن عمر، عن السدی، عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان عبدہ طائر فقال: اللهم ائنی باحباب خلقک الیک یا کل معی من (هذا) هذه الطیر، فجاء ابو بکر فرده، ثم جاء عمر فرده، ثم جاء علیٰ فاذن له))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 410 رقم 8341 وطبع آخراج 5 ص 107 رقم 8398)

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ موجود تھا۔ آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ! میرے پاس اس شخص کو بھج دے جو تجھے تیری مخلوق سے زیادہ محبوب ہوتا کہ وہ میرے ساتھ اس پرندہ سے کھائے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے

تو انہوں نے انہیں واپس بھیج دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے انہیں واپس بھیج دیا،  
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے انہیں اجازت دی۔“

### حدیث نمبر 6:

((اخبرنا احمد بن سلیمان الرہاوی ' حدثنا عبد (عبيد) اللہ' اخبرنا ابن ابی لیلی ' عن الحکم ' والمنھال ' عن عبید الرحمن بن ابی لیلی ' عن ابیه (انہ) قال لعلی - و کان یسیر معہ: ان الناس قد انکروا من شیئا تخرج فی البر بالملائکین و تخرج فی الحر فی الخشن والثوب الغلیظ؟ فقال لم تکن (اولم تکن) معنا بخیر؟ قال بلى، بعث رسول اللہ ﷺ (فان رسول اللہ بعث) اب ابکر و عقدله لواء، فرجع وبعث عمرو عقدله لواء، فرجع (بالناس) فقال رسول اللہ ﷺ: لاعطین الرایة رجلاً يحب اللہ و رسوله ويحبه اللہ و رسوله، ليس بفرار، فارسل الی وانا ارمد، فتفل فی عینی فقال اللہم اکفه اذی الحر والبرد، قال: ما وجدت حرراً بعد ذلك ولا بردًا))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 411 رقم 8345 وطبع آخر ج 5 ص 108، 109 رقم 8401، من سن احمد ج 1 ص 99 رقم 778 وص 133 رقم 1117، فتاوی الصحیۃ ج 2 ص 697 رقم 950 وص 791 رقم 1084، سنن ابن ماجہ رقم 117، مصنف ابن ابی شہیۃ ج 6 ص 370 رقم 32071 وج 7 ص 394 رقم 36872، من ملیٹر ارج 2 ص 136 رقم 496، مجمع الاوسط ج 3 ص 151 رقم 2307 وج 6 ص 369 رقم 5785، شرف المصطفی لابی سعید ج 3 ص 472 وج 5 ص 501، دلائل العوۃ للنیھقی ج 4 ص 133، خاتم العقی ص 90، سیر اعلام العباء ص 618، البدایۃ والنھایۃ ج 5 ص 452 وطبع جدید ج 7 ص 563، مجمع الزوائد ج 9 ص 123 رقم 14707، کشف الاستار ص 3 ص 192، رقم 193، رقم 2546، مجمع البحرین ص 377، رقم 3692، اتحاف الخیرۃ امیر قطب الموصی ج 7 ص 185 رقم 6633، الانوار فی آیات النبی الخوارل الشعابی ج 3 ص 840، مختصر زوائد المیز اللعسقلانی ج 2 ص 314 رقم 1964، فتح الباری ج 8 ص 255، جمع الجواع للسیوطی ج 13 ص 15 رقم 5425، الخصالص الکبری للسیوطی ج 1 ص 418، سبل المهدی ج 10 ص 201، مناقب علی ص 62، 67، 69، 70)

”حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلی اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا جبکہ وہ آپ کے ساتھ چل رہے تھے کہ لوگ آپ کی ایک عادت پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ موسم سرما میں نرم و ملائم لباس پہن کر نکلتے ہیں اور موسم گرما میں موٹا اور سخت لباس؟ آپ نے فرمایا: کیا تم خیر میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ انہوں نے عرض کی: کیوں نہیں۔ فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کے لئے ایک پرچم مقرر کیا لیکن وہ لوٹ آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کے لئے ایک پرچم باندھا تو وہ بھی لوگوں کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایسے شخص کو پرچم عطا

کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محظوظ رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محظوظ رکھتے ہیں، وہ فرار ہونے والا نہیں ہے۔ پھر آپ نے میری طرف آدمی بھیجا اور میں آشوب چشم میں بتلا تھا تو آپ نے میری آنکھوں میں لعاب دیں ڈالا پھر فرمایا: اے اللہ! اس کو گرمی اور سردی کی اذیت سے محفوظ فرم۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس کے بعد میں نے کبھی گرمی اور سردی کو محسوس نہیں کیا۔“

### حدیث نمبر 7:

((اخبارنا محمد بن علی بن حرب، (المروزی) قال: اخبرنا معاذ بن خالد، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال حاصرنا خبيراً، فاخذ أبو بكر الرایة، ولم يفتح له، فاخذها من الغد عمر، فانصرف ولم يفتح له، واصاب الناس (يومئذ) شدة وجهد، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: اني دافع لوانی غدا الى رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له، وبتناطية انفسنا، ان الفتح غداً، فلما اصبح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلی الغداة، ثم جاء (قام) قائماً (ودع باللواء) ورمي اللواء، والناس على (مصادفهم) افصافهم فما من انسان له منزلة عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو يرجو ان يكون صاحب اللواء، فدعى على بن ابي طالب رضي الله عنه، وهو ارمد، فتفل في عينيه، فدفع اليه باللواء، وفتح الله عليه، قالوا: اخبرنا بمن تطاول بها، (قال وانا فيمن تطاول لها))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 412 رقم 8346 و ج 8 ص 16 رقم 8547 طبع آخرج 5 ص 109 رقم 8402 و ص 179 رقم 8601، السیرۃ النبویة لابن اسحاق ص 476، فضائل الصاجۃ ج 2 ص 735، السیرۃ النبویة لابن حشام ج 3 ص 293، دلائل النبوة للیثیقی ج 4 ص 2100209، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 93، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 327، السیرۃ النبویة لابن کثیر ج 3 ص 339، البدایۃ والنہایۃ ج 3 ص 359، مناقب علی واحسین ص 121)

”حضرت عبد اللہ بن بريده رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد (بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ہم نے خبر کا حماصرہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم تھاما اور ان پر خبر فتح نہ ہوا، پھر دوسرے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم تھاما تو وہ بھی لوٹ آئے اور ان پر خبر فتح نہ ہوا، اور اس دن لوگوں کو بہت شدت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں اپنا پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محظوظ رکھتے ہیں، وہ فتح حاصل کئے بغیر واپس نہیں لوٹے گا۔ ہم

نے اطمینان سے رات بسر کی کہ کل ضرور فتح نصیب ہوگی۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمائی تو نماز فجر پڑھائی، پھر آکر قیام فرمایا اور پرچم اٹھایا اور لوگ اپنی صفوں میں تھے۔ پس ہم میں سے جس شخص کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ اہمیت تھی وہ امید کرتا رہا کہ وہی پرچم تھامنے والا ہو گا، لیکن آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا یا حالانکہ وہ آشوب چشم میں بتلاتھے پھر آپ نے انہیں لعاب مبارک لگایا اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ مبارک پھیرا، پھر پرچم تھامیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائی اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو پرچم کے امیدوار تھے۔“

### حدیث نمبر 8:

((اخبرنا محمد بن بشار، بن دار البصرى، اخبرنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف، عن ميمون ابى عبد الله، ان عبد الله، ابى عبد الله بن بريدة، حدثه عن بريدة الاسلامى قال: لما كان يوم خير، نزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بحصن اهل خير، اعطى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللواء عمر، فتحن (معه) فيه من نهض من الناس، فلقو اهل خير، فانكشف عمرو واصحابه، فرجعوا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لاعطين اللواء رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله فلما كان من الغدتصادر أبو بكر و عمر، وهو امرأ، فتغل في عينيه، ونهض معه من الناس من نهض، فلقي اهل خير، فاذ امر حب يرتجز (وهو يقول):

قد علمت خير انى مرحب  
شاكى السلاح بطل مجريب  
اذا الريوث اقبلت تلهب  
اطعن احيانا و حينا اضرب

فاختلاف هو على ضربتين، فضربه على هامته حتى (بعض) مضى السيف منها (ابيض رأسه) منتهي رأسه، وسمع اهل العسكر صوت ضربته، فما ت تمام آخر الناس مع على

حتى فتح لا ولهم (فتح الله له ولهم))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 412 رقم 412 و ج 8 ص 16 رقم 546 و طبع آخر ج 5 ص 109 رقم 178 ص 8403 و ص 178 رقم 8600، من درج 5 ص 358 رقم 23419، فضائل الصحابة ج 2 ص 748 رقم 1034، مصنف ابن ابی شيبة ج 7 ص 394 رقم 3686، کتاب النہ لابن ابی عاصم رقم 1379، کشف الاستار رقم 1814، مجمع الزوائد ج 6 ص 150 رقم 10200، اتحاف الخيرة الکفر ج 7 ص 6636، الدر لابن عبدالبر ص 146، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 93 ص 42، مختصر تاریخ دمشق ج 17 ص 326، مناقب علی ص 65، 121)

”حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قلعہ کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، پس جن لوگوں نے تیار ہو کر ان کے ساتھ جانا تھا وہ تیار ہو کر چلے گئے اور اہل خیبر سے ان کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر معاملہ منکشف ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص کو پرچم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے اور اس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے ہیں، پھر جب صحیح ہوئی تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے لیکن آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا یا اور ان کی آنکھیں دکھر ہی تھیں تو آپ نے ان کی آنکھوں میں آب دہن لگایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ تیار ہو کر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل خیبر کے سامنے ہوئے تو مرحبا یہ اشعار پڑھتے ہوئے سامنے آیا:

اہل خیبر جانتے ہیں کہ میں مرحبا ہوں!

جتھیا رہنڈ بہادر اور تجربہ کار ہوں!

جب میرے سامنے شیر آئیں تو غبار ہو جاتے ہیں،  
کبھی میں زخمی کرتا ہوں اور کبھی گروں اڑا دیتا ہوں۔

پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے درمیان دودو ہاتھ ہوئے، پھر اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایساوار کیا کہ آپ کی تلوار نے اس کے سر کو چیر کر رکھ دیا اور اس کے دماغ کی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور پورے لشکرنے آپ کی ضرب کاری کی آواز سنی۔ پس ابھی آپ کے لشکر کی آخری صفائح کی نوبت بھی نہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی صفائح والوں کو فتح عطا فرمادی۔“

### حدیث نمبر 9:

((أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، قال: أخبرني سهيل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لاعطين هذه الراية غدار جلاً يفتح الله عليه، يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فلما أصبح الناس غدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون يعطى، فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقالوا: على يار رسول الله يشتكي عينيه، قال فارسلوا اليه، فاتى به، فقص رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه، ودعاه فبرا، حتى كان لم يكن به وجع، فاعطاه الراية، فقال على: يار رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسليك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، واخبرهم بما يحب عليهم (حق) الله، فوالله لان

یہدی اللہ بک رجلا واحد، خیر (لک) من ان یکون لک حمر النعم) (یہدی اللہ بک رجلا واحد، خیر (لک) من ان یکون لک حمر النعم)  
 (السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 413 رقم 8348 طبع آخر ج 5 ص 110 رقم 2942، صحیح مسلم  
 رقم 6222، منhad ح 5 ص 333 رقم 23209، فضائل الصاجۃ ج 2 ص 752 رقم 1037، من ابن ابی شہبۃ  
 ح 1 ص 96 رقم 114، سنن سعید بن منصور ج 2 ص 178 رقم 2472، صحیح ابن حبان ح 15 ص 377 رقم  
 6932 طبع آخر ج 9 ص 43 رقم 6893، منابی یعلیٰ ح 1 ص 184، المسند للرویانی ص 124 رقم 1023، دلائل المعرفة  
 للاصفهانی ح 3 ص 1092، دلائل الدوحة للیہتی ح 4 ص 205، السنن الکبریٰ للیہتی ح 9 ص 106 رقم 1823، حلیۃ الاولیاء  
 لابی نعیم ح 1 ص 101، شرح النہی ح 8 ص 3905، مصائب الشیخ ح 4 ص 171 رقم 3764، مشکاة رقم 6089،  
 اسنی الطالب لابن حجر کی ص 383)

”حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ غزوہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں ایک شخص کو جہنڈا دوں گا اللہ تعالیٰ اس پر فتح عطا فرمائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے ہیں۔ پس جب صحیح ہوئی تو تمام لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، ان میں سے ہر ایک کو امید تھی کہ پرچم اسے عطا کیا جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا: علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! علی کی آنکھیں شکایت کرتی ہیں، تو آپ نے فرمایا: انہیں لے آؤ! پس انہیں لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی تو وہ ایسی تھیک ہو گئی گویا کہ انہیں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ پھر آپ نے انہیں جہنڈا عطا فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ان سے اس وقت تک جہاد کروں گا یہاں تک کہ وہ ہماری مثل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا: نرمی سے روانہ ہو جب تم ان کے میدان میں اترو تو انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں بتلانا کہ ان پر اللہ کے کیا حقوق واجب ہیں۔ اللہ کی قسم! اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دے تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔“

### حدیث نمبر 10:

((اخبرنا ابوالحسن احمد بن سليمان الرهاوی، قال: حدثنا يعلیٰ بن عبید، قال: حدثنا يزید بن کیسان، عن ابی حازم، عن ابی هریرة قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا دفع عن الرایہ الیوم الی رجل یحب اللہ ورسوله ویحبه اللہ ورسوله، فتطاول القوم، فقال: این ہلی ابی طالب؟ فقالوا: یشتکی عینیه، قال: فبصدق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کفیہ، ومسح بهما عینیی علی، ودفع الیه الرایہ، ففتح اللہ علی یدیہ))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 311 رقم 8095 وص 413 رقم 8349 طبع آخر ج 5 ص 46 رقم 8151 وص 110 رقم

8404، مصنف ابن الہیثہ ج 7 ص 396 رقم 36884، مسند اسحاق بن راھویہ ج 1 ص 253 رقم 291، الاحسان فی ترتیب صحیح ابن حبان ج 15 ص 379 رقم 6933 طبع آخر ج 9 ص 43 رقم 6894، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 91)

”حضرت ابو حازم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج میں ایک شخص کو پرچم پر دکروں گا جو اللہ جلا جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے ہیں۔ پس قوم امیدوار تھی، لیکن آپ نے فرمایا: علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ انہوں نے کہا: انہیں آنکھوں کی شکایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلوں میں لعاب دہن پھینکا اور دونوں ہتھیلوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر پھیرا، اور ان کی طرف پرچم بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر فتح عنایت فرمائی۔“

### حدیث نمبر 11:

((خبرنا فتیبة بن سعید قال: أخبرنا يعقوب عن سهل بن ابى صالح عن ابى عبيه' عن ابى هریرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال يوم خيبر: لاعطين الرایة رجلاً يحب الله ورسوله (ويحبه الله ورسوله) يفتح الله عليه، قال عمر بن الخطاب: ما احببت الامارة الا يومئذ، فدع ارسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على بن ابى طالب، فاعطاها اياها، وقال امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فسار على، ثم وقف فصاح: يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله، وان محمدًا رسول الله، فادا فعلوا بذلك فقد منعوا (مني) دماءهم واموالهم الابحقها، وحسابهم على الله))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 414 رقم 4140 و ج 8 ص 17 رقم 8549 و طبع آخر ج 5 ص 111 رقم 8306 و ص 179 رقم 1798، صحیح مسلم رقم اسلسل 6222 (2405)، مصنف ابن الہیثہ ج 7 ص 394 رقم 36871، دلائل النبوة للنبوۃ ج 4 ص 206، تاریخ مدینہ دمشق لاب ج 42 ص 85، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 325، البداییہ والغاییہ لابن کثیر ج 3 ص 358، السیرۃ النبویۃ لابن کثیر ج 3 ص 338، سیر اعلام العباء (سیرۃ) ص 617)

”حضرت سہل بن ابی صالح اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر میں فرمایا: میں ایک شخص کو پرچم عطا کروں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے اس دن کے علاوہ کبھی امارت پسند نہیں کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن

ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا یا اور ان کو جھنڈا عطا کیا اور فرمایا: جاؤ اور ادھر ادھر توجہ نہ کرنا حتیٰ کہ اللہ جلالہ تھیں فتح عنایت فرمائے۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے پھر رک گئے، پھر با آواز بلند عرض کیا: یا رسول اللہ! میں کس بات پر لوگوں سے جنگ کروں؟ فرمایا: تم ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ وہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی گواہی نہ دیں۔ پس جب وہ یہ گواہی دے دیں تو انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیا، مگر یہ کہ ان پر حق ہوا اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے پرداز ہے۔

### حدیث نمبر 12:

((اخبرنا اسحق بن ابراهیم بن راہویہ قال: اخبرنا حیرر، عن سهیل، عن ابیه، عن ابی هریرۃ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: لاعطین الرایة غداً رجلاً يحب اللہ ورسوله، يفتح عليه و قال عمر: فما أحبت الامارة قط الا يومئذ، قال: فاستشرفت لها، فدعاعلياً فبعثه، ثم قال: اذهب فقاتل حتى يفتح اللہ علیک، ولا تلتفت، قال: فمشی ماشاء اللہ، ثم وقف ولم يلتفت، فقال: علام نقاتل الناس؟ قال: فقاتلهم حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا رسول اللہ، فاذ فعلوا ذلك فقد منعوا دماء هم واموالهم الا بحقها، وحسابهم على اللہ))

(اسنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 414 رقم 8351 وطبع آخر ج 5 ص 111 رقم 8406، فضائل الصحابة ج 2 ص 746 رقم 1030 وص 746 رقم 756 وص 1044، الاحسان فی تریح صحیح ابن حبان ج 15 ص 379 رقم 6934 وطبع آخر ص 94 رقم 6894، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 82، 83، 84، 85، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 325)

”حضرت سہیل اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل میں ایک شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر فتح کے دروازے کھول دے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کبھی امارت پسند نہیں کی، مساوا اُس دن کے۔ پس میں اس دن امارت کے لئے لیچا تاہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا یا پھر انہیں کو بھیجا، فرمایا: جاؤ اور جنگ کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے، اور ادھر ادھر توجہ نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا چلے پھر رک گئے اور ادھر ادھر توجہ نہ کی، پھر کہا: ہم کس بات پر لوگوں سے جنگ کریں؟ فرمایا: تم ان سے اس وقت تک جنگ کرو یہاں تک کہ وہ گواہی دے کے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور بے شک (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلالہ کے رسول ہیں۔ پس جب وہ یہ شہادت دے دیں تو انہوں نے

اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا، مگر یہ کہ ان پر کوئی حق ہو اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔“

### حدیث نمبر 13:

((اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، قال: حدثنا ابو هشام المخزومي، قال: حدثنا وهب قال: حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه، عن ابي هريرة قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم خیر: لا دفع عن الرایۃ الی رجل یحب اللہ ورسوله، ویفتح اللہ علیہ، قال عمر (بن الخطاب) فما احبت الاماۃ قط قبل یومئذ، قد فعها الی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: ولا تلتفت، فسار قریباً، قال: یا رسول اللہ! علام نقاتل؟ قال: علی ان یشهدوا ان لا اله الا اللہ وان محمداربیل اللہ، فاذافعلوا ذلک (فقد) عصموا دماء هم واموالهم الا بحقها وحسابهم علی اللہ تعالیٰ))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 415 رقم 352 وطبع آخر 5 ص 111 رقم 8406، فضائل الصاحبة ج 2 ص 765 رقم 1056 وص 818 رقم 1122، الاحسان فی ترتیب صحیح ابن حبان ج 15 ص 379 رقم 6934 وطبع آخر 9 ص 43 رقم 6894، تاریخ دمشق لابن عساکر 42 ص 82، 83، 84، 85، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 325، ذخیر العقی ص 90)

”حضرت سہیل بن ابی صالح اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن فرمایا: میں ایک شخص کو جہنمڈا عطا کروں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مساواں دن کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمڈا سونپا اور فرمایا: اوہرا دھر توجہ نہ کرنا۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا اپنے پھر عرض کیا: ہم کس بات پر لوگوں سے جنگ کریں؟ فرمایا: تم ان سے اس وقت تک جنگ کرو یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور پیشک (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے رسول ہیں۔ پس جب وہ یہ شہادت دے دیں تو انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا مگر یہ کہ ان پر کوئی حق ہو اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔“

### حدیث نمبر 14:

((اخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبرى البصري، قال: اخبرنا عمر بن عبد الوهاب قال: اخبرنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن منصور، عن ربعي، عن عمران بن حصين ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا عطین الرایۃ رجلاً یحب اللہ ورسوله (او قال یحبه اللہ ورسوله) فدعاعا علیاً و هو ارمد، ففتح اللہ علی یدیہ))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 311 رقم 415 وص 8094 و 8352 وطبع آخر 5 ص 46 رقم 8150 وص 111 رقم

8406، مجمع الکبیر للطبرانی ج 18 ص 237، 238، مجمع الزوائد ج 9 ص 124 رقم 14716، تاریخ دمشق لابن عساکر  
ج 42 ص 103، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 330، البرلیۃ والٹھلیۃ ج 5 ص 451)

”حضرت منصور بن ربعی حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایک شخص کو پرچم عطا کروں گا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ (یا فرمایا: اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں) پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا یا حالانکہ وہ آشوب چشم میں بتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح عنایت فرمائی۔“

### حدیث نمبر 15:

((اخبرنا اسحق بن ابراهيم بن راهويه، اخبرنا النضر بن شميل قال: اخبرنا يونس ' عن ابى اسحق' عن هبيرة بن يريهم قال: جمع الناس (خرج علينا) الحسن بن على، وعليه عمامة سوداء لما قتل ابوه، فقال: لقد كان قتلتكم فيكم؛ بالامس رجالاً (رجل) ماسقه الاولون ولا يدرکه ورسوله ويحبه الله ورسوله، ويقاتل جبريل عن يمينه وMicahiel عن يساره۔ ثم لا تر درايته حتى يفتح الله عليه، ما ترك ديناراً ولا درهماً الا تسعمائة (سمع مائة درهم) اخذها عياله (من عطائه) من عطاء كأن اراد ان يبتاع بها خادماً لاهلها))

(السنن الکبیری للنسائی ج 7 ص 416 رقم 8354 طبع آخر ج 5 ص 112 رقم 8408 الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان  
ج 15 ص 383 رقم 6936 طبع آخر ج 9 ص 45 رقم 6897، منداح ج 1 ص 199 رقم 1719، 1720، کتاب الزهد  
للام احمد ص 195 رقم 709، فضائل الصحابة ج 1 ص 674 رقم 2922 ج 2 ص 737 رقم 1013، مصنف ابن ابی شيبة ج  
ص 372 رقم 32085 وص 373 رقم 32096 وص 374 رقم 32101، مندابی بعلی ج 6 ص 25 رقم  
6725، المسند رک لحاکم ج 3 ص 171 رقم 4855، تاریخ الطبری ج 3 ص 164، حلیۃ الاولیاء لابی نعیم ج 1  
ص 105، الجالست وجواہر العلم للدینوری ص 181، صفة الصفوة ج 1 ص 165، اکامل فی التاریخ لابن اثیر الجذری  
ج 3 ص 401، 402، طبع مجلد واحد ص 463، مختصر تاریخ دمشق ج 18 ص 97، 98، الریاض الفضرة ج 7 ص 216 رقم  
6695، مجمع البحرين ھیشی ج 3 ص 392 رقم 3734، مجمع الزوائد ھیشی ج 9 ص 136 رقم 14798، مختصر زوائد المز ار  
للعقلانی ج 2 ص 321 رقم 1937، الطالب العالیہ ج 4 ص 324 رقم 4514، مناقب علی واحسین وامھما فاطمة  
الزهراء ص 160)

”حضرت ہبیرہ بن یہیم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اس وقت آپ کے سر پر سیاہ عمامة تھا اور فرمایا: تم نے کل ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے (السنن الکبیری للنسائی میں ہے: کل تمہارے درمیان ایک ایسا شخص تھا) جس کے رقبہ کونہ اگلے پہنچ سکتے ہیں اور نہ پہنچلے، اور پیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: کل میں ایک

ایے شخص کو جہنڈا اعطاؤ کروں گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محظوظ رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محظوظ رکھتے ہیں، اور جریل علیہ السلام نے ان کے دائیں اور میکائیل علیہ السلام نے ان کے باعیں رہ کر جہاد کیا، پھر انہوں نے جہنڈا انہیں رکھا یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنے ترکہ میں کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا، ماسوانو 900 (دوسری روایت کے مطابق 700) سو درہم کے جوانہوں نے اپنا حصہ لیا تھا، ان کا ارادہ تھا کہ وہ ان پیسوں سے اپنے اہل بیت کے لئے خادم خریدیں گے۔

☆☆☆

## فصل نمبر 49:

### ذکر منزلة علی ابن ابی طالب وجہه من النبی:

### رسول اللہ کے ہاں حضرت علی کا مرتبہ

#### حدیث نمبر 1:

((اخبرنا بشربن هلال البصری قال: حدثنا جعفر وهو ابن سليمان۔ قال: حدثنا حرب بن شداد عن قتادة، عن سعيد بن المسيب عن سعد بن ابی وقاص، قال: لما غزار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوك خلف علياً كرم الله وجهه في المدينة، قالوا فيه: مله و كره صحبة، فتبع على رضي الله تعالى عنه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى لحقه في الطريق، قال: يارسول الله! خلفتني بالمدينة مع الذراري والنساء، حتى قالوا: مله و كره صحبتهم؟ فقال (له) النبي صلی اللہ علیہ وسلم: يا علي! إنما خلفتك على اهلي، أما رضي الله عنك مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدك))

(اسن اکبری للنسائی ج 7 ص 307 رقم 425 وص 584 وص 375 وص 429 وص 8138 وص 119 رقم 174 وص 100، مسنداً بیان 1 ص 313 رقم 734، شرف المصطفیٰ ج 5 ص 500، شرح اصول اعتقاد اهل السنّۃ لاکائی ج 2 ص 308، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 151، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 344)

”حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوك کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مدینہ مقدسہ میں چھوڑا۔ لوگ کہنے لگے: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کی سُگنگت کوئی پسند کیا۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے یہاں تک کہ آپ کو راستہ میں پالیا، عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے مجھے مدینہ

میں بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا حتیٰ کہ لوگ با تین بنا نے لگئے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور اس کی سُنگت کو نہ پسند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولیٰ علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: اے علی! میں نے آپ کو اپنے اہل و عیال میں چھوڑا ہے، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی منزلت مجھ سے ایسی ہے جیسی ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے بجز اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔“

### حدیث نمبر 2:

((احبرنا القاسم بن زکریا بن دینار الكوفی، اخبرنا ابو نعیم قال: حدثنا عبد السلام عن يحيیٰ بن سعید، عن سعید بن المسبیب عن سعد بن ابی وقاص ان النبی رضی اللہ عنہ قال لعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انت منی بمنزلة هارون من موسی))  
 (السنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 465 رقم 8376 طبع آخر ج 5 ص 120 رقم 8430، جامع الترمذی ص 3740 رقم 849،  
 مجمع الصیغہن ج 2 ص 824، حلیۃ الاولیاء ج 7 ص 229 رقم 10303، الفوائد المنشقة والغرائب الحسان للصوری  
 ص 57 رقم 14)

”حضرت سعید بن میتب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: آپ کی منزلت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔“

### حدیث نمبر 3:

((احبرنا زکریا بن يحيیٰ، قال اخبرنا ابو مصعب ان الدراوردی حدثه عن هاشم، عن سعید بن المسبیب عن سعد قال: لما خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى تبوك خرج علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتبعه فشکا (يشعیه، فبکی) وقال: يا رسول الله اتر كنی مع الخوالف؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: يا علیٰ اما ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی الا النبوة))

(السنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 425 رقم 8378 طبع آخر ج 5 ص 120 رقم 8432)

”حضرت سعید بن میتب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبک کی طرف تشریف لے گئے تو حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے گئے اور شکایت کی (چند قدم مشایعت کی پھر روتے ہوئے) عرض کیا: يا رسول الله! کیا آپ مجھے پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی مساوا بیوت کے۔“

### حدیث نمبر 4:

((اخبرنی اسحق بن موسیٰ بن عبد اللہ (بن موسیٰ) ابن یزید الانصاری، قال: حدثنا داود بن کثیر الرقیٰ عن محمد بن المنکدر، عن سعید بن المسیب عن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلیٰ: أنت مني بمنزلة هارون من موسیٰ الا انه لانبی (بعدی))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 426 رقم 8379 وطبع آخر ج 5 ص 120 رقم 8433)

"حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا: تم میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام الایہ کہ یہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔"

### حدیث نمبر 5:

((اخبرنا صفوان بن عمرو قال: حدثنا احمد بن خالد قال: حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمة الماجشون، عن محمد بن المنکدر، عن سعید بن المسیب: اخبرنی ابراهیم بن سعد انہ سمع اباہ سعدا و هو يقول: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اهاترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسیٰ الا انه لا نبوة بعدی، قال سعید فلم ارض حتی اتیت سعدا فقلت: شیء حدثت به ابنك، فقال بما هو يابن اخی؟ فقلت: هل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول لعلیٰ کذا و کذا؟ قال: نعم، وأشار الی اذنیه، والا فاستکتا، لقد سمعته يقول ذلك))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 426 رقم 8380 وطبع آخر ج 5 ص 121 رقم 8434، فضائل الصاحبة ج 2 ص 785 رقم 1079، کتاب النہ لابن ابی عاصم ص 587 رقم 1335، مسند ابی یعلیٰ ج 1 ص 321 رقم 751)

"حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مجھے ابراہیم بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد سعد بن ابی وقار ص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: تم میرے لئے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لیکن میں اس پر مطمئن نہ ہوا حتیٰ کہ میں خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے اپنے بیٹے کو کوئی چیز بیان کی ہے؟ انہوں نے فرمایا: اے سمجھج! وہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا: کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس طرح بنائے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں اور

اپنے دونوں کا نوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں نے نہ سنا ہو تو یہ دونوں کاں بھرے ہو جائیں۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے خود سناتھا۔

یوسف بن مالک شون نے یہ حدیث محمد بن منکد راز سعید از عامر بن سعد ازا والد خود روایت کی ہے، اور علی بن زید بن جدعان نے ان کی متابعت میں عامر بن سعد سے روایت کی ہے۔

### حدیث نمبر 6:

((خبرنا زکریا بن یحییٰ قال: حدثنا ابن ابی الشوارب قال: حدثنا حماد بن زید، عن علی بن زید، عن سعید بن المسبیب، عن عامر بن سعد، عن سعدان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلیٰ: أنت مني بمنزلة هارون من موسیٰ غير أنه لأنبیاء بعدي، قال سعید: فاحببت أن اشافه بذلك سعداً فاتيته، ما حدیث حدثی به عنك عامر؟ فادخل أصبعيه فی أذنیه، وقال: سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سلم ولا فاستكتا قال النسائي: وقد روی هذا الحديث شعبة عن علی بن زید فلم يذكر عامر بن سعد))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 703 رقم 426 وص 838 وص 427 رقم 1 وص 8435 رقم 6217، مسلم ص 1059 رقم 313 ص 735، الجامع اخلاق الراوی وآداب السامع ج 1 ص 120)

”حضرت سعید بن میتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے ہارون علیہ السلام سوائے اس کے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ حضرت سعید بن میتب کہتے ہیں: بعد ازاں میں نے چاہا کہ یہ حدیث بالمشافہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنوں تو میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: کیا آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے جو کہ آپ کے حوالے سے آپ کے بیٹے عامر نے مجھے بیان کی؟ تو آپ نے اپنی الگبیاں کا نوں میں ڈال کر کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سئی ہے اگر نہ سی ہو تو میرے کاں بند ہو جائیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرت شعبہ نے یہ حدیث علی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اور اس کی سند میں عامر بن سعد کا ذکر نہیں کیا۔“

### حدیث نمبر 7:

((خبرنا محمد بن وہب الحرانی، قال: اخبرنا مسکین بن بکیر، قال: حدثنا شعبة، عن علی بن زید قال: سمعت سعید بن المسبیب یحدث عن سعدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاتر رضی ان تكون مني بمنزلة هارون من

موسى؟ قال علىٰ: بل رضيٌّ، فسألته بعد ذلك فقال: بلٰى بلٰى! قال أبو عبد الرحمن: ماعلمت أحد تابع عبد العزيز بن الماجشون علىٰ روايته عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن المسيب، عن ابراهيم بن سعد علىٰ ان ابراهيم بن سعد قدروٰ هذا الحديث عن أبيه))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 427 رقم 838 وطبع آخر ج 5 ص 122 رقم 8436، من در الی یعلیٰ ج 1 ص 301 رقم 705، مند احمد ج 1 ص 175 وطبع آخر ج 1 ص 474 رقم 1509، الفوائد المبتداة والغرائب الحسان للصوری ص 55 رقم 13، حلیۃ الاولیاء ج 7 ص 229، تاریخ دمشق ج 42 ص 145، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص (347، 348)

”حضرت علیٰ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: میں نے حضرت سعید بن میتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی مسویٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی؟ حضرت علیٰ نے عرض کیا: بلکہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو انہوں نے عرض کیا: میں کیوں نہیں راضی؟ میں کیوں نہیں راضی!۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ محمد بن منکدر سے اس روایت پر کسی نے عبد العزیز بن یہشون کی از سعید بن میتب از ابراهیم بن سعد کی سند پر متابعت کی ہو کہ واقعی ابراهیم بن سعد نے اپنے والد (سعد) سے روایت کی۔“

### حدیث نمبر 8:

((خبرنا محمد بن بشار قال بحدثنا محمد (يعنى ابن جعفر غندر قال: اخبرنا شعبة عن سعد بن ابراهيم (قال) سمعت ابراهيم بن سعد ابن ابي وقارص يحدث عن ابيه عن النبي رضي الله تعالى عنه انه قال لعلى رضي الله تعالى عنه: اما ترضي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 308 رقم 427 وطبع آخر ج 5 ص 44 رقم 44 وطبع آخر ج 1 ص 175 رقم 8437، مند سعد بن ابی وقارص للدورقی ص 136 رقم 75، مند احمد ج 1 ص 122 رقم 8139 وطبع آخر ج 1 ص 473 رقم 1505، بخاری ص 625 رقم 3706، مسلم ص 1059 رقم 6221، سنن ابن ماجہ ج 1 ص 28 رقم 82، مند ابی داؤد الطیالسی ص 205 وطبع آخر ج 1 ص 116 رقم 210)

”حضرت شعبہ سعد بن ابراهیم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابراهیم بن سعد بن ابی وقارص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری منزلت میرے ساتھ ایسی ہو جیسی مسویٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون

علیہ السلام کی۔؟“

### حدیث نمبر 9:

((خبرنا عبد اللہ بن سعد بن ابراهیم بن سعد) البغدادی قال: (حدثنی عمی 'قال)  
حدثنا ابی عن ابن اسحاق قال: حدثنی محمد بن طلحہ بن زید بن رکانۃ عن ابراهیم  
بن سعد ابی وقاص عن ابیه انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لعلی  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ: حين خلفه فی غزوۃ تبوك علی اهله الاتر ضی ان تكون منی  
بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی؟ قال ابو عبد الرحمن: وقد روی  
هذا الحدیث عن عامر بن سعد عن ابیه من غير حدیث سعید بن المیب))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 427 رقم 8384 وطبع آخر 5 ص 122 رقم 8438، کتاب النہ لابن الی عاصم  
ص 586 رقم 1332)

”حضرت ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقار صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں  
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہوئے سن: جب آپ نے انہیں  
غزوہ تبوك کے موقعہ پر اپنے اہل بیت میں چھوڑا تھا، کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری منزلت  
میرے ساتھ ایسی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی  
نہیں ہوگا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث عامر بن سعد نے اپنے والد سے حضرت سعید  
بن میتب کے بغیر بھی روایت کی ہے۔“

### حدیث نمبر 10:

((خبرنا محمد بن المشنی قال: اخبرنا ابو بکر الحنفی، قال حدثنا بکیرین مسمار قال:  
(سمعت عامر بن سعد يقول: قال: معاویة لسعد بن ابی وقار: ما يمنعك ان تسب  
(علی) ابن ابی طالب؟ قال: لا اسبه ما ذكرت ثلثا قالهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم، لان تكون لى واحدة منهن احب الى من حمر النعم لا اسبه ما ذكرت حين نزل  
 علیه الوحی فاخذ علیا وابنیه وفاطمة فادخلهم تحت ثوبه ثم قال رب هولاء اهل بيتي  
 واهلی، ولا اسبه ما ذكرت حين خلفه فی غزوۃ غزاها، قال علی: خلفتني مع الصیبان  
 والنساء؟ قال: او لا ترضى ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبوة بعدی  
 وما اسبه ما ذكرت يوم خیر حین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عطین (هذه)  
 الراية رجلا يحب الله ورسوله ويفتح الله بيده فتطاولنا، فقال: این علی؟ فقالوا: هو ارمد  
 قال: (فقال) ادعوه (فدعوه) فبصق في عينيه ثم اعطاه الراية ففتح الله علیه، فوالله

ما ذکرہ معاویۃ بحرف حتیٰ خروج من المدینة)

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 428 رقم 8385 وص 410 رقم 8342 وطبع آخر ج 5 ص 122 رقم 8439 وص 107، رقم 8399، 8439، مند سعد بن ابی وقاص للدورقی ص 51 رقم 19، صحیح مسلم رقم 6220، مند احمد ج 1 ص 185 رقم 1608، جامع الترمذی ص 675 رقم 2999 وص 847 رقم 3724، مصنف ابن ابی هبیبة ج 6 ص 369 رقم 32069 وص 32069 رقم 63، المستدرک للحاکم ج 3 ص 108 رقم 6432، مند البزرارج 3 ص 324 رقم 1120، السنن الکبریٰ للبغیٰ ج 7 ص 63 رقم 13392، تاریخ مدینۃ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 111، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 332، شرح اصول اعتقاد اهل الشیعہ لکائی ج 2 ص 308، البداییۃ والنحلیۃ لابن کثیر ج 5 ص 452، سیر اعلام البلاء للدھنی ص 619، الاصابة ج 4 ص 468، مناقب علیٰ واحسین للفواد عبد الباتی ص 33، 60، 116، 117، الانوار الیاهودیۃ للتلیدی ص 41)

”حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہا پنے والد (سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویۃ نے پوچھا: علی ابی طالب کو برائی کہنے سے تمہیں کیا چیز مانع ہے؟ انہوں نے کہا: میں انہیں برائیں کہوں گا جب تک کہ مجھے وہ تمن با تمن یاد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں فرمائی تھیں؛ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی میرے اندر ہوتی تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محظوظ ہوتی۔ 1: میں انہیں برائیں کہوں گا جب تک کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے ان کے دونوں بیٹوں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چادر میں لے لیا، پھر عرض کیا: یہ میرے اہل بیت اور میرے گھروالے ہیں۔ 2: اور میں انہیں برائیں کہوں گا جب تک کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک غزڈہ کے موقعہ پر پیچھے چھوڑا تھا تو حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا: آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی ہارون علیہ السلام کی موئی علیہ السلام کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ 3: اور میں انہیں برائیں کہوں گا جب تک کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دن فرمایا تھا: کل میں ایسے شخص کو پرچم عطا کروں گا جو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محظوظ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، پس ہم سب اس پرچم کے امیدوار تھے کہ آپ نے فرمایا: علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا: وہ آشوب چشم میں بتلا ہیں۔ فرمایا: اس کو بلا واد! انہوں نے بلا یا تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا پھر پرچم ان کے سپرد کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اللہ کی قسم! ان فضائل کو سننے کے بعد حضرت معاویۃ نے ایک حرف بھی نہ کہا حتیٰ کہ وہ مدینہ مقدس سے چلے گئے۔“

حدیث نمبر 11:

((اخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد عن شعبة، عن الحكم، عن مصعب عن سعد قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يارسول الله! تخلفني بين النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ الا انه لانبى بعدى؟ (قال ابو عبد الرحمن) خالفه ليث فقال: (عن الحكم) عن عائشة بنت سعد))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 308 رقم 428 وطبع آخر ج 5 ص 44 رقم 4814 وص 123 رقم 8441، بخاری ص 749 رقم 4416، صحیح مسلم ص 1059 رقم 6218، فضائل الصحابة ج 2 ص 960 رقم 703، مند احمد ج 1 ص 182 رقم 1583، مند سعد بن ابی وقاص للدورقی ص 103 رقم 49، مصنف ابن ابی هبیبة ج 6 ص 369 رقم 32065، مند ابی داؤد الطیالسی ص 29 رقم 209 وطبع جدید ج 1 ص 114 رقم 206، مند المزاحی ج 3 ص 368 رقم 1170، مند ابی یعلی ج 1 ص 178 رقم 339، دلائل الدوۃ للیہقی ج 5 ص 220، الاعقاد للیہقی ص 550 وطبع آخر ص 480)

”حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوك کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا تو انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ دیا؟ تو آپ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ليث نے اس حدیث کی سند میں اختلاف کیا اور کہا کہ از حکم از عائشہ بنت سعد روایت کی گئی ہے۔“

حدیث نمبر 12:

((اخبرنا الحسن بن اسماعيل (بن سليمان) المصيص المجالدي، قال: اخبرنا المطلب، عن ليث، عن الحكم، عن عائشة بنت سعد، عن سعد، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك: انت يا ابن ابی طالب مني مكان هارون من موسى؟ الا انه لانبى بعدى۔

قال ابو عبد الرحمن: وشعبة أحفظ، وليث ضعيف الحديث، (والحديث) قدر وته عائشة بنت سعد))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 429 رقم 8488 وطبع آخر ج 5 ص 123 رقم 8442)

”حضرت عائشہ بنت سعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقعہ پر فرمایا: اے ابن ابی طالب! تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اور حضرت شعبہ زیادہ حافظ الحدیث ہیں اور یہ ضعیف ہے اور اس حدیث کو عائشہ بنت سعد نے روایت کیا ہے۔“

### حدیث نمبر 13:

((احبرنا زکریا بن یحییٰ قال: اخبرنا ابو مصعب عن الدر اوردی عن الجعید بن عبد الرحمن، عن عائشة بنت سعد عن ابیها (ان علياً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ ثَنِيَةَ الْوَادِعِ، غَزَوَةَ تَبُوكَ) انه قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتی ثنیة الوداع من غزوہ تبوک، وعلی یشتکی، وہو يقول: اتخلفنی مع الخوالف؟ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: أما ترضی أن تكون منی بمنزلة هارون من موسی الا النبوة))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 429 رقم 8389 وطبع آخر ج 5 ص 123 رقم 124، منhadīj ج 1 ص 170 وطبع آخر ج 2 ص 464 رقم 1463، فضائل الصاحبة ج 2 ص 732 رقم 1006، منhadīj ارج 4 ص 38 رقم 1200، دمشق لابن عساکر ج 42 ص 162)

”حضرت عائشہ بنت سعد اپنے والد سعد بن ابی وقار صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے جب ثنیۃ الوداع کے مقام پر پہنچ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور شکایت کرتے ہوئے عرض کیا: آپ مجھے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ماسوانیوت کے۔“

### حدیث نمبر 14:

((احبرنا الفضل بن سهل البغدادی قال: حدثنا ابو احمد الزبیری قال: حدثنا عبد الله بن حبیب بن ابی ثابت، عن حمزہ بن عبد اللہ، عن ابیه، عن سعد قال: خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک و خلف علیاً، فقال: اتخلفنی؟ فقال (له): أما ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 429 رقم 8390 وطبع آخر ج 5 ص 124 رقم 8444، منhadīj ج 1 ص 184 وطبع آخر ج 1 ص 496 رقم 1600، کتاب النبی لابن ابی عاصم ص 586 رقم 1334)

”حضرت حمزہ بن عبد اللہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ

عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا تو انہوں نے عرض کیا: آپ مجھے پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی ہارون علیہ السلام کی مویٰ علیہ السلام کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔“

### حدیث نمبر 15:

((خبرنا القاسم بن زکریا بن دینار الكوفی) قال: حدثنا ابو نعیم قال: حدثنا فطر، عن عبد الله بن شریک، عن عبد الله بن الرقیم الکنائی عن سعد بن ابی وقار، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی: انت منی بمنزلة هارون من موسی))  
 (السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 429 رقم 8391 طبع آخرج 5 ص 124 رقم 8445، الطبقات الکبریٰ لابن سعد ج 3 ص 15، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 165۔)

”حضرت عبد اللہ بن رقیم الکنائی حضرت سعد بن ابی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: آپ کی منزلت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی مویٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی۔“

### حدیث نمبر 16:

((خبرنا احمد بن یحییٰ الصوفی) قال: حدثنا علی بن قادم قال: حدثنا اسرائیل، عن عبد الله بن شریک، عن الحارث بن مالک عن سعد بن مالک، (قال سعد بن مالک) ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا علی ناقته (الحمراء) الجدعاء، وخلف علیاً، وجاء علی حتی تعدد الناقة، فقال: يارسول الله زعمت قريش انك انما خلقتني انك استشقلتني وكرهت صحبتي، وبکی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس: ما منكم أحد إلا وله (حاماً؟) حاجة، يا ابن ابی طالب اما ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی! الا انه لانبی بعدي، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضیت عن الله عزوجل وعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم))  
 (السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 430 رقم 8392 طبع آخرج 5 ص 124 رقم 8446، جمع الجواع ج 13 ص 479 رقم 8430)

”حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن مالک (بن ابی وقار) رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے اپنی اونٹی جدعاء (یا حمراء) پر سوار ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حتیٰ کہ اونٹی سے

آگے بڑھ گئے (اور اس کی مہار کو تھام لیا) پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! قریش نے گمان کیا ہے کہ آپ نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا اور مجھے بوجھ سمجھا اور مجھے ساتھ رکھنے کو ناپسند کیا اور (یہ عرض کرتے ہوئے) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں ندا فرمائی! لوگو! کیا تم میں سے ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقرب نہیں ہے؟ اے ابو طالب کے فرزند! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسی مویٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں۔“

### حدیث نمبر 17:

((اخبرنا عمرو بن علی قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا موسى الجهنمي قال:  
دخلت على فاطمة بنت عليٍّ فقال لها رفيقٌ: هل عندك شيءٌ عن والدك (مثبت؟)  
يرهباً؟ قالت: حدثني اسماء بنت عميس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلیٍّ:  
انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدى))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 430 رقم 8393 طبع آخر ج 5 ص 124 رقم 8447، مسند احمد ج 6 ص 369 طبع آخر ج 8 ص 744 رقم 27621، فضائل الصحابة ج 2 ص 740 رقم 1020، مصنف ابن ابی شیبة ج 6 ص 369 رقم 32067، کتاب السنة لابن ابی عاصم ص 588 رقم 1346، اتحاف الخيرة الکھرۃ ج 7 ص 184 رقم 6631، تاریخ الثقات للعجلی ص 522 رقم الترجمۃ 2106، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 182 تا 185)

”حضرت موسی الجھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت فاطمہ بن علی رضی اللہ عنہا کے ہاں حاضر ہوا تو میرے ایک ساتھی نے اُن سے عرض کیا: آپ کے پاس آپ کے والدگرامی کے متعلق کوئی حدیث ہے؟ انہوں نے فرمایا: مجھ سے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسی مویٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔“

### حدیث نمبر 18:

((اخبرنا احمد بن سليمان قال: حدثنا جعفر بن عون، عن موسى الجهنمي قال: ادركت  
فاطمة بنت عليٍّ، وهي بنت ثمانين سنة، فقلت لها: تحفظين عن ابيك شيئاً قالت لا،  
ولكنى سمعت اسماء بنت عميس: انها سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم  
يقول: ياعلى انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس من بعد نبى))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 430 رقم 8394 طبع آخر ج 5 ص 124 رقم 8448، فضائل الصحابة ج 2 ص 796 رقم

(1091)

”حضرت جعفر بن عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ الجھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ میں نے حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پایا درآنحالیکہ ان کی عمر اسی برس تھی، میں نے انہیں عرض کیا: کیا آپ کو اپنے والدگرامی سے کوئی حدیث یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں، لیکن میں نے اسماء بنت عمیس سے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنایا: اے علی! تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسی ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے الایہ کہ میرے بعد نہیں ہوگا کوئی نبی۔“

### حدیث نمبر 19:

(قال: حدثنا احمد بن عثمان بن حکیم (الاودی) قال: حدثنا ابو نعیم 'حدثنا الحسن۔ وهو ابن صالح۔ عن موسی الجھنی' عن فاطمة بنت علی 'عن اسماء بنت عمیس' ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم قال: يَا عَلِيًّا أَنْكَ مِنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدِي')

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 431 رقم 8395 و طبع آخر ج 5 ص 125 رقم 8449)

”حضرت فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا: تمہاری نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کی مگریہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔“



### فصل نمبر 50:

#### ذکر احادیث الناس عهدا برسول الله:

## رسول اللہ کی بارگاہ کے مقرب ترین کا تذکرہ

### حدیث نمبر:

((خبرنا ابوالحسن علی بن حجر المروزی) قال: حدثنا جریر، عن المغيرة، عن ام موسی، عن ام سلمة (قالت ام سلمة) ان اقرب الناس عهدا برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 464 رقم 8486 و طبع آخر ج 5 ص 154 رقم 8539)

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں: عہد (سرگوشی) کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔“

### حدیث نمبر:

((اخبرنا محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة عن أم موسى، قالت: قالت أم سلمة: والذى تحلف بي ام سلمة ان اقرب الناس عهدا برسول الله صلی الله علیہ وسلم على رضی الله عنه، قالت: لما كان غدوة قبض رسول الله صلی الله علیہ وسلم فارسل اليه رسول الله صلی الله علیہ وسلم، قالت: واطنه كان بعثه في حاجه، فجعل يقول: جاء على؟ ثلاث مرات، (قالت) فجاء قبل طلوع الشمس، فلما ان جاء عرفنا ان له اليه حاجه، فخرجنامن البيت، وكناعند (عدنا) رسول الله صلی الله علیہ وسلم يومئذ في بيت عائشة، و كنت في آخر من خرج من البيت، ثم جلست من وراء الباب، فكنت ادنهم الى الباب، فاكب عليه على رضی الله تعالیٰ عنہ فكان آخر الناس بي عهدا، فجعل يساره ويناجيه))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 465، رقم 848 وطبع آخر ج 5 ص 154، رقم 8540، مصنف ابن ابی شیبۃ ج 6 ص 368، رقم 32057، مسندا حمدا ج 6 ص 300، رقم 27100، مسند ابی یعلی ج 6 ص 92، رقم 6898 وص 104، رقم 632، المستدرک للحاکم ج 3 ص 138، رقم 3726، مجمع الکبیر ج 10 ص 108، رقم 19330، تاریخ مدینہ دمشق ج 42 ص 394، مختصر تاریخ دمشق ج 18 ص 21)

”حضرت ام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حلف اٹھا کر کہا کہ امانت اور وفا کے لحاظ سے تمام لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ فرماتی ہیں: جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اس کی علیٰ اصلاح آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ضرورت کے تحت بھیجا تھا، پھر آپ نے پوچھنا شروع فرمادیا: علی آئے ہیں؟ یہ سوال (وقفہ وقفہ سے) تین مرتبہ فرمایا حتیٰ کہ طلوع آفتاب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے۔ جب آپ پہنچ تو ہم پر واضح ہوا کہ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی ضروری کام ہے تو ہم گھر سے باہر نکل گئے اور اس دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی خاطر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر جمع تھے اور میں سب سے آخر میں گھر سے باہر نکلی، پھر میں دروازے کے پیچے بیٹھ گئی اور میں ان سے بہت قریب تھی (میں نے دیکھا کہ) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سر جھکایا، پس آپ تمام لوگوں سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمان کرنے والے ائمہ سرگوشی کرنے والے اور آخری محروم را راز تھے۔“

فصل نمبر 51:ذکر اخوۃ:

## ذکر مواہات

حدیث نمبر 1:

((اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري، واحمد بن عثمان بن حکیم الاودی۔ واللفظ لمحمد۔ قالا حدثنا عمرو بن طلحة، قال: حدثنا اسپاط، عن سماک، عن عکرمة، عن ابن عباس: ان علياً کان يقول في حياة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان الله تعالیٰ یقول: (افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ینقلب) والله لانقلب على اعقابنا بعد اذهانا الله، والله لشن مات او قتل لاقاتلن على ماقاتل عليه حتى اموت، (مات) (هداانا الله، اموت) والله اني لاخوه ووليه ووارثه وابن عمه، فمن احق به مني))  
 (السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 431 رقم 8396 طبع آخر ج 5 ص 135 رقم 845، مجمع الکبیر ج 1 ص 66 رقم 174، المستدرک ج 3 ص 126 طبع آخر ج 4 ص 95 رقم 4691، تفسیر ابن ابی حاتم ج 3 ص 777، مجمع الزوائد ج 9 ص 134 طبع آخر ج 9 ص 183 رقم 14765، الدار المنشور ج 2 ص 338))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید کر دیئے جائیں پھر جاؤ گے تم ائٹے پاؤں) (آل عمران: 144) اللہ کی قسم! اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے بہرہ ورکیا ہم ائٹے پاؤں نہیں پائیں گے۔ اللہ کی قسم! اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا یا آپ کو شہید کر دیا گیا تو میں ضرور اس بات پر جہاد جاری رکھوں گا جس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کی قسم! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی، آپ کا ولی اور وارث ہوں اور آپ کا پچازار ہوں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار مجھ سے زیادہ کون ہے؟“

حدیث نمبر 2:

((اخبرنا الفضل بن سهل، قال: حدثني عفان بن مسلم، قال: حدثنا ابو عوانة، عن عثمان بن المغيرة، عن ابی صادق، عن ربيعة بن ناجد: ان رجلاً قال لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: يا امر المؤمنین! الم ورثت (ابن عمك) دون اعمامك؟ قال: جمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم (او قال دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم) بنی عبدالمطلب فصنع لهم مذا من الطعام، فاكلوا، حتى شبعوا، وبقى الطعام كما هو، كانه لم يمس، ثم

دعا بعمر فشربوا حتى روا، وبقى الشراب كأنه لم يمس، اولم يشرب، فقال: يا بنى عبد المطلب انى بعشت اليكم خاصة، والى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية قدررأيتم، فايكم، يبأىعنى على ان يكون اخبي وصاحبى ووارثى؟ فلم يقم اليه احد، فقامت اليه، و كنت اصغر القوم، فقال: اجلس، ثم قال: ثلاث مرات كل ذلك اقوم اليه، فيقول: اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدى، ف بذلك ورثت ابن عمى دون عمى))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 432 رقم 8397 طبع آخر 5 ص 126 رقم 8451، مند احمد ج 1 ص 159 رقم 1371، فضائل الصاحبة ج 2 ص 807 رقم 1108 ص 871 رقم 1196 ص 887 رقم 1220، مند المزارج 2 ص 105 رقم 455، تفسیر ابن ابی حاتم ج 9 ص 2826، عجم الاوسط ج 2 ص 1992، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 46، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 307 تا 312، تفسیر الطبری ج 19 (مجلد 11) ص 148، الطبقات الکبری لابن سعد ج 1 ص 89، 90، دلائل الدوحة للیہیقی ج 2 ص 1795، 1800، الدار المنصور ج 6 ص 327، سبل الحدی ج 2 ص 324، حجۃ اللہ علی العالمین ص 433، 434)

”حضرت ربیعہ بن ناجذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا: اے امیر المؤمنین آپ اپنے چھاڑا (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کے وارث اپنے چھاؤں کے بجائے کیونکر ہوئے؟ آپ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو جمع کیا، یا فرمایا کہ بلا یا پھر ان کے لیے ایک مد طعام تیار کیا تو انہوں نے کھایا حتیٰ کہ وہ سب سیر ہو گئے اور کھانا جوں کا توں باقی رہ گیا، گویا کہ اس کو چھواہی نہیں گیا۔ پھر آپ نے ایک چھوٹے سے پیالہ میں پانی منگوایا جسے انہوں نے پیا حتیٰ کہ سیراب ہو گئے اور پانی یونہی باقی رہ گیا گویا کہ اسے چھواہی پیا ساہی نہیں گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: اے اولاد عبد المطلب! میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً مبسوٹ کیا گیا ہوں، اور تم نے میرا یہ مجرہ اچھی طرح دیکھ لیا ہے۔ لہذا تم میں سے کون اس بات پر میری بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی، میرا ساٹھی اور میرا وارث ہو؟ لیکن کوئی بھی نہ اٹھا اور میں سب سے چھوٹا تھا، تو آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ! پھر آپ نے تین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے تو ہر مرتبہ میں اٹھا اور آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ تیسری مرتبہ آپ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: پس اس سبب سے میں اپنے چھاؤں کی بجائے اپنے چھاڑا (صلی اللہ علیہ وسلم) کا راوٹ ٹھہرا۔“

### حدیث نمبر 3:

((اخبرنا ز کریبا بن یحییٰ قال: (حدثنا عثمان) حدثنا عبد الله بن نمیر قال: حدثنا مالک بن مغول، عن الحارث بن حصیر، عن ابی سلیمان الجھنی، قال: سمعت علیاً علی

المنبر يقول: انا عبد الله و اخو رسول الله، لا يقوم بها الا كذاب مفتر، (فقال رجل: انا عبد الله و اخو رسوله صلي الله عليه وسلم، فتحقق فحمل))  
 (من الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 432 رقم 8398 طبع آخر 5 ص 126 رقم 8452)

”حضرت ابو سليمان الحنفی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر بیان کرتے ہوئے سن: میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، (میرے سوا) یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا اور بہتان تراث۔ پس ایک شخص کہنے لگا: میں بھی اللہ کا بندہ اور اُس کے رسول کا بھائی ہوں تو وہ خناق میں بستلا ہو گیا حتیٰ کہ اُس کا جنازہ اٹھایا گیا۔“



## فصل نمبر 52:

### ذکر قول النبی فی علی ان الله جل ثناؤه لا يخزیه ابداً

### حدیث کہ جناب علی کو اللہ کبھی شرمند نہیں کرے گا

((خبرنا محمد بن المثنی حدثنا یحییٰ بن حماد، حدثنا الوضاع (وهو ابو عوانة) (قال حدثنا یحییٰ) حدثنا ابو بلج بن ابی سلیم قال: حدثنا عمرو بن میمون قال: انی لجالس الى ابن عباس اذاتاه تسعۃ رهط، فقالوا: يا ابن عباس! اما ان تقوم معنا واما ان تخلونا هولاء، قال: فقال ابن عباس: بل اقوم معکم، قال: وهو يومئذ صحيح قبل ان یعمی، قال: فابتداً او افت حدثوا فلاندری ما قالوا، قال: فجاء وهو ینفض ثوبه وهو یقول اف وتف (یقعن) وقعوا فی رجل له عشر، لا يخزیه الله ابداً، قال فاستشرف لها من استشرف، فقال: این (علی) ابن ابی طالب؟ قیل ہو فی الرحمی یطھن، قال: وما كان احدكم لیطھن؟ قال فجاء (قدعاہ) وهو ارمد، لا يکاد یصر، فتفل فی عینیه، ثم هز الرایة ثلاثة، فدفعها الیه، فجاء بصفیة بنت حییٰ وبعث ابا بکر بسورة التوبۃ، وبعث علیا خلفه، فاخذها منه، فقال: لا یذهب بها الا رجل (هو) منی وانا منه، قال و قال لبني عمه: ایکم یوالینى فی الدنیا والآخرۃ؟ قال: وعلی: معه جالس، فقال علی: انا اوالیک فی الدنیا والآخرۃ، قال: وکان اول من اسلم من الناس بعد خدیجۃ (و دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین وعلیا فاطمة، فمد علیهم ثوبًا فقال هولاء اهل بیتی وخاصتی، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، قال: واحذر رسول الله صلی اللہ علیہ

وسلم ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين۔ فقال: (إنما يرید الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويظهركم طهيرا) قال: وشرى على نفسه: ليس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه قال: و كان المشركون يومون رسول الله صلى الله عليه وسلم ف جاء أبو بكر، وعلى نائم، قال: أبو بكر يحسبه انه نبی الله۔ قال: فقال له على: ان نبی الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بصر ميمونة فادركه۔ قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار۔ قال: وجعل على يرمي بالحجارة كما كان يرمي نبی الله (وهو يتضور)۔ قال: لف رأسه في الثوب لا يخرج منه حتى اصبح، ثم كشف عن رأسه، فقالوا: انك للستم، كان صاحبك نرميه فلا يتضور، وانت تتضور، وقد استنكرون بذلك قال: وخرج الناس في غزوۃ تبوك، قال: فقال له على: اخرج معك؟ فقال له نبی الله: لا، فبكى على، فقال له اما ترضى ان تكون مني منزلاً هارون من موسى الا انك لست بنبي، انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خليفتى۔ (انت خليفتى۔ يعني۔ في كل مومن من بعدى قال وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت ولبي في كل مومن بعدى) قال: وسد ابواب المسجد غير باب علي قال: فقال: فيدخل المسجد جنباً وهو طريقه، ليس له طريق غيره قال: من كنت مولاً فان مولاً علي قال (ابن عباس): واخبرنا الله عزوجل في القرآن قد رضي عنهم (عن اصحاب الشجرة) فعلم ما في قلوبهم۔ (فهل) هل حدثنا انه سخط عليهم بعد؟ قال: و قال: نبی الله صلى الله عليه وسلم لعمرو حين قال: ائذن لي فلا ضرب عنقه (يعني حاطبا) قال: او كنت فاعلاً وما يدريك لعل الله قد اطلع

على اهل بدرا فقال: اعملوا ما شئتم۔ (فقد غفرت لكم))

(سن الکبری للنسائی ج 7 رقم 416، سنن 8355 وطبع آخر 5 ص 112 رقم 8409، منhadhij 1 ص 331 رقم 3062، فضائل الصحابة ج 2 ص 850 رقم 1168، المستدرک للحاکم ج 3 ص 132 رقم 4708، کتاب السنة لابن عاصم رقم 351، مجمع الکبیر ج 12 ص 12593 رقم 97، مجمع الاوسط ج 3 ص 165 رقم 2715، مجمع البحرين في زواائد انجمنی ج 3 ص 386 رقم 3716، مجمع الزوائد ج 9 ص 119 رقم 14696، اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ج 7 ص 195 رقم 6662، تاريخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 102، مختصر تاريخ دمشق ج 17 ص 328، الرياض، العفرة ج 4 ص 150، البدایة والہدایة ج 5 ص 450 وطبع جدید ج 7 ص 561، الاصابة ج 4 ص 466، ازالۃ الخفاء في تاريخ الخلفاء ج 4 ص 445، مناقب علی و الحسین و اصحاب فاطمة الزهراء للقواد عبد الباتی ص 9، 27، 37، 42، 44، 63، 71)

”حضرت عمرو بن ميمون رضي الله تعالى عنه بيان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ تو افراد پر مشتمل ایک ونڈ آیا۔ وہ کہنے لگے: اے ابن عباس! آپ الگ ہو کر ہماری

بات سنیں یا ان لوگوں کو باہر بھج دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بلکہ میں علیحدہ ہو کر تہاری بات سنوں گا۔ اس وقت تک آپ صحیح تھے اور ناپینا نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: کہو! انہوں نے گفتگو کی۔ ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فارغ ہو کر آئے تو اپنا دامن جھاڑتے ہوئے فرمادیں: افسوس! یہ لوگ اس ہستی کی برائی کرتے ہیں جس کو دس خصوصیات حاصل تھیں۔ ۱: یہ اس شخص کی برائی کر رہے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: میں اس شخص کو (پر چم دے کر) بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو شرمند نہیں فرمائے گا۔ اس پر چم کو حاصل کرنے کے لئے لوگ لپچانے لگے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابن ابو طالب کہاں ہیں؟ بتایا گیا وہ چکی میں گندم پیس رہے ہیں۔ فرمایا: تم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو یہ کام کرتا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کی آنکھوں میں شکایت تھی، وہ دیکھنے سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، پھر آپ نے تین مرتبہ جھنڈا ہمراہ اور انہیں تھما دیا۔ پس وہ صفیہ بنت حی کو (قیدی بناؤ کر) لائے۔ ۲: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ التوبہ کے ساتھ بھیجا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا، پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورۃ کو واپس لے لیا اور فرمایا: اس سورۃ کے ساتھ نہیں جا سکتا مگر وہ شخص جو مجھ سے ہو یا میں اس سے ہوں۔ ۳: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں: ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی اولاد سے فرمایا: تم میں سے کون مجھ سے دنیا و آخرت میں موالات (بآہمی نصرت و محیث) کرنا چاہتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا: میں آپ کے ساتھ دنیا و آخرت میں موالات کرتا ہوں۔ ۴: ابن عباس نے فرمایا: آپ اول وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد اسلام لائے۔ ۵: ابن عباس نے فرمایا: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان راہ الہی میں فروخت کر دی تھی، جب شب ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر لیٹ گئے تھے۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے دریں اثناء حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (حضور کے بستر پر) لیٹے ہوئے تھے، آپ نے گمان کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمادیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بئر میونہ کی طرف تشریف لے گئے ہیں، آپ ان کے پیچھے جائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پالیا اور آپ کے ساتھ غار میں داخل ہوئے۔ فرمایا: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر بر سائے گئے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بر سائے جاتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد سے بچ دتاب کھا رہے تھے۔ فرمایا: انہوں نے اپنا سرخاف میں چھپائے رکھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر سر باہر

نکالا تو مشرکین کہنے لگے: تو ذلیل ہے۔ ہم تیرے صاحب پر پھراؤ کرتے تھے تو وہ درد سے بے چین نہیں ہوتا تھا اور تو بے چین ہو رہا تھا اور ہمیں یہی بات کھٹک رہی تھی (کہ یہ محمد نہیں ہے)۔ 6: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگر کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا: کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روپڑے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک ایسی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی، مگر تم نبی نہیں ہو۔ پھر فرمایا: یہ درست نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں اور آپ میرے ناسب نہ ہوں۔ 7: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: میرے بعد تم ہر مومن کے ولی (محبوب) ہو۔ 8: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیئے گئے مساوا ب علی کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے حالتِ جنابت میں داخل ہوتے تھے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ 9: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولیٰ ہوں تو پیشک علی بھی اس کا مولیٰ ہیں۔ 10: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے آگاہ فرمایا کہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہے، پس وہ جانتا ہے کو کچھ ان کے دلوں میں ہے؟ تو کیا اس اعلان کے بعد اس نے دوبارہ اشارہ فرمایا کہ وہ ان پر پھر ناراض ہو گیا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا: جب انہوں نے عرض کیا تھا کہ انہیں حاطب بن الیٰ بلتعہ کی گردان اڑانے کی اجازت دی جائے، کہ کیا تم ایسا کرو گے؟ اور کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا اہل بدر کے لئے ارشاد ہے کہ آج کے بعد تم جو چاہو کرو پیشک میں نے تمہاری مغفرت کر دی؟۔

☆☆☆

فصل نمبر 53:ذکر قول النبی لعلیٰ انک مبغور لک:

### نبی کریم کا حضرت علیٰ کو مبغور فرمانا

حدیث نمبر 1:

((اخبرنا هارون بن عبد الله الحمال البغدادی) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير الاسدی) قال: حدثنا علیٰ بن صالح عن ابی اسحق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن

سلمة‘ عن علي بن ابى طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا اعلمك كلامات اذا قلتھن غفر لك مع انه مغفور لك ‘ تقول: لا الہ الا الله (هو) الحليم الكريم، لا الہ الا الله (هو) العلی العظیم’ (سبحان الله رب السموات السبع و رب العرش الكريیم، الحمد لله رب العالمين))

السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 131 رقم 7630، طبع آخر ج 5 ص 114 رقم 8410، مند احمد ج 1 ص 91 رقم 1070 وص 92 رقم 712، نقضیاً الصحابة ج 2 ص 763 رقم 1053 وص 885، رقم 1216، صحیح ابن حبان ج 15 ص 372، رقم 8928 طبع آخر ج 9 ص 41 رقم 6889، المستدرک للحاکم ج 3 ص 137 رقم 4725، کتاب النہاد ابن ابی عاصم رقم 1315، 1316، مند المیز ارج 2 ص 231 رقم 627 ص 283، رقم 705)

”حضرت عبد اللہ بن سلمہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم ان کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمادے اس کے باوجود کہ تم بخشنے ہوئے ہو، تم یہ کلمات پڑھا کرو:

((لا الہ الا الله الحليم الکريم لا الہ الا الله العلی العظیم سبحان الله رب السموات السبع و رب العرش الكريیم، الحمد لله رب العالمين))

”الله حليم و کریم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ علی و عظیم کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک ہے جو سات آسمانوں اور عرش کریم کا رب ہے۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

## حدیث نمبر 2:

((اخبرنا احمد بن عثمان بن حکیم الكوفی ) قال: حدثنا خالد (وهو ابن مخلد) قال: اخبرنا علی بن صالح (بن حی اخو حسن بن صالح) عن ابی اسحق الهمدانی ' عن عمرو بن مرة' عن عبد اللہ بن سلمة' عن علی رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیہ وسلم قال: ياعلی الا اعلمك كلامات الفرج: لا الہ الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السموات السبع و رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمين))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 418 رقم 8357 طبع آخر ج 5 ص 114 رقم 8411)

”عبد اللہ بن سلمہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! کیا میں تمہیں کشادگی والے کلمات نہ سکھاؤں؟ وہ کلمات یہ ہیں:

((لا الہ الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السموات و رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین))

”اللہ علیٰ عظیم کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک ہے جو سات آسمانوں اور عرش کریم کا رب ہے۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

### حدیث نمبر 3:

((خبرنا صفوان بن عمر والحمصی) قال: حدثنا احمد بن خالد اخبرنا اسرائیل، عن ابی اسحق، (عن عمر و بن مربة) عن عبد الرحمن بن ابی لیلی، عن علی رضی اللہ عنہ قال: کلمات الفرج، (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالسَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))  
(سنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 418، 8358، طبع آخر ج 5 ص 114 رقم 8412)

”عبد الرحمن بن ابی لیلی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کشادگی والے کلمات یہ ہیں:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))

”اللہ حلیم و کریم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ علیٰ عظیم کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک ہے جو سات آسمانوں اور عرش کریم کا رب ہے۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

### حدیث نمبر 4:

((خبرنا احمد بن عثمان بن حکیم قال: حدثنا ابو غسان قال اخبرنا اسرائیل، عن ابی اسحق، عن عبد الرحمن بن ابی لیلی، عن علی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه، يعني نحو حديث خالد))  
(سنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 419، رقم 8359، طبع آخر ج 5 ص 115 رقم 8414)

”یہ حدیث خالد کی طرح ہے۔“

### حدیث نمبر 5:

((خبرنا علیٰ بن محمد بن علیٰ المصيصی) قال: اخبرنا خلف ابن تمیم قال: حدثنا اسرائیل حدثنا ابو اسحق، عن عبد الرحمن بن ابی لیلی، عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اعلمت کلمات اذا قلتہن غفر لك على انه مغفور لك: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))  
( السنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 419، رقم 8360، طبع آخر ج 5 ص 115 رقم 8415)

”حضرت عبد الرحمن بن أبي لیلی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے الفاظ نہ سکھاؤں کہ جب تم انہیں پڑھو تو تمہاری مغفرت کر دی جائے اس کے باوجود کہ تم بخشے ہوئے ہو:“

الحمد لله رب العالمين  
لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم،

”اللہ حلیم و کریم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ علیٰ عظیم کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک ہے جو سات آسمانوں اور عرش کریم کا رب ہے۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

### حدیث نمبر 6:

((اخبرنا الحسين بن حرث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد، عن ابى اسحق، عن الحارث، عن علی كرم الله وجهه قال: قال النبى صلی الله علیہ وسلم: الا اعلمك دعاء اذا دعوت به غفرلك وان كنت مغفورة لك؟ قلت: بلى، قال: لا الله الا الله سبحان الله رب العرش العظيم)) ((قال ابو عبد الرحمن: لم يسمع ابواسحاق من الحارث الا اربعة احادیث ليس ذامنها وانما اخر جناه لمخالفة الحسين بن واقد الاسرائيلي، ولعلی بن صالح، والحارث الاعور ليس بذلك في الحديث، وعاصم بن ضمرة أصلح منه))

(من الکبری للنسائی ج 7 ص 419 رقم 8361 وطبع آخر ج 5 ص 115 رقم 8415)

”حارث الاعور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا: کیا میں تمہیں کچھ کلمات نہ سکھاؤں کہ جب تم ان سے دعا کرو تو تمہاری مغفرت کر دی جائے اگرچہ تم بخشے ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ فرمایا: ((لا الله الا الله العلیٰ العظیم، لا الله الا الله الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم))

”اللہ حلیم و کریم کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ علیٰ عظیم کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک ہے جو سات آسمانوں اور عرش کریم کا رب ہے۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔“

امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابواسحاق نے حارث الاعور سے چار حدیثوں کے سوا کچھ نہیں سنائے اور یہ حدیث ان میں سے نہیں ہے اور ہم نے اس کو حسین بن واقد اسرائیل اور علی بن صالح کے اختلاف کے پیش نظر ذکر کیا ہے اور حارث الاعور اس حدیث میں کچھ نہیں ہے اور عاصم بن ضمرة اس سے زیادہ معتر بر ہے۔

## فصل نمبر 54:

ذکر قول النبی قد امتحن اللہ قلب علی للایمان:

## حدیث کہ اللہ نے علی کے دل کو ایمان کے لیے آزمالیا ہے

((احبیرنا ابو جعفر محمد بن عبد اللہ بن المبارک المخیرمی 'قال: حدثنا الاسود بن عامر' قال: احبيرنا شریک 'عن منصور' عن ربعی عن علی قال: جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اناس من قریش 'فقالوا: يامحمد! انا جیرانک و حلفائوک' وان (اناسا) من عبیدنا قد اداتوک ليس بهم رغبة في الدين ولا رغبة في الفقه، انما فروا من ضياعنا او موالنا فردهم الینا' فقال لا بی بکر: ماتقول؟ فقال: صدقوا، انهم لجیرانک و حلفائوک، فتغير وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم 'ثم قال لعمر: ماتقول؟ قال: صدقوا، انهم لجیرانک و حلفائوک'، فتغير وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم 'ثم قال: يامعشر قریش واللہ لیعشن اللہ علیکم رجالاً منکم امتحن اللہ قلبہ للایمان'، فیضربکم علی الدین (او یضرب بعضکم) قال ابوبکر: انا هو یار رسول اللہ؟ قال: لا' قال عمر: انا هو یار رسول اللہ؟ قال: لا' ولكن ذلك الذي يخصف النعل، وقد كان اعطي عليا نعله يخصفا))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 420 رقم 8362 وطبع آخر ج 5 ص 115 رقم 8416 و السنن الترمذی رقم 3724، سنن ابی حیان داود رقم 2700، من محدثن 1 ص 155 رقم 1336، مصنف ابن ابی شیۃ ج 6 ص 370 رقم 32072، جزء فی طرق حدیث "من کذب علی محمد" للام الطبرانی ص 75 رقم 13، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 342، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 389، اتحاف الخیرۃ اکھر ج 7 ص 178 رقم 6634، الریاض النصرۃ ج 4 ص 135، جمع الجواعی ج 13 ص 51 رقم 5621 و مصنف 73 رقم 5763، مصنف 419 رقم 7996)

"حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے کچھ افراد آئے اور انہوں نے عرض کیا: اے محمد! بیٹک! ہم آپ کے ہمایے اور حلیف (پا اعتماد ساختی) ہیں اور ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس ہیں آئے ہیں جنہیں دین اور فقہ میں کوئی رغبت نہیں، وہ ہماری جائیداد اور مال کی حفاظت سے فرار ہو کر آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے پسرو کر دیں۔ آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یہ بچ کہتے ہیں۔ بیٹک یہ آپ کے ہمایے اور حلیف ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ القدس متغیر ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے

عرض کیا: وہ سچ کہتے ہیں بیشک وہ آپ کے ہمسائے اور حلیف ہیں۔ اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا: اے جماعت تریش! اللہ کی قسم عنقریب میں تم پر ایک ایسے شخص کو بھیجنوں گا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لئے آزمالیا ہے۔ پس وہ دین کے بارے میں تمہارے ساتھ چہاد کرے گا (یا تمہارے بعضوں کو مارے گا) حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: کیا وہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا: نہیں! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ میں ہوں؟ فرمایا: نہیں! لیکن وہ وہ شخص ہے جو جوتی کی مرمت کر رہا ہے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جوتی دی تھی جس کی وہ مرمت کر رہے تھے۔

☆☆☆

فصل نمبر 55

ذكر قوله لعلی ان الله سیهدی قلبک و یثبت لسانک:

رسول اللہ کا حضرت علیؑ سے فرمانا کہ اللہ تعالیٰ خیرے دل کو ہدایت دے گا

اور تیری زبان کو ثابت رکھے گا

حدیث نمبر ۱:

((اخبرنا ابو حفص عمرو بن علي البصري، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا الاعمش، عن عمرو بن مرة عن ابي البختري عن علي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وانا شاب حديث السن، فقلت: يا رسول الله! (انك بعثني) تبعثني الى قوم يكون بينهم احداث وانا شاب حديث السن، قال: ان الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك،

(قال: فما شکت في (قضاء) حدیث اقضی به بین اثنین))

(السن الكبير للسامي ج 7 ص 420 رقم 8363 طبع آخر 5 ص 116 رقم 8417، سفن ابن ماجه ج 3 ص 90 رقم 2310، منداحم ج 1 ص 73 رقم 636 ص 88، رقم 136 ص 666، تحفة الاخبار بترتيب شرح مشكل الامارات ج 5 ص 8 رقم 3077 وص 9 رقم 3079، مندلبر ارج 2 من 298 رقم 721 وج 3 ص 125 رقم 912، مندابي داود اطيالى رقم 8 طبع جديد ج 1 ص 166 رقم 100، مندابي يعلى ج 1 ص 156 رقم 288 وص 166 رقم 397، المستدرک للحاكم ج 3 ص 134 رقم 4714، السن الكبير للبيهقي ج 10 ص 86 رقم 368، مصنف ابن ابي شيبة ج 6 ص 13 رقم 20155، رقم 20154 ص 209089.

الطبقات الکبریٰ لابن سعد ج 2 ص 49

”حضرت ابوالحنتری مولیٰ علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا اور میں کم عمر نوجوان تھا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھے ایک قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جن میں واقعات رونما ہوں گے اور میں بالکل نوجوان ہوں۔ آپ نے فرمایا: پیشک اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی راہنمائی فرمائے گا اور تمہاری زبان کو ثابت رکھے گا۔ حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: (اس کے بعد) میں کبھی دو (آدمیوں یا دو فریقوں) کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے شک میں جتنا نہیں ہوا۔“

### حدیث نمبر 2:

((خبرنا علی بن خشرم المروزی) قال: أخبرنا عيسى عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: يعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن، فقلت: انك تبعثني الى قوم اسن منی، فكيف القضاء عنهم؟ فقال: ان الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك قال: لي، فماشككت في حکومة بعد))  
(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 421 رقم 8364 وطبع آخر ج 5 ص 116 رقم 8418)

”ابوالحنتری حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کیا: آپ مجھے ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑی ہے تو میں کیسے ان کے معاملات کا فیصلہ کروں گا؟ آپ نے فرمایا: پیشک اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو کشادہ کر دے گا اور تمہاری زبان کو سلامت رکھے گا۔ حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد مجھے حکومت کرنے میں کبھی شک نہیں ہوا۔“

### حدیث نمبر 3:

((خبرنا محمد بن المثنی قال: حدثنا ابو معاویة) قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: يعثني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى اهل اليمن لا قضى بينهم، فقلت: یا رسول اللہ لا علم لي بالقضاء، فضرب بيده على صدری، وقال: اللهم اهد قلبه وسد لسانه، فماشككت في قضاء بين اثنين حين جلست في مجلسی) ((قال: ابو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث (رواہ) شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري قال: أخبرني من سمع علياً رضي الله تعالى عنه قال: أبو عبد الرحمن ابو البختري لم يسمع من علي شيئاً))  
(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 421 رقم 8365 وطبع آخر ج 5 ص 116 رقم 8419)

”حضرت عمرو بن مرّة حضرت ابوالختری سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تاکہ میں ان کے درمیان فیصلے کروں تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے پاس علم قضا نہیں تو آپ نے میرے سینے پر تھکی دی اور فرمایا: اے اللہ! اس کے قلب کو کھول دے اور اس کی زبان گوسالامت رکھ۔ پس تب سے اب تک جب بھی مند قضا پر بیٹھا تو دو (شخصوں یا فریقین) کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے شک میں بتلانہیں ہوا۔ امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اس حدیث کو حضرت شعبہ نے عمرو بن مرّة سے ابوالختری کی روایت سے ذکر کیا ہے۔ ابوالختری نے کہا کہ مجھے اس شخص نے یہ حدیث بیان کی جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سماحت کی۔ امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ابوالختری نے برآہ راست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں سنًا۔“

#### حدیث نمبر 4:

((احبیرنا احمد بن سلیمان الرہاوی 'قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 'قال: بعثني رسوا الله صلی اللہ علیہ وسلم الى اليمن وانا شاب، فقلت: یارسول الله: تبعثنى وانا شاب الى قوم ذوى اسنان اقضى (لاقضى) بينهم ولا علم لي بالقضاء؟ فوضع يده على صدرى، ثم قال: ان الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك، يا علی! اذا جلس اليك الخصمان فلاتقضى بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الاول، فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء، قال: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاما شكل علی قضاء بعد ذلك))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 421 رقم 4266 وطبع آخر ج 5 ص 117 رقم 8420، مند احمد ج 1 ص 90 رقم 143 وص 1211 رقم 150 وص 1280 رقم 1281، مند ابی راؤ دالمطیا لسی طبع قدیم ص 19 رقم 125 وطبع جدید ج 1 ص 78 رقم 127، سنن ابی داؤد رقم 3582، سنن الترمذی ص 322 رقم 1331، المسند رک للحاکم ج 4 ص 92 رقم 1707، مصنف ابن ابی هبیبة ج 6 ص 13 رقم 29088، تحفۃ الاخبار بترتیب شرح مشکل الاثار ج 5 ص 8 رقم 3078، مند ابی یعلی ج 1 ص 192 رقم 367، الطبقات الکبری لابن سعد ج 6 ص 420، السنن الکبری للیحییی ج 10 ص 86 رقم 20153 وص 140، مند ابی یعلی ج 2 ص 20487، مشکاة ج 2 ص 81 رقم 3738)

”حضرت حلش بن المعتتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور میں نوجوان تھا، تو میں نے عرض کیا:

یا رسول اللہ! آپ مجھے ایک معموقوم میں بھیج رہے ہیں تاکہ میں ان کے درمیان فیصلے کروں اور میں نوجوان ہوں اور میرے پاس قضا کا علم نہیں ہے؟ تو آپ نے میرے سینے پر اپنا درست اقدس رکھا پھر فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو کھول دے گا اور تمہاری زبان کو استقامت بخشنے گا۔ اے علی! جب تیرے پاس دو شخص اپنی اپنی شکایت لے کر آئیں تو تم اس وقت تک ان کا فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ تم دوسرے شخص کا بیان اسی طرح توجہ سے نہ سن لوجھیا کہ پہلے کامن چکے تھے۔ پس جب تم اس اصول پر عمل کر دے گے تو تم پر فیصلے کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اس کے بعد مجھ پر قضا کے معاملہ میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔“

### حدیث نمبر 5:

((خبرنا احمد بن سلیمان قال: حدثنا یحییٰ بن آدم، قال: حدثنا اسرائیل، عن ابی اسحق، عن هارثه مضرب، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، فقلت: انک تبعثنی الی قوم هم اسن منی، لا قضی بینهم، فقال: ان اللہ سیهدی قلبک، ویثبت لسانک))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 422 رقم 8367 وطبع آخر ج 5 ص 117 رقم 8421)

”حضرت حارثہ بن مضرب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کیا: آپ مجھے ایسی قوم کی طرف بھیج رہے ہیں جو مجھ سے عمر میں بڑی ہے تاکہ میں ان کے درمیان فیصلے کروں؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو ہدایت سے بہرہ ور فرمائے گا اور تمہاری زبان کو استقامت بخشنے گا۔“


### حدیث نمبر 6:

((خبرنی ابو عبد الرحمن، ذکریا بن یحییٰ قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاویة بن هشام، عن شیبان، عن اسحق عن عمرو بن حبشی، عن علی کرم اللہ وجہہ قال: بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، فقلت: یا رسول اللہ! انک تبعثنی الی شیوخ ذوی اسناد، انى اخاف ان لا اصیب؟ فقال: ان اللہ سیثبت لسانک ویهدی قلبک))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 422 رقم 8369 وطبع آخر ج 5 ص 117 رقم 8422)

”حضرت عمرو بن حبشی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھے معمرا شاخ کی طرف بھیج رہے ہیں، مجھے خدا شہ ہے کہ میں درست فیصلے نہیں کر سکوں گا۔ آپ نے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری

زبان کا ثابت رکھے گا اور تمہارے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا۔“



## فصل نمبر 56:

### بغض علی رضی اللہ عنہ و آثارہ:

### سیدنا علی سے بیزاری اور اس کے نتائج

#### دشمن علی یہودی ہے:

((واباسنادہ عن الحسن بن علی عن ابیه قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : لا یغضک من الانصار الا من کان اصلہ یہودیا))

”سیدنا حسن بن علی نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انصار میں سے جواصل میں یہودی ہو اس کے علاوہ اور کوئی تم سے دشمنی نہیں کرتا۔“

#### دشمن علی مومن نہیں:

((عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول :

من زعم انه آمن بي وبما جئت به وهو مبغض علياً فهو كاذب ليس بمومن))

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو یہ گمان کرتا ہے کہ مجھ پر اور جو کچھ میں لایا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہے لیکن علی سے دشمنی کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، مومن نہیں ہے۔“

#### دشمن علی دشمن نبی ہے:

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ياعلی ! کذب من زعم انه یحبنی و یبغضک -

من احبلك فقد احبنی ، ومن احبنی فقد احبه اللہ ، ومن احبه اللہ ادخله الجنة ، ومن

ابغضک فقد ابغضنی ، ومن ابغضنی ابغضه اللہ ، ومن ابغضه اللہ ادخله النار ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے دوست رکھتا ہے لیکن تمہارا دشمن ہے۔ جس نے تمہیں دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا اور جس نے اللہ کو دوست رکھا اللہ اسے بہشت میں داخل کرے گا اور جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی اور جو اللہ کو دشمن رکھے اللہ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔“

((بالاسناد، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال لعلی رضی اللہ عنہ :يا علی الواں عبدا عبد اللہ عزوجل مثل ما اقام نوح فی قومه، و کان له مثل (جبل) احد ذهبا فانفقه فی سبیل اللہ، ومدفی عمرہ حتی حج الف عام علی قد میہ، ثم قتل بین الصفا والمرودة مظلوما ثم لم یوالک یا علی الم یشم رائحة الجنة ولم یدخلها))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! اگر کوئی حضرت نوح کی طرح جس طرح انہوں نے اپنی قوم کے درمیان قیام کیا اللہ کی عبادت کرتا رہے اور أحد کے پہاڑ کی مقدار میں سونا اللہ کے راہ میں خرچ کرے اور اس کی عمر اتنی طولانی ہو کہ وہ پیدل ایک ہزار حج بیت اللہ انجام دے اور آخر کار صفا اور مرودہ کے درمیان مظلوم قتل ہو جائے، اگر وہ تمہاری ولایت (من کنت مولاہ فعلی مولاہ) پر یقین نہیں رکھتا تو وہ بہشت کی خوشبو سے محروم رہے گا اور اس میں داخل بھی نہیں ہو گا۔“

### جناب علی کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا ہے:

((روی بسنده برفعہ الی ابن عباس قال :قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :من سب علیا فقد سببی، ومن سببی فقد سب اللہ، ومن سب اللہ ادخله نار جہنم وله عذاب عظیم (مقیم))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی وہ اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا اور اس پر بہت بڑا عذاب ہو گا۔“

((فی حدیث :قال الحسن بن علی: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :من سب علیا ، فقد سببی و من سببی فقد سب اللہ و من سب اللہ ادخله نار جہنم خالدًا فیها مخلدًا و له عذاب مقیم))

”حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی اور جس نے اللہ کو گالی دی اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا۔ وہ ہمیشہ کیلئے اس آگ میں رہے گا اور ہمیشہ کیلئے اس پر عذاب ہو گا۔“

### جناب علیؐ سے جدا ہونا:

((قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من فارق علیاً فقد فارقني و من فارقني فقد فارق اللہ عزوجل))

”کوئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو علیؐ سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا وہ اللہ سے جدا ہو گیا۔“

((بالاسناد عن علی رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : يا علیؐ! من فارقك فقد فارقني، ومن فارقني فقد فارق اللہ عزوجل))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے علی! جو تم سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہوا اور جو مجھ سے جدا ہوا وہ اللہ سے جدا ہو گیا۔“

### دشمن علیؐ جاہلیت کی موت مارے گا:

((عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من احبك ختم اللہ لہ بالامن والایمان، ومن ابغضك اماته اللہ میته جاہلیة))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جو تمہیں دوست رکھے گا اللہ اس کی زندگی کو امن اور ایمان سے ختم کرے گا اور جو تم سے دشمنی کرے گا اللہ اس کو جاہلیت کی موت مارے گا۔“

### دشمن علیؐ اور قیامت:

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من احب علیاً کان طاهر الاصل ومن ابغضه ندم يوم الفصل))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو علیؐ کو دوست رکھے گا اس کی اصلیت پاک ہے اور جو انہیں دشمن رکھے گا قیامت کے دن پر پیشان ہو گا۔“

### علیؐ کو ایذ ادینا رسول اللہ کو ایذ ادینا ہے:

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في حدیث: من آذى علیاً فقد آذانی ، ومن آذانی فقد آذى الله))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے علیؐ کو تباہی اور جس نے مجھے تباہی اس نے اللہ کو تباہی۔“

((بالاسناد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من آذى علیاً فقد آذانی قالها

(ثلاثاً))

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی نے علیٰ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ تین مرتبہ دہرا�ا،“

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من احباب علیٰ فقد احبني ومن ابغض علیٰ فقد ابغضني ومن آذى علیٰ فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اللہ عزوجل))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے علیٰ کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے انہیں دشمن رکھا اس نے مجھے دشمن رکھا اور جس نے علیٰ کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا اس نے اللہ کو دکھ پہنچایا۔“

((عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من احبني فليحب علیاً، ومن ابغض علیاً فقد ابغضني، ومن ابغضني فقد ابغض اللہ عزوجل، ومن ابغض اللہ ادخله النار))

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مجھے دوست رکھتا ہے اسے علیٰ کو بھی دوست رکھنا چاہیے اور جس نے علیٰ سے دشمنی کی اس نے مجھے دشمنی کی اور جس نے مجھے سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی ہے اور جو اللہ سے دشمنی کرے اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔“

((عن سلمان قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : يا علی امحبک محبی، ومبغضک مبغضی))

”حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تمہارا دوست میرا دوست ہے اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے۔“

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : يا علی اکذب من زعم انه يحبني ويبغضك يا علی امن حاربك فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله يا علی امن ابغضك فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله واتعس الله جده وادخله نار جہنم))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے دوست رکھتا ہے لیکن تم سے دشمنی کرتا ہے۔ اے علی! جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھے سے جنگ کی اور جس نے مجھے سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی ہے۔ اے علی! جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھے سے دشمنی کی اور جس نے مجھے سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اللہ اس کو ہلاک کرے گا اور دوزخ میں ڈالے گا۔“

## علیؐ سے جنگ رسول اللہ سے جنگ ہے:

((وقال النبي صلی الله عليه وآلہ وسلم : حربك يا علی احربي وسلمك سلمي ))  
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم سے جنگ مجھ سے جنگ ہے اور تم سے صلح مجھ سے صلح ہے۔“

## علیؐ کی مدد نہ کرنے والا ذلیل و خوار:

((عن زید بن صوحان، عن حذیفة بن الیمان قال : سمعت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم يقول : علی امیر البرة، وقاتل الفجرا، منصور من نصره، مخذول من خذله، الا وان الحق معه (و) يتبعه، الا فمیلوا معه ))

”زید بن صوحان نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی نیک لوگوں کے حاکم اور برے لوگوں کے قاتل ہیں، جوان کی مدد کرے گا اس کی مدحوجی اور جوان کی مدد سے ہاتھ اٹھائے گا وہ ذلیل ہو گا۔ جان لوکہ حق ان کے پیچھے اور ان کے ساتھ ہے، پس ہمیشہ ان کے ساتھ رہو۔“

((عن القاسم بن عبد الغفار عنه سمعت النبي صلی الله علیہ وآلہ وسلم : يقول اللهم انصر من نصر عليا، اللهم اکرم من اکرم عليا، اللهم اخذل من حذل عليا))

”حضرت قاسم بن عبد الغفار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: اے اللہ! جو علیؐ کی مدد کرتا ہے اس کی مدد کر! اے اللہ! جو علیؐ کا احترام کرتا ہے اس کی عزت محفوظ رکھ! اے اللہ! جو علیؐ کی مدد سے ہاتھ اٹھائے اس کو ذلیل اور خوار کر!“

☆☆☆

فصل نمبر 57:

## مباهاة الله ورسوله والملائكة بعلی رضی الله عنہ:

### حضرت علیؐ پر اللہ، رسول اور فرشتوں کا فخر کرنا

### مبارک اے علیؐ!

((عن جابر بن عبد الله الانصاری رضی الله عنہ قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : ان الله عزوجل بیاہی بعلی بن ابی طالب کل یوم علی الملائكة المقربین حتی يقول : بخ بخ هنیالک يا علی ))

”حضرت چابر بن عبد اللہ النصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے مقرب ملائکہ کے ساتھ علی بن ابی طالب پر افتخار کرتا ہے حتیٰ کہ فرماتا ہے: واہ واہ! علی! مبارک ہو تم کو۔“

سات آسمانوں پر رہنے والوں کا انتشار کرتا:

((قال رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم لعلى رضي الله عنه : قد باهـى الله بك اهل سبع سماواته))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اللہ سات آسمانوں پر رہنے والوں کے ساتھ تم پر افتخار کرتا ہے۔“

رسول اللہ کا بروز قیامت انجیل:

((بالاسناد، قال رسول الله صلى الله عليه وآلله وسلم : يفتخرون يوم القيمة آدم بابنه شيث وافتخر أنا بعلي بن أبي طالب))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن حضرت آدم اپنے بیٹے شیعث پر افتخار کریں گے اور میں علی بن ابی طالب پر افتخار کروں گا۔“

## حضرت علیؑ کے آسمانی دوست:

((في حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ياعلى وان الملائكة لتقارب  
الى الله تقدس ذكره بمحبتك وولايتك ، والله ان اهل موذتك في السماء ، لاكثر  
منهم في الارض ))

”حدیث میں نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! فرشتے تیری محبت اور ولایت کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم! تمہارے زمین والے دوستوں سے آسمان والے دوست زیادہ ہیں۔“

حضرت علیؑ کے کراما کا تبین:

((ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: ان ملکی علی بن ابی طالب لیفتخران علی  
سائر الاملاک، لکونها مع علی، لا نہما لم یصعدا الی اللہ منه قط بشی یسخطه))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کے دو موکل فرشتے دوسرے ملائکہ پر انتخار کریں گے کیونکہ وہ علی  
کے ساتھ ہیں اور ان کے کسی ایسے کام کو جو اللہ کے غصہ کا موجب ہواں کی طرف لے کر نہیں  
جاتے (کیونکہ حضرت علی کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں)۔“

فصل نمبر 58:

صعود علی علی منكب النبی لکسر الاصنام:حضرت علی کار رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہو کر بتول کوتورٹنا

((بالاسناد عن ابی هریرۃ قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم لعلی بن ابی طالب یوم فتح مکہ : اما تری هذا الصنم باعلى الكعبۃ؟ قال : بلى يا رسول الله قال : فاحملک فتناوله ؟ فقال : بل انا احملک یا رسول الله ، فقال صلی الله علیہ وآلہ وسلم : واللہ لو ان ربیعة ومضر جهدوا ان يحملوا منی بضعة وانا حی ما قدروا، ولكن نقف یا على فضرب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم بیدہ الى ساقی على فوق القربوس ثم اقفلعه من الارض بیدہ فرفعه حتى تبین بیاض ابطیه ثم قال له : ما تری یا علی ؟ قال : اری ان الله عزوجل قد شرفنی بلک حتی انی لو اردت ان امس السماء لمستها، فقال لله :تناول الصنم یا على فتناوله ثم رمی به، ثم خرج رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم من تحت علی وترك رجليه فسقط على الارض فضحک، فقال له : ما اضحكک یا على ؟ فقال : سقطت من اعلى الكعبۃ فما اصابنی شيء فقال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : وكيف یصيیک شيء وانما حملک محمد، و انزلک جبریل))

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کہ کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اس بنت کو خانہ کعبہ کی بلندی پر نہیں دیکھ رہے ہو؟ علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تم کو کندھے پر اٹھاتا ہوں تاکہ بنت کو نیچے لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: نہیں، بلکہ میں آپ کو کندھے پر اٹھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم! اگر قبیلہ ربیعہ اور مضر علاش و کوشش کریں کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے میرے بدن کے مکڑے کو کندھے پر اٹھائیں پائیں گے، لیکن اے علی! تم کھڑے ہو جاؤ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو زمین پر بلند کیا اور اتنا اوپر اٹھایا کہ آپ کے بغل کی سفیدی نمایاں ہو گئی۔ اس کے بعد ان سے فرمایا: اے علی! کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا: میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے توسل سے مجھے اتنی شرافت عطا کی ہے کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کو چھو سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! بت کو اٹھا لو! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بت کو اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نیچے سے ہٹ گئے۔

امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ زمین پر گردے اور مسکرانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! مسکراتے کیوں ہو؟ عرض کیا: کعبہ کی بلندی سے گرا ہوں اور کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں کیسے چوٹ لگتی جبکہ محمد نے تم کو اٹھایا اور جبریل نے اتارا ہے۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 59:

### علی و ليلة المبيت:

## شب ہجرت حضرت علی کا رسول اللہ کے بستر پر سونا

### شب ہجرت جان کے فداؤں:

((قال بعض اصحاب الحدیث او حنی اللہ تعالیٰ الی جبریل و میکائیل علیہما السلام  
ان انز لا الی علی واحرساه فی هذه اللیلة الی الصباح فنزل لا الیه وهم يقولون :بح بخ!  
من مثلک یا علی قد باھی اللہ بک ملائکته واورد الامام الغزالی فی کتاب احیاء العلوم  
ان لیلة بات علی رضی اللہ عنہ علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
او حنی اللہ تعالیٰ الی جبریل و میکائیل انی آخیت یعنکما و جعلت عمر احمد کما  
اطول من عمر الآخر، فایکما یوثر صاحبہ بالحیاة؟ فاختار کلا هما الحیاة واحبها  
فاوحنی اللہ علیہما: افلا کنتما مثل علی بن ابی طالب آخیت یعنیه و بین محمد فبات  
علی فراشه یفديه بنفسه و یوثرہ بالحیاة۔ اهبطا الارض فاحفظاه من عدوہ، فكان  
جبریل عند راسہ و میکائیل عند رجلیه ینادی و یقول: بخ بخ من مثلک یا بن ابی  
طالب، یباھی اللہ بک الملائکة، فانزل اللہ عزوجل: و من الناس من یشری نفسہ ابتغاء  
مرضات اللہ و اللہ رؤوف بالعباد))

”بعض محدثین نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور میکائیل کو وحی کی کہ علی کے پاس جائیں اور رات سے لے کر صبح تک ان کی حفاظت کریں۔ پس جبرائیل اور میکائیل آسمان سے اترے اور کہا: واه، واه! علی! اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ تم پر افتخار کر رہا ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ جس رات علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل کو وحی کی کہ میں نے تمہارے درمیان اخوت کو برقرار کیا ہے اور ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر پر طولانی کیا ہے، تم میں سے کون اپنی زندگی کو دوسرے پر فدا کرے گا؟ ان دونوں نے اپنی زندگی کو

اہمیت دی اور اپنی زندگی سے انس اور محبت کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وحی کی: آیاتم علی بن ابی طالب کی طرح نہیں ہو کہ میں نے محمد اور ان کے درمیان اخوت کو برقرار کیا ہے اور وہ پیغمبر کے بستر پر سوئے اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی پر ترجیح دی اور اپنی جان کو ان پر فدا کر دیا۔ ابھی زمین پر اتر و اور ان کی دشمنوں سے حفاظت کرو۔ پس جبرائیل ان کے سر کی طرف اور میکائیل قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے اور دونوں کہنے لگے: واه، واه! ابو طالب کے فرزند پر جس پر اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ افتخار کرتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا: بعض لوگ اللہ کی رضایت حاصل کرنے کیلئے اپنی جانوں کو فروخت کر دیتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔“

### نبی کریم کی جان کو اپنی جان پر ترجیح دینا:

((بالاسناد، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : او حسی اللہ الی جبرئیل و میکائیل انى آخیت بینکما و جعلت عمر احد کما اطول من عمر صاحبہ فایکما یوثر اخاه عمرہ؟ فکلا هما کرها الموت، فاوھی اللہ الیها: انى آخیت بین علئی ولیی و بین محمد نبیی فائز علی حیاة النبی فرقہ علی فراش النبی یقیہ بمراجعته، اهبطا الی الارض واحفظاه من عدوہ فهبطا، فجلس جبرئیل عند راسہ و میکائل عند رجلیہ و جعل جبرائیل یقول : بخ بخ امن مثلک یا ابن ابی طالب واللہ عزوجل یا ہی بک الملائکة؟ فانزل اللہ : ومن الناس من یشری نفسمه ابتغاء مرضات اللہ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل پر وحی کی کہ میں نے تمہارے درمیان اخوت کو برقرار کیا ہے اور ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر پر طولانی کیا ہے، تم میں سے کون اپنی عمر کو اپنے بھائی پر شارکرے گا؟ دونوں نے موت سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی کہ میں نے اپنے ولی علی اور اپنے پیغمبر محمد کے درمیان اخوت کو برقرار کیا ہے اور علی نے پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی پر ترجیح دی ہے اور ان کے بستر پر سوئے اور اپنے خون سے ان کی حفاظت کی۔ ابھی زمین پر اتر جاؤ اور ان کی دشمنوں کے شر سے حفاظت کرو۔ پس وہ دونوں اترے، جبرائیل ان کے سرہانے اور میکائیل ان کے قدموں کی طرف بیٹھ گئے۔ جبرائیل نے کہا: واه واه! اے ابو طالب کے بیٹے! اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ تم پر افتخار کر رہا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا: ”**ومن الناس من یشری نفسمه ابتغاء مرضات اللہ، بعض لوگ اللہ کی رضایت حاصل کرنے کیلئے اپنی جانوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔**“

((روی ابو سعید الخدري قال : لما خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى الغار او حسی اللہ عزوجل الی جبرئیل و میکائیل انى قد آخیت بینکما و جعلت عمر

احد کما اطول من عمر الآخر فایکما یوثر صاحبہ بالحیاة فکلا هما اختارا حب الحیاة، فاوھی اللہ عزوجل الیہما :افلا کنتما مثل علی بن ابی طالب آخیت بینہ و بین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبات علی فراشہ یقیہ (یفادیہ) نفسه اهبطا الی الارض فاحفظاه من عدوہ فكان جبرائیل عند راسہ و میکائیل عند رجلیہ و جبرائیل ینادی: من مثلک یا ابن ابی طالب یباھی اللہ بک الملائکة، وانزل اللہ عزوجل فی حقہ: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ والله روف بالعبد )

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عارِ حرا کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل اور میکائیل پر وحی نازل کی کہ میں نے تمہارے درمیان بھائی چارہ برقرار کیا ہے اور ایک کی عمر کو دوسرے کی عمر پر طولانی کیا ہے۔ تم میں سے کون اپنی حیات کو دوسرے پر ایشار کرے گا؟ دونوں نے زندگی کے ساتھ محبت کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی: آیا تم علی بن ابی طالب کی مثل نہیں ہو کہ میں نے ان کے اور محمد کے درمیان بھائی چارہ برقرار کیا۔ علی پیغمبر کے بستر پر سوئے اور ان کی راہ میں فدا کاری کی۔ ابھی زمین پر اتر جاؤ اور ان کی ان کے دشمنوں کے شر سے حفاظت کرو۔ پس جبرائیل ان کے برہانے اور میکائیل ان کے قدموں کی طرف بیٹھ گئے، اور جبرائیل ندادے رہے تھے: اے ابو طالب کے فرزند! تمہاری مثل کون ہے؟ اللہ اپنے فرشتوں کے ساتھ تم پر افتخار کر رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو علی کی شان میں نازل فرمایا: ”و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ والله روف بالعبد“۔

(سورہ بقرہ آیت 207)

”بعض لوگ اللہ کی رضایت حاصل کرنے کیلئے اپنی جانوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔“

### آیت رضاہ کا نزول:

((عن حکیم بن جبیر عن علی بن الحسین فی قول اللہ عزوجل و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ قال: نزلت فی علی رضی اللہ عنہ حین بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم))

”حکیم بن جبیر کہتے ہیں کہ آیت کریمہ: کچھ لوگ اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں، کے پارے میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی جبکہ وہ بحرث کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تھے۔“

### عظیم آزمائش:

((بالاسناد ، عن انس بن مالک قال لما توجه رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم الى

الغار و معه ابوبکر امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیارضی اللہ عنہ ان ینام علی فراشه ویتغشی ببردته، فبات علی رضی اللہ عنہ موطنًا نفسه علی القتل، وجات رجال من قریش من بطنہا یرون قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما ارادوا ان یضعوا علیہ اسیافهم فهم لا یشکون انه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالوا: ایقظوه لیجد المقتل، ویری السيف یا خذہ، فلما ایقظوه فراوه علیارضی اللہ عنہ ترکوہ و تفرقوا فی طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائزہ اللہ عزوجل (ومن الناس من یشری نفسم باغفاء مرضات الله والله روف بالعبد)

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ غار کی طرف روانہ ہوں تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: یہ پوشک اپنے اوپر ڈال کر میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہادت کیلئے تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ قبیلہ قریش کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کیلئے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ تکوارنکا لئے وقت ان کو یقین تھا کہ رسول اللہ بستر پر سو رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہنے لگے: اس کو بیدار کریں تاکہ قتل ہونے کے درد کو محسوس کرے اور اپنے بدن پر تکوار کو چلتے دیکھے۔ جب ان کو بیدار کیا، دیکھا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کو چھوڑ کر رسول اللہ کو ذھوٹ نے کی جتھو میں لگ گئے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی:

”ومن الناس من یشری نفسم باغفاء مرضات الله والله روف بالعبد“

”بعض لوگ اللہ کی رضاوت حاصل کرنے کیلئے اپنی جانوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔“

☆☆☆

فصل نمبر 60:

علی فی المباہلة:

## مبابہلہ میں سیدنا علی المرتضی کا مقام

((قضیۃ المباہلة تدل علی فضل تام و ورع کامل لمولانا امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ولو لديه وزوجته حيث استعان بهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الاسلام بعد الفتح و قوی سلطانہ، وفدا الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوفود۔ منهم من اسلم و منهم من استامن لیعود الی قومہ برایہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فیهم، ویکان من وفدا علیہ ابو حارثۃ اسقف نجران فی ثلاثة رجلاً من النصاری، منهم العاقد


والسيد وعبد المسيح، فقدموا المدينة عند صلاة العصر وعليهم لباس الدين ايج والصلب، فصار اليهم اليهود وتساءلوا (تساکوا) بينهم - فقالت النصارى لهم : لستم على شيء وقالت اليهود : لستم على شيء كما حكى الله تعالى عنهم - فلما صلى النبي العصر توجهوا اليه، يقدمهم الاسقف، فقال : يا محمد ، ما تقول في السيد المسيح؟ فقال : عبد الله ، اصطفاه وانتجبه، فقال الا سقف : اتعرف له ابا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لم يكن عن النكاح، فيكون له اب قال : فكيف قلت : انه عبد مخلوق، وانت لم تر عبدا مخلوقا الا عن نكاح وله والد؟ فأنزل الله تعالى الآيات من قوله تعالى : ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم الى قوله : ف يجعل لعنة الله على الكاذبين فتلها على النصارى، ودعاهم الى المباهلة، وقال : ان الله اخبرني ان العذاب ينزل على المبطل عقب المباهلة، ويتبين الحق من الباطل، فاجتمع الاسقف واصحابه وتشاوروا، فاتفق رايهم على استناظاره الى صيحة غدر - فلما ورجعوا الى رجالهم (رجالهم) قال الاسقف : انظروا محمدا ، فان غدا باهله وولده فاحذرو امباهله ، وان غدا باصحابه فباهلوه فانه على غير شيء - وقال العاقد : والله ، لقد علمتم (عرفتم) ، يامعشر النصارى ، ان محمدا نبى مرسى ، ولقد جاءكم بالفضل من امر صاحبكم ، والله ، ما باهل قوم نبيا فقط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم ، ولكن فعلتم لتهلكن - فان ابىتم الا الف دينكم والبقاء على ما انتم عليه ، فوادعوا الرجل وانصرفو الى بلادكم - فاتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغد ، وقد جاء آخذا بيده على رضى الله عنه والحسن والحسين يمشيان بين يديه وفاطمة تمشى خلفهم ، فسال الا سقف عنهم - فقالوا : هذا ابن عمك وصهره وابو ولده واحب الخلق اليه ؛ على بن ابي طالب - وهذه اطفالنا ابنا ابنته من على وهم من احب الخلق اليه ، وهذه الجارية فاطمة ابنته ، وهي اعز الناس عنده واقربهم الى قلبه فنظر الا سقف الى العاقد والسيد وعبد المسيح ، وقال لهم : انظروا ، قد جاء بخصائصه من ولده واهله ليباهل بهم واثقا بحقه - والله ما جاء بهم وهو يتحجج بالحججة عليه فاحذرو امباهله - والله لو لا مكانة قيسرا لا سلمت له ، ولكن صالحوه على ما يتافق بينكم (سبق نبيكم) وارجعوا الى بلادكم وارتوا (ارتدوا) لا نفسكم ياما معشر النصارى ، انى لارى (لارى والله) وجوها لو شاء الله ان يزيل جبلا من مكانه لا زاله بها ، فلا تباهلوه فتهلكوا ولا يبقى على وجه الارض نصرانى الى يوم القيمة )

”مباہله کا واقعہ امیر المومنین جناب علی رضی اللہ عنہ اور ان کی شریک حیات اور دو فرزندوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور کامیابی کے بعد اسلام کے پھیلانے کیلئے ان سے مددی ہے۔ اس کے بعد لوگ گروہ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور چند لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے اور ان میں سے چند لوگ پناہ لیتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر اور تجویز کو ان سے بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے لوگوں میں ابو حارثہ استف تھا جو نجران سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ تھیں عیسائی تھے جن میں عاقب، سید اور عبدالمحییٰ نبی لوگ شامل تھے۔ یہ وقت نماز عصر کے وقت مذکورہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے اور صلیب بھی ان کے ہمراہ تھی۔ یہودی ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان مسائل زیر بحث آئے۔ عیسائیوں نے کہا: تم کسی چیز پر کار بند نہیں ہو اور یہودیوں نے کہا: تم عیسائی کسی چیز پر کار بند نہیں ہو۔ اس مطلب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن (کی سورت البقرۃ) میں بیان کیا ہے:

(قَالَ النَّاصِرَى لِيَهُودَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لِيَسْتَ النَّاصِرَى عَلَى شَيْءٍ)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھی تو وہ لوگ آپ کے پاس آئے۔ پادری جو سب سے آگے تھا، نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے محمد! مسیح کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسیح اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ پادری نے کہا: آیا آپ معتقد ہیں کہ اس کا باپ ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ازدواج کے ذریعہ متولد نہیں ہوئے کہ ان کا باپ ہو۔ پادری نے کہا: آپ کس طرح فرمائے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق اور بندہ ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بندہ مخلوق نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ازدواج کے ذریعہ پیدا ہوا ہو اور اس کا باپ بھی ہو؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا: ”بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی ہی ہے.....“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں اور انہیں مباہله کی دعوت دی اور فرمایا: اللہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ مباہله کے بعد اہل باطل پر عذاب نازل ہوگا اور حق باطل سے جدا ہوگا۔ پادری اور اس کے ساتھی جمع ہوئے اور تبادلہ خیالات کیا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کل صبح تک انتظار کیا جائے، جب اپنے مقام پر پہنچے تو حارثہ نے کہا: دیکھو! اگر کل محمد اپنے بچوں اور خاندان کے ساتھ آئیں تو مباہله نہ کرنا اور اگر اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں تو بغیر کسی خوف کے مباہله کرنا۔ عاقب نے کہا: اے عیسائیوں کے گروہ! اللہ کی قسم! تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد اللہ کا بھیجا ہوا بغیر ہے اور اس نے تمہارے پیغمبروں کے بارے میں آخری گفتگو کی ہے۔ اللہ کی قسم! آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نبیوں کے ساتھ مباہله کیا ہو اور ان کے بزرگ اور بڑے باقی اور بچے سالم رہے ہوں! اگر تم نے مباہله کیا تو قطعاً ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر آپ اپنے دین پر ضد کر رہے ہیں اور اپنے عقیدے پر باقی ہیں تو اس شخص کو چھوڑ دیں اور اپنے شہر واپس چلے

جائیں۔ یہ لوگ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ پکڑا ہوا تھا اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سب سے آگے اور سیدہ فاطمہ سب سے پیچے چل رہی تھیں۔ پادری نے ان کے بارے میں پوچھا۔ کہا گیا: یہ ان کے پچھا کے بیٹے ان کے داماد اور ان کے بیٹوں کے باپ علی بن ابی طالب ہیں کہ ان کے نزدیک سب سے زیادہ محظوظ ہیں اور یہ خاتون ان کی بیٹی ہے جو ان کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہے اور سب سے زیادہ ان کے دل میں مقام رکھتی ہے۔ پادری نے عاقب، سید اور عبدالحق کی طرف دیکھا اور ان سے کہا: دیکھئے وہ اپنے خاندان اور فرزندوں کو ساتھ لائے ہیں تاکہ ان کے وسیلہ سے مقابلہ کریں اور وہ اپنے حق پر مطمئن ہیں۔ اللہ کی قسم! وہ اس خوف سے ان کو ساتھ نہیں لائے کہ جمٹ ان کے خلاف میں تمام ہو گی، اس لیے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ کی قسم! اگر مجھے قیصر کی منزلت اور مقام کی حوصلہ ہوتی تو میں اسلام لے آتا۔ ابھی آپ جس چیز پر متفق ہیں ان سے صلح کر لیں اور اپنے شہروں کو وہ اپنے چلے جائیں اور اپنے کاروبار میں مصروف ہو جائیں۔ اے عیسائیوں کے گروہ! میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی خاطر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے حرکت دے سکتا ہے۔ پس ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا ورنہ نابود ہو جاؤ گے اور قیامت تک اس زمین پر کوئی مسح باقی نہیں رہے گا۔“



## فصل نمبر 61:

### علیؑ و حدیث رد الشمس:

## حضرت علیؑ اور حدیث رد الشمس

### حضرت علیؑ کے لیے سورج کا پلٹنا:

((روى عن اسماء بنت عميس أنها قالت : بينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نائم ذات يوم ورأته في حجر علی رضي الله عنه ففاته العصر حتى غابت الشمس فقال : اللهم ان علياً في طاعتك وطاعة رسولك فاردد علیه الشمس قالت اسماء : فرأيتها والله غربت ثم طلعت بعد مغربت ولم يبق جبل والارض الا طلعت عليه حتى قام علی رضي الله عنه وتوضأ وصلی ثم غربت))

”حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دامن میں رکھا ہوا تھا، اس وقت انہیں نیند آگئی اور علی رضی اللہ عنہ سے

نماز عصر قضاہ ہو گئی، چونکہ سورج غروب ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: اے اللہ اعلیٰ ہمیشہ تیری اور تیرے پسند کی اطاعت میں رہا ہے، سورج کو اس کیلئے واپس پلٹا دے۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں: اللہ کی قسم! سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا و بارہ طلوع ہوا اور کوئی ایسا پہاڑ اور زمین نہیں تھی جس پر اس کی روشنی نہ پڑی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسٹھے، وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس وقت پھر سورج غروب ہو گیا۔“

((بالاسناد، عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: صلی رسلو اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العصر فجاء علی رضی اللہ عنہ ولم یکن صلاہا، فاوْحَى اللہ الی رسول اللہ عند ذلك فوضع راسه فی حجر علی رضی اللہ عنہ: فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وله وسلم عن حجره وقد غربت الشمس فقال يَا علی اما صلیت العصر؟ فقال: لا يَا رسول اللہ فقال اللهم ان علیا کان فی طاعتك فاردد علیه الشمس، فردت علیه الشمس عند ذلك))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، اس وقت علی رضی اللہ عنہ نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دامن سے اٹھایا تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی؟ عرض کیا: نہیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: اے اللہ اعلیٰ ہمیشہ تیری اطاعت میں رہا ہے، سورج کو اس کیلئے واپس پلٹا دے۔ اس وقت سورج واپس لوٹ آیا۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 62:

### سد الا بواب الا باب علی:

**جناب علی کے علاوہ تمام دروازے بند کرنا**

**جناب علی کے گھر کا دروازہ:**

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: سدوا الابواب الشارعة في المسجد الا باب علی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد کے اندر جو بھی دروازے کھلے ہیں سب دروازے بند کئے جائیں لیکن علیٰ کے گھر کا دروازہ کھلا رہے۔“

((قال رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلم: سدوا ابواب المسجد کلها الا باب علیٰ رضی الله عنہ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ کے گھر کے دروازے کے علاوہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دیں۔“

### مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے دروازے:

((عن ابن عباس قال : امر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : بابواب المسجد فسدت الاباب علی))

”حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا: مسجد کے تمام دروازے بند کر دینے کا سوائے علی بن ابی طالب کے گھر کے دروازے کے۔“

### جثاب موسیٰ اور خاتم النبیین کی مسجد:

((روى عن النبيٍ صلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ ان قال: انه الله تعالى امر موسى بن عمران ان يبني مسجداً ظاهراً لا يسكنه الا هو وابنا هارون شبر و شبير وان الله تعالى امرني ان ابني مسجداً لا يسكنه الا انا وعلیٰ والحسن والحسین، سدوا هذه الابواب الا باب علی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران کو حکم دیا کہ ایک پاک مسجد بنائیں جس میں وہ خود اور ہارون کے دو بیٹے شبرا اور شبیر رہائش کریں۔ ان کے علاوہ کوئی اور رہائش نہ کرے اور مجھے بھی حکم دیا گیا کہ میں بھی ایک مسجد بناؤں جس میں میرے اور علیٰ اور حسن اور حسین کے علاوہ کوئی رہائش نہ کرے، ابھی سوائے علیٰ کے گھر کے دروازے کے سب دروازے بند کریں۔“

### تمام دروازے بند کرنے کا حکم سوائے علیٰ کے گھر کے دروازہ کے:

((عن ناصح بن عبد الله، ان النبيٍ صلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ امر بسد الابواب کلها غير باب علی))

”ناصح بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام دروازے بند کریں سوائے علیٰ کے گھر کے دروازے کے۔“

## اللہ کے حکم سے جناب علیٰ کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلارہا:

((عن زید بن ارقم قال: كَانَ لِنَفْرٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَهُ وَسْلَمَ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ۔ فَقَالَ يَوْمًا: سَدُوا هَذِهِ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابُ عَلَىٰ، فَتَكَلَّمُ فِي ذَلِكَ أَنَّاسٌ (النَّاسُ). قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَهُ وَسْلَمَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَاثْنَيَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا بَعْدَ إِنْفَانِي أَمْرَتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلَىٰ، فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَاللَّهُ أَمَا سَدَّتِ شَيْئًا وَلَا فَتَحَتْهُ وَلَكُنِي أَمْرَتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُ))

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کے گھر کے دروازے مسجد کی طرف تھے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کے گھر کے دروازے کے علاوہ سب دروازے بند کر دیں۔ یہ باست لوگوں کے درمیان باعث گفتگو بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثناء الہی کرنے کے بعد فرمایا: میں نے حکم دیا ہے کہ علی کے گھر کے دروازے کے علاوہ سب دروازے بند کیے جائیں اور یہ بات آپ کے درمیان باعث گفتگو بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم! میں نے کسی کے دروازے کو نہ بند کیا ہے اور نہ کھولا ہے، بلکہ میں نے اس حکم کی پیروی کی ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔“

((فِي حَدِيثٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَهُ وَسْلَمَ: مَا أَنَا سَدَّتِ أَبْوَابَكُمْ وَفَتَحَتْ بَابَ عَلَىٰ، وَلَكُنَّ اللَّهُ فَتَحَ بَابَ عَلَىٰ وَسَدَّ أَبْوَابَكُمْ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے نہ تمہارے گھروں کا دروازہ بند کیا ہے اور نہ ہی علی کے گھر کا دروازہ کھولا ہے، بلکہ اللہ نے علی کے گھر کا دروازہ کھولا ہے اور اسی نے تمہارے گھروں کے دروازے کو بند کیا ہے۔“

((اخبرنا محمد بن بشار بن در البصری) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف، عن ميمون ابى عبد الله، عن زيد بن ارقم، قال: كَانَ لِنَفْرٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْلَمَ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْلَمَ: سَدُوا (هَذِهِ) الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابُ عَلَىٰ، فَتَكَلَّمُ فِي ذَلِكَ أَنَّاسٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسْلَمَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَاثْنَيَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا بَعْدَ إِنْفَانِي أَمْرَتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلَىٰ، وَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَاللَّهُ أَمَّا سَدَّتِهِ وَلَا فَتَحَتْهُ وَلَكُنِي أَمْرَتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُ))

(اسنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 422 رقم 8369 وطبع آخر 5 ص 118 رقم 8423، منhad الحجج 4 ص 369 رقم 19502، فضائل الصحابة ج 2 ص 718، المستدرک ج 3 ص 125 رقم 4688، مجمع الزوائد ج 9 ص 114، رقم 14671، البدرية والنحلية ج 5 ص 456، الحاوی للمحتاوي ص 422، الریاض انظر ج 4 ص 136)

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی

الله تعالیٰ عنہ میں سے کچھ حضرات کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے تو آپ نے فرمایا: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کے علاوہ یہ تمام دروازے بند کر دیئے جائیں۔ اس پر کچھ لوگوں نے تبرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور حمد و ثناء کے بعد ارشاد فرمایا: علی کے دروازے کے علاوہ تمام دروازوں کے بند کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے، اور تم میں سے بعض لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے۔ اللہ کی قسم! میں نہ از خود بند کرتا ہوں اور نہ از خود بھولتا ہوں لیکن مجھے جس چیز کا حکم ہوتا ہے میں اسی کی تعینیں کرتا ہوں۔“

☆☆☆

### فصل نمبر 63:

ذکر قول النبی ما انا ادخلتہ و اخر جتکم بل الله ادخله و اخر جکم:

رسول اللہ کا ارشاد کہ میں نے علیٰ کو داخل نہیں کیا اور نہ تم کو نکالا ہے بلکہ اللہ نے اسے داخل کیا اور تمہیں نکالا

### حدیث نمبر 1:

((احبّرنا محمّد بن سليمان، عن ابن عبيه، عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن عليٍّ عن ابراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه (ولم يقل مرة) عن أبيه قال: كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم (و) عنده قوم جلوس، فدخل عليٌّ كرم الله وجهه، فلما دخل خرجوا، فلما خرجوا تلاؤوا، فقالوا: والله ما خرجنا اذا ادخله، فرجعوا فدخلوا، فقال والله ما انا ادخلتہ و اخر جتکم بل الله ادخله و اخر جکم، قال ابو عبد الرحمن: اولى بالصواب))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 312 رقم 312 ص 8096 و ص 423 رقم 423 ص 8370 طبع آخر 5 ص 36 رقم 36 ص 8152 و ص 118 رقم 118 ص 8424، المحرار الخارج 4 ص 34 رقم 1195، مختصر زوائد المزارج 2 ص 310 رقم 1918، کشف الاستار 3 ص 198 رقم 2554، مجمع الزوائد 9 ص 115 رقم 14678، طبقات الحمد شیع لابی الشیخ رقم 165، تاریخ اصحاب لابی نعیم ج 2 ص 177، تاریخ بغداد رقم 22821)

”حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور آپ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچاک حضرت علیٰ کرم اللہ وجہہ تشریف لائے جو نبی آپ اندر آئے تو لوگ باہر چلے گئے، جب سب باہر نکل گئے تو ایک دوسرے کو طامت کرنے لگے۔ کہنے

لگے: ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالا اور اُسے داخل نہیں کیا۔ پھر وہ پلٹ کر اندر آگئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے اس کو داخل اور تمہیں خارج نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُسے داخل کیا اور تمہیں خارج کیا۔ امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: یہ حدیث زیادہ لائق اعتماد ہے۔“

## حدیث نمبر 2:

((خبرنا احمد بن یحیی الصوفی) قال: اخبرنا علی و هو ابن قادم، قال: اخبرنا اسرائیل، عن عبد الله بن شریک، عن الحارث بن مالک قال: اتیت مکہ فلقيت سعد ابی وقاص فقلت له: سمعت لعلی منقبة؟ قال: کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فنودی فینا ليلا: ليخرج من فی المسجد الا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآل علی، قال: فخرجنَا، فلما اصبح اتاه عمه، فقال: يارسول اللہ اخرجت اصحابك واعمامك واسکنت هذا الغلام؟ فقال رسول اللہ، ماانا امرت باخراجکم ولا باسکان هذالغلام، ان اللہ هو امریبه قال فطر: عن عبد الله بن شریک، عن عبد الله بن الرقیم، عن سعد: ان العباس اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: سددت ابوابنا الا باب علی؟ فقال: ماانا فتحتها ولا انسدتها (قال ابو عبد الرحمن: عبد الله بن شریک ليس بذلك والحارث بن مالک لا اعرفه ولا عبد الله بن الرقیم)

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 423 رقم 8371 و طبع آخر ج 5 ص 118 رقم 8425)

”حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیان کرتے ہیں کہ میں مکہ المکرمة آیا تو میری ملاقات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، میں نے عرض کیا: کیا آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی فضیلت سماحت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ رات کے وقت ندا کی گئی: آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل علی کے سواتھ تمام لوگ مسجد سے باہر نکل جائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہم سب نکل گئے، پس جب صحیح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے پچھا حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے اپنے صحابہ اور اپنے پچھاؤں کو نکال دیا ہے اور اس لڑکے کو ٹھہرا لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے نہ تمہارے نکلنے کا حکم کیا اور نہ اس لڑکے کے ٹھہرانے کا حکم کیا ہے، بیٹک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم فرمایا ہے۔

فطر نے عبد اللہ بن شریک سے انہوں نے عبد اللہ بن رقیم سے اور انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ نے علی کے سوا ہم سب کے دروازے بند کر دیئے؟ آپ نے فرمایا: میں از خود

بند کرتا ہوں اور نہ از خود کھولتا ہوں۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عبد اللہ بن شریک کچھ بھی نہیں اور میں حارث بن مالک اور عبد اللہ بن رقیم کو نہیں جانتا۔“

### حدیث نمبر 3:

((اخبرنا زکریا بن یحییٰ السجزیٰ، قال: حدثنا عبد الله بن عمر، (قال: حدثنا اسپاط، عن فطر، عن عبد الله بن شریک، عن عبد الله بن الرقیم عن سعد نحوہ))  
(سنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 424 رقم 8372 وطبع آخر 5 ص 119 رقم 8426)

”یہ حدیث اسی طرح از زکریا بن یحییٰ الجزریٰ، از عبد اللہ بن عمر، سے مردی ہے۔ اس کی ”السنن الکبریٰ للنسائیٰ“ میں آگے مکمل سند یوں ہے: از اسپاط از فطر، از عبد اللہ بن شریک، از عبد اللہ بن رقیم از سعد بن ابی وقار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔“

### حدیث نمبر 4:

((اخبرنا محمد بن وهب بن ابی کریمة الحرانی، قال: اخبرنا مسکین، قال: حدثنا شعبة، عن ابی بلح، عن عمرو بن میمون، عن ابن عباس (وابوبلح: هو یحییٰ بن ابی سولیمان) قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابو باب المسجد فسدت 'الاباب علیٰ رضی اللہ عنہ))  
(السنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 424 رقم 8373 وطبع آخر 5 ص 119 رقم 8427)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم فرمایا تو وہ بند کر دیئے گئے مساوا ملکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کے۔“

### حدیث نمبر 5:

((اخبرنا محمد بن المثنی قال: حدثنا یحییٰ بن حماد قال: حدثنا الوضاح، قال: اخبرنا یحییٰ، هدثنا عمرو بن میمون قال: قال ابن عباس: وسد ابو باب المسجد غير باب على رضی اللہ عنہ، فكان يدخل المسجد وهو جنب، وهو طريقه، ليس له طريق غيره))  
(السنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 424 وطبع آخر 5 ص 119 رقم 8427)

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: اور مسجد کے تمام دروازے بند کر دیئے گئے مساوا باب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پس وہ جبکی حالت میں مسجد میں داخل ہوتے تھے اور ان کا راستہ وہی تھا اس کے علاوہ ان کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔



فصل نمبر 64:

علی مثل سفینہ نوح کی طرح اور سفینہ النجات ہیں

## حضرت علی سفینہ نوح کی طرح اور سفینہ النجات ہیں

### زبان نبوت کی گواہی:

((فی حديث عن علی رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم : یا علی امثلك فی امتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق))  
 ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تمہاری مثال میری امت میں کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جس نے روگروائی کی وہ غرق ہو گیا۔“

### اولاد علی کی مثال:

((وباسناده عن ابن عباس عن النبي صلی الله علیه وآلہ وسلم ابنه قال لعلی رضی الله عنه : انت امام امتی مثلک و مثل ما من ولدك مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم میرے بعد میری امت کے پیشواؤ ہو۔ تمہاری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے جو اس پر سوار ہو گیا اور جو اس سے دور رہا وہ غرق ہو گیا۔“

((فی حديث) قال رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم لعلی بن ابی طالب رضی الله عنہ فکذب من زعیم انه يحبني ويبغضك لانك مني وانا منكم، لحمك من لحمي، ودمك من دمي، وزروحك من روحى، وسريرتك من سريرتى، فعلاينيتك من علانيتى، سعد من اطاعك وشقى من عصاك وربح من تولاك و خسر من عاداك، وفاز من لزمك، وهلك من فارقك، مثلک و مثل ما من ولدك مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے دوست رکھتا ہے جب کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ تم مجھے میں سے ہو اور میں تم میں سے

ہوں۔ تمہارا گوشت میرا گوشت، اور تمہارا خون میرا خون، اور تمہاری روح میری روح، تمہارا ظاہر اور باطن میرا ظاہر اور باطن ہے۔ جو تمہاری ہمیروی کرے گا وہ خوش قسمت اور جو تمہاری نافرمانی کرے گا وہ بدجنت ہو گا۔ جو تم سے محبت کرے گا اسے فائدہ ہو گا اور جو تم سے دشمنی کرے گا اسے نقصان پہنچے گا۔ تمہارا ساتھ دینے والے کامیاب ہوں گے اور تم سے روگردانی کرنے والے نابود ہو جائیں گے۔ تمہاری اور تمہاری اولاد کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے جو بھی اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔“

### کشتی نجات:


((بالاستاد عن الرضا على بن موسى عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لِكُلِّ أُمَّةٍ صَدِيقٌ وَفَارُوقٌ، وَصَدِيقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفَارُوقُهَا عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِنَّ عَلِيًّا سَفِينَةَ نَجَاتِهِ))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی سے، انہوں نے اپنے اجداد سے اور انہوں نے امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر امت میں صدیق اور فاروق ہوتے ہیں اور اس امت کے صدیق اور فاروق علی بن ابی طالب ہیں۔ علی امت کیلئے نجات کی کشتی ہیں۔“

### حضرت علی نجات کی کشتی ہیں:

((بالاستاد عن علی بن موسی الرضا عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يستمسك بدینی ويركب سفينة النجاة بعدى فليقتد بعلی بن ابی طالب، وليعاد عدوه ولیوال وليه))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میرے آئین کو مضبوطی سے تھامے رہے اور نجات کی کشتی پر سوار ہو اسے علی بن ابی طالب کی ہمیروی کرنی چاہیے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھئے۔“



فصل نمبر 65:علی باب الله و باب الدين و باب الهدی و باب الايمان والامان:حضرت علی دین، ہدایت، ایمان اور امن کا دروازہ ہیںاللہ اور رسول کا دروازہ:

((بالاسناد، عن محمد بن الفرات عن ابی جعفر محمد بن علی الباقر عن ابیه عن جده قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفة اللہ و خلیفتی و حجۃ اللہ و حجتی و باب اللہ و بابی و صفاتی اللہ و صفتی و حبیب اللہ و حبیبی و خلیل اللہ و خلیلی و سیف اللہ و سیفی و هو اخی و صاحبی وزیری و مجہ محبی و مبغضه مبغضی و ولیه ولی و عدوه عدوی و حربہ حربی وسلمہ سلمی و قوله قولی و امرہ امری وزوجته ابنتی و ولدہ ولدی و هو سید و خیر امتی اجمعین))

”محمد بن قرات نے امام باقر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے والدگرامی سے اور انہوں نے اپنے اجداد سے لقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تم اللہ کے اور میرے نائب ہو، اللہ کی جھٹ اور میری جھٹ ہو، اللہ کا دروازہ اور میرا دروازہ ہو، اللہ کے انتخاب کیے ہوئے اور میرے انتخاب کیے ہوئے ہو، اللہ کے دوست اور میرے دوست ہو، اللہ کے خلیل اور میرے خلیل ہو اور اللہ کی تکوار اور میری تکوار ہو۔ میرے ساتھی اور وزیر ہو۔ علی کو دوست رکھنے والا میرا دوست اور ان سے دشمنی رکھنے والا میرا دشمن ہے۔ ان کا ہم رائے میرا ہم رائے اور ان کا مخالف میرا مخالف ہے۔ ان کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ، ان کے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح ہے۔ ان کا کلام میرا کلام، ان کا فرمان میرا فرمان ہے، ان کی شریک حیات میری بیٹی ہے اور ان کی اولاد میری اولاد ہے اور علی سردار اور میری امت کے بہترین فرد ہیں۔“

اللہ کی طرف جانے والا راستہ:

((بالاسناد، عن النعمان بن سعد، عن امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ قال: انا حجۃ اللہ و انا خلیفة اللہ و انا صراط اللہ و انا باب اللہ و انا حازن علم اللہ و انا الموتن علی سر اللہ و انا امام البریة بعد خیر الخلیقة محمد نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ))

”نعمان بن سعد نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:  
میں اللہ کی جنت اور اس کا خلیفہ ہوں، میں اللہ کا راستہ، اس کا دروازہ اور اس کے علم کا خزانے دار ہوں۔  
میں اللہ کے راز کا امین ہوں اور میں اللہ کی سب سے بہترین تخلیق محمد مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہن صلی اللہ علیہ وسلم  
کے بعد لوگوں کا پیشواد ہوں۔“

### باب اللہ:

((بasantah عن یاسر الخادم، عن الرضا، عن آبائہ قال :قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ :یا علی !انت حجۃ اللہ، وانت باب اللہ، وانت الطريق  
الی اللہ، وانت النبی العظیم، وانت الصراط المستقیم، وانت المثل الاعلی))

”یاسر خادم نے امام علی رضا رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے اپنے اجداد بزرگوار سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ  
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تم اللہ کی جنت، اللہ کا دروازہ اور راہ الہی  
ہو۔ تم ایک عظیم خبر ہو اور تم راہ مستقیم ہو اور تم بہترین نمونہ ہو۔“

((بasantah عن المفضل بن عمر قال )سمعت ابا عبد الله رضی اللہ عنہ بقول : كان  
امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ باب اللہ الذی لا یوتی الا منه)

”مفضل بن عمر کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سنا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ اللہ کا  
دروازہ ہیں، صرف اسی دروازہ سے داخل ہونا چاہیے۔“

### جائشینِ نبی:

((عن ابی الحسن علی بن موسی الرضا، عن ابیه علی بن الحسین بن علی رضی  
الله عنہ قال :قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ :یا علی !  
انت حجۃ اللہ وانت باب اکل له وانت طریق اللہ وانت النبی العظیم وانت الصراط  
المستقیم وانت المثل الاعلی، یا علی انت امام المسلمين وامیر المؤمنین وسید  
الصدیقین، یا علی انت الفاروق الاعظم وانت الصدیق الاکبر یا علی انت خلیفتی  
علی امتی وانت قاضی دینی وانت منجز عداتی))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے اجداد سے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ  
عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تم اللہ کی  
جنت، اللہ کا دروازہ اور اللہ کا راستہ ہو۔ تم خبر عظیم، سید ہماراستہ اور بہترین نمونہ ہو۔ اے علی! تم  
مسلمانوں کے امیر المؤمنین اور پھول کے سردار ہو۔ اے علی! تم فاروق اعظم اور صدیق اکبر ہو۔ اے علی!  
تم میری امت کے درمیان میرے جائشین ہو اور میرے قرض کو ادا کرو گے اور میرے وعدوں کو پورا کرو۔

گے۔“

### باب الدین:

((عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی بن ابی طالب باب الدین))

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب دین کا دروازہ ہیں۔“

### واعی الی اللہ:

((عن ابی عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ان علیا باب الهدی بعدی، والداعی الی ربی، وهو صالح المؤمنین ومن احسن قولًا ممن دعا الی الله وعمل صالحا))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے بعد ہدایت کا دروازہ ہیں اور لوگوں کو میرے پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ صالح ترین موسمن ہیں۔ کون اپنی گفتار میں اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور عمل صالح انعام دے۔؟“

### دروازہ ہدایت:

((عن ابی هریرة قال : نظر رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی علی بن ابی طالب فقال: هذا باب الهدی الذي من دخله كان آمنا))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کی طرف نکاہ کی اور فرمایا: یہ وہی دروازہ ہدایت ہیں جو اس میں داخل ہو گا محفوظ رہے گا۔“

### باب الهدی:

((بالاستاد، عن محمد بن جعفر، عن ابیه رضی اللہ عنہ قال : علی رضی اللہ عنہ باب الهدی))

”محمد بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہدایت کا دروازہ ہیں۔“

### شہر ہدایت:

((عن الحسين بن علی رضی اللہ عنہ قال : سمعت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبة (انہ قال) : ان علیا (هو) مدینۃ هدی، فمَن دخلها نجا))

”حضرت حسین بن علیؑ نے اپنے جدا مجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا: علی رضی اللہ عنہ روایت کا شہر ہیں جو اس میں واصل ہو گنجات پائے گا۔“

### اللہ کا کھولا ہوا دروازہ:

((عن ابی حمزة قال: سمعت ابا جعفر رضی اللہ عنہ يقول: ان علیاً باب فتحه اللہ))  
 ”ابو حمزة کہتے ہیں: میں نے امام یا قریب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ دروازہ ہیں، جس کو اللہ نے کھولا ہے۔“



### فصل نمبر 66:

### علیؑ رضی اللہ عنہ خیر البشر:

## علیؑ بہترین انسان ہیں

### بہترین انسان:

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی خیر البشر))  
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیؑ بہترین انسان ہیں۔“

((بالاسناد، عن علی بن موسی الرضا عن ابیه عن آبائہ قال: قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: (یا علی) انت خیر البشر))

”جناب علی بن موسی رضا نے اپنے والدگرامی سے، انہوں نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیؑ! تم بہترین انسان ہو۔“

((روی عن علیؑ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انت خیر البشر، ما شک فيها (فیه) الا منافق))

”حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علیؑ! تم بہترین انسان ہو۔ تمہاری پاکیزگی میں سوائے منافق کے کوئی نک نہیں کرے گا۔“

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: (یا علی) انت خیر البشر))  
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علیؑ! تم بہترین انسان ہو۔“

### زمین پر چلنے والا بہترین شخص:

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خیر من يمشي على وجه الأرض بعدى

علی بن ابی طالب))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد بہترین فرد جو اس زمین پر چلے گا وہ علی بن ابی طالب ہے۔“

### بہترین مخلوق:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: علی خیر الخلق))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی اللہ کی بہترین مخلوق ہے۔“

### دنیا و آخرت میں بہترین شخصیت:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم لعلی رضی الله عنہ: انت خیر امتی فی الدنیا والآخرة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم اس دنیا اور آخرت میں میری امت کے بہترین فرد ہو۔“

### بعد از رسول:

((عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: علی بن ابی طالب افضل من خلق الله تعالى غیری))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب میرے علاوہ اللہ کی مخلوقات پر افضل ہیں۔“

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: علی خیر من يصلی الى القبلة بعدى))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد علی بہترین فرد ہیں جو قبلہ کی طرف نماز ادا کریں گے۔“

### بہترین مرد:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: علی افضل رجال العالمين))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی دنیا کے مردوں پر افضل ہیں۔“

### اس امت کے بہترین فرد:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: علی افضل امتی عند الله))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی اللہ کے نزدیک میری امت میں سے بہترین فرد ہیں۔“

### فضیلت علی:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: ما اكتسب مكتسب مثل فضل علی))

**لوگوں میں بہترین فرد:**

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم : علی خیر الناس))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی لوگوں میں سے بہترین فرد ہیں۔“

**امتِ مرحومہ کے بہترین فرد:**

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم : علی خیر الامة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میری امت کے بہترین فرد ہیں۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 67:

### ما تریدون من علیٰ علیٰ منی:

**علیٰ سے کیا چاہتے ہو علیٰ مجھ سے ہے**

**ہرمون کے مولا:**

((عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال :

ان علیاً منی وانا منه وهو مولی (ولی) کل مومن بعدی))

”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ وہ میرے بعد ہرمون کے مولا ہیں۔“

**میں علیٰ سے اور علیٰ مجھ سے:**

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم : انا من علیٰ و علیٰ منی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں علیٰ سے ہوں اور علیٰ مجھ سے ہیں۔“

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم : علیٰ منی وانا من علیٰ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ مجھ سے ہے اور میں علیٰ سے ہوں۔“

**دost علی دost رسول ہے:**

((بالاسناد، عن ابی عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق، عن آبائہ قال : قال رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم لعلیٰ رضی اللہ عنہ : یا علیٰ انت منی وانا منک ولیک ولی

ولی وی ولی اللہ، وعدوک عدوی، وعدوی عدو اللہ۔ یا علی! انا حرب لمن حاربک  
وسلم لمن سالمک))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی  
سے فرمایا: اے علی! تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تمہارا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست اللہ کا  
دوست ہے اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ اے علی! جو تمہارے ساتھ جنگ  
کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا اور جو تمہارے ساتھ صلح کرے گا میں بھی صلح کروں گا۔“

### سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو صحیح:

((عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف :  
يا عبد الرحمن ! انتم اصحابي ، وعلي بن ابي طالب مني وانا من علي ، فمن قاسه  
بغيره ، فقد جفاني ومن جفاني (فقد) آذاني ، ومن آذاني فعليه لعنة ربی ))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف  
رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے عبد الرحمن! تم میرے صحابی ہو، علی بن ابی طالب مجھ سے ہے اور میں علی سے  
ہوں اور جو علی کا مقابلہ کسی دوسرے بے کرے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور جو مجھ پر ظلم کرے گا اس نے  
مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا اللہ کی لعنت اس پر ہوگی۔“

### علی مجھ سے ہیں:

((فی حدیث) عن علی قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم : على منی وانا  
منه، لحمه لحمی ودمه دمی))

”ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی مجھ  
سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کا گوشت میرا گوشت اور اس کا خون میرا خون ہے۔“

((قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی : انت منی وانا منک))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم مجھ سے اور میں تم سے ہوں۔“

### علی مجھ سے ہیں:

((بالاستاد، ان رسول الله صلى الله عليه وآلہ وسلم قال : ما تريدون من على ؟  
ما تريدون من على ؟ ما تريدون من على ؟ ان علياً مني (وانا منه) وهو ولی کل مومن  
بعدی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے کیا چاہتے

ہو؟ علیؑ سے کیا چاہتے ہو؟ علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں، میرے بعد وہ ہر مومن کے سر پرست ہیں۔“

### رسول اللہ سے قرب:

((بالاسناد عن موسی بن جعفر بن محمد عن آبائہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال (فی حدیث): ان علیا منی وانا من علی، روحه من روحی وطیته من طینتی وهو اخی و خلیفتی علی امتنی فی حیاتی و بعد موتی، من اطاعه اطاعنی، ومن وافقه فقد وافقنی، ومن خالفة فقد خالفنی))

”امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں، اس کی روح میری روح ہے ہے اور اس کی مٹی میری مٹی سے ہے۔ وہ میری زندگی میں اور میرے بعد میرے بھائی ہیں اور میری امت میں سے میرے جانشین ہیں۔ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی حمایت کی اس نے میری حمایت کی اور جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔“

((عن ام سلمة قالت: قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی منی وانا من علی حيث يكون اكون))

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں۔ جس جگہ وہ ہوں گے میں بھی وہیں ہوں گا۔“

### روح اور بدن کا تعلق:

((عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی بن ابی طالب منی کروحی فی جسدی))

”حضرت ابی مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب کی نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے روح کی بدن ہے۔“

### علیؑ کا گوشت و خون میرا گوشت و خون ہے:

((عن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: يا علیؑ انت منی وانا منك سیط لحمک بلحمی ودمک بدمعی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علیؑ! تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تمہارا گوشت میرے گوشت سے اور تمہارا خون میرے خون سے ملا ہوا ہے۔“

## رسول اللہ کی طرف سے ادایگی:

((عن حبشي بن جناده قال : سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول : على مني وانا منه ولا يودي عنی الا أنا او علی))  
”حبشي بن جنادہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمائے تھے: علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ میری طرف سے ادایگی نہیں کرے گا مگر میں یا علی۔“

## ہر مومن کے سر پرست:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : على مني وانا منه وهو ولی کل مومن بعدی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، وہ میرے بعد ہر مومن کے سر پرست ہیں۔“



## فصل نمبر 68:

### علی نفسی و اخنی و حبیبی:

## علی میری روح، میرے بھائی اور میرے دوست ہیں

### علی میری جان ہیں:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : على نفسی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میری جان ہیں۔“

### نسبت جان کی مانند:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : على منی کنفی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کی نسبت مجھ سے میری جان کی مانند ہے۔“

### علی گھرانہ نبوت کی جڑ ہیں:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : على اصلی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میری جڑ ہیں۔“

## نسبت علیٰ

((وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی منی کنفی، طاعته طاعتی و معصیتہ معصیتی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کی نسبت مجھ سے میری روح کی مانند ہے، اس کی پیروی میری پیروی اور اس کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔“

## سر کی بدن سے نسبت جیسی نسبت:

((عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : علی منی بمنزلة راسی (مثل راسی) من بدنی))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کی نسبت مجھ سے ایسی ہے جیسے میرے سر کی میرے بدن سے۔“

## رسول اللہ کے وزیر:

((عن سلمان الفارسی انه سمع نبی الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم يقول : ان اخي وزیرى و خير من اخلفه بعدي علی بن ابی طالب))

”حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرے بھائی اور وزیر جو ایک بہترین فرد ہے جو میں اپنے بعد اپنا جاشین بناؤں گا وہ علی بن ابی طالب ہیں۔“

## اہل نہر سے جہاد کرنے والے:

((عن زید بن علی عن الحسين بن علی عن امير المؤمنین علی رضی الله عنہ قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم يا علی! انت منی وانا منك يا علی لو لا انت لما قوتل اهل النهر - فقال : فقتلت يا رسول الله او من اهل النهر ؟ قال . قوم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية))

”حضرت زید بن علی نے اپنے والد سے، انہوں نے امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم مجھ سے ہوا و مریں تم سے ہوں۔ اے علی! اگر تم نہ ہوتے تو ”اہل نہر“، قتل نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ”اہل نہر“ کون ہیں؟ فرمایا: ایک گروہ ہے جو اسلام سے خارج ہو گا اسی طرح جیسے تیر کمان سے خارج ہوتا ہے۔“

الله تعالیٰ کا قائم کردہ بھائی چارہ:

((بالاسناد عن ابی عباس قال :قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :ان الله تبارک و تعالیٰ اخی بینی و بین علی بن ابی طالب و زوجہ ابنتی من فوق سبع سماوات، و اشهد علی ذلک مقربی ملائکتہ فعلی منی وانا منه محبہ محبی و مبغضہ مبغضی))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرے اور علی کے درمیان اخوت کو برقرار کیا ہے اور ساتویں آسمان پر میری بیٹی کی اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے اور مقرب فرشتوں کو گواہ بنایا۔ اس لئے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کا دوست میرا دوست ہے اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے۔“

دنیا اور آخرت میں وزیر:

((بالاسناد، قال ابو عبد الله فی حدیث طویل يقول فی آخرہ: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لام سلمة: يا ام سلمة! اسمعی و اشهدی هذا علی بن ابی طالب وزیری فی الدنیا و وزیری فی الآخرة، يا ام سلمة! اسمعی و اشهدی هذا علی بن ابی طالب حامل لوائی فی الدنیا و حامل لوائی فی الآخرة، يا ام سلمة! اسمعی و اشهدی

هذا علی بن ابی طالب سید المسلمين ، و امام المتقین ، و قائده الغر المحبلين))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے طولانی حدیث کے آخر میں فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: غور سے سنو اور گواہ رہو کہ علی بن ابی طالب دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ ام سلمہ! غور سے سنو اور شاہد رہو کہ علی بن ابی طالب اس دنیا اور آخرت میں میرے وزیر ہیں۔ ام سلمہ! غور سے سنو اور گواہ رہو کہ علی بن ابی طالب اس دنیا میں میرے پرچم بردار ہیں اور روز قیامت لوایہ حمد کوندھے پر اٹھائیں گے۔ ام سلمہ! غور سے سنو اور گواہ رہو کہ علی بن ابی طالب مسلمانوں کے سرور اور پرہیزگاروں کے پیشواؤ اور نور اپنی چہروں کے رہبر ہیں۔“

علی کا دوست خوش بخت ہے:

((عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه قال :قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :يا علی! انت اخی وانا اخوک، يا علی! انت منی وانا منک، لقد سعد من تو لا ک

وشقی من عاداك))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے

علی! آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں۔ اے علی! آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ درحقیقت جو آپ کو دوست رکھے گا وہ خوش بخت ہو گا اور جو آپ کو دشمن رکھے گا وہ بد بخت ہو گا۔”  
**نبی کریم کے اخ کریم:**

((عن الحسین بن خالد، عن علی بن موسی الرضا رضی اللہ عنہ: عن ابیہ عن آبائہ، عن علی قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی! انت اخی وزیری و صاحب لوائی فی الدنیا والآخرة وانت صاحب حوضی، من احبلک احبنی و من ابغضک ابغضنی))

”جناب حسین بن خالد نے امام علی رضا رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے اجداد سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! آپ میرے بھائی اور میرے وزیر اور دنیا اور آخرت میں میرے پرچم دار ہیں۔ آپ میرے حوض کے مالک ہیں۔ جو آپ کو دوست رکھے گا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔“

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان اخی وزیری علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب میرے بھائی اور وزیر ہیں۔“

((آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ فاختی بین ابی بکر و عمر و فلان و فلان فجاء علی رضی اللہ عنہ فقال: آخریت بین اصحابک ولم تواخ بینی و بین احد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انت اخی فی الدنیا والآخرة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان اختت برقرار کی۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور اسی طرح دوسروں کے درمیان بھی اختت برقرار کی۔ اسی دوران حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا: آپ نے اصحاب کے درمیان اختت کو برقرار کیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔“

((جابر بن عبد اللہ و سعید بن المسمیب قالا: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخی بین اصحابہ فیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و عمر و علی، فاختی بین ابی بکر و عمر، وقال لعلی: انت اخی وانا اخوك، فان ناکرک احد، فقل: انا عبد الله و اخو رسول اللہ))

”حضرت جابر بن عبد اللہ اور سعید بن میتب رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس وقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم باقی رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا اور حضرت علی سے فرمایا: آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں۔ اگر کوئی آپ کو جانتا ہو تو کہہ دیجئے: میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ کا بھائی ہوں۔“

((عن مکحول ، عن ابی امامۃ قال : لما آخى النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم بین

الناس آخى بينه وبين علی ))

”جناب مکحول نے حضرت ابو امامہ سے نقل کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان برادری اور اخوت برقرار کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔“

((بالاسناد ، قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : ان اخی وزیری و خلیفی فی

اہلی و خیر من اترک بعدهی، یقضی دینی و ینجز بوعدی علی بن ابی طالب))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب میرے خاندان کے نگہبان، میرے بھائی، وزیر اور جاشین ہیں۔ وہ بہترین فرد ہیں جسے میں اپنا جاشین بنارہا ہوں۔ وہ میرے قرض کو ادا کرے گا اور میرے وعدہ کو پورا کرے گا۔“

### جنت میں مرقوم:

((عن جابر قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: رأیت مكتوباً على باب

الجنة: لا إله إلا الله محمد رسول الله على أخوه))

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تمہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی بن ابی طالب ان کے بھائی ہیں۔“

((علی النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم قال لعلی: انت اخی وانا اخوك))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔“

### آسمانوں کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: مكتوب على باب الجنة محمد رسول

الله على اخوه رسول الله قبل ان يخلق الله السماوات بالفی عام))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آسمانوں کو خلق کرنے سے دو ہزار سال پہلے بہشت کے دروازے

پرکھا ہوا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور علیٰ رسول اللہ کے بھائی ہیں۔”  
چچا کے بیٹے بھائی:

((بالاسناد، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی اخی و صاحبی وابن عمی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ میرے بھائی، ہم نہیں اور میرے چچا کے بیٹے ہیں۔“

((عن جعفر الصادق عن آبائہ عن امیر المؤمنین قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : انت اخی ، محبک محبی و مبغضک مبغضی ، یا علی ! انا وانت ابوا هذه الامة))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی ! آپ میرے بھائی ہیں۔ آپ کو دوست رکھنے والا میرا دوست ہے اور آپ کو شمن رکھنے والا میرا شمن ہے۔ اے علی آپ اور میں اس امت کے دو باپ ہیں۔“

### جنت میں آمنے سامنے گھر:

((بالاسناد، عن زید بن علی عن آبائہ عن علی قال : كان لى عشر من رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم يعطهن احد قبلى ولا يعطاهن احد بعدي، قال لى : يا علی ! انت اخی فی الدنیا و اخی فی الآخرة و انت اقرب الناس منی موقفاً يوم القيمة و منزلی و منزلك فی الجنة متواجهان كمنزل الاخوين، وانت الولي وانت الوزير، عدوک عدوی و عدوی عدو الله وولیک ولیک ولی علی ولی الله عزوجل))

”حضرت زید بن علی نے اپنے اجداد سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے دس خصوصیات عطا ہوں گی جو مجھ سے پہلے کسی کے بھی پاس نہیں تھیں اور نہ ہی میرے بعد کسی کے پاس ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی ! آپ اس دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہیں اور قیامت کے دن آپ لوگوں میں سے میرے قریب تر ہوں گے۔ آپ کا گھر اور میرا گھر بہشت میں ایسے ہوں گے جیسے دو بھائیوں کے گھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ میرے ولی اور وزیر ہیں۔ آپ کا دشمن میرا شمن اور میرا شمن اللہ کا دشمن ہے اور آپ کا دوست میرا دوست اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے۔“

### رسول اللہ کے برادر:

((بالاسناد، عن جابر الجعفی ، قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاری يقول : سمعت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: یا علی! انت اخی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد وفاتی محبک محبی و مبغضک مبغضی و عدوک عدوی و ولیک ولی) )

”جناب جابر جعفری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم میری حیات میں اور میری رحلت کے بعد میری امت کے درمیان میرے بھائی اور جانشین ہو۔ تم کو دوست رکھنے والا میرا دوست ہے اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے۔ جو تمہاری مخالفت کرے گا اس نے میری مخالفت کی اور جو تم سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی۔“

((بالاسناد، عن علی بن موسی الرضا رضی اللہ عنہ عن ابیه عن آبائہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : یا علی! انت اخی و وزیری و صاحب لوائی فی الدنیا

والآخرة وانت صاحب حوضی من احبلک احبنی، و من ابغضک ابغضی))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے، وہ اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم اس دنیا اور آخرت میں میرے بھائی، وزیر اور علمدار ہو اور تم صاحب حوض ہو۔ جو شہریں دوست رکھے گا اس نے مجھے دوست رکھا اور جو تم سے دشمنی رکھے گا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔“

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی اخی فی الدنیا والآخرة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی اس دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔“

### خلیل و اخی:

((عن ابی ذر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: لکل نبی خلیل و ان

خلیلی و اخی علی))

”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر پیغمبر کا کوئی دوست ہوتا ہے اور میرے دوست اور بھائی علی ہیں۔“

### بھائی اور دشمن:

((عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی: انت اخی و صاحبی))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ میرے بھائی اور دشمن ہیں۔“

## محبوب ترین بھائی

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی احباب اخوتی))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے بھائیوں میں سے محبوب ترین بھائی ہیں۔“

## امت مسلمہ کے بہترین فرد:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : اما ترضی انک خیر امتی فی الدنیا  
والآخرة ، وانک اخی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! آیا تم خوش نہیں کہ اس دنیا اور آخرت میں میری امت  
کے بہترین فرد اور میرے بھائی ہو۔“

## بہترین بھائی:

((بالاسناد، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : احباب اخوانی الی علی بن ابی  
طالب واحباب اعمامی الی حمزہ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے بہترین بھائی اور حمزہ میرے بہترین پچاہیں۔“

## رسول اللہ کے حبیب:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی حبیبی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میرے دوست ہیں۔“

## مرض الموت میں جناب علی کو بلاٹا:

((عن بشیر الدهان، عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم : فی مرضه الذی توفی فیه: ادعوا لی خلیلی ، فارسلتا الی ابويہما فلما  
نظر الیہما رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغرض عنہما، ثم قال : ادعوا لی  
خلیلی ، فارسل الی علی فلما نظر الیہ اکب علیہ بحدیثہ، فلما خرج لقیاه فقال له: ما  
حدیثک خلیلک ؟ فقال : حدیثنی الف باب یفتح کل باب الف باب ))

”بیش ردہان نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری میں  
وفات پائی اس میں فرمایا: میرے دوست کو میرے پاس بلائیں، سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصة رضی اللہ عنہما  
دونوں نے اپنے اپنے والد کو بلا نے کیلئے آدمی بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی۔ پھر فرمایا:  
میرے دوست کو میرے پاس بلائیں۔ پھر امام المومنین سیدہ عائشہ و حفصة رضی اللہ عنہما نے حضرت علی رضی  
اللہ عنہ کو بلا نے کیلئے آدمی بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی تو آپ ان پر جھک گئے

اور با تمن کرنے لگے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خارج ہوئے تو سیدنا ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے لئے ہزار باب علم کے بیان فرمائے کہ ہر ایک باب سے ہزار باب نکلتے ہیں۔

((عن عبد الله بن عمر ان عمر ان رسول الله صلی الله عليه وآلہ وسلم قال في مرضه: ادعوا الى اخي، فدعني له عمر فاعرض عنه ثم قال: ادعوا الى اخي، فدعني له عثمان فاعرض عنه، ثم دعى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فستره بشوبه واكب عليه فلما خرج من منده، قيل له ما قال؟ قال: علمني الف باب كل باب (فتح الف باب))

"حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا: میرے بھائی کو میرے پاس بلائیں۔ پس حضرت عمر کو ان کے پاس بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ فرمائی اور فرمایا: میرے بھائی کو میرے پاس بلائیں۔ پس حضرت ابو بکر کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی اور پھر فرمایا: میرے بھائی کو میرے پاس بلائیں۔ پس حضرت عثمان غنی کو بلایا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بارہ ان کو پہنایا اور خود کو ان پر گردایا۔ جب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کرو اپس آئے تو ان سے پوچھا گیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا: مجھے علم کے ایک ہزار باب تعلیم کیے کہ ہر باب سے ہزار باب نکلتے ہیں۔"

### ت رحلت سیدنا علی کو گلے سے لگانا:

((عن عائشة انها قالت: قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم وهو في بيته لما حضره الموت :ادعوا الى حبيبي، فدعوت اليه ابا بكر فنظر اليه الرسول فرضع راسه ثم قال: ادعوا الى حبيبي، قلت: ويلكم ادعوا له على بن ابى طالب رضي الله عنه، فوالله لا يريده غيره، فلما راه فرج الشوب الذى كان عليه ثم ادخله فيه))

"سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت کے وقت میرے گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے دوست سے کہیں آجائے۔ میں نے حضرت ابو بکر سے آنے کو کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نگاہ کی اور اپنے سر کو جھکایا۔ پھر فرمایا: میرے دوست سے کہیں آجائے۔ میں نے کہا: حیف ہو! علی بن ابی طالب کو بلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت چاہتے ہیں۔ جب حضرت علی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا

اور جو چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی علیٰ کو اس چادر کے نیچے جگدی اور ان کو اپنے گلے سے لگایا۔

### لوگوں میں سب سے محبوب ترین:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی احباب الناس))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ میرے زدیک لوگوں میں سے محبوب ترین فرد ہیں۔“

### مردوں میں سب سے محبوب ترین

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی احباب الرجال الی))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ میرے زدیک مردوں میں سے محبوب ترین ہیں۔“

### رسول اللہ کے زدیک سب سے محبوب ترین شخصیت:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی احباب اهلي الی))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ میرے زدیک میرے خاندان میں سے محبوب ترین فرد ہیں۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 69:

### علیٰ وحدیث الطیر المشوی:

## حضرت علیٰ اور مرغ بریاں کی حدیث

### رسول اللہ کی دعا اور حضرت علیٰ کا حاضر ہونا:

((حدیثی انس بن مالک قال: اهدت ام ایمن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیراً فقل للهُمَّ ائْتِنِي بِاحبِّ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَا كَلِيلَ مَعِي مِنْ هَذَا الطِّيرَ، فَدَخَلَ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ))

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے بھنا مرغ بے طور ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ اپنی محبوب ترین ہستی کو میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس مرغ کو کھائے۔ اسی دوران حضرت عین ابی طالب رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! ان کو میرے پاس بھیج۔“

### رکی محبوب ترین شخصیت:

((عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی بطیر فقال: اللهم ائنی باحی خلقک الیک یا کل معی من هذا الطائر، قال: فجاء علی بن ابی طالب فقال: اللهم الی اللهم الی))

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بھنا ہوا مرغ لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! اپنی محبوب ترین ہستی کو میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس مرغ کو کھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: اے اللہ! ان کو میرے پاس بھیج۔ اے اللہ! ان کو میرے پاس بھیج۔“

### مول اللہ کے ساتھ مل کر کھانا کھانا:

((عن انس قال: اهدی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیر فقال: اللهم ائنی باحی خلقک الیک ، فجاء علی فا کل معہ))

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مرغ بریاں بطور بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: اے اللہ! اپنی محبوب ترین ہستی کو میرے پاس بھیج۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔“

((بالاسناد، عن انس بن مالک : ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان عنده طائر فقال: اللهم ائنی باحی خلقک الیک یا کل معی من هذا الطیر، فجاء ابو بکر فرد و ثم جاء عمر فرد و ثم جاء علی فاذن له))

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغ بریاں رکھا ہوا تھا۔ آپ نے عرض کیا: اے اللہ! اپنی محبوب ترین ہستی کو میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس مرغ سے کھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس لوٹا دیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی واپس لوٹا دیا، لیکن جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔“

## فصل نمبر 70:

### وصفہ بالسیادۃ:

## حضرت علی کے قائدانہ اوصاف

### مومنین کے سردار:

((قال (النبي) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی سید المؤمنین))  
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی مومنین کے سردار ہیں۔“

### سید الاولیاء:

((قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی سید الاولیاء))  
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی اولیاء کے سردار ہیں۔“

### سردار عرب:

((ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: أنا سید ولد آدم وعلی سید العرب))  
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں فرزندان آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔“

### احترم علی:

((عن ابن ابی لیلی، عن الحسن بن علی قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ”ادعوا الى سید العرب“ یعنی علی بن ابی طالب ، فقالت عائشة: الست سید العرب؟ فقال: ”انا سید ولد آدم، وعلی سید العرب“ فلما جاءه ارسل الي الانصار فاتوه۔ فقال لهم: يا معاشر الانصار! الا ادلکم على ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعده ابدا؟ قالوا بلى! يا رسول الله: هذا علی فاحبوبه بحبی، واکرمونه بکرامتی فان جبرئیل امرنی بذلك، قلت لكم عن الله عزوجل))

”ابن ابی لیلی نے امام حسن بن علی سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سرور عرب (علی بن ابی طالب) سے کہیں میرے پاس آئے۔ سیدہ عائشہ نے کہا: کیا آپ عرب نہیں ہیں؟ فرمایا: میں فرزندان آدم کا سرور ہوں اور علی عرب کے سرور ہیں۔ پس جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے ان کو انصار کے پاس بھیجا۔ انصار آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے انصار کے گروہ! میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک چیز کی رہنمائی کروں کہ اگر اس سے تمسک کیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔

انہوں نے کہا: جی ہاں! اے رسول اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ علی ہیں۔ انہیں میری محبت کی خاطر دوست رکھیں اور میری کرامت کی خاطران کا احترام کریں، لہذا جبریل نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آپ کو بتاؤں۔“

### پرہیز گاروں کے امام:

((عن قال: نظر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی علی بن ابی طالب، فقال: هذا خیر الاولین من اهل السموات والارضين، وسيد الصديقين وامام المتقيين))

”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر نگاہ کی اور فرمایا: یہ اہل آسمان اور زمین والوں میں سے بہترین رہنماء ہیں، پھوں کے سردار اور پرہیز گاروں کے امام ہیں۔“

### دنیا اور آخرت میں سردار:

((عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: نظر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی علی بن ابی طالب فقال: سيد في الدنيا وسيد في الآخرة))

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا: یہ دنیا اور آخرت میں لوگوں کے سرور ہیں۔“

### سیدنا ابن عباس کو حکم:

((عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی علی بن ابی طالب فقال: أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني))

”حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور فرمایا: ان سے کہو: تم اس دنیا اور آخرت میں سردار ہو! جو تمہیں دوست رکھے گا اس نے مجھے دوست رکھا ہے اور جو تمہارے ساتھ دشمن کرے گا اس نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے۔“

### سید في الدنيا والآخرة:

((قال ابن عباس: نظر رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی علی بن ابی طالب رضی الله عنه فقال: أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، من أحبك فقد أحبني، وحيبي حبيب الله ومن أبغضك فقد أبغضني وبغيضي بغرض الله، فالويل لمن أبغضك بعده))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا: آپ دنیا اور آخرت میں سروز ہیں، جو آپ کو دوست رکھے گا اس نے مجھے دوست رکھا ہے اور میرا دوست اللہ کا دوست ہے اور جو آپ سے دشمنی کرے گا اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے اور میرا شمن اللہ کا شمن ہے۔ افسوس ہے ان پر جو میرے بعد آپ سے دشمنی کریں گے۔“

((عن ابن عباس قال: قال النبي صلی الله علیہ وآلہ وسلم لعلی: يا علی انت سید في الدنيا و سید في الآخرة من احبك فقد احبني ومن احبني فقد احب الله و من ابغضك فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله عزوجل))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تم اس دنیا اور آخرت میں سردار ہو، جو تمہیں دوست رکھے گا اس نے مجھے دوست رکھا اور جو تم سے دشمنی کرے گا اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔“



## فصل نمبر 71:

### دعا ء النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم لعلی:

### حضرت علی کے حق میں رسول اللہ کی دعا

#### جناب علی کو دیکھنا:

((بالاسناد، ام عطیۃ قالت: بعث النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم جیسا فیہم علی، قالت فسمعت النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم وہ رافع یدیہ یقول: اللهم لا تمتّنی حتى ترینی علیاً))

”ام عطیۃ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا جن کے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساجب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کو طرف بلند کیا ہوا تھا اور عرض کر رہے تھے: اے اللہ! مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک علی کو نہ دیکھ لوں۔“

#### سردی اور گرمی کے دور ہونے کی دعا:

((فی حدیث) قال (النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم): اللهم اذہب عنه الحر والبرد قال

علی رضی اللہ عنہ فما وجدت خرًّا ولا برداً بعد يومئذ))  
 ”حدیث میں نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی اور عرض کیا: اے اللہ! سردی اور گرمی کو اس سے دور کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی گرمی اور سردی محسوس نہ کی۔“



## فصل نمبر 72:

### علی الصدیق الاکبر و فاروق هذه الامة:

حضرت علی اس امت کے سب سے زیادہ سچے اور حق و باطل کو الگ کرنے والے ہیں

#### حدیث نمبر 1:

((عن عباد بن عبد الله قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول : أنا عبد الله وأخوه رسوله وانا الصديق الاكبر صليت قبل الناس سبع سنين))

”عبد بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں۔ میں نے اوروں سے سات سال پہلے نماز ادا کی۔“

#### حدیث نمبر 2:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی الصدیق الاکبر))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی سب سے زیادہ سچا ہے۔“

#### حدیث نمبر 3:

((عن ابی سخیلہ قال: حججت انا وسلمان الفارسی فمررنا بالربذة وجلستا الى ابی ذر الغفاری فقال لنا: انه ستكون بعدي فتنۃ ولا بد منها فعليکم بكتاب الله والشيخ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فالزموهما، فاشهد علی رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انى سمعته وهو يقول: علی اول من آمن بی و اول من صدقنی و اول من يصافحني يوم القيمة، وهو الصدیق الاکبر، وهو فاروق هذه الامة يفرق بين الحق والباطل، وهو يعسوب المؤمنین والمال يعسوب المنافقین))

”ابو سخیلہ کہتے ہیں کہ میں اور سلمان حج پر گئے۔ جب مقام ربذه پر پہنچ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ

عنه کے پاس گئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے ہم سے کہا: میرے بعد ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گا اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں، اس وقت آپ اللہ کی کتاب اور مرد بزرگ علی بن ابی طالب کے مدافع اور محافظ ہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بننا رہا ہوں کہ میں نے خود انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی پہلے فرد ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور پہلے فرد ہیں جس نے میری نبوت کا اقرار کیا اور پہلے فرد ہیں جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ وہ اس امت کے سب سے زیادہ سچے ہیں اور اس امت کے فاروق ہیں جو حق اور باطل کو جدا کریں گے اور وہ مومنین کے سرور ہیں اور منافقین کے سرور مال اور دولت ہیں۔“

#### حدیث نمبر 4:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم : ستكون من بعدی فتنة فاذا كان ذلك فالزموا على بن ابی طالب، فإنه الفاروق بين الحق والباطل))  
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے بعد ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو گا اس وقت علی بن ابی طالب کا ساتھ نہ چھوڑنا چونکہ وہ حق اور باطل کے درمیان جدائی ڈالیں گے۔“

#### حدیث نمبر 5:

((عن ابی ذر و سلمان رضی الله عنہما (قالا) : اخذ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم بید علی بن ابی طالب رضی الله عنہ فقال : اول من آمن بی و اول من يصافحني يوم القيمة وهو الصديق الاکبر و فاروق هذه الامة ويعسوب المؤمنين))  
 ”حضرت ابوذر اور سلمان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا: یہ وہ پہلے شخص ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور پہلے شخص ہیں جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ یہ اس امت کے صدیق اکبر اور فاروق ہیں اور مومنین کے سرور ہیں۔“

#### حدیث نمبر 6:

((بالاسناد ، انه سمع اباذر يقول: سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم يقول لعلی رضی الله عنہ : انت اول من آمن بی وانت اول من يصافحني يوم القيمة، وانت الصديق الاکبر وانت الفاروق الاعظم تفرق بين الحق والباطل، وانت يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكافرين))

”حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ پہلے فرد ہیں جو مجھ پر ایمان لائے ہیں اور آپ پہلے فرد ہوں گے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ

کریں گے۔ آپ صدق اکبر اور فاروق اعظم ہیں کہ حق اور باطل کو جدا کریں گے۔ آپ مومنین کے سرور ہیں لیکن کافروں کا سردار مال اور دولت ہے۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 73:

### علیٰ مع الحق والحق مع علیٰ:

### علیٰ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیٰ کے ساتھ

#### تجھیز و تکفیر و پیغمبر:

((عن ابی عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: علیٰ مع الحق والحق معه، و هو الامام والخليفة من بعدی، من تمسک به فاز ونجا، ومن تخلف عنه ضل وغوی،

یلبی غسلی و تکفینی و يقضی دینی و ابو سبطی الحسن والحسین))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہو گا۔ جو بھی ان سے تمسک کرے گا وہ کامیاب ہو گا اور رہائی پالے گا۔ وہ میرے غسل اور کفن کو انجام دے گے اور میرے قرض کو ادا کریں گے۔ وہ میرے دونوں اسوں حسن اور حسین کے باپ ہیں۔“

### سچائی اور جناب علیٰ کا قیامت کے دن حوض کوثر پر حاضر ہوتا:

((عن ابی ذر عن ام سلمة قالت: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول :

ان علياً مع الحق والحق معه، لن يزو لا حتى يردا على الحوض))

”حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔“

### باغیوں سے جہاد کرنے والے:

((عن عمّار بن ياسر رضي الله عنه : ان رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : قال لعلیٰ : يا علیٰ استقاتلک الفئة الباغية، وانت على الحق، ومن لم ينصرك يومئذ فليس مني))

”حضرت عمّار یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے

علی! جلد ہی باغیوں کا گروہ آپ کے ساتھ جنگ کرے گا، لیکن آپ حق پر ہیں۔ جو کوئی بھی اس دن آپ کی مد نہیں کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔“

### علیٰ حق کے ساتھ اور حق علیٰ کے ساتھ ہے:

((عن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علیٰ مع الحق والحق معه، لا يفتر فان حتى یردا علی الحوض))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔“

(سنن نسائی)

((وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحق مع علیٰ اینما مال))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ جدھر بھی جائیں حق ان کے ساتھ ہے۔“

### علیٰ جہاں ہیں سچائی وہیں ہے:

((قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علیٰ مع الحق، والحق مع علیٰ حيث كان))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیٰ کے ساتھ ہے جس جگہ پر بھی ہوں۔“

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحق مع علیٰ بن ابی طالب حيث دار))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ جہاں کہیں بھی جائیں حق ان کے ساتھ ہوگا۔“

((عن ام سلمة قالت: سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول: ان الحق مع علیٰ، وعلیٰ مع الحق لن یزو لا حتى یردا علی الحوض))  
”سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا: علیٰ حق کے ساتھ ہیں اور حق علیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہاں تک کہ حوض کوثر کے کنارے مجھ سے ملیں گے۔“

((مسند ابی یعلیٰ عبد الرحمن بن ابی سعید الخدری عن ابیه قال: مر علیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الحق مع داء، الحق مع داء))  
”ابو یعلیٰ عبد الرحمن بن ابی سعدی نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ علیٰ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق ان کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے۔“

### جناپ علیؐ کے لیے دعا:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : رحم اللہ علیا، اللہم ادر الحق معہ حیث دار))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی رحمت ہو علی پر، وہ جس جگہ پر بھی ہوں اے اللہ! حق کو ان کے ساتھ قرار دے۔“

### سیدہ ام سلمہ کا گریہ:

((عن ابی ثابت مولی ابی ذر قال: دخلت علی ام سلمة، فرأيتها تبكي وتذکر علیا و قالت سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول: على مع الحق والحق مع على ولن تفترقا حتى يردا على الحوض يوم القيمة))

”حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا غلام ابوثابت کہتا ہے کہ میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے قریب سے گزار۔ میں نے دیکھا کہ وہ رورہی ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمادی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدائیں ہوں گے نیہاں کہ قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے مجھ سے ملیں گے۔“

### علیؐ کی زبان اور دل میں حقانیت ہے:

((عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : يا على ان الحق معك والحق على لسانك وفي قلبك وبين عينيك))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے علی! حق آپ کے ساتھ اور آپ کی زبان پر اور قلب اور دو آنکھوں کے درمیان ہے۔“

### ہمیشہ حق کا ساتھی:

((فی حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال: الحق لن یزال مع علی، وعلی مع الحق لن یختلفا ولن یفترقا))

”ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے اور علی بھی حق کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کا آپس میں اختلاف بھی نہیں ہے اور کسی بھی جدائیں ہوں گے۔“

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : الحق مع علی، وعلی مع الحق یدور معه حیث مادر))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے۔ جدھر بھی حق جائے گا علی

بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔“

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی مع الحق والحق مع علی رضی اللہ عنہ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔“

((بالاسناد۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلی : انت مع الحق والحق معك حیثما دار))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ حق کے ساتھ اور حق جدھر بھی جائے آپ کے ساتھ ہو گا۔“

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : (یعنی) انت مع الحق والحق معك))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ حق کے ساتھ ہیں اور حق بھی آپ کے ساتھ۔“

((فی حدیث عن ابی ذر انی سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول : علی مع الحق، والحق معه وعلی لسانه، والحق یدور حیثما دار علی))

”ایک حدیث میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی حق کے ساتھ اور حق ان کی زبان پر اور ان کے ساتھ ہے اور جہاں کہیں بھی علی جاتے ہیں حق بھی ان کے ساتھ جاتا ہے۔“

((وعن سلمان وابی ذر والمقداد عن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال : ان عليا مع الحق والحق مع علی کیفما دار به ، فانه اول من آمن بی و اول من يصافحتی یوم القيامة ، وهو الصديق الا کبر و الفاروق الاعظم ، يفرق بین الحق والباطل))

”حضرت سلمان، حضرت ابوذر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی حق کے ساتھ ہیں اور حق بھی ہر وقت ان کے ساتھ ہے، چونکہ علی پہلے فرد ہیں جو مجھ پر ایمان لائے اور پہلے فرد ہوں گے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ وہ صدیق اکبر اور فاروق عظیم ہیں جو حق اور باطل کے درمیان جدا ی ڈالیں گے۔“

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی مع الحق والحق مع علی والحق یدور حیثما دار علی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی علی جاتے ہیں حق بھی ان کے ساتھ گھومتا ہے۔“

فصل نمبر 74:

### علیٰ مع القرآن والقرآن مع علیٰ:

## قرآن علیٰ کے ساتھ ہے اور علیٰ قرآن کے ساتھ

### علیٰ حق و قرآن کے ساتھ ہیں:

((فی حدیث ام سلمة قالت :والذی نفسی بیده لقد سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول :علیٰ مع الحق والقرآن، والحق والقرآن مع علیٰ ولن یفترقا، حتی یردا علیٰ الحوض))

”ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علیٰ قرآن اور حق کے ساتھ ہیں اور حق اور قرآن علیٰ کے ساتھ ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوڑ کے کنارے مجھ سے ملیں گے۔“

### علیٰ قرآن اور قرآن علیٰ کے ساتھ ہے:

((بالاسناد، عن ثابت مولیٰ آل ابی ذر عن ام سلمة قالت: سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول :علیٰ بن ابی طالب مع القرآن، والقرآن معه له یفترقان حتی یردا علیٰ الحوض))

”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے خاندان کے غلام ٹاہت نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ بن ابی طالب قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوڑ کے کنارے مجھ سے ملاقات کریں گے۔“

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :علیٰ مع القرآن والقرآن مع علیٰ))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیٰ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن بھی ان کے ساتھ ہے۔“

### دو جا ششین:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :انی تارک فیکم خلیفتین، کتاب اللہ و علیٰ بن ابی طالب))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آپ کے درمیان دو جانشین چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور علی۔“

((عن زید بن ثابت قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم :انی تارک فیکم خلیفین :کتاب اللہ وعلی بن ابی طالب))

”حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں آپ کے درمیان دو جانشین چھوڑے جا رہا ہوں: ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے علی بن ابی طالب ہیں۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 75

### نَزَولُ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاوَاتِ لِعَلِيٍّ

## حضرت علیؐ کے لیے آسمان سے پانی نازل ہونا

((روى الخوارزمي با سناده الى انس بن مالك قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم :لا بی بکر و عمر: امضيا الى علیؐ - رضی اللہ عنہ - حتی يحدثكم بما كان منه في ليلته، وانا على اثر كما، قال انس: فمضيا ومضيت معهما، فاستاذن ابو بکر و عمر على علیؐ - رضی اللہ عنہ - فخرج اليهما فقال: يا ابا بکر! حدث شیء؟ قال: (لا) وما حدث الا خیر - قال: (قال) لی رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم - ولعمر: امضيا الى علیؐ حتی يحدثكم بما كان منه في ليلته - وجاء النبي صلی الله علیہ وآلہ وسلم فقال: يا علىؐ احذث کما بما كان منك في ليلتك - فقال: استحيي، يا رسول الله، فقال: حدثهما، فان الله لا يستحيي من الحق، فقال علیؐ: اردت الماء للطهارة، واصبحت وخفت ان تفوتنى الصلاة، فوجئت الحسن في طريق والحسين في طريق في طلب الماء فابطيا علىؐ فاحزننى ذلك، فرأيت السقف قد انشق ونزل علىؐ منه سطل مغطى بمنديل، - فلما صار في الأرض نحيت المنديل عنه وإذا فيه ماء فتطهرت للصلاحة واغتسلت وصلحت، ثم ارتفع السطل والمنديل والتام السقف))

”خوارزمی اپنی سند سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے لئل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے فرمایا: علیؐ کے پاس چاؤ تاکہ کل رات جوان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تمہارے لئے بیان کریں، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر

و عمر رضی اللہ عنہا روانہ ہوئے اور میں (ائس بن مالک) بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جس وقت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے ان سے داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: آیا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: نہیں خیر اور خیریت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور عمر سے فرمایا: علی کے پاس جاؤ تاکہ کل رات جو واقعہ ان ساتھ پیش آیا تمہارے لئے بیان کریں۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور علی سے فرمایا: جو واقعہ کل آپ کے ساتھ پیش آیا ان کیلئے بیان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیان کرنے سے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کیلئے بیان کرو کیونکہ اللہ بھی حق کو بیان کرنے سے شرم و عار نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: میں صحیح سوریے اٹھ کر طہارت کیلئے گیا تو پانی موجود نہیں تھا۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ نماز قضا نہ ہو جائے، اس لیے حسن اور حسین کو علیحدہ پانی لانے کیلئے بھیجا۔ انہوں نے دیر کی، غم اور خوف نے میرے پورے بدن کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ کمرے کی چھت میں سوراخ ہوا اور پانی کی بالٹی جو تو لیہ میں لپٹی ہوئی تھی میرے لئے اتری۔ جب بالٹی زمین پر پہنچی تو میں نے تو لیہ ہٹایا دیکھا کہ بالٹی میں پانی ہے۔ میں نے اپنے جسم کو دھویا، غسل کیا اور نماز ادا کی۔ اس کے بعد بالٹی اور تو لیہ آسمان کی طرف واپس ہوئے اور کمرے کی چھت آپس میں مل گئی۔

☆☆☆

فصل نمبر 76:

علی کفو لفاطمة:

## حضرت علی، سیدہ فاطمہ کے کفو تھے

جناب صدیق اکبر و عمر کا جناب علی کو مشورہ:

((عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ يقول : اتاني ابو بکر و عمر فقالا : لو اتيت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فذکرت له فاطمة: قال فاتیته فلما رأني رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحك ثم قال : ما جاءتك يا ابا الحسن وما حاجتك؟ قال : فذکرت له قرابتي وقدمي في الاسلام ونصرتني له وجهادي ، فقال يا على اصدقت فانت افضل مما تذكر فقلت : یا رسول الله ! فاطمة تزو جنیها؟ فقال : یا على انه قد ذكرها قبلك رجال فذکرت ذلك لها فراحت الكراهة

فی وجوهها، ولكن علی رسک حتی اخرج اليك، فدخل عليها فقامت اليه فأخذت رداءه ونزعه نعلیه واتته بالوضوء، فوضاته بيدها وغسلت رجلیه ثم فعدت فقال لها: يا فاطمة! فقالت: ليك حاجتك يا رسول الله؟ قال: ان علی بن ابی طالب من قد عرفت قرابته وفضله واسلامه، وانی قد سالت ربی ان یزوجك خیر خلقه واحیهم اليه، قد ذکرت من امرک شيئاً فمما ترین؟ فسكتت ولم تول وجهها ولم یرفیه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کراحته فقام وهو يقول: اللہ اکبر! اسکوتها اقرارها فاتاه جبرئیل فقال: يا محمد اتزوجها علی بن ابی طالب، فان اللہ قد رضیها له ورضیه لها۔ قال علی رضی اللہ عنہ: فزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ثم اتانی فأخذ بیدی فقال: قم بسم اللہ وقل: علی برکة اللہ و ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ توکلت علی اللہ ثم جاء نی حین اقعدنی عندہا ثم قال: اللهم انہما احباب خلقک الی فاحبہما وبارک فی ذریتهما واجعل علیہما منک حافظ، وانی اعیذہما وذریتهما بک من الشیطان الرحیم)

”جناب ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو بکر اور عمر میرے پاس آئے اور کہا: اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو بہتر ہو گا ان سے فاطمہ کی شادی کے بارے میں بات چیت کرنا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے فرمایا: اے علی! اس لئے آئے ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پھر اپنے خاندان کے بارے میں اسلام قبول کرنے اور تنبیہ کی مدد کرنے اور چہاد میں دوسرا لوگوں سے سبقت لینے جیسے امور پران سے گفتگو ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! سچ کہہ رہے ہو۔ آپ جو کچھ بھی یہاں کہہ رہے ہیں پر تر ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آیا فاطمہ کی شادی میرے ساتھ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! آپ سے پہلے کچھ لوگ خواستگاری اور رشتے کیلئے آئے ہیں اس بارے میں فاطمہ سے بات کی لیکن ان کے چہرے پر میں نے ناگواری کے آثار دیکھے، کچھ دیر انتظار کریں، میں واپس آ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے پاس آئے، سیدہ فاطمہ ان کے احترام میں کھڑی ہو گئیں، ان سے عبایی اور ان کے جو تے اتارے اور ان کے لئے پانی حاضر کیا اور خود اپنے ہاتھ سے ان کے پاؤں دھونے اور پیٹھے گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! سیدہ فاطمہ نے عرض کیا: ليک یا رسول اللہ! آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ جن کے خاندان اور فضیلت اور اسلام کو تم جانتی ہو، میں نے پروردگار سے التجا کی ہے

کہ اپنی مخلوق میں سے بہترین فرد کو تمہاری ہمسری کیلئے انتخاب کرے۔ علی نے تم سے شادی کرنے کی تجویز پیش کی ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیں اور رخ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر شرم کے آثار دیکھے تو کھڑے ہو کر فرمایا: اللہ اکبر! اس کی خاموشی رضامندی کی علامت ہے۔ اسی دوران جبراً میل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا: یا محمد! اس کی شادی علی کے ساتھ کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہے کہ فاطمہ علی کیلئے ہوا اور علی فاطمہ کے لئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا عقد فاطمہ کے ساتھ کر دیا۔ میرے قریب آئے اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا: سُم اللہ کھڑے ہو جاؤ اور کہو: ((علیٰ برکة الله وماشاء الله لا قوة الا بالله توكلت علی الله)) اس کے بعد مجھے سیدہ کے قریب بھایا اور عرض کیا: اے اللہ! یہ تیری مخلوق کے دو فرد میرے نزدیک محبوب ترین ہیں تو ان دونوں کو دوست رکھا اور ان کی نسل میں برکت عطا فرمائے اور ان کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ میں ان دونوں اور ان کی نسل کو شیطان رجیم کے شر سے تیری پناہ میں قرار دے رہا ہوں۔“

### سیدہ فاطمہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا:

((خبرنی ابی عن جدی عن ابیه قال: کنا مع رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم جلوساً بباب دارہ واذا بفاتمة قد اقبلت وهي حاملة الحسن وهو تبکی بكاءً شدیداً فاستقبلها رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم وقال: ما يکیک لابکی الله عینک؟ ثم تناول الحسن من يدها فقالت: يا ابا ان نساء قريش عيرنی وقلن زوجك ابوك من فقیر لا مال له، فقال النبي صلی الله علیہ وآلہ وسلم: ما زوجتك انا ولکن الله تعالى زوجك من السماء وشهد بذلك جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل، اعلمی يا فاطمة ان الله تعالى اطلع الى الارض اطلاعة فاختار منها اباك فيعثه نبیاً ثم اطلع ثانية فاختار منها من الخلائق علياً بعلک، ثم زوجك به من فوق السماوات السبع وامرني ان ازوجك به واتخذه وزیراً، فعلی اشجع الناس قلباً واعلم الناس علمًا واحکم الناس حکماً واقدم الناس ایماناً واسم حهم کفاؤاً حسنهم خلقاً))

”راوی کہتا ہے کہ میرے باپ نے اپنے والد سے اس نے اپنے اجداد سے خبر دی ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سیدہ فاطمہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس وقت انہوں نے حضرت حسن کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ شدید رور ہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا: اللہ آپ کونہ رلائے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کے بعد جناب حسن کو ان سے لیا۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا: بابا جان! قریش کی عورتیں مجھے ملامت کرتی ہیں اور

کہتی ہیں: تمہارے باپ نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو فقیر اور محتاج ہے، اس کے پاس کوئی دولت وغیرہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہارا عقد اس کے ساتھ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ نے آسمان پر اس کو تمہارا شوہر منتخب کیا ہے اور اس کے گواہ جبراً میل، میکا میل اور اسرائیل ہیں۔ اے فاطمہ! جان لو کہ اللہ نے اس زمین پر ایک خاص لطف کیا ہے اور تمہارے والد کا اس زمین پر انتخاب کیا اور اسے پیغمبر مبعوث کیا، اس کے بعد ایک اور عنایت فرمائی، لوگوں میں سے علیؑ کو جو کہ تمہارے شوہر ہیں (ولایت کے لیے) انتخاب کیا۔ اس کے بعد سات آسمانوں کی بلندی پر تمہیں ان کیلئے شریک حیات انتخاب کیا اور مجھے حکم دیا کہ تمہاری شادی اس سے کر دوں اور ان کو اپنا وزیر بناؤ۔ علیؑ لوگوں میں سے شجاع ترین، عقل مند اور سمجھدار ہیں اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ مہربان اور پا اخلاص ہیں۔“

### سیدنا علیؑ، سیدہ فاطمہ کے کفوئتے:

((بالاسناد، عن یونس بن طبیان، عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال : سمعته يقول :  
لولا ان الله تبارک و تعالى خلق امير المؤمنین رضی اللہ عنہ لفاطمة، ما كان له  
کفو على ظهر الارض من آدم ومن دونه))  
”یونس بن طبیان کہتے ہیں کہ میں نے امام حضرت صادق رضی اللہ عنہ سے سنا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کو فاطمہ کیلئے خلق نہ کرتا تو حضرت آدم سے لے کر دوسرے لوگوں تک زمین پر سیدہ فاطمہ کیلئے کوئی شوہر اور کفوپیدا نہ ہوتا۔“

### نکاح طوبیؑ کے درخت کے کنارے:

((وروی بسنده عن جابر بن عبد الله قال: لما زوج النبي صلی الله عليه وآلہ وسلم  
عليا من فاطمة اتت قريش فقالوا: يا رسول الله ازوحت فاطمة علياً بمهر خسیس؟  
فقال النبي صلی الله عليه وآلہ وسلم: ما زوحت فاطمة من علي ولكن الله زوجه عند  
شجرة طوبی و حضرت تزویجها الملائكة وامر الله شجرة طوبی لتنشرین ما عليك من  
الشمار۔ فنشرت الدر والياقوت والزبرجد الا خضر))

”حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کی شادی حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے کی تو قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: فاطمہ کی شادی تھوڑا سا مہر لے کر علیؑ سے کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے فاطمہ کی شادی علیؑ سے نہیں کی بلکہ اللہ نے طوبیؑ کے درخت کے کنارے علیؑ سے ان کا عقد کیا اور طلاق کہ بھی رسم ازدواج میں شریک تھے۔ اللہ نے طوبیؑ کے درخت کو حکم دیا کہ وہ پھل اور میوے پنجاہور کرے۔ طوبیؑ

کے درخت نے در اور یا قوت اور زبرجد پھاڑ کے۔“

### بیٹی کے شوہر:

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشر الناس : ان علیاً منی و ولدہ ولدی۔ و هو زوج حبیتی امرہ امری و نہیہ نہیی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! علی اور ان کے فرزند مجھ سے ہیں، علی میری پیاری بیٹی کے شوہر ہیں۔ ان کا فرمان میرا فرمان اور ان کا انکار میرا انکار ہے۔“



### فصل نمبر 77:

ذکر مخصوص بہ علی دون الاولین والاخرين من فاطمه بنت رسول الله :

**سیدہ فاطمہ کے حوالے سے حضرت علی کی اولین و آخرین میں خصوصیت  
حضرت علی کا نکاح:**

((اخبرنا حسین بن حریث، قال: اخبرنا الفضل بن موسی "عن الحسین بن واقد" عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال: خطب ابو بکر و عمر فاطمة، فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انها صغیرة، فخطب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزو جہامنہ))

(السنن الکبری للنسائی ج 5 ص 153 رقم 1053 و ج 7 ص 452 رقم 8454، طبع آخر ج 5 ص 143 رقم 5808، السنن الصغری للنسائی ج 6 ص 62 رقم 3221، نسائل الصحابة ج 2 ص 61 رقم 1051، صحیح ابن حبان ج 9 ص 51 رقم 6909، المستدرک للحاکم ج 2 ص 167 رقم 2753، الریاض النضرۃ ج 3 ص 124)

”حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا پیغام بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ چھوٹی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی تو آپؐ نے ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔“

((اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال: حدثنا حاتم بن وردان، قال: حدثنا ایوب السختیانی عن ابی یزید المذنی عن اسماء بنت عمیس، قالت: كنت في زفاف فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما اصبحنا جاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فضرب الباب ففتحت له ام ایمن الباب، فقال: يام ایمن ادعی لی اخی، قالت: هو اخوك وتنکحه؟ قال: نعم يام ایمن، وسمعن النساء صوت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتعجیل، قالت:

واختبات انا فی ناحیة' قالت: فجاء علی فدعاله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ونصح  
علیه من الماء' ثم قال: ادعوالی فاطمة' فجاءت خرقۃ من الحیاء' فقال لها: قدیعني  
انکحت احباب اهل بیتی الى' ودعالها' ونصح علیها من الماء' فخرج رسول الله صلی<sup>لہ علیہ وسلم</sup>  
الله علیہ وسلم فرأی سوادا' فقال: من هذا؟ قلت: اسماء' قال: ابنة عمیس؟ قلت: نعم'  
قال: كنت فی زفاف فاطمة بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تکریمینه؟ (تکرمینها)  
قلت: نعم' قالت: قد عالی خالفه سعید بن ابی عروبة' فرواه عن ایوب' عن عکرمة عن  
(ابن عباس))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 452 رقم 8455 طبع آخر ج 5 ص 143 رقم 8509، فضائل الصحابة ج 2 ص 954 رقم  
1342، المستدرک للحاکم ج 3 ص 158 رقم 4806، الجامع الکبیر ج 24 ص 36، تاریخ دمشق ج 42 ص 133، مختصر تاریخ  
دمشق ج 17 ص 341)

"حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر  
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زفاف (رخصتی کی سنت) میں شریک تھی۔ جب صحیح ہوئی تو نبی کریم صلی<sup>لہ علیہ وسلم</sup>  
الله علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ  
کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ام ایمن! ہمارے بھائی کو بلاو۔ انہوں نے عرض کیا: وہ  
آپ کے بھائی ہیں اور آپ ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے ہے ہیں؟ فرمایا: ہاں ام ایمن! اور دوسرا  
خواتین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو وہ ایک طرف ہو گئی۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں: میں بھی  
ایک کوئی ہو گئی۔ فرماتی ہیں: پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور ان پر پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر فرمایا: فاطمہ کو بلاو! تو وہ شرماتی  
ہوئی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا: میں نے آپ کا نکاح اپنے اہل بیت کی محبوب ترین  
شخصیت سے کیا ہے اور سیدہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان پر پانی چھڑکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
 وسلم باہر لکھے تو ایک سیاہ عورت کو دیکھا، فرمایا: یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا: اسماء ہوں۔ فرمایا: بنت  
عمیس؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! فرمایا کیا تم فاطمہ بنت رسول کی رخصتی میں شریک ہوئی ہوتا کہ ان کی  
تعظیم بجالاؤ؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! فرماتی ہیں: اس پر آپ نے میرے حق میں دعائے خیر فرمائی۔"

((خبرنا ز کریبا بن یحییٰ) قال: حدثنا محمد بن ابراهیم بن صدران، قال: حدثنا سهیل  
بن خلاد العبدی، قال: حدثنا محمد ابن سواد عن سعید بن ابی عروبة، عن ایوب  
السختیانی عن عکرمة، عن ابن عباس، قال: لما زوج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم  
فاطمة رضی اللہ عنہا، من علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان فيما اهدی معها سریر

مشروط' ووسادة من (ادم) ادیم حوهالیف، وقربة' وقال: وجاء (وجاءوا) ببطحاء  
 (من) الرمل، فبسطوه فی البيت، وقال لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا اتیت بها فلا تقربها  
 حتی اتیک، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق الباب، فخرجت، اليه ام ایمن،  
 فقال: اعلم (ثم) اخی؟ قالت: (فقالت) وكیف یکون اخاک وقد زوجته ابنتك؟ قال: انه  
 اخی، ثم اقبل (علی الباب ورأی سوادا)، فقال: من هذا؟ قالت: اسماء بنت عمیس،  
 فاقبل، عليها، فقال لها: جئت تکرمین ابنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ (فدعالها)  
 وقال لها خیرا، قال: ثم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال: وکان اليهود  
 يوجدون الرجل (یوخدون الرجل عن) من امرأته اذا دخل بها، قال: فدع رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم بیدر (بتور) من ماء فتغل فیه وعوذ فیه، ثم دعا عليا صلی اللہ علیہ  
 وسلم، فرش من ذلك الماء على وجهه وصدره، وذراعيه، ثم دعا فاطمة فاقبلت  
 تعرفی ثوبها حیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففعل بها مثل ذلك، ثم قال لها  
 مثل ذلك، ثم قال لها: يا ابنتی، والله ما اردت ان ازوجك الا خيراً اهلي، ثم قام وخرج  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 453 رقم 456 وطبع آخر 5 ص 144 رقم 5810، الطبقات الکبری لابن سعد  
 ج 8 ص 254، مصنف عبدالرازق ج 5 ص 337 رقم (2732) 9844، فتاویٰ الصحابة ج 2 ص 702 رقم 958)  
 "حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ رضی  
 اللہ تعالیٰ عنہما کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی تو جو چیزیں سیدہ کو ہدیہ کیں ان میں  
 ایک بنی ہوئی چار پانی، چھڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ ابن  
 عباس نے فرمایا: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلطھاء کی ریت لا کر گھر میں بچھادی اور نبی کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: جب تم اپنی الہیہ کے پاس آؤ تو میرے آنے تک ان کے  
 قریب نہ ہونا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر دروازہ پر دستک دی تو ام ایمن نے دروازہ  
 کھولا۔ آپ نے انہیں فرمایا: میرا بھائی یہیں ہے؟ ام ایمن نے عرض کیا: وہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟  
 حالانکہ آپ نے اپنی بیٹی ان کے عقد میں دی ہے؟ فرمایا: وہ میرا بھائی ہے۔ پھر آپ نے حضرت ام ایمن  
 کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: تم رسول اللہ کی تعظیم کے لیے آئی ہو؟ پھر آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور  
 ان کے لئے بہترین کلمات ارشاد فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: پھر رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم اندر تشریف لائے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا: اور یہودی لوگ شوہر کو اس کی بیوی  
 سے موخر کھتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک کٹورا منگوایا، اس میں دم فرمایا اور اس۔

میں استعاذه کے الفاظ دم کیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کران کے چہرے سینے اور بازوؤں میں لڑکھراتے ہوئے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بھی وہی کیا اور وہی فرمایا: پھر فرمایا: بیٹی! میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے آپ کا ناچ اپنے اہل بیت کے بہترین شخص سے کیا ہے۔ اہن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے۔

(اخبارونی عمران بن بکار بن راشد) قال: حدثنا احمد بن خالد، قال: حدثنا محمد عن عبد الله بن أبي نجيح، عن أبيه عن معاوية: ذكر على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال سعد بن أبي وقاص: والله لان يكون لي واحدة من خلال ثلاث احب الى من ان يكون لي ما طلت عليه الشمس: ان يكون قال لي ما قال له حين رده من تبوك: اما ترضي ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لانبى بعدى، احب الى من اين يكون لي ما طلت عليه الشمس، ولا ان يكون قال لي ما قال (له) (في) يوم خيبر: لاعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، ليس بفارار، احب الى من ان يكون لي ما طلت عليه الشمس، ولا ان يكون لي ابنته ولها من اهلها من الولد ماله: احب الى من ان يكون لي ما طلت عليه الشمس) (السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 454 رقم 8458 وطبع آخر ج 5 ص 144 رقم 8511، مختصر تاریخ دمشق ج 17 ص 335، البداية والنهاية ج 5 ص 453 وطبع جدید ج 7 ص 565)

”حضرت عبد اللہ بن فتح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی المرتضی کا ذکر کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اگر مجھے حضرت علی کی تین خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی حاصل ہوتی تو وہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محظوظ ہوتی جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔

1: اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرمایا ہوتا جو انہیں غزوہ تبوک پر نہ یجا نے کے وقت فرمایا تھا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی ہارون علیہ السلام کی موسی علیہ السلام سے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا، تو وہ مجھے ان تمام اشیاء سے زیادہ محظوظ ہوتا جن پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔

2: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں وہ ارشاد فرمایا ہوتا جوان کے لیے خبر کے دن فرمایا تھا: میں عنقریب ایسے شخص کو پر چم عطا کروں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محظوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح عنایت فرمائے گا، وہ بھاگنے والا نہیں ہے، تو وہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محظوظ ہوتا جن پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔

3: اگر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سراں رشتہ حاصل ہوتا اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عطا ہوئی ہوتی اور اس سے میری اولاد ہوتی تو یہ چیز مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محظوظ ہوتی جن پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔“

### جنتی خواتین کی سردار:

((خبرنا محمد بن بشار، اخبرنا عبد الوہاب، اخبرنا محمد بن عمرو، عن ابی سلمة، عن عائشة، قالت: مرض رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجاءت فاطمة رضی اللہ عنہا، فبکت (فاکبت) علی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فسارها فبکت، ثم أکبت (علیہ) فسارها فضحكت فلما توفي النبي صلی اللہ علیہ وسلم سالتها فقالت: لما أکبت عليه، أخبرني انه ميت من وجعه ذلك، فبکت، ثم أکبت عليه فأخبرني: انى اسرع اهل بيته (بیتی) به ذلک فبکت ثم أکبت عليه، فأخبرني: انى أسرع اهل بيته (بیتی) به لحقا وانی سيدة نساء اهل الجنة الامریم بنت عمران، فرفعت رأسي فضحكت))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 392 رقم 8308 وص 454 رقم 8459 وطبع آخر ج 5 ص 95 رقم 8366 وص 145 رقم 8512، مصنف ابن ابی شیۃ ج 6 ص 391 رقم 32260، صحیح ابن حبان ج 9 ص 52 رقم 6013)

”ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمار ہوئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ روپڑیں، پھر جھکیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (دوبارہ) سرگوشی فرمائی تو نہیں پڑیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو میں نے ان سے (ہنسنے اور رونے کے متعلق) سوال کیا تو انہوں نے کہا: جب پہلی مرتبہ آپ پر جھکی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اسی یماری میں وصال فرمائیں گے تو میں روپڑی تھی، پھر میں دوبارہ آپ پر جھکی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچوں گی اور یہ کہ میں جنتی خواتین کی سردار ہوں ما سو امریم بنت عمران کے تو میں اپنا سراخہ کرنے پڑی تھی۔“

((خبرنا هلال بن بشر قال: حدثنا محمد بن خالد، قال: قال (حدثنا) لى موسى بن يعقوب، (قال) حدثني هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن وهب: ان ام سلمة اخبرته بان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعا فاطمة رضی اللہ عنہا فناجاها فبکت، ثم حدثنا فضحكت، قالت ام سلمة: فلما توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سالتها عن بكائها وضحكها فقالت: أخبرني (رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه یموت)، ثم أخبرني

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) اتی سیدۃ نساء اهل الجنة بعد مریم بنت عمران فضحکت))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 455 رقم 460 طبع آخر ج 5 ص 145 رقم 14513، سنن الترمذی ص 874 رقم 3873 و ص 877 رقم 3893 مناقب علی و الحسین المفواد ص 194)

”حضرت عبد اللہ بن وصب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سرگوشی فرمائی تو وہ روپڑیں پھر دوبارہ ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی تو وہ نہیں پڑیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے ان سے رونے اور ہنسنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ عنقریب آپ وصال فرمائے والے ہیں، پھر دوسری مرتبہ آپ نے مجھے اطلاع دی کہ میں مریم بنت عمران کے بعد تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوں تو میں نہیں پڑی۔“

((احبّرنا اسحق بن ابراهیم بن مخلد بن راہویہ، قال: اخبرنا جریر عن يزيده بن أبي زیاد، عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم :الحسن والحسین سید اشباب اهل الجنة، وفاطمة سیدۃ نساء اهل الجنة، الا ما كان من مریم بنت عمران))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 455 رقم 461 طبع آخر ج 5 ص 145 رقم 14514، مصنف ابن الیثیہ ج 6 ص 381 رقم 32167، مند احمد ج 3 ص 3 رقم 11616 و ص 62 رقم 11641 و ص 80 رقم 11778)

”حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، مساوا اس کے جو مریم بنت عمران سے تھا۔“

((احبّرنا محمد بن منصور الطوسي، قال حدثنا ابواحمد الزبیري محمد بن عبد الله قال: اخبرني ابو جعفر (واسمه) محمد بن مروان قال: حدثني ابو حازم، عن أبي هريرة قال: ابطاع علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوماً صبوة النهار، فلما كان العشى قال له قائلنا: يارسول الله قد شق علينا، لم ترك اليوم؟ قال: ان ملكاً من السماء لم يكن زراني، فاستاذن الله في زيادتي، فاخبرني وبشرني ان فاطمة بنتي سيدة نساء امتی و ابن حستنا وحسينا سيد اشباب اهل الجنة))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 755 رقم 8462 طبع آخر ج 5 ص 146 رقم 14515 - 8515)

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں جلوہ افروز ہونے میں تائیر فرمائی۔ پس جب شام کا وقت ہوا تو اہم میں سے کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم پر یہ پات بہت گراں گزری کہ آج ہم آپ کی زیارت سے محروم رہے۔ فرمایا: آسمان کے ایک فرشتہ نے ہماری زیارت نہیں کی تھی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ہماری زیارت کے لیے اجازت مانگی۔ پھر اس نے مجھے خبر دی اور خوبخبری سنائی کہ میری بیٹی فاطمہ میری امت کی خواتین کی سیدہ ہیں اور حسن اور حسین نوجوانان اہل جنت کے سید ہیں۔“

((اخبرنا احمد بن سليمان، قال: اخبرنا ابو نعيم الفضل بن دكين، قال: اخبرنا زكرياء عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: اقبلت فاطمة رضي الله تعالى عنها، تمشي كان مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هرحا يا بنتي، ثم اجلسها عن يمينه (او عن شماله) ثم اسراليها حديثاً فبكى، فقال لها: استحضرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه، وتبكين؟) ثم انه اسراليها حديثاً فوضحت، فقلت لها: ما رأيت مثل اليوم فرحاً اقرب من حزن؟ وسالتها عمما قال، فقالت: ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قبض سالتها، فقالت: انه اسرالي، فقال ان جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرتين، وما اراني الا قد حضر اجل، وانك اول اهل بيتي لحوقاً (بى) ونعم السف انالله، قالت: فبكى لذلك، ثم قال: اما ترضين ان تكوني سيدة نساء هذه الامة، او نساء المؤمنين، قالت: فوضحت))

(السنن الکبری للنسائی ج 6 ص 380 رقم 7041 و ج 7 ص 456 و طبع آخر ج 4 ص 251 رقم 7087 و ج  
ص 5 146 رقم 8516، بخاری رقم 3624، 6285، 6313، صحيح مسلم رقم اسلسل 6314، منداحم  
ص 6 رقم 282، دلائل المسوقة لکھتی ج 6 ص 364)

"ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں، وہ ایسا چلتی تھیں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری بیٹی کو خوش آمدید! پھر آپ نے ان کو دائیں یا باکیں جانب بٹھایا۔ پھر ان سے رازدارانہ طرز پر بات فرمائی تو وہ روئے لگیں، پھر ان سے دوسری مرتبہ رازدارانہ طرز پر کچھ فرمایا تو وہ نہ پڑیں۔ اس پر میں نے کہا: آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے قریب نہیں دیکھا، اور میں نے ان سے دریافت کیا کہ انہیں کیا کہا گیا؟ تو انہوں نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا: پیشک آپ نے میرے ساتھ سرگوشی

کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہر سال قرآن کریم کا ایک دور کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے دو مرتبہ دور کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میرے وصال کے قرب پر دلالت کرتی ہے، اور پیشک تم میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملوگی اور میں پہلے جا کر تھا راہبترین مدودگار ہوں گا۔ فرمایا تو میں اس پر روپڑی۔ پھر آپ نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم اس امت کی خواتین کی یا اتمام مومنین کی خواتین کی سیدہ ہو؟ فرمایا: تو میں نہیں پڑی۔“

((خبرنا محمد بن معمر البحرانی، قال: حدثنا ابو دائود؛ (قال) حدثنا ابو عوانة عن فراس عن الشعبي، عن مسروق قال: اخبرتني عائشة، قالت: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جمیعاً ماتغادر (يغادر) منا واحدة، فجاءت فاطمة رضي الله عنها، تمشي، ولا والله ان تخطي، مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى انتهت اليه، فقال: مرحبا بابنتي، فاقعدها عن يمينه او عن يساره، ثم سارها بشيء، فبكى بكاء شديداً، ثم سارها بشيء فضحكت، تبكين؟ اخبريني ما قال لك؟ قالت: ما كنت لافشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها: اسالك بالذى لى عليك من الحق: ما سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: اما الان فنعم سارنى (اما مرته) في المرة الاولى، فقال: ان جبريل عليه السلام، كان يعارضنى بالقرآن في كل سنة مرة، وانه عارضنى (به) العام مرتين، ولا ارى الا جل الا قد افترى، فاتقى الله واصبرى، ثم قال لى: يا فاطمة! اما ترضين ان تكوني (انك) سيدة نساء هذه الامة، وسيدة نساء العالمين فضحكت))

(اسنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 456 رقم 464 وطبع آخر ج 5 ص 146 رقم 8517 مند ابی داود الطیالی کی ص 196 رقم 1373 وطبع جدید ج 2 ص 150 رقم 1470، سنن ابن ماجہ ج 6 ص 281 رقم 1621، فضائل الصحابة ج 2 ص 955 رقم 1343، المطبقات الکبریٰ لابن سعد ج 8 ص 256، دلائل النبوة تحقیق ج 7 ص 165، مشکوہ ج 2 ص 511 رقم 6138)

”حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ مجھے ام المومنین سیدۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ہم صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، ہم میں سے کوئی ایک پیچھے نہیں رہی تھی کہ اچانک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چلتی ہوئی آئیں، اور اللہ کی قسم ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے جدا نہ تھی، یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں تو آپ نے فرمایا: ہماری بیٹی کو مرحبا، پھر آپ نے ان کو دائیں یا بائیں بھایا، پھر انہیں راز کے طور پر کوئی بات فرمائی تو وہ بہت سخت روئیں، پھر اور کوئی بات فرمائی تو

ہنسنے لگیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے تو میں نے ان سے کہا: ہمارے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو راز کے لئے مخصوص فرمایا اور آپ روپڑیں؟ بتلا یئے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کرتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو میں نے ان سے کہا: میں آپ کو اس حق کا واسطہ دے کر پوچھتی ہوں جو میرا آپ پر ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا: ہاں اب بتلاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے دو مرتبہ دور کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے وصال کا وقت آپ ہنچا ہے، پس تم صبر کرنا اور تقویٰ پر قائم رہنا۔ دوسری مرتبہ فرمایا: اے فاطمہ! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم اس امت کی خواتین کی اور تمام جہانوں کی خواتین کی سیدہ ہو تو میں نہ پڑی تھی۔

جگر گوشہ رسول:

((اخبرنا قرطيبة) (بن سعيد) قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ان بني هاشم بن المغيرة استاذونى ان ينكحوا ابنتهم على بن ابي طالب رضي الله عنه، فلا اذن ثم لا اذن، الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق ابنته وينكح ابنته، فانما هي بضعة مني، يرينى ما ارادها ويؤذيني ما اذاها، ومن آذى رسول الله فقد حبط عمله))  
السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 394 رقم 8312 وص 457 وص 8465 وطبع آخر ج 5 ص 97 رقم 8370 وص  
رقم 8518، بخاری رقم 3714، سنن ابی داود رقم 2070، سنن ابی جعفر رقم 1998، سنن ابی حیان رقم 1999،  
الصلیبة ج 2 ص 945 رقم 1323، 1324 وص 946 رقم 1326، 327، 1328، 1329، 1329 وص 1330، 1330 وص 0  
ج 1333، 1334 وص 951 رقم 1335 وص 959 رقم 1347، صحیح ابی حیان ج 9 ص 54، رقم 6917، 6918، 6918

”حضرت مسیح بن محرمة رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا: بیشک بنو ھاشم بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکار (علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے کریں تو میں اجازت نہیں دیتا، پھر اجازت نہیں دیتا مگر یہ کہ ابن ابو طالب میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ بیشک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے مجھے وہ چیز بے قرار کرتی ہے اور مجھے وہ چیز اذیت پہنچاتی ہے جو اسے اذیت

پہنچاتی ہے اور جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے تو اس کے تمام اعمال برپا ہو جاتے ہیں۔“

((اخبرنا احمد بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا الليث بن سعد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: سمعت المسور بن مخرمة يقول: سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمكة يقول وهو على المنبر: ان بنى هاشم بن المغيرة استاذنونی فی ان ینکحوا ابنتهم علیاً، وانی لا آذن (ثم لا آذن) الا ان یرید ابن ابی طالب ان یفارق ابنتی وان ینکح ابنتهم، ثم قال: ان فاطمة (مضغة او) بضعة منی، یو ذینی ما آذاها، ویریسني ما ارا ابها، وما كان لابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان یجمع بین بنت عدو اللہ وبين بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 394 رقم 457 و ص 8313 رقم 8466 و طبع آخر ج 5 ص 97 رقم 8371 و ص 147 رقم 147 (8519)

”حضرت سور بن مخرمة رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمة میں (ہجرت کے بعد) منبر پر بیان کرتے ہوئے سننا۔ آپ نے فرمایا: بیشک مجھ سے بنو ہاشم بن مغیرہ نے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کریں اور بلاشبہ میں اجازت نہیں دیتا، پھر اجازت نہیں دیتا اگر یہ کہ ابن ابی طالب میری بیٹی کو فارغ کر دے اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ پھر فرمایا: بیشک فاطمہ میرے جگر کا مکڑا ہے، مجھے وہ چیز اذیت پہنچاتی ہے جو اس کو اذیت پہنچاتی ہے اور مجھے وہ چیز بے قرار کرتی ہے جو اس کو بے قرار کرتی ہے۔ ابن ابی طالب کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بنت عدو اللہ (اللہ کے دشمن کی بیٹی) اور بنت نبی اللہ (اللہ کے نبی کی بیٹی) کو ایک ساتھ رکھے۔“

((حدثنا الحارث بن مسکين قراءة عليه وانا اسمع عن سفيان، عن عمرو، عن ابن مليكة عن المسور بن مخرمة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان فاطمة بضعة منی من اغضبها اغضبني))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 458 رقم 8467 و طبع آخر ج 5 ص 148 رقم 148 (8520)

”حضرت عمرو بن دینار ابن ابی مليکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سور بن مخرمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا: بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ میرے جگر کا مکڑا ہے جو اسے غضب ناک کرتا ہے وہ مجھے غضب ناک کرتا ہے۔“

((اخبرنا محمد بن خالد بن خلی) قال: حدثنا بشر بن شعیب، عن ابیه، عن الزہری، قال: اخبرنی علی بن الحسین: ان المسور بن مخرمة اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم قال: ان فاطمۃ لمضغة او بضعة مني))  
 (سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 394 رقم 394 وص 458 وص 8469 وص 97 رقم 8372 وص 148 رقم

(8522)

”امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی بن الحسین (زین العابدین) رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ میرے جسم کا مکڑا ہے۔“

((خبرنا عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم (بن سعد، قال حدثنا عمی) قال: اخبرنا یعقوب بن ابراہیم، اخبرنا ابی، عن الولید بن کثیر، عن محمد بن عمر و بن حلحلة انه حدثه ان ابن شہاب حدثه ان علی بن الحسین حدثه ان المسور بن مخرمہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منبره هذَا وَإِنَا يوْمَنَا مُحَتَلٌ فَقَالَ: ان فاطمۃ بضعة مني))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 394 رقم 394 وص 458 وص 8469 وص 97 رقم 8372 وص 148 رقم 8372 وص 148)

”امام علی بن حسین (سید الساجدین زین العابدین) رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں حضرت مسor بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سناؤر میں اس وقت عاقل بالغ تھا، آپ نے فرمایا: بیشک فاطمہ میرے جسم کا مکڑا ہے۔“

### حضرت فاطمہ کا گھر انہا الہ بیت ہے:

((عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمر بباب فاطمة ستة اذا خرج الى صلاة الفجر، يقول: الصلاة! يا اهل البيت (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهِرُكُمْ تَطْهِيرًا))

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چھ ماہ تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب نماز فجر کے لئے نکلتے اور حضرت فاطمہ کے روازہ کے پاس سے گزرتے تو فرماتے: اے اہل بیت! نماز قائم کرو۔ (اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھتے: ) اے اہل بیت! اللہ چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلوگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔“

1: ترمذی، الجامع صحیح، 5:352، رقم 32062: احمد بن حنبل، المسند: 3:2853، 259: المسند: 3:2853: احمد بن حنبل، فضائل الصحابة، 2:761، رقم 322725: شیبیانی، الآحاد و الشانی: 5:360: ابن ابی شیبہ، المصنف: 6:388، رقم 322725: شیبیانی، الآحاد و الشانی: 5:360: عبد بن حمید، المسند: 3:367، رقم 12237: حاکم، المستدرک، 3:172: حاکم، المستدرک، 3:172: طبرانی، اجمجم الکبیر، 3:56: رقم 47488: عبد بن حمید، المسند: 3:367، رقم 12237: حاکم، المستدرک، 3:172: شیبیانی، الآحاد و الشانی: 5:360: بخاری نے ”دکنی“ (ص: 25، رقم 205) میں ابو الحمراه سے حدیث روایت کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی مدت نو ماہ بیان کی گئی ہے۔ 10: عند بن حمید نے المسند (ص: 173، رقم 475) میں امام

بخاری کی بیان کردہ روایت نقل کی ہے۔ 11: ابن حیان نے، طبقات الحمد شیخ باصہمان (4:148) میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت میں آٹھ ماہ کا ذکر کیا ہے۔ 12: ابن اثیر، اس الفابہ فی معرفۃ الصحابة، 713:218: ذہبی، سیر اعلام البلاء، 214:134: مزی، تہذیب الکمال، 35، 250، 251: ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، 483:316: سیوطی نے، الدر المختار فی التفسیر بالماثور (5:613) میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ 17: سیوطی نے، الدر المختار فی التفسیر بالماثور (6:607) میں حضرت ابوالحمراء سے روایت کی ہے۔ 18: شوکانی، فتح القدر، 4:280.

((عن ابی سعید الخدرا رضی الله عنہ فی قوله: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجُسُ  
أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ: نَزَّلَتْ فِي خَمْسَةَ: فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ، فَاطِّمَةَ،  
وَالْحَسَنَ، وَالْحَسِينَ رضی الله عنہم))

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارکہ: اے اہل بیت! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلوگی دُور کر دے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ پانچ ہستیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی۔“

1: طبرانی، مجمع الاوسط، 3:380، رقم: 34562، رقم: 231:1، مجمع الصغیر، 3753: ابن حیان، طبقات الحمد شیخ باصہمان: 34:384: خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، 105:278: طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، 22:6

### گھرانہ اہل کسائے:

((عن صفیہ بنت شیبة، قالت: قالت عائشة رضی الله عنہا: خروج النبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم خداۃ زعلیہ مرتظ مرحلا من شعر اسود۔ فجاء الحسن بن علی رضی الله عنہما فادخله، ثم جاء الحسین رضی الله عنہ فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضی الله عنہما فادخلها، ثم جاء علی رضی الله عنہ فادخله، ثم قال: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهَبَ عَنْكُمُ  
الرِّجُسُ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَظْهُرُ كُمْ بَطْهِيرًا))

”صفیہ بنت شیبة روایت کرتی ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کے وقت باہر تشریف لائے درآں حالیکہ آپ علیہ السلام نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون کے کبادوں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ پس حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے تو آپ کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور آپ نے انہیں چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی: ”اے اہل بیت! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم نے (ہر طرح کی) آلوگی دُور کر دے اور تم کو

خوب پاک و صاف کر دے۔“

((عن عمر بن ابی سلمة ریب النبی ﷺ، قال: لما نزلت هذه الآية على النبی ﷺ  
 ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيرًا﴾ فی بیت ام سلمة، فدعى فاطمة و حسناً و حسيناً رضی الله عنهم فجللهم بکسائے، وعلی رضی الله عنهم خلف طهرہ فجلله بکسائے، لم قال: اللهم! هؤلاء اهل بیت، فاذہب عنهم الرجس و طهرہم تطهیراً))

”حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں یہ آیت مبارکہ: ”اے اہل بیت! اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے (ہر طرح کی) آلوڑی دو کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔“ نازل ہوئی: تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلا یا اور کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا، پھر عرض کیا: الہی! یہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے نجاست دور کراور ان کو خوب پاک و صاف کر دے۔“

### سیدہ فاطمہ سب جہانوں کی سردار ہیں:

((عن عائشة رضی اللہ عنہا، ان النبی ﷺ قال و هو في مرضه الذي توفي فيه: يا فاطمة! الا ترضين ان تكوني سيدة نساء العالمين و سيدة نساء هذه الامة و سيدة نساء المؤمنين))

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تو شہیں چاہتی کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں، میری اس امت کی تمام عورتوں اور مومنین کی تمام عورتوں کی سردار ہو۔“

((عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: اقبلت فاطمة تمشی کان مشیتها مشی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مرحبا بابنتی ثم اجلسها عن یمنہ او عن شمالہ، ثم اسر الیها حدیثاً فبكت، فقلت لها: لها تبكين؟ ثم اسر الیها حدیثاً فضحکت، فقلت مارایت کالیوم فرحاً اقرب من حزن، فسالتها عما قال، فقالت: ما كنت لافشی سر رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان جبریل کان يعارضنى القرآن کل سنة مرتی، وانه عارضنى العام مرتین، ولا اراه الا حضر اجلی، وانک اول اهل بیتی لحاقا بی، فبکیت فقال: اما ترضین، ان تكوني سيدة نساء اهل الجنۃ، او نساء المؤمنین! فضحکت للذکر))

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہراء آئیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھالیا، پھر چکے چکے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں، پس میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں روزہ ہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چکے چکے کہی تو وہ نہ پڑیں۔ پس میں نے کہا کہ آج کی طرح میں نے خوشی کوغم کے اتنے زدایک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے (حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے پوچھا): آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے (اس بارے میں) پھر پوچھا تو انہوں نے جواب دیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی کہ جبراً میل ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کا ایک بار دو رکیا کرتے تھے لیکن اس سال دو مرتبہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا آخری وقت آپنچا ہے اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے آملوگی۔ اس بات نے مجھے رلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ پس اس بات پر میں نہ پڑی۔“

((عن مسروق: حدیثتی عائشة ام المؤمنین رضی الله عنہا، قالت قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم يا فاطمة! الا ترضی ان تكونی سيدة نساء المؤمنین۔ او سيدة نساء هذه الامة))

”حضرت مسروق روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہو کہ مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو!“

((عن ابی هریرہ رضی الله عنه ، ان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم قال: ان ملکاً من النساء لم يكن زارني ، فاستاذن الله في زيارةي ، فبشرني او اخبرني ان فاطمة سيدة نساء امتی))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آسمان کے ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی تھی، پس اس نے اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت لی اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی (یا) مجھے خبر دی کہ فاطمہ میری امت کی سب عورتوں کی سردار ہیں۔“

سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی اور آپ کے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں:

((عن حدیثة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ان هذا

ملك لم ينزل الارض فقط قبل هذه الليلة استاذن ربه ان يسلم على ويشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة، وان الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة) ”حضرت حدیقه رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اٹرا تھا۔ اس نے اپنے پروڈگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہوا اور مجھے یہ خوشخبری دے: فاطمہ! اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔“

((عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لفاظہم رضی اللہ عنہا: الا ترضیں ان تکونی سیدة نساء اهل الجنة۔ وابنائِ سیدا شباب اهل الجنة)) ”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: کیا تمہیں اس پات پر خوشی نہیں کہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوا اور تیرے دونوں بیٹیے جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔“

((عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: خط رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی الارض اربعة خطوط۔ قال: تدرؤن ما هذا؟ فقالوا: الله و رسوله اعلم۔ فقال رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: افضل نساء اهل الجنة: خديجة بنت خويلد، و فاطمة بنت محمد، و آسية بنت مزاحم امراة فرعون، و مريم ابنة عمران)) ”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار لکھریں کھینچیں اور فرمایا: تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول مہتر جانتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل جنت کی تمام عورتوں سے افضل ترین (چار) ہیں۔ خدیجہ بنت خويلد، فاطمہ بنت محمد، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مريم بنت عمران۔“

((عن صالح قال: قالت عائشة لفاطمة بنت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا ابشرك ان سمعت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يقول: سيدات اهل الجنة اربع مريم بن عمران و فاطمة بنت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و خديجة بنت خويلد، و آسية امراة فرعون)) ”حضرت صالح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں! (وہ یہ کہ) میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنایا: اہل جنت کی عورتوں کی سردار صرف چار خواتین ہیں: مريم بنت عمران، فاطمہ بنت رسول اللہ، خدیجہ بنت خويلد اور فرعون کی بیوی آسیہ۔“

### اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور آل فاطمہ پر جہنم کی آگ حرام کروی:

((عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لفاطمة رضی اللہ عنہا: ان الله غير معذبك ولا ولدك))

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا۔“

((عن عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان فاطمة حصنت فرجها فحرمتہا اللہ وذریتها علی النار))

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ سے محفوظ فرمادیا ہے۔“

((عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما سمیت بنتی فاطمة لأن الله فطمها وفطم محبیها عن النار))

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے الگ تھلک کر دیا ہے۔“

### سیدہ فاطمہ کی والدہ افضل النساء ہیں:

((عن عبدالله بن جعفر قال: سمعت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ يقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يقول: خیر نسائیها خدیجۃ بنت خویلد، و خیر نسائیها مریم بنت عمران))

”حضرت عبد اللہ بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنائیں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنایا: (اپنے زمانہ کی عورتوں میں) سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور (اپنے زمانہ کی عورتوں میں) سب سے افضل مریم بنت عمران ہیں۔“

((عن عبدالله بن جعفر، سمعت علیاً بالکوفة، يقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يقول: خیر نسائیها مریم بنت عمران، و خیر نسائیها خدیجۃ بنت خویلد))

قال ابو کریب: و اشار و کیع الی السماء والارض))

”حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں یہ

فرماتے ہوئے سنا کہ مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویدر زمین و آسمان میں سب سورتوں سے بھتر ہیں۔  
(راوی) ابوکریب کہتے ہیں کہ وکیع نے (یہ حدیث بیان کرتے ہوئے) زمین و آسمان کی طرف اشارہ کیا۔

### فاطمہ! میرے ماں باپ تھوڑے پر قربان:

((عن ابن عمر رضی اللہ عنہما: ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان اذَا سافر  
کان آخر الناس عهدا به فاطمة و اذا قدم من سفر کان اول الناس به عهدا فاطمة  
رضی اللہ عنہا۔ فقال لها رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فذاك ابی و امنی))

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو کر کے سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ فاطمہ ہوتیں۔ اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ ہی ہوتیں۔

اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے فرماتے: (فاطمہ!) میرے ماں باپ تھوڑے پر قربان ہوں۔“

((عن عمرا بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمة فذاك  
ابی و امنی))

”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے (بھی) مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما سے فرماتے تھے: (فاطمہ!) میرے ماں باپ تھوڑے پر قربان ہوں۔“

### نخت جگرِ مصطفیٰ:

((عن المسور بن مخرمة: ان رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: فاطمة بضعة  
منی، فمن اغضبها اغضبني))

”حضرت مسور بن مخرمه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ میرے جسم کا لکڑا ہے۔ پس جس نے اسے ناراض کیا اُس نے مجھے ناراض کیا۔“

((عن محمد بن علی قال: قال رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما فاطمة بضعة  
منی، فمن اغضبها اغضبني))

”محمد بن علی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ میرے جگر کا لکڑا ہے۔ پس جس نے اسے ناراض کیا اُس نے مجھے ناراض کیا۔“

((عن علی رضی اللہ عنہ انه کان عند رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال: ای  
شی خیر للمراء؟ فسكتوا، فلما رجعت قلت لفاطمة! ای شیء خیر للنساء؟ قالت: الا  
يراهن الرجال۔ فذکرت ذلك للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، فقال انما فاطمة

بضعة مني))

”سیدنا علیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بارگاہ نبوی میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: عورت کے لئے کوئی شے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خاموش رہے۔ جب میں گھر لوٹا تو میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: بتاؤ! عورت کے لئے کوئی شے بہتر ہے؟ سیدہ فاطمہ نے جواب دیا۔ عورت کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ اُسے غیر مرد نہ دیکھے۔ میں نے اس چیز کو تذکرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ میرے جسم کا ملکرا ہے۔“

### سیدہ فاطمہ کی آمد پر نبی کریم کا عمل:

((عن عائشة ام المؤمنین رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رأها قد أقبلت رحباً بها، ثم قام اليها فقبلها، ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه۔ وكانت اذا رأت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رحبت به، ثم قامت اليه فقبلته صلی الله تعالى عليه وسلم))

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھتے تو خوش آمدید کہتے۔ پھر ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے اور انہیں اپنی لشت پر بٹھایتے۔ اور جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتیں تو خوش آمدید کہتیں، پھر کھڑی ہو جاتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتیں۔“

((عن ام المؤمنین عائشة رضى الله عنها انها قالت: كانت (فاطمة) اذا دخلت عليه صلی الله تعالى عليه وسلم رحباً بها و قام اليها فأخذ بيدها فقبلها و اجلسها في مجلسه))

”ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت القدس میں حاضر ہوتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کو خوش آمدید کہتے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنی لشت پر بٹھایتے۔“

((عن ام المؤمنین عائشة رضى الله عنها انها قالت: كانت (فاطمة) اذا دخلت عليه صلی الله تعالى عليه وسلم قام اليها فقبلها و رحب بها و اخذ بيدها۔ فاجلسها في مجلسه و كانت هي اذا دخل عليها رسول الله صلی الله عليه وسلم قامت اليه مستقبلاً وبلت يده))

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: سیدہ فاطمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، انہیں بوسہ دیتے، خوش آمدید کہتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نشت پر اٹھایتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے ہاں رونق افروز ہوتے تو سیدہ فاطمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لئے کھڑی ہو جاتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ اقدس کو بوسہ دیتیں۔“

### حضور سیدہ کی نشت کے لئے اپنی کملی مبارک بچھادیتے:

((عن علی انه دخل علی النبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم وقد بسط شملة، فجلس علیها هو وفاطمة وعلی والحسن والحسین، ثم اخذ النبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بمجامعه فعقد علیهم، ثم قال: اللهم ارض عنهم كما انا عنهم راض))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، درآں حالیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی ہوئی تھی۔ پس اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے کنارے پکڑے اور ان پر ڈال کر اس میں گردہ گاری۔ پھر عرض کیا: اے اللہ! تو بھی ان سے راضی ہو جا، جس طرح میں ان سے راضی ہوں۔“

### سفر مصطفیٰ کی اہتماد اور انہتبا بیت فاطمہ سے ہوتی:

((عن ثوبان مولی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم قال: كان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اذا سافر كان اآخر عهده بانسان من اهله فاطمة، و اول من يدخل عليها اذا قدم فاطمة))

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزادہ کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرمائے کہ سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ ہوتی، اور سفر سے واپس پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہ ہوتی۔“

((عن ابن عمر رضی الله عنهمَا: ان النبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کان اذا سافر كان آخر الناس عهدا به فاطمة، و اذا قدم من سفر كان اول الناس به عهدا فاطمة رضی الله عنہا۔ فقال لها رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فدالك ابی و امی))

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سے سب کے بعد جس سے گفتگو فرمائے کہ سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ فاطمہ

ہوتی اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی حضرت فاطمہؓ ہی ہوتیں اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہؓ سے فرماتے: (فاطمہؓ! میرے ماں باپ تجھ پر قربانِ رل۔)

((عن ابن عباس قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَدَّى قَدْمَهُ مِنْ سَفَرٍ قَبْلَ ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ))

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیتے۔“

### روئے زمین پر حضور کی محبت کا مرکز خاص:

((عن جمیع بن عمیر التیمی، قال دخلت مع عمتی علی عائشة فسئلته ای الناس کان احبابی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ قالت: فاطمة، فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها ان کان ما علمت صواماً قواماً))

”حضرت جمیع بن عمیر تیمی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا؟ ام المؤمنین رضی اللہ عنہما نے فرمایا: فاطمہ۔ عرض کیا گیا: مردوں میں سے (کون زیادہ محبوب تھا)؟ فرمایا: اُن کے شوہر، جہاں تک میں جانتی ہوں وہ بہت زیادہ روزہ رکھنے والے اور راتوں کو عبادت کے لئے بہت قیام کرنے والے تھے۔“

((عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: كَانَ أَحَبُّ النِّسَاءِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاطِمَةَ وَمِنَ الرِّجَالِ عَلَى))

”حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سے زیادہ محبت حضرت فاطمۃ الزہراء سے تھی اور مردوں میں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ محبوب تھے۔“

((عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن ، قال: أخبرنی اسامة بن زید، قال: كَتَتْ جَالِسًا أَذَا جَاءَ عَلَى وَالْعَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْتَأْذِنَانِ، فَقَالَا: يَا اسَامَةَ اسْتَأْذِنْ لَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى وَالْعَبَاسِ يَسْتَأْذِنُانِ، فَقَالَ: أَتُدْرِي، مَا جَاءَ بِهِمَا؟ قَلَتْ: لَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُنِي أَدْرِي، ائْذُنْ لَهُمَا، فَدَخَلَاهُ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنَّاكَ أَيْ أَهْلَكَ أَحْبَبَ إِلَيْكَ؟ قَالَ: فاطِمَةُ بْنَتُ مُحَمَّدٍ))

”حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسامة بن زید رضی اللہ عنہ نے

مجھے بتایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے، انہوں نے کہا: اسامہ! ہمارے لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگو۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما (حاضری کی) اجازت مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو وہ کیوں آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا: میں جانتا ہوں انہیں آنے کے دو۔ چنانچہ دونوں حضرات اندر داخل ہوئے اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم یہ بات جانے کے لئے حاضر ہوئے ہیں کہ اہل بیت میں سے آپ کوں زیادہ محظوظ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ بنت محمد۔“

((عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ، قال: قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایما احب الیک: انا ام فاطمة؟ قال: فاطمة احب الی منک، وانت اعز الی منها))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے (بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں) عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو میرے اور فاطمہ میں سے کون زیادہ محظوظ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے، اور تم میرے نزدیک اُس سے زیادہ عزیز ہو۔“

((عن ابن ابی نجیح عن ابیه، قال: اخبرنی من سمع علياً علی منبر الكوفة يقول: دخل علينا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجلس عند رؤوسنا فدعى باناء فيه ماء فاتى به فدعى فيه بالبركة ثم رشه علينا، فقالت: یا رسول الله! انا احب الیک ام ہی؟

قال: هي احب الی منک وانت اعز علی منها))

”ابن ابی شح نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے منبر کوفہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور ہمارے سرہانے بیٹھ کر پانی کا برتن منگولایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا فرمائی اور ہم پر اس کے چھینٹے مارے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو مجھے سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے؟ فرمایا: مجھے یہ تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔“

### عادات و اطوار میں شبیہ رسول:

((عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتاً و ذلاً و هدياً برسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمة بنت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم))

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں: میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ رکھنے والا نہیں دیکھا۔“

((عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت: ما رأيتم أحداً من الناس كان أشبه بالنبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كلاماً ولا حديثاً ولا جلسةً من فاطمة))

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے اندازِ گفتگو میں سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ رکھنے والا نہیں دیکھا۔“

((عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لم يكن أحد أشبه برسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الحسن بن عليٍّ، وفاطمة صلوات الله علیہم اجمعین))

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی بھی شخص حضرت حسن بن علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا (رضی اللہ عنہا) سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ رکھنے والا نہیں تھا۔“

((عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت اجتمع نساء النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمثیلی کان مشیتها مشیة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال: مرحباً بابنتي - فاجلسها عن يمينه او عن شماله))

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج جمع تھیں اور کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں جن کی چال ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے مشاہدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرحباً (خوش آمدید) میری بیٹی! پھر انہیں اپنی دائیں یا بائیں جاں بختیا۔“

((عن مسروق: حدثتني عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت: أنا كنا ازواجاً النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عندہ جمیعاً لم تغادر منا واحدة، فاقبلت فاطمة تمثیلی، ولا والله ما تخفي مشیتها من مشیة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم))

”حضرت مسروق رضی اللہ عنہ راویت کرتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھیں اور کوئی ایک بھی ہم میں سے غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا وہاں آگئیں، پس اللہ کی قسم! اُن کا چلنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے ذرہ بھر مختلف نہ تھا۔“

### سیدہ فاطمہ کی رضاوتاً راصکی:

((عن المسور بن مخرمة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما فاطمة شجنة منی ییسطنی ما ییسطها و یقپنی ما یقپنها))

”حضرت سور بن مخرم رضي اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک فاطمہ میری شاخ شہزادی ہے، جس چیز سے اسے خوشی ہوتی ہے اس چیز سے مجھے بھی خوشی ہوتی ہے اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔“

((عن سعید بن ابی القرشی، قال: دخل عبد الله بن حسن بن علي بن ابی طالب علی عمر بن عبدالعزیز، وهو حدث السن وله وفرة، فرفع عمر مجلسه وابقل عليه، وقضى حواejه، ثم أخذ عكنة من عكنه، فغمزها حتى اوجعه، وقال: اذكراها عندك للشفاعة. فلما خرج لامه قومه وقالوا: فعلت هذا بغلام حدث! فقال: ان الشقة بني هاشم الا وله شفاعة، فرجوت ان اكون في شفاعة هذا))

”سعید بن ابی القرشی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب جو کہ ابھی نو عمر تھے، اپنے ایک کام کے سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے۔ پس (آن کے آنے پر) حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی مجلس برخاست کر دی اور آن کا استقبال کیا اور ان کی ضرورت پوری کی۔ پھر ان کو پہیٹ کے مل کا اس قدر دہایا کہ انہیں درد محسوس ہوئی، اور فرمایا یہ بات (قیامت کے دن) شفاعت کے وقت یاد رکھنا۔ جب وہ سید چلے گئے تو لوگوں نے انہیں ملامت کی اور کہا: آپ نے ایک نو عمر لڑکے کی اتنی آدمی بھگت کی؟ اس پر آپ نے فرمایا: میں نے ایک ثقہ راوی سے حدیث مبارکہ اس طرح سنی ہے کہ گویا میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے من رہا ہوں (کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ) بے شک فاطمہ میرے جسم کا نکلا ہے، جو اسے خوش کرتا ہے وہ مجھے خوش کرتا ہے۔ (پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا) میں جانتا ہوں کہ اگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات ہوتیں تو وہ اس عمل سے ضرور خوش ہوتیں جو میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا: آپ کا ان کے پہیٹ میں کچھ کے لگانے کا کیا مطلب ہے اور جو کچھ آپ نے فرمایا اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بھی ہاشم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جسے شفاعت کرنے کا اختیار نہ دیا گیا ہو۔ پس میں نے چاہا کہ میں اس لڑکے کی شفاعت کا حق دار ہوں۔“

((عن المسور بن مخرمة: ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: فاطمة بضعة منی، فمن اغضبها اغضبني))

”حضرت سور بن مخرم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ

میرے جسم کا نکڑا ہے، پس جس نے اُسے ناراض کیا اُس نے مجھے ناراض کیا۔“

((عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لفاطمۃ: ان اللہ یغضب لغذبک، ویرضی لرضاک))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ تیری ناراض کی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔“

((عن المسور بن مخرمة، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضعة منی، يؤذنی ما آذاها))

”حضرت مسور بن مخرمه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم نے فرمایا: فاطمہ تو بس میرے جسم کا نکڑا ہے، اُسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔“

((عن عبدالله بن الزبیر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما فاطمۃ بضعة منی، يؤذنی ما آذاها، وينصبی ما انصبها))

”حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے۔ اُسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔“

### سیدہ کے گھرانے کا دشمن:

((عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لعلی و فاطمۃ و الحسن و الحسین رضی اللہ عنہم: انا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم))

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم سے فرمایا: میں اُس سے لڑوں گا جس سے تم لاڑو گے، اور جس سے تم صلح کرو گے میں اُس سے صلح کروں گا۔“

((عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لفاطمۃ والحسن و الحسین انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم))

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جو تم سے لڑے گا میں اُس سے لڑوں گا اور جو تم سے صلح کرے گا میں اُس سے صلح کروں گا۔“

((عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ قال: نظر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی علی و

فاطمة و الحسن و الحسين، فقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم))  
 ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی طرف نظر التفات کی اور ارشاد فرمایا: جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا (جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن اور جو تمہارا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔)“

((عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم من ابغضنا اهل البيت فهو منافق))

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اہم اہل بیت سے بغض رکھا تو وہ منافق ہے۔“

((عن زر قال: قال علی رضی الله عنه: لا يحبنا منافق ولا يبغضنا مؤمن))  
 ”حضرت زر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: منافق شخص کبھی بھی ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتا اور مؤمن شخص بھی بھی ہمارے ساتھ بغض نہیں رکھتا۔“

((عن جابر بن عبد الله الانصاری رضی الله عنہما قال: خطبنا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم وهو يقول: ايها الناس! من ابغضنا اهل البيت حشره الله يوم القيمة يهودياً فقلت: يا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم وان صام وان صلی؟ قال: وان صام وصلی))

”حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں ہے تھے: جس نے ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا تو زیارت اُس کا حشر یہودیوں کے ساتھ ہو گا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اگرچہ وہ روزہ رکھنے اور نماز (بھی) پڑھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اگرچہ وہ روزہ رکھنے اور نماز (بھی) پڑھے (اس کے باوجود دشمن اہل بیت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُس کی عبادات کو رد فرمائے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔)“

((عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم والذی نفسی بیده لا يبغضنا اهل البيت احد الا ادخله الله النار))

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم! جس کے تبصرہ قدرت میں میری جان ہے! ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈالے۔“

((عن ابن عباس رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم لو ان

رجلاً صاف بين الرکن والمقام، فصلی و صام، ثم لقی اللہ و هو مبغض لاهل بیت  
محمد دخل النار))

”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راویت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کے پاس رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور روزہ (بھی) رکھے اور پھر وہ اس حال میں مرے کہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔“

((عن معاویة بن حدیج، عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما، انه قال له: يا معاویة بن حُدیج! ایاک وبغضنا فان رسول الله ﷺ قال لا یبغضنا ولا یحسدنا احد الا ذید عن الحوض يوم القيمة ببساط من نار))

”حضرت معاویہ بن حدیج نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: اے معاویہ بن حدیج! ہمارے ساتھ بغض رکھنے سے بچ رہنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے: ہمارے ساتھ بغض و حسر رکھنے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جسے قیامت کے دن حوض کوڑ سے آگ کے ذرے سے ڈھنکارانہ جائے۔“

### سیدہ رازدار مصطفیٰ:

((عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: اجتمع نساء النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشیَّ كأن مشيتها مشية رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال: مرحباً بابنتي - فاجلسها عن يمينه او عن شماله، ثم انه اسر اليها حديثاً فبكَت فاطمة، ثم انه سارها فضحكت ايضاً، فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لافشى سر رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم - فقلت: ما رأيت كال يوم فرحاً أقرب من حزن - فقلت لها حين بكَت اخصك رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحديثه دونناثم تبكين؟ وسالتها عمما قال، فقالت ما كنت لافشنى سر رسول الله ﷺ - حتى اذا قبض سالتها، فقالت: انه كان حديثي ان جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وانه عارضه به في العام مرتين، ولا ارانى الا قد حضر اجلـي، وانك اول اهلى لحوقاً بي، ونعم السلف انا لك - فبكـت لذلك ثم انه سارني، فقال: الا ترضين ان تكوني سيدة نساء المؤمنين، او سيدة نساء هذه الامة - فضـحكت لذلك))

”ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج جمع تھیں اور کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں آگئیں جن کی چال بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے مشابہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرحبا، (خوش

آمدید) میری بیٹی! پھر انہیں اپنی دائیں یا باکیں جانب بھالیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پچکے سے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں۔ پھر پچکے سے کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگیں۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: آپ کسی وجہ سے روئیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کروں گی۔ میں نے کہا: میں نے آج کی طرح کوئی خوشی، غم سے اتنی قریب نہیں دیکھی۔ میں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بغیر خصوصیت کے ساتھ آپ سے کوئی بات کی ہے۔ پھر بھی آپ رورہی ہیں۔ اور میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاء نہیں کروں گی حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو میں نے پھر پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (پہلی بار) یہ فرمایا تھا کہ جبرائیل نے مجھ سے ہر سال ایک بار قرآن مجید کا دور کیا ہے لیکن اس سال دو مرتبہ دورہ کیا اور اور مجھے یقین ہے کہ اب میرا وصال کا وقت آگیا ہے، اور میرے بعد میرے اہل میں سے سب سے پہلے تم مجھے ملوگی اور میں تمہارے لئے بہترین پیش رو ہوں۔ تب میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی اور فرمایا: کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تم تمام مومن عورتوں کی سردار ہو، یا میری اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں اس وجہ سے نہ پڑی۔“

((عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: دعا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاطمة ابنته فی شکواه الذی قبض فیها، فسارها بسی فبکت، ثم دعاها فسارها فضحکت، قالت: فسالتھا عن ذلك، فقالت: سارنی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاخبرنی: انه يعیض فی وجمعه الذی توفی فیه، فبکیت، ثم سارنی فاخبرنی: انی اول اہل بیته اتبعه، فضحکت))

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی صاحزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلا یا اور پھر ان سے سرگوشی فرمائی تو وہ رونے لگیں۔ پھر انہیں قریب بلا کسرگوشی فرمائی تو وہ نہ پڑیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے اس بارے میں سیدہ فاطمہ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا۔ پس میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے بعد آؤ گی۔ اس پر میں نہ پڑی۔“

((عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: بينما أنا مع رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فی بیت بلاعینی و الاعبہ اذ دخلت علینا فاطمۃ، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدہا فاقعدہا خلفہ و تاجاھا بشئیم لا ادری ماھو، فنظرت الی فاطمۃ تبکی، ثم اقبل الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فحدثنی ولا عینی، ثم اقبل علیہا فلا عبھا و تاجاھا بشی، فنظرت الی فاطمۃ و اذا هی تضحك فقام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخرج، فقلت لفاطمۃ: ما الذی ناجاك بہ رسول اللہ ﷺ  
قالت: ليس کلاما اسر الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخبرك بہ، قلت: اذکر اللہ والرحم، قالت: اخبرنی: انه مقبوض قد حضر اجلہ، فبکیت لفارق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثما اقبل الی فناجاتنی: انی اول من لحق به من اهل بیته، فضحکت للقاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم))

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گھر میں تھی، ہم آپس میں مزاح کر رہے تھے۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پیچھے بٹھایا اور کچھ سرگوشی فرمائی۔ مجھے اس کا علم نہیں کہ کیا سرگوشی تھی۔ پھر میں نے سیدہ فاطمہ کی طرف دیکھا تو وہ رورہی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے۔ مجھے سے بات چیت کی۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے مزاح فرمایا اور سرگوشی کی۔ میں نے دیکھا کہ فاطمہ نہیں رہی ہیں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھکر باہر تشریف لے گئے تو میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا: آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سرگوشی فرمائی؟ وہ بولیں: جو بات آپ نے مجھے چکے سے بتائی، میں آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا: میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور قرابت داری کا واسطہ دیتی ہوں۔ وہ بولیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کا بتایا کہ آپ کا وقت آپنہ چاہے۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جداں پروردی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے چکے سے بتایا کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی (آس میں) نہیں پڑی۔“

### شجر رسالت کی شاخ شمر بار:

((عن المسور قال: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاطمۃ شجنۃ منی ییسطنی ما بسطها و یقپضنی ما قبضها))

”حضور مسور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ میری شاخ شمر بار ہے، اس کی خوشی مجھے خوش کرتی ہے اور اس کی پریشانی مجھے پریشان کرویتا ہے۔“

((عن ابن عباس رضی اللہ عنہا رفعه: انا شجرة، و فاطمة حملها، و على لقاھا،

والحسن والحسین ثمرتھا، والمحبون اهل الہیت ورفھا، من الجنة حقاً حقاً))  
”حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع احادیث مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں درخت ہوں، فاطمہ اس کی ٹھنڈی ہے۔ علی اس کا شکوفہ اور حسن و حسین اس کا پھل ہیں اور اہل بیت سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں۔ یہ سب جنت میں ہوں گے، یہ حق ہے یہ حق ہے۔“

### عصمت فاطمہ کے گواہ خود محمد مصطفیٰ:

((عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان فاطمة احصنت فرجها، فحرم الله ذريتها على النار))

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیشک فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر آگ حرام کر دی ہے۔“

((عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان فاطمة حصنت فرجها و ان الله عزوجل ادخلها يا حسان فرجها و ذريتها الجنۃ))

”حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فاطمہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عصمت مطہرہ کے طفیل اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرمادیا۔“

### علیٰ سے سیدہ کا نکاح:

((عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، قال ان الله امرني ان ازوج فاطمة من علي))

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔“

((قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا انس! اتدري ما جاءني به جبريل من صاحب العرش؟ قال: ان الله امرني ان ازوج فاطمة من علي))

”حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انس! کیا تم جانتے ہو کہ جبریل میرے پاس صاحب عرش کا کیا پیغام لائے ہیں؟ پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔“

((عن انس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي: هذا جبريل يخبرني ان الله عزوجل زوجك فاطمة، و اشهد على تزويعنك اربعين الف ملك، و اوحى الى شجرة طوبى ان

انثری عليهم الدر والياقوت، فنشرت عليهم الدر والياقوت، فابتدرت اليه الحور العین یلتقطن من الطباق الدر والياقوت، فهم یتها دونه بینهم الى يوم القيمة))

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: یہ جبریل ہے جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے تمہاری شادی کر دی ہے اور تمہارے نکاح پر چالیس ہزار فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا گیا، اور شجر ہائے طوبی سے فرمایا: ان پر موتی اور یاقوت نچاہو کرو۔ پھر دلش آنکھوں والی حوریں ان موتیوں اور یاقوتوں سے تھائیں بھر نے لگیں۔ جنہیں (تقریب نکاح میں شرکت کرنے والے) فرشتے قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحفہ دیں گے۔“

((عن علی رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اتاني ملك، فقال: يا محمد! ان الله تعالى يقرأ عليك السلام، ويقول لك: اني قد زوجت فاطمة ابنتك من علی بن ابی طالب فی الملا الاعلی، فزووجهها منه فی الأرض))

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر کہا: اے محمد! اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے: میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ملاء علی میں علی بن ابی طالب سے کر دیا ہے، پس آپ زمین پر بھی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں۔“

### سیدہ اور آپ کی نسل مبارک کے حق میں حضور کی دعائے برکت:

((عن انس بن مالک رضی الله عنه قال: دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم لفاطمة اللہم! انى اعیذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم))

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لئے خصوصی دعا فرمائی: باری تعالیٰ میں (اپنی) اس (بیٹی) اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔“

((عن بردیدة رضی الله عنه، قال: فلما كان ليلة النباء قال: يا علی! الا تحدث شيئاً حتى تلقاني، فدعنا النبي صلی الله علیه وسلم بما فتوضاً منه ثم افرغه على علی، فقال: اللهم! بارك فيهما و بارك عليهما و بارك لهما في شبلهما۔ و في رواية عنه: و بارك لهما في نسلهما))

”حضرت بردیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما کی شادی کی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: مجھے ملے بغیر کوئی عمل نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پانی ڈال کر فرمایا:

اے اللہ! ان دونوں کے حق میں برکت اور ان دونوں پر برکت نازل فرماء، ان دونوں کے لئے ان کی اولاد میں برکت عطا فرماء۔“

حضرت پرپدہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:  
”ان دونوں کے لئے ان کی نسل میں بھی برکت مقدر فرمادے۔“

☆☆☆

فصل نمبر 78

ذكر ما يخص به عليٰ من الحسن والحسين:

حضرت حسن و حسین کے والد ہونے کے حوالے سے خصوصیت علی المرتضی

حدیث نمبر ۱

(( اخبرنا احمد بن بکر الحرواني قال : اخبرنا محمد بن سلمة عن ابن اسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن اسامه بن زيد عن ابيه قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم : امانت پاعلیٰ فختنی وابو ولدی وانت منی وانا منك ))

‘ السنن الکبری للسائی ج 7 ص 459 قلم 8470 طبع آخر ج 5 ص 148 قلم 8523، مند احمد ج 5 ص 204 قلم 22120’  
‘ معجم الکبیر ج 1 ص 123، المستدرک للحاکم ج 3 ص 216 قلم 5010، جمع الجواعی ج 13 ص 557 قلم 8845’

”حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البتہ اے علی! تم میرے داماد ہو اور میری اولاد کے باپ ہو اور تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔“

حدیث نمبر 2

((اخبرنا القاسم بن زكرياء بن دينار، قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي بن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر، قال: اخبرني مسلم بن أبي سهل النبال، قال: اخبرنا الحسن بن أسامة بن زيد بن حارثة، قال: اخبرني أسامة بن زيد بن حارثة قال: طرقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لبعض الحاجة فخرج وهو مشتمل على شيء لا أدرى ما هو، فلما فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ فكشفه، فإذا هما الحسن والحسين على وركيه، فقال: هذان ابني وأبنائي اللهم انك تعلم انى احبهما فاحبهم - (اللهم انك تعلم انى احبهما وابنائى))

فاحبهما)

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 459 رقم 8471 وطبع آخر ج 5 ص 149 رقم 8524، سنن الترمذی ص 3769 رقم 856، صحيح ابن حبان ج 9 ص 57 رقم 58، صحيح ابن حجر العسقلانی ج 15 ص 423 رقم 2967، مشکاة رقم 6165، مصانع النزج ص 4 ص 194 رقم 4829، مصنف ابن ابی شہریة ج 6 ص 381 رقم 32173)

”حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات کو میں نے اپنی کسی ضرورت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی تو آپ اس حال میں باہر تشریف لائے کہ کوئی چیز اٹھائے ہوئے تھے میں نہ جان سکا کہ وہ کیا چیز ہے؟ پھر جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا تو عرض کیا: یہ کیا ہے جو آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ اس پر آپ نے کپڑا ہٹایا تو حسن اور حسین آپ کے دونوں پہلوؤں پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا: یہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! بیشک تو جانتا ہے کہ میں ان دونوں کو محظوظ رکھتا ہوں لہذا تو بھی ان کو محظوظ رکھ۔“

### حدیث نمبر 3:

((اخبرنا عمر بن منصور قال: حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسين سید اشیاب اهل المدينة))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 460 رقم 8472 وطبع آخر ج 5 ص 149 رقم 8525)

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سید ہیں۔“

### حدیث نمبر 4:

((اخبرنا احمد بن حرب قال اخبرنا ابن فضیل، عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان حسنا وحسينا سید اشیاب اهل الجنة (ما استثنى من ذلك)))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 460 رقم 8437 وطبع آخر ج 5 ص 149 رقم 8526، مسن احمد ج 3 ص 3 رقم 11012 ورقم 62، رقم 11616، ص 65 رقم 11641 وص 72 رقم 11799، سنن الترمذی ص 3768 رقم 856، مصنف ابن ابی شہری ج 6 ص 381 رقم 32167، حلیۃ الاولیاء لابی قیم ج 5 ص 83 رقم 6409، مصانع النزج ج 4 ص 193 رقم 4828، مشکاة رقم 22 ص 515 رقم 6163)

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: بیشک حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔“

### حدیث نمبر 5:

((اخبرنا یعقوب بن ابراهیم و محمد بن آدم، عن مروان، عن الحکم بن عبد الرحمن وهو ابن ابی نعم عن ابیه، عن ابی سعید الخدری، قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: الحسن والحسین سید اشباب اهل الجنة الا ابنتی الخالۃ عیسیٰ بن مریم و یحییٰ بن زکریا))

((سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 318 رقم 460 و مص 8475 طبع آخر ج 5 ص 50 رقم 8169 و مص 150 رقم 8528، صحیح ابن حبان ج 9 ص 55 رقم 6920 و مص 15 طبع محقق ج 15 ص 412 رقم 6959، تختۃ الاخیار بترتیب شرح شکل الآثار ج 9 ص 121 رقم 6421، المستدرک للحاکم ج 3 ص 166 رقم 4831، حلیۃ الاولیاء ج 5 ص 83 رقم 6408، مجمع الزوائد ج 9 ص 183 رقم 15083، الجامع الصغیر رقم 3822))

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سید ہیں، ماسواد و خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کے۔“

### حدیث نمبر 6:

((اخبرنا محمد بن عبدالاعلی الصنعاوی، قال: اخبرنا خالد قال: قال لی اشت، عن الحسن، عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انس بن مالک قال: دخلنا وربنا قال: دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین ینقلبان علی بطنہ، ويقول: ریحانی من هذه الامة))

((سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 1713 رقم 111 و مص 460 طبع آخر ج 5 ص 49 رقم 8167 و مص 150 رقم 8529))

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا یا فرمایا کہ میں بسا اوقات حاضر ہوتا تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شکم اطہر پر کھیل رہے ہوتے اور آپ فرماتے: یہ اس امت میں میرے پھول ہیں۔“

### حدیث نمبر 7:

((اخبرنا ابراهیم بن یعقوب الجوز جانی، قال: قال لی وہب بن جریر ان اباہ حدثه قال: سمعت محمد بن عبد اللہ بن ابی یعقوب عن عبد الرحمن بن ابی نعم قال: كنت عند ابی عمر فاتاہ رجل فساله عن دم البعوض تكون (یکون) فی ثوبہ و يصلی فیہ، فقال ابن عمر: فممن انت؟ قال: من اهل العراق، فقال ابن عمر: انظر و اهذا سالنی عن دم

البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه وفي أخيه هماري حانتى من الدنيا))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 461 رقم 8477 وطبع آخر ج 5 ص 150 رقم 8530، بخاری رقم 3753، سنن الترمذی ص 856 رقم 3770، مسند احمد ج 2 ص 85 رقم 5568 وص 93 رقم 5678 وص 114 رقم 5940 وص 153 رقم 6406، مسند ابی داود الطیالی ص 260 رقم 1927 وطبع جدید ج 2 ص 435 رقم 2039، الادب المفرد للہماری ج 1 ص 48، مصنف ابین ابی شیعۃ ج 6 ص 382 رقم 32180، شرح النہج ج 8 ص 104 رقم 3034)

”حضرت عبد الرحمن بن ابی نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ایک شخص نے آکر مسئلہ دریافت کیا کہ اگر مجھر کا خون کپڑے پر لگ جائے تو اس کپڑے سے نماز جائز ہے؟ تو ابین عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم کہاں کے باشندے ہو؟ اس نے کہا: میں اہل عراق سے ہوں، تو آپ نے فرمایا: لوگو! اس شخص کو دیکھو یہ مجھ سے مجھر کے خون کے متعلق دریافت کرتا ہے حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سناء ہے کہ آپ نے حضرت حسین کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی کے متعلق ارشاد فرمایا: وہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔

☆☆☆

## فصل نمبر 79:

ذکر قول النبی لعلی انت اعز من فاطمة وفاطمة احبابی منك:

رسول اللہ کا حضرت علی سے فرمانا کہ تو مجھے فاطمہ سے زیادہ محبوب ہوا اور

فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے

((خبرنا زکریا بن یحییٰ عن ابن ابی عمر قال: حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح، عن رجل قال: سمعت علیاً علی المنبر الکوفة يقول: خطبت الى رسول اللہ فاطمة فزو جنی، فقلت يا رسول اللہ! انا احبابيك ام هي؟ قال (فقال) هي احباب الى منك وانت اعز على

منها))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 461 رقم 8478 وطبع آخر ج 5 ص 150 رقم 8531، سنن سعید بن منصور ص 167، 168 رقم 600، مسند الحمیدی ج 1 ص 22، 23، رقم 38، فضائل الصحابة ج 2 ص 783 رقم 1076، الجامع ج 13 ص 25)

”حضرت ابن ابی شجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور ایک دوسرے شخص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فاطمہ کے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے میرے ساتھ نکاح کر دیا پھر (ایک مرتبہ) میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کو زیادہ محبوب ہوں یا وہ؟ فرمایا: وہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک اس سے زیادہ معزز ہو۔“



صل نمبر 80:

کر قول النبی لعلیٰ کرم اللہ وجہہ ماسالت لنفسی شيئاً الا قد سالتہ لک:

رسول اللہ کا ارشاد کہ اے علی جو کچھ میں نے اپنے لیے مانگا تیرے لیے بھی مانگا

حدیث نمبر 1:

((حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: قال لى علی ابن ثابت 'اخبرنا منصور بن ابی الاسود' عن یزید بن ابی زیاده' عن سلیمان ابن عبد اللہ بن الحارث عن جده علی قال: مرضت فعادني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل علی وانا مضطجع فاتکا الی جنبی ثم سجائی بثوبه' فلما رأی قدرت قام الی المسجد يصلی فلما قضی صلاتہ' جاء فرفع الشوب (عنی) وقال: قم يا علی! (فقد برئت) فقامت وقد برئت' کان مالم اشک شیاقبل ذلك: فقال: ما سالت ربی شیافی صلاتی الاعطانی' وما سلت شیا الا سالت لک خالفہ جعفر الاحمر' فقال: عن یزید بن ابی زیاد' عن عبد اللہ بن الحارث عن علی))

(سنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 462 رقم 8479 طبع آخر 5 ص 151، 8532 مختصر تاریخ دمشق ج 17 ص 377)

”حضرت سلیمان بن عبد اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں یہاں ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی، جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں لیٹا ہوا تھا آپ میرے پہلو میں بیٹھے، پھر مجھے کہڑے سے ڈھانپ دیا، پھر جب دیکھا کہ مجھے شفاء ہو گئی تو مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ جب نماز پوری فرمائی تو واپس آکر کپڑا ہٹایا اور ارشاد فرمایا: اے علی! کھڑے ہو جاؤ! پیش کتم یہاں سے آزاد ہو گئے۔ میں اٹھا تو یہاں سے یوں آزاد ہو چکا تھا گویا کہ اس سے قبل کوئی شکایت تھی ہی نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے اپنی نماز میں اپنے رب سے جو مانگا اس نے مجھے وہی عطا کیا اور جو کچھ میں نے اپنے لئے مانگا تمہارے لیے بھی مانگا۔

## حدیث نمبر 2:

((اخبرنا القاسم بن زکریا بن دینار حدثنا علی بن قادم عن جعفر الاحمر عن یزید بن ابی زیاد عن عبد اللہ بن الحارث عن علی قال: و جمعت و جعافاتیت (النبی صلی اللہ علیہ وسلم) فاقامنی فی مکانه وقام یصلی‘ والقی علی طرف ثوبہ‘ ثم قال: قم یاعلی! قدبرئت‘ لاباس عليك‘ وما دعوت لنفسی بشیء الا قد دعوت لك بمثله وما دعوت بشیء الا استجيب لی‘ او قال: اعطيت‘ الا انه قیل لی: لانبی بعدی))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 462 رقم 848 وطبع آخر ج 5 ص 151 رقم 8533، کتاب النہ لابن ابی عامر ص 852 رقم 1313، مجمع الاوسط ج 8 ص 47 رقم 7913، تاریخ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 310، مختصر تاریخ دمشق ج 17 ص 377، مجمع البحرین ج 3 ص 376 رقم 3689، مجمع الزوائد ج 9 ص 110 وطبع آخر ج 9 ص 140، رقم 141، جمع الجواجم ج 13 ص 112 رقم 6012)

”حضرت عبد اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی الرضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ایک مرتبہ میں شدید درد میں بیٹلا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا اور اپنے کپڑے کا ایک کونہ مجھ پر ڈال دیا اور نماز پڑھنے لگے۔ پھر فرمایا: اے علی! انہو یقیناً تم بیماری سے بری ہو گئے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں رہی، اور میں نے اپنے لیے جو مانگا اسی کی مثل تمہارے لیے بھی مانگا، اور میں نے جو دعا مانگی وہ قبول کی گئی، یا فرمایا: میں نے جو بھی مانگا وہ مجھے عطا کیا گیا، مگر یہ کہ مجھے کہا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 81:

### ذکر مخصوص بہ علی من صرف اذی الحر والبرد عنہ:

### سردی اور گرمی کی اذیت کو حضرت علی سے پھیر دینے میں آپ کی خصوصیت


((اخبرنا محمد بن یحییٰ بن ایوب بن ابراهیم ‘قال: حدثنا هاشم بن مخلد الثقفی‘ قال: حدثنا عمنی ایوب بن ابراهیم ‘قال: محمد بن یحییٰ: و هو جدی‘ عن ابراهیم الصائغ‘ عن ابی اسحق الهمدانی‘ عن عبد الرحمن بن ابی لیلی ان علیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ‘ خرج علينا فی حر شدید وعلیه ثیاب الشتاء‘ وخرج علينا فی الشتاء وعلیه ثیاب الصیف‘ ثم دعا بماء فشرب‘ ثم مسح العرق عن جبینة‘ فلما رجع الى بیته قال: یا ابا تاء ارایت ما صنع امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ‘ خرج علينا فی الشتاء وعلیه ثیاب

الصيف و خرج علينا في الصيف و عليه ثياب الشتاء! فقال: أبو ليلى: ما فطنت؟ وأخذ بيده بنه عبد الرحمن فاتى علياً رضى الله تعالى عنه ف قال له الذى صنع فقال له على رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث الى وانا ارمد شديد الرداء ف برزق في عيني ثم قال: افتح عينيك! ففتحت هما، فما استكتبهما حتى الساعة، و دعالي

فقال: اللهم اذهب عنه الحر والبرد، فما وجدت حرأ ولا برداً حتى يومي هذا))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 411 رقم 834 و ص 463 رقم 8483 و طبع آخر ج 5 ص 108 رقم 8401 و ص 152 رقم 8536، تاریخ مدینۃ دمشق لابن عساکر ج 42 ص 108، 109، مختصر تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 330، 331، البدایة والنھایة ج 7 ص 563 و طبع آخر ج 5 ص 452)

”حضرت عبد الرحمن بن ابی سلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سخت گرمی میں تشریف لائے اور آپ نے سردیوں والا لباس زیب تن فرما کر کھا تھا اور آپ ہمارے پاس سخت سردی میں تشریف لائے تو آپ کے جسم اقدس پر لباس گرمیوں والا تھا۔ پھر آپ نے پانی طلب کیا اور پیا، پھر (اس سرد موسم میں) اپنے ماتحت سے پسینہ صاف کیا، پھر جب آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے تو میں نے کہا: ابا جی! آپ نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا انہوں نے کیا کر رکھا تھا؟ وہ ہمارے پاس سردی میں تشریف لائے تو کپڑے گرمیوں کے پہن رکھے تھے اور گرمی میں تشریف لائے تو کپڑے سردیوں کے پہن رکھے تھے۔ (میرے ابا) ابو لیلی نے فرمایا: کیا تم نے غور سے دیکھا؟ پھر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو ہاتھ سے کپڑہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں آپ کی طرز لباس کے متعلق دریافت کیا تو مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور میں شدید آشوب چشم میں بتلا تھا تو آپ نے میری آنکھوں میں لعاب دہن لگایا پھر فرمایا: آنکھیں کھولو! میں نے کھولیں تو آپ نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ پھر اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا: اے اللہ! اس سے گرمی اور سردی کو لے جا! پس میں نے آج تک گرمی اور سردی کو محسوس نہیں کیا۔“



فصل نمبر 82:علیٰ و الجنة:

## حضرت علیٰ اور جنت

حلقة جنت:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی بن ابی طالب حلقة معلقة بباب الجنة من تعلق بهاد خل الجنة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب بہشت کے دروازے پر لگا ہوا حلقة ہیں، جو بھی اس کو پکڑے گا وہ بہشت میں جائے گا۔“

حلقة بہشت کی آواز:

((روى من طريق الخطيب في المناقب قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : انه حلقة باب الجنة من ياقوٰة حمراء على صفائح الذهب فإذا دقت الحلقة على الباب : طنط وقالت : على يا على ))

”مناقب میں خطیب کے ذریعہ سے نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بہشت کے دروازہ کا حلقة سرخ یا قوت سے بنा ہوا ہے جو سونے کے تختوں پر نصب ہے، جس وقت دروازے پر دستک دیتے ہیں تو اس سے آواز بلند ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے: اے علی! اے علی!“

دروازہ جنت:

((عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال : أنا مدينة الجنة وعلى بابها فمن أراد الجنة فلياتها من بابها))

”حضرت سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں بہشت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ جو بہشت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو اس دروازے سے داخل ہونا چاہیے۔“

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : أنا مدينة الجنة وانت بابها يا على ! كذب من زعم انه يدخلها من غير بابها))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں بہشت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ جو ہوئے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اس دروازے کے بغیر بہشت میں جائے گا۔“

### آخرت میں پرچم دار:

((عن الحسين بن علي عن ابيه علي بن ابى طالب قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :انت اول من يدخل الجنة، فقلت يا رسول الله! ادخلها قبلك؟ قال :نعم انك صاحب لوائی فی الآخرة. كما انك صاحب لوائی فی الدنيا وحامل اللواء هو المتقدم))

”امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: تم پہلے فرد ہو گے جو جنت میں جاؤ گے، تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آیا آپ سے پہلے میں جاؤں گا؟ فرمایا: ہاں! جس طرح تم اس دنیا میں میرے علمدار ہو آخرت میں بھی علمدار ہو گے، اور پرچم دار ہمیشہ سب سے آگے ہوتا ہے۔“

### حضرت علی اور ان کے محین:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :لعلی رضی اللہ عنہ یا علی! انت واصحابک فی الجنة، انت واتباعک یا علی فی الجنة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تم اور تمہارے مدحگار بہشت میں ہوں گے۔ تم اور تمہارے پیروکار بھی بہشت میں ہوں گے۔“

### رسول اللہ کے ساتھ بروز قیامت:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :اذا كان يوم القيمة ضربت لى فبة من ياقوته حمراء على يمين العرش، وضربت لا براہیم قبة خضراء على يسار العرش، وضربت فيما بيننا لعلی ابن ابی طالب قبه من لؤلؤة بيضاء، فما ظنك بمحب بین خلیلین))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب قیامت کا دن آپنے چکا تو عرش کی دائیں طرف میرے لئے سرخ یا قوت کا ایک خیمه نصب کیا جائے گا اور عرش کی دائیں طرف حضرت ابراہیم کیلئے ایک بزرخیمه نصب کیا جائے گا، اور ہمارے درمیان علی کیلئے سفید موتویں کا ایک خیمه لگایا جائے گا، آپ دو دوستوں کے درمیان ان کی دوستی پر کیا گمان کرتے ہیں؟“

### محلِ رسول محلِ علی:

((بالاسناد، قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی رضی اللہ عنہ : یا علی! انت معی فی قصری فی الجنة مع فاطمة بنتی وہی زوجتک فی الدنيا والآخرة وانت

دفیقی، ثم تلا رسول الله اخوانا على سرر متقابلين المتهاجرين في الله ينظر بعضهم الى بعض))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تم اور میری بیٹی فاطمہ جو اس دنیا اور آخرت میں تمہاری زوجہ ہیں، بہشت میں میرے محل میں میرے ساتھ ہو گے اور تم میرے دوست ہو گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی: اور یہ باہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھتوں پر اس طرح بیٹھے ہوں گے جیسے بھائی بھائی۔ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔“

### آمنے سامنے محل:

((ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لعلیٰ : ان بیتك مقابل بیتی فی الجنة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: بہشت میں تمہارا گھر میرے گھر کے آمنے سامنے ہو گا۔“

((فاحذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علیٰ فقال : يا علیٰ ! اما ترضی ان یکون منزلك فی الجنة مقابل منزلي؟ فقال : بلی بابی انت و امی يا رسول الله، قال : فان منزلك فی الجنة مقابل منزلي))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پڑ کر فرمایا: اے علی! کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ بہشت میں تمہارا گھر میرے گھر کے آمنے سامنے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کیوں نہیں اے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بہشت میں تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔“

### جنتی فرد:

((بالاسناد ، عن زینب بنت علی عن فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
قالت : نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى علیٰ فقال : هذا فی الجنة))

”حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کی طرف نگاہ کی اور فرمایا: یہ بہشت میں ہوں گے۔“

((عن ابن عمر قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : يا علیٰ ! انت فی الجنة))

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تم بہشت میں ہو گے۔“

## فصل نمبر 83:

انا وانت ابو ا هذه الامة:

### حضرت علی امت مسلمہ کے باپ کے مقام پر

#### اس امت کے دو باپ:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :انا وعلی ابو ا هذه الامة))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔“

((قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ :سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
یقول :انا وعلی بن ابی طالب ابو ا هذه الامة))  
”حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میں اور  
علی بن ابی طالب اس امت کے دو باپ ہیں۔“

((بالاسناد ، عن معلى بن حنيف قال :سمعت ابا عبد الله رضي الله عنه يقول : قال  
رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :انا احد الوالدين ، وعلی بن ابی طالب الآخر))  
”معلی بن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا: میں دو باپ میں سے ایک باپ ہوں اور علی بن ابی طالب دوسرا ہے باپ ہیں۔“

#### سیدنا علی کا حق:

((بالاسناد، عن علی رضی اللہ عنہ قال :قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :  
حق علی علی الناس، حق الوالد علی ولدہ))  
”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کا حق لوگوں پر ایسے  
ہے جیسے باپ کا اپنی اولاد پر۔“

#### جناب علی کا مسلمانوں پر حق:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :حق علی علی المسلمين کحق الوالد  
علی ولدہ))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کا حق مسلمانوں پر ایسے ہے جیسے والد کا اپنے فرزند پر۔“

((عن جابر الانصاری قال :قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :حق علی علی  
هذه الامة کحق الوالد علی الولد))

”حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کا حق اس امت پر ایسے ہے جیسے باپ کا بیٹے پر۔“

### امام محمد باقر بن علی:

((وقال محمد بن علی: من اراد ان یعلم کیف قدره عند الله، فلينظر کیف قدرابویه الافضلین عنده: محمد وعلی))

”محمد بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے نزدیک اپنے مقام کو جانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ جو اس کے بہترین باپ ہیں، ان کے نزدیک دیکھئے کہ اس کا مقام کیسے ہے۔“

### رسول اللہ سرور انبیاء ہیں:

((بالاسناد، عن ابی الحسن علی بن موسی الرضا عن آبائہ قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : انا سید من خلق الله عزوجل وانا خیر من جبرئیل و میکائل و اسرافیل و حملة العرش و جميع ملائكة الله المقربین وانبیاء الله المرسلین، وانا صاحب الشفاعة والحوض الشریف، وانا وعلی ابوا هذه الامة))

”حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اللہ کی مخلوق کا سرور ہوں۔ جبراًئیل و میکائل، اسرافیل، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اللہ کے تمام مقرب ملائکہ اور مرسل پیغمبروں میں سے میں ہی سب سے افضل ہوں۔ میں شفاعت اور حوض کوڑ کا مالک ہوں۔ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔“

### سیدہ فاطمہ کا قول:

((وقالت فاطمة: ابوا هذه الامة محمد وعلی))

”سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔“

### احسان اور شکر کے لاکن:

((روی: افضل والدیکم واحقهما بشکر کم احمد وعلی))

”مردی ہے کہ تم لوگوں کے بہترین والدین اور احسان و شکرگزاری کے لاکن محمد اور علی ہیں۔“

### قول سیدنا حسن ابن علی:

((قال الحسن بن علی: محمد وعلی ابوا هذه الائمه))

”حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: محمد رسول اللہ اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔“

روایت علی:

((عن الاصبغ بن نباتة عن علی رضی اللہ عنہ (فی حدیث) قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : یا علی !انا وانت ابوا هذہ الامۃ))  
 ”اصبغ بن نباتة کہتے ہیں، ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے علی! میں اور تم اس امت کے دو باپ ہیں۔“

☆☆☆

فصل نمبر 84:من خصائص علی رضی اللہ عنہ:

## حضرت علی کی چند خصوصیات

بہت زیادہ دعائیں:

((اخبرنا احمد بن حرب قال اخبرنا قاسم بن یزید عن سفیان، عن ابی اسحق، عن ناجیہ بن کعب عن علی رضی اللہ عنہ: انه اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال: ان عمل الشیخ الصالِّ قدِمَات، فَمَنْ يُوَارِیْه؟ قال: اذْهَبْ فوَارْأَبَّكَ وَلَا تَحْدُثْ حَتَّیْ تَاتِيَنِی، فوَارِیْتَهُ ثُمَّ اتَّیْتَهُ فَامْرَنِی اَنْ اغْتَسِلْ، فَاغْتَسَلْتَ) وَدُعَا (الی) بِدُعَوَاتِ، مَا يُسْرِنِی مَاعْلَی الارض بشیء منهن))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 472 رقم 8481 وطبع آخر ج 5 ص 152 رقم 8535، من محدث ج 1 ص 131 رقم 1093 وص 103 رقم 807، من محدثی بعلی ج 1 ص 211 رقم 420، دلائل المبوبة للبیهقی ج 2 ص 349، السنن الکبری للبیهقی ج 1 ص 304 رقم 1452، 1453)

”حضرت ناجیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ کا چچا الشیخ الصالِّ (بیٹھا گمراہ) انتقال کر چکا ہے تو کون اس کو مٹی میں چھپائے گا؟ آپ نے فرمایا: تم جاؤ اپنے ابا کو چھپاؤ اور کوئی بات نہیں کرنا یہاں تک کہ میرے پاس آؤ۔ پس میں نے انہیں چھپا دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا تو میں نے غسل کیا اور آپ نے مجھے متعدد دعائیں دیں۔ روئے زمین پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے ان دعاؤں سے زیادہ خوش کرے۔“

((اخبرنا محمد بن المثنی، عن ابی داؤد قال: لی شعبۃ اخبرنی فضیل ابو معاذ عن الشعوبی، عن علی رضی اللہ عنہ قال: لم ارجع عنی النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لی

کلمہ ما حب ان لی بھا الدنیا))

(سن الکبری للنسائی ج 7 ص 463 رقم 482 و طبع آخر ج 5 ص 152 رقم 8535، سند ابی داؤد الطیالی ص 19 رقم 121 و طبع جدید ج 1 ص 76 رقم 123، الکامل فی ضعفاء الرجال ج 5 ص 266)

”حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو معاذ فضیل نے شعی کے حوالہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جب میں (اپنے والد کو فن کر کے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا تو آپ نے مجھے ایسی بات فرمائی جو مجھے پوری دنیا کے مقابلہ میں زیادہ محبوب ہے۔“

### رسول اللہ اٹھنے کے لیے علی کا ہاتھ پکڑتے:

((و منها ما رواه عباد بن يعقوب و يحيى بن عبد الحميد الحمانى قالا: حدثنا علي ابن هاشم، عن محمد بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن رافع، عن جده أبي رافع قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم كان اذا جلس ثم اراد ان يقوم لا يأخذـه بيده غير علي رضي الله عنه وان اصحابـ النبي كانوا يعرفون ذلك له فلا يـا خـذ بيـد رسـول الله صلى الله عليه وآلـه احد غيرـه ))

”عباد بن یعقوب اور یحییٰ بن عبد الحمید کہتے ہیں کہ علی بن ہاشم نے محمد بن عبد اللہ اس نے اپنے والد عبد اللہ بن رافع اس نے اپنے جدا بورافع رضی اللہ عنہ سے ہمارے لئے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بھی ان کے ہاتھ کو نہیں پکڑتا تھا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب جانتے تھے اسی وجہ سے علی کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو نہیں پکڑتے تھے۔“

### امتحنے بیٹھنے جناب علی کا سہارا لیتے:

((وقال الحمانى : كان اذا جلس اتكا على علی و اذا قام وضع يده على علي رضي الله عنه))  
”حـمانـی کـہتـے ہـیں: جـس وقت رسـول اللـہ صـلـی اللـہ عـلـیـہ وـسـلـمـ بـیـٹـھـنـے تـھـے تو حـضرـت عـلـی رـضـی اللـہ عـنـہ کـا سـہـارـا لـیـتـے تـھـے اور جـس وقت امـتـحـنـے تـھـے تـب بـھـی عـلـی رـضـی اللـہ عـنـہ کـا سـہـارـا لـیـتـے تـھـے۔“

### بوقت وفات سر پیغمبر:

((لامات رسول الله صلی اللہ علیہ وآلـه وسلم کان راسـه فـی حـجـر عـلـی))  
”روایت میں لقل ہوا ہے کہ رحلت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک علی رضی اللہ عنہ کے دامن میں تھا (اکثر روایات میں ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں تھا۔)۔“

صل نمبر: 85

تولی تجهیز النبی:

## رسول اللہ کی تجمیز و تنکفین اور سیدنا علی المرتضی

رسول اللہ کے بدن کو دیکھنے کی خصوصیت:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : لا يحل لرجل ان يرانی مجردًا الا علی ))  
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کے علاوہ کسی پر گوارا نہیں کہ وہ میرے بدن کو دیکھے۔“

حضرت علی کا غسل و دینا:

((عن یزید بن بلال، سمعت علیا یقول: او صری رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم  
 ان لا یغسله احد غیری، فانه لا یتری احد عورتی الا طمست عیناه، قال علی رضی الله  
 عنہ: فیکان العباس واسامة یناولانی الماء من وراء السترن۔ قال علی: فما تناولت عضوا  
 الا کانه یقلبه معی ثلثون رجلا حتى فرغت من غسله))

”یزید بن بلال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  
 وصیت کی کہ میرے (علی کے) علاوہ کوئی اور ان کا غسل نہ دے اور فرمایا: جو میری پرده گاہ کو دیکھے گا وہ  
 دونوں آنکھوں سے ناپینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل  
 دیتے وقت عباس اور اسامہ میرے ہاتھ میں پانی پکڑاتے رہے اور میں کپڑے کے نیچے سے رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کا غسل دیتا رہا اور بدن کے جس حصہ کو بھی دھویا گیا کہ تیس مرد بدن کو  
 حرکت دینے میں میری مذکور تر رہے، یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل دینے سے  
 فارغ ہوا۔“

حضرت علی کو واضح فرمان:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : يا علی انت تغسل جشتی و تودی  
 و تواریخی فی حفتری و تفی بدھتی، وانت صاحب لوانی فی الدنيا والآخرة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم میرے بدن کا غسل دو گے اور میرا قرض ادا کرو گے اور  
 مجھے قبر میں داخل کرو گے اور جو کچھ میرے ذمہ ہے اس کی وفا کرو گے، تم اس دنیا اور آخرت میں میرے  
 پر چشم دار ہو۔“

## غسل میں اللہ کی طرف سے مدد:

((عن حسین بن علی عن ابیه عن جدہ قال : او صی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا رضی اللہ عنہ ان یغسلہ، فقال علی رضی اللہ عنہ : يا رسول اللہ ! اخشی ان لا اطیق ذلک قال : انک ستعان علیہ قال : فقال علی رضی اللہ عنہ : فوالله ما اردت ان اقلب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عضوا الا قلب لی))

”حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والدا اور اپنے اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی کہ ان کو غسل دیں۔ حضرت علی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اس کام پر قدرت نہ رکھنے کا خوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے جس حصہ کو بھی حرکت دینا چاہتا تھا وہ خود بخود گھوم جاتا تھا۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 86:

### علی و حدیث المنزلة:

## حضرت علی اور حدیث منزلت

### حضرت ام سلمہ سے خطاب:

((عن ابن عباس قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : لام سلمة هذا على بن ابی طالب لحمه لحمی ودمه دمی فهو (وهو) منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: یہ علی بن ابی طالب ہیں کہ ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے اور ان کی مجھ سے نسبت ایسے ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو گا۔“

### کیا تم خوش نہیں کہ:

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انه قال لعلی : الا ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیا تم خوش نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ

سے ایسے ہو، جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے؟“

### غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے:

((عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : ان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج الی تبوک واستخلف علیا قال : اتخلفنی فی الصیان والنساء ؟ فقال : الا ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی الا انه ليس نبی بعدی))

”جناب مصعب بن سعد نے اپنے والد نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: آیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان اپنا جانشین بنارہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہو جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی؟ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔“

((عن سعید بن المیتب عن علی رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غزوۃ تبوک : خلفتک ان تكون خلیفتی فی اهلي ، قلت : اتخلف بعدهک يا نبی اللہ ؟ قال : الا ترضی ان تكون منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی))

”حضرت سعید بن میتب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں فرمایا: میں نے تمہیں اپنے خاندان کے درمیان بے عنوان جانشین مقرر کیا ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آیا اپنے بعد جانشین مقرر کریں گے؟ فرمایا: کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہو جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے؟“

### جناب علی کی نسبت نبی کریم سے:

((عن ابن عباس : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : هذا علی بن ابی طالب ، لحمه من لحمی ودمه من دمی ، وهو منی بمنزلة هارون من موسی غیرانہ لانبی بعدی))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب ہیں۔ کہ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے، ان کی مجھ سے نسبت ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہو گا۔“

### حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ سے نسبت جیسی نسبت:

((عن جابر بن عبد اللہ قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی رضی اللہ

عنه : انت منی بمنزلة هارون من موسیؑ الا انه لا نبی بعدی))  
 ”حضرت چابر بن عبد اللہ النصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ کی نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیؑ سے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔“

### حضرت علیؑ کی نسبت:

((بالاسناد، عن الصادق جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: يا علی انت منی بمنزلة هبة اللہ من آدم و بمنزلة سام من نوح و بمنزلة اسحاق من ابراہیم و بمنزلة هارون من موسی و بمنزلة شمعون من عیسیؑ الا انه لا نبی بعدی))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے ہبہ اللہ (حضرت شیعث) کی نسبت آدم سے اور سام کی نسبت نوح سے اور اسحاق کی نسبت ابراہیم سے اور ہارون کی نسبت موسیؑ سے اور شمعون (حواری) کی نسبت عیسیؑ سے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔“

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علی منی بمنزلة هارون من موسیؑ))  
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیؑ کی نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیؑ سے۔“

☆☆☆

فصل نمبر 87:

طاعة علیؑ:

### اطاعت علیؑ

#### اطاعت علیؑ اطاعت نہیں ہے:

((عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: من اطاعنی فقد اطاع الله و من عصانی، فقد عصى الله، ومن اطاعك فقد اطاعنی، ومن عصاك، فقد عصانی))

”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ بن ابی

طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جو ہماری اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو ہماری نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے تمہاری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے تمہاری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ہے۔“

### اللہ کا قرب:

((فی حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال :اذا اردت ان تلقی اللہ و هو عنک راض، فاسلك طریق علی ومل معه حیث مال وارض به امامہ وعاد من عادہ ووال من والاہ، ولا ید خلک فیہ شک))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت اللہ سے ملاقات کرتا چاہو اور وہ تم سے راضی ہو تو علی کے راستے پر چلو اور ہر جگہ ان کے ساتھ رہو اور انہیں اپنارہبہ تسلیم کرو اور ان کے شمنوں کے ساتھ دشمن اور ان کے دوستوں کے ساتھ دوست رہو اور ان کے بارے میں اپنے اندر کوئی شک و شبہ ایجاد نہ کرو۔“

### حضرت علیؑ کے بارے میں سیدنا عمر بن یاسر کو فیحہ:

((عن ابی ایوب الانصاری قال :سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول لعمر بن یاسر :تفتک الفئة الباغية وانت مع الحق والحق معك ، يا عمر ! اذا رأيت علياً سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره، فاسلك مع على وداع الناس، انه لن يدللك في ردی ولن يخرجك من الهدی))

”حضرت ابوالیوب الانصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ایک سینگر گروہ تم کو قتل کرے گا۔ جب کہ تم حق پر ہو اور حق تمہارے ساتھ ہے۔ اے عمر! جس وقت تم یہ دیکھو کہ علی ایک راستے پر چل رہے ہیں اور لوگ دوسرے راستے پر چل رہے ہیں تو علی کے راستہ کو اختیار کرو، لوگوں کے راستے کو چھوڑ دو، اس لئے کہ وہ تم کو نابودی کی طرف نہیں لے جائے گا اور ہدایت کے راستے سے خارج نہیں کرے گا۔“

### سیدنا علیؑ کے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن مانتا:

((فی حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) :یا بن عباس !اذا اردت ان تلقی اللہ وهو عنک راض !فاسلك طریقة علی بن ابی طالب ومل معه حیث مال، وعاد من عادہ، ووال من والاہ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا: اے عباس کے بیٹے! جس وقت اللہ سے ملاقات کرتا چاہو اور وہ تم سے راضی ہو تو علی بن ابی طالب کے طریقہ پر چلو اور جس چیز پر وہ توجہ رکھتے ہیں

توجہ رکھو اور ان کے دشمنوں کو دشمن اور دوستوں کو دوست رکھو۔“

### حضرت علی کا فرمان:

((فی حدیث عن علی رضی اللہ عنہ : حربی جرب اللہ، وسلمی سلم اللہ، وطاعتی طاعة اللہ، وولایتی ولایة اللہ، واتباعی اولیاء اللہ، وانصاری انصار اللہ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے ساتھ جنگ اللہ کے ساتھ جنگ اور میرے ساتھ صلح اللہ کے ساتھ صلح اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت اور میرے ساتھ دوستی اللہ کے ساتھ دوستی ہے، میرے پیروکار اللہ کے دوست اور میرے دوست اللہ کے دوست ہیں۔“

### حضرت علی اور رسول اللہ کی فرمانبرداری اللہ کی فرمانبرداری ہے:

((بالاسناد ، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ، قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من اطاعنی فقد اطاع اللہ ، ومن عصانی ، فقد عصی اللہ ، ومن اطاع علیاً فقد اطاعنی ، ومن عصی علیاً فقد عصانی ))

”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری تافرمانی کی اس نے اللہ کی تافرمانی کی اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے علی کی تافرمانی کی اس نے میری تافرمانی کی ہے۔“

((عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ ، قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : لعلی : من اطاعک فقد اطاعنی ، ومن عصاك فقد عصانی ))

”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جس نے تمہاری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے تمہاری تافرمانی کی اس نے میری تافرمانی کی ہے۔“

### رسول اللہ کی دوستی کا دعویدارے جھوٹا ہے جب تک علی سے محبت نہ کرے:

((بالاسناد ، عن ابی جعفر محمد بن علی الباقر رضی اللہ عنہ قال : سمعت جابر بن عبد اللہ الانصاری يقول : ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان ذات يوم في منزل ام ابراهیم وعنه نفر من اصحابه اذا اقبل علی بن ابی طالب ، فلما بصر به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال : يَا مَعْشِرَ النَّاسِ اَقْبَلَ عَلَيْكُمْ خَيْرُ لِلنَّاسِ بَعْدِي ، وَهُوَ مَوْلَيْكُمْ ، طَاعَتْهُ مَفْرُوضَةٌ كَطَاعَتِي وَمَعْصِيَتْهُ مَحْرُمَةٌ كَمَعْصِيَتِي ، مَعْشِرَ النَّاسِ ! اَنَا دَارِ

الحكمة وعلى مفتاحها، ولن يوصل الى الدار الا بالمفتاح، وكذب من زعم انه يحبني ويعغض عليا))

”حضرت امام پا قر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ النصاری سے سنا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی والدہ (سیدہ ماریہ قبطیہ) پکے گھر میں تھے اور چند اصحاب بھی آپ کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ اس وقت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت علی پر پڑی تو فرمایا: اے لوگو! تمہارے سامنے وہ شخص ظاہر ہوا ہے کہ جو میرے بعد لوگوں میں سے بہترین فرد ہے۔ وہ تمہارے سر پرست ہیں، جس طرح میری اطاعت واجب ہے ان کی اطاعت بھی واجب ہے اور میری نافرمانی کی طرح ان کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ اے لوگو! میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کی چابی ہیں اور چابی کے علاوہ کوئی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ گمان کرتا ہے کہ مجھے دوست رکھتا ہے اور علی سے دشمنی کرتا ہے۔“

### علی المرتفعی کی فرمانبرداری:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : علی طاعته طاعنی و معصیتہ معصیتی ))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی کی اطاعت میری اطاعت اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔“

((عن ابی ذر قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : من اطاعنی فقد اطاع الله، ومن عصانی فقد عصى الله و من اطاع علیا فقد اطاعنی، ومن عصى علیا فقد عصانی ))

”حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور جس نے علی کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ہے۔“

### بہترین فرد:

((قال صلی الله علیہ وآلہ وسلم : علی خیر من اترک بعدی فمن اطاعه فقد اطاعنی، ومن عصاه فقد عصانی ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی ایک بہترین فرد ہیں جنہیں میں اپنے بعد چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ہے۔“

### حضرت علیٰ کی دوستی ایمان اور دشمنی کفر ہے:

((عن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال : حب علی ایمان وبغضه کفر، انا وایاہ ابو اہذہ الامۃ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی سے دوستی ایمان ہے اور ان سے دشمنی کفر ہے۔ میں اور وہ اس امت کے دو باپ ہیں۔“

### امام باقر کا قول:

((قال الصادق رضی الله عنہ: ولا یتی لعلی بن ابی طالب رضی الله عنہ احبابی من ولادتی منه، لان ولا یتی لعلی بن ابی طالب فرض، وولادتی منه فضل))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ولادیت میرے نزدیک محبوب تر ہے اس سے کہ میں ان کے صلب سے پیدا ہوا ہوں۔ اس لئے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ولادیت مجھ پر واجب ہے، لیکن میری ان سے ولادت نہ ایک فضیلت ہے۔“

### جناب علیٰ کی مخالفت:

((وفي روایة ابن عمر : قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: يا علی! من خالفك فقد خالفنی ومن خالفنی فقد حالف اللہ))

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے علی! جس نے تمہاری مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی اور جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی۔“

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : عادی اللہ من عادی علیا))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے علی سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔“

☆☆☆

### فصل نمبر 88:

### ذکر قول النبی علیٰ منی و انا منه:

**رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ میں علی سے ہوں اور وہ مجھ سے**

### حدیث نمبر 1:

((حدثنا بشر بن هلال، عن جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك، عن مطرف بن عبد الله، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ان علیاً منی

و انا منہ، و ولی کل مومن بعدی))  
 (سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 309 رقم 8090 وص 432 و طبع آخر ج 5 ص 45 رقم 8146 وص 126 رقم  
 8453، منداہم ج 4 ص 437، 438، 439، 440 و طبع آخر ج 2 ص 749 رقم 1035 وص 468 و طبع آخر ج 1 ص 374 رقم 805  
 رقم 1104، جامع الترمذی ص 845، 846 و طبع آخر ج 9 ص 41 رقم 6890 و طبع آخر ج 15 ص 374 رقم 6929  
 مصنف ابن ابی هبیۃ ج 6 ص 375 رقم 32112، مند المزارج 9 ص 40 و طبع آخر ج 1 ص 3558، مسند ابی یعلیٰ ج 1 ص  
 184 رقم 350، مسند الصحابة للرویانی ص 62 رقم 119، مسند ابی داؤد الطیالی ص 111 و طبع آخر ج 1 ص 444 رقم  
 868، المستدرک للحکم ج 3 ص 110 رقم 4636، الاحد والثانی لابن ابی عاصم ج 4 ص 321، اجم الکبیر  
 ج 18 ص 128، حلیۃ الاولیاء ج 6 ص 321، تاریخ دمشق لابن منظور ج 17 ص 348، 350، سیر اعلام الجلاء (نیرۃ)  
 ص 622، مکلوۃ رقم 6090، اسد الغابۃ ج 4 ص 116، 117، 118، الریاض العضرۃ ج 4 ص 111، الاصابۃ ج 4 ص 468)  
 "حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پیش  
 علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں اور میرے بعد وہ ہر مومن کا ولی (محبوب) ہے۔"

### حدیث نمبر 2:

((خبرنا احمد بن سلیمان قال: (حدثنا زید بن حباب، قال: حدثنا شریک) اخبرنا  
 یحییٰ بن آدم اسرائیل عن ابی اسحق قال: حدثنی جبیشی بن جنادة السلوی قال:  
 سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول: علی منی و انا منه۔ (فقلت لابی اسحق:  
 این سمعته؟ قال: وقف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ههنا فحدثنی، رواه اسرائیل، فقال:  
 عن ابی اسحق، عن البراء))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 310 رقم 8091 وص 433 و طبع آخر ج 5 ص 545 رقم 8147 وص  
 127 رقم 8454، سنن ابن ماجہ رقم 119، جامع الترمذی ص 846 رقم 3719، منداہم ج 4 ص 165 رقم  
 17651، 17652، 17653، 17645، فضائل الصحابة ج 2 ص 725 رقم 1010 وص 742 رقم 1032، مصنف  
 ابن ابی هبیۃ ج 6 ص 369 و طبع آخر ج 32063، کتاب السنۃ لابن ابی عاصم ص 585 و طبع آخر ج 3120 رقم 6092)  
 "حضرت جبیشی بن جنادة سلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو  
 فرماتے ہوئے سننا: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔" (سنن الکبریٰ للنسائی) "میں  
 اسرائیل کا قول ہے کہ میں نے ابو اسحق سے پوچھا: آپ نے یہ حدیث کہاں سے سنی تھی؟ انہوں نے بتایا  
 کہ جبیشی بن جنادة نے یہاں کھڑے ہو کر یہ حدیث بیان کی تھی۔"

### حدیث نمبر 3:

((خبرنا احمد بن سلیمان، قال: حدثنا اسرائیل، عن ابی اسحق، عن البراء بن عازب  
 قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلیٰ: انت منی و انا منك (ورواه القاسم بن

یزید الجرمی عن اسرائیل، عن ابی اسحق، عن هبیرة بن یريم، وہانی بن ہانی، عن علیؐ رضی اللہ عنہ))

(السنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 433 رقم 8401 طبع آخر ج 5 ص 127 رقم 8455، بخاری رقم 2699، مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 221 رقم 4845، مصنف ابن الہیبة ج 6 ص 371 رقم 32081، دلائل العبودۃ للبیهقی ج 4 ص 338، السنن الکبریٰ للبیهقی ج 8 ص 5 رقم 15768 و رقم 15770، شرح النہج 8 ص 105 رقم 3936)

”حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: تم مجھ سے ہو اور میں تم سے۔ (اور اس کو روایت کیا قاسم بن یزید جرمی نے از اسرائیل، از ابو اسحاق، از ہبیرہ بن یريم، از ہانی بن ہانی حضرت علیؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے)۔“

#### حدیث نمبر 4:

((اخبرنا احمد بن حرب قال: حدثنا القاسم الجرمي قال حدثنا اسرائيل، عن ابى اسحاق عن هبيرة بن یريم، وہانی بن ہانی عن علیؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: لما صدرنا من مكة اذا ابنة حمزة تناذى ياعم، فتناولها علىؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واخذها فقال لصاحبته فاطمة: دونك ابنة عمك، فحملتها فاختصم فيها علىؐ وزيد وجعفر، فقال علىؐ: انا اخذتها وهي ابنة عمى، وقال جعفر: ابنة عمى وحالتها تحتى، وقال زيد ابنة اخى، فقضى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحالتها، وقال: الحاله بمنزلة هارون، وقال لعلىؐ: انت مني (بمنزلة هارون) وانا منك، وقال لجعفر: اشبهت خلقى وخلقى، وقال لزيد: يا زيد انت اخونا ومولانا))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 433 رقم 8402 طبع آخر ج 5 ص 167 رقم 8457، منhad ح 1 ص 99 رقم 770 و رقم 109 و رقم 857 و ص 115 رقم 931، تحفة الاخیار بترتیب شرح مشکل الامات ح 4 ص 68 رقم 2318 و ص 70 رقم 2321، المسند رک للحاکم ح 3 ص 120 رقم 4672، مشکاة رقم 3377، السنن الکبریٰ للبیهقی ج 10 ص 10 ص 226 رقم 21027)

”حضرت ہانی بن ہانی حضرت علیؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم ( عمرۃ القضاۓ کے موقعہ پر) مکہ المکرمة سے جانے لگے تو حضرت امیر حزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی پکارتی ہوئی آئی: اے میرے چچا! اے میرے چچا! حضرت علیؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا، پھر اپنی زوجہ (سیدنا فاطمة الزهراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا) سے فرمایا: اس کو سنجا لیے! یا آپ کے چچا کی بیٹی ہے تو انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ پھر اس چچی کی کفالت کے معاملہ میں حضرت علیؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس چچی کو لینے کا زیادہ حقدار تعالیٰ عنہ کے مابین تنازع پیدا ہو گیا۔ حضرت علیؐ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس چچی کو لینے کا زیادہ حقدار

میں ہوں کیونکہ یہ میری پچازادے ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ بھی میری بھی پچازادے ہے اور اس کی خالہ میری زوجہ ہے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے (کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مواخات ہوئی تھی) لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے اس کی خالہ کے پر دکیا اور فرمایا: خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: تم صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہو اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: اے زید! تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔“



## فصل نمبر 89:

### ذکر قول النبی علی کنفی:

### رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ علی میری جان کی مانند ہے

((اخبارنا العباس بن محمد الدوری 'قال بحدثنا الاحدوص بن جواب' قال: حدثنا يونس بن ابی اسحق، عن زید ابن یثیع، (شیع) عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ) قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتنهن بنور بیعة (ولیعہ) او لا بعشن عليهم لا کنفی، ینفذ فيهم امری 'فیقتل المقاتلة' ویسبی الذریة فماراعنی الا وکف عمر فی حجزتی من خلفی: من یعنی؟ قلت ایاک یعنی وصاحبک' (فقلت: ما ایاک یعنی ولا صاحبک) قال: فمن یعنی؟ قال: قلت: خاصف النعل' قال: وعلى یخصف النعل))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 434 رقم 403 وطبع آخر ج 5 ص 127 رقم 12457، فضائل الصحبۃ ج 2 ص 706 رقم 733 وص 966 رقم 1008، مصنف عبدالرازاق ج 10 ص 220 رقم 20557 مصنف ابن ابی شیبة ج 6 ص 371 رقم 32077 ورقم 32084، منداریز ارج 3 ص 259 رقم 1050، منداری یعلی ج 1 ص 354 رقم 856، مجمع الزوائد ج 9 ص 124 رقم 14960 وص 163 رقم 223، کشف الاستار ج 3 ص 224 رقم 261، الریاض النصرة ج 4 ص 103، ازالۃ الخفاء ج 4 ص 425)

”حضرت زید بن شیع حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنو ولیعہ کو چاہئے کہ بازا آجائیں ورنہ میں ان پر ایسے شخص کو بھجوں گا جو میری جان کی طرح ہے وہ ان پر میرا حکم نافذ کرے گا اور اڑنے والوں سے جنگ کرے گا، اور ان کی اولاد کو باندی بنائے گا۔ پس

میں نے ابھی حرکت نہیں کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دامن سے پکڑ کر پوچھا: اس سے کون مراد ہے؟ میں نے کہا: اس سے نہ تم مراد ہو اور نہ ہی تمہارا ساتھی، کہا: پھر کون مراد ہے؟ میں نے کہا: جوئی مرمت کرنے والا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوئی کی مرمت کر رہے تھے۔“

☆☆☆

### فصل نمبر: 90

#### ذکر قول النبی لعلی الـ صفی و امینی:

### رسول اللہ کا فرمان: اے علی آپ میری صفی اور امین ہیں

((خبرنا زکریا بن یحییٰ) قال: حدثنا ابن ابی عمر (وابومروان) قالا: قال: حدثنا عبد العزیز، عن یزید بن عبد اللہ بن اسامة بن الہاد، عن محمد بن نافع بن عجیر، عن ابیه، عن علی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اما انت یا علی: انت صفیی و امینی))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 434 رقم 8404 طبع آخر ج 5 ص 128 رقم 8458، کتاب الشیخ لابن الہی عاصم رقم 1330، تحفة الاخیار بترتیب شرح مشکل الآثار ج 4 ص 70 رقم 2321، المحرار الظخار المعروف بمسند المزاج ج 3 ص 106 رقم 891، جمع الجواجم ج 3 ص 66 رقم 5722).

”حضرت نافع بن عجیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم میرے صفی اور میرے امین ہو۔“

☆☆☆

### فصل نمبر: 91

#### ذکر قوله لا يؤدی عنی الا أنا وعلی:

### حدیث کہ میری ذمہ داری ادا نہیں کرے گا مگر میں خود یا علی

((خبرنا احمد بن سلیمان، (قال) حدثنا یحییٰ بن آدم (حدثنا) عن اسرائیل عن ابی اسحق، عن حبیبی بن جنادة السلوی، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا منه، فلا يؤدی عنی الا أنا او علی))

(السنن الکبری للنسائی ج 7 ص 434 رقم 8405 طبع آخر ج 5 ص 128 رقم 8459، مند بن ابی شہید ج 2 ص 342 رقم 844، مختصر تاریخ دمشق ج 18 ص 5، 6<sup>7</sup>)

”حضرت جبیش بن جنادہ سلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پس میری ذمہ داری ادا نہیں کرے گا مگر میں خود یا علی المرتضی۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 92:

### ذکر توجیہ النبی ببراءۃ مع علی:

### سورۃ توبہ کے ساتھ حضرت علی کو بھیجنے میں رسول اللہ کی توجیہ

#### حدیث نمبر 1:

((اخبرنا محمد بن بشمار، حدثنا عفان، وعبدالصمد قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن سماعك بن حرب، عن انس، قال: بعث النبي صلی اللہ علیہ وسلم ببراءۃ مع ابی بکر، ثم دعاه فقال: لا ينبغي ان يبلغ هذا الا رجل من اهلي، فدعاه علياً فاعطاهم اباها))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 435 رقم 8406 طبع آخر ج 5 ص 128 رقم 8460، جامع الترمذی ص 696 رقم 3090، مند احمد ج 3 ص 212 رقم 13246، دس 283 رقم 14064، فضائل الصحابة ج 2 ص 694 رقم 946، دس 895 رقم 1090، مصنف ابن ابی شہید ج 6 ص 377 رقم 32126، مختصر تاریخ دمشق ج 18 ص 6)

”حضرت اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ براءۃ کیساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا پھر انہیں بلا یا اور فرمایا: مناسب نہیں کہ اس کام کے لیے میرے اہل بیت کے سوا کوئی اور شخص بھیجا جائے، پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا یا اور انہیں وہ سورۃ عطا فرمائی۔“

#### حدیث نمبر 2:

((اخبرنا العباس بن محمد الدوری، قال: حدثنا ابو نوح (واسمه عبد الرحمن بن غزوان) قرادر عن یونس بن ابی اسحق، عن ابی اسحق، عن زید بن یثیع، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ببراءۃ الی اہل مکہ مع ابی بکر، ثم اتبعہ بعلی، فقال له: خذ الکتاب، فامض به الی اہل مکہ قال: فلحوظه، فاخذ الکتاب منه، فانصرف ابو بکر وهو کنیب، فقال لرسول اللہ (یا رسول اللہ) صلی اللہ علیہ وسلم

أنزل في شيء؟ قال: لا، (إلا، أني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي) (سنن الكبرى للنسائي ج 7 ص 435 رقم 8407 وطبع آخر ج 5 ص 128 رقم 846، من مأمور ح 1 ص 3 رقم 151 رقم 1297، فضائل الصحبة ج 2 ص 876 رقم 1203، من مأمور ح 1 ص 64 رقم 99، أسرار الدوبيبة لابن إسحاق ص 623، مجمع الزوائد ح 7 ص 29 رقم 11039، الرياض الخضراء ح 4 ص 114)

”حضرت زید بن شیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ براءۃ دے کر اہل مکہ کی طرف بھیجا، پھر ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایہ کیا اور فرمایا: تم وہ مکتوب ان سے لے لو اور اہل مکہ کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے اور ان سے مکتوب لے لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین حالت میں واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میرے خلاف کوئی وحی اتری ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، مگر مجھے حکم کیا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری میں خود نبھاؤں یا میرے اہل بیت کا کوئی شخص نبھائے۔“

### حدیث نمبر 3:

((خبرنا زکریا بن یحییٰ، قال: حدثنا عبد الله بن عمر قال: حدثنا اسپاط، عن فطر، عن عبد الله بن شریک، عن عبد الله بن الرقیم عن سعد قال: بعث رسول الله ابا بکر براءة، حتى اذا كان بعض الطريق ارسل علياً رضي الله تعالى عنه، فاخذها منه، ثم سار بها، فوجد ابا بکر في نفسه، فقال: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤدي عنى الا انا او رجل مني))

(السنن الكبرى للنسائي ج 7 ص 435 رقم 8408 وطبع آخر ج 5 ص 129 رقم 8462)

”حضرت عبد اللہ بن رقیم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ البراءۃ کے ساتھ روایہ کیا تھی کہ جب وہ کچھ منزیلیں طے کر چکے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (ان کے پیچھے) روایہ کیا تو انہوں نے ان سے وہ سورۃ واپس لے لی اور آگے روایہ ہو گئے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کچھ محبوس کیا تو شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: مجھ سے متعلق حقوق ادا نہیں کرے گا مگر میں خود یا مجھہی سے ایک شخص۔“

### حدیث نمبر 4:

((خبرنا اسحق بن ابراهیم بن راہویہ، قال: قرات علی ابی قرة موسیٰ بن ظارق، عن ابن جریح: حدثنا عبد الله (بن عثمان) بن خثیم، عن ابی الزبیر، عن جابر ان النبی

صلی اللہ علیہ وسلم حین رجع من عمرۃ الجعرانۃ بعث ابوبکر علی الحج، فاقبل نامعہ، حتی اذا کنا بالعرج ثوب بالصیح، فلما استوی للتكبیر سمع الرغوة خلف ظهره، فوقف عن التكبیر، فقال هذه رغوة ناقة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الجدعاء، لقد بدالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج، فلعله ان يكون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنصلي معه، فاذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنه علیها، فقال له ابوبکر: امیر ام رسول؟ قال: لا، بل رسول، ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (براءة) أقرئوها علی الناس فی موافق الحج، فقد منامکة، فلما کان قبل الترویة بیوم، قام ابوبکر فخطب الناس فحدثهم عن مناسکهم، حتی اذا فرغ، قام علی رضی اللہ تعالیٰ عنه، فقرأ علی الناس براءة، حتی ختمها، ثم خرج نامعہ حتی اذا کان يوم عرفۃ، قام ابوبکر فخطب الناس فحدثهم عن مناسکهم، حتی اذا فرغ، قام علی رضی اللہ تعالیٰ عنه، فقرأ علی الناس براءة، حتی ختمها، فلما کان النفر الاول قام ابوبکر فخطب الناس فحدثهم کیف ینفرون او کیف یرمون، فعلمهم مناسکهم، فلما فرغ قام علی رضی اللہ تعالیٰ عنه فقرأ علی الناس براءة حتی ختمها))

(السنن الکبری للنسائی ج 5 ص 129 رقم 8463 طبع آخر ج 4 ص 147 رقم 3970 و ج 7 ص 435 رقم 8409 سنن الدارمی ج 2 ص 57 رقم 1915، صحیح ابن خزیمة ج 2 ص 1396 رقم 2974، صحیح ابن حبان ج 8 ص 222 رقم 6611 دلائل المذہب للبیهقی ج 5 ص 297، 298)

”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ الجعرانۃ سے واپس آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنانا کر بھیجا تو ہم سب آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، حتی کہ جب ہم مقام عرض پر پہنچے تو فجر کی اذان کی گئی پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے پیچھے سے اونٹی کے بلبانے کی آواز سنی تو تکبیر موقوف کر دی، پھر فرمایا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی ”جدعاۃ“ کے بلبانے کی آواز ہے، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کے معاملہ میں کوئی نئی بات نازل ہوئی ہے، لہذا ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہوں تو ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، پس جب دیکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹی پر سوار تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ امیر ہیں یا قاصد؟ انہوں نے فرمایا: نہیں بلکہ میں بھیجا ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورہ برآۃ کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس کو لوگوں کے سامنے حج کے مقامات میں پڑھوں گا۔ پس ہم مکہ المکرمة پہنچ گئے تو آٹھ ذی الحجه سے ایک روز پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے پھر لوگوں کو خطبہ دیا، انہیں مناسک حج

بتلائے حتیٰ کہ جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور لوگوں کے سامنے سورۃ براءۃ کی تلاوت پڑوں کی بیہاں تک کہ اسے ختم کر دیا، پھر ہم چل پڑے حتیٰ کہ عرفتہ کے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو حج کے مسائل بتلائے بیہاں تک کہ جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر لوگوں کے سامنے سورۃ براءۃ تلاوت فرمائی حتیٰ کہ اسے ختم کر دیا۔ پھر جب منیٰ کامید ان آیاتو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر لوگوں کو خطبہ دیا اور انہیں بتایا کہ وہ کیسے رمی کریں اور کیسے کوچ کریں، پھر انہیں مناسک سکھائے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر سورۃ براءۃ کی تلاوت فرمائی حتیٰ کہ اسے ختم کر دیا۔“

☆☆☆

## فصل نمبر 93:


### ذکر اشقی الناس:

### سب سے بڑے بد بخت کا ذکر

((اخبرنا محمد بن وہب (عبدالله بن سماک بن ابی کریمة الحرانی) قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن اسحق، عن يزید بن محمد بن خثيم، عن محمد بن كعب القرظي، عن محمد بن خثيم، عن عمار بن ياسر، قال: كنت أنا وعلي بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه رفيقين فى غزوة العشيره من بطن ينبع، فلما نزلها برسول الله صلى الله عليه وسلم اقام بها شهراً، فصالح فيها بني مدلج وحلفاءهم من ضمرة فوادعهم، (رأينا أناسا من بني مدلج يعملون فى عين لهم، او فى نخل) فقال لى على رضى الله تعالى عنه هل لك يا بابا اليقظان، ان ناتى هولاء، (نفر من بني مدلج يعملون فى عين لهم) هل لك يا بابا اليقظان، ان ناتى هولاء، (نفر من بني مدلج يعملون فى عين لهم) فنظر كيف يعملون؟ قال: قلت ان شئت فجئناهم فنظرنا الى اعمالهم ساعة ثم غشينا التوم، فانطلقت انا وعلي حتى اضطجعنا في ظل صور من النخل، وفي دفعاء من التراب، فنما في والله ما اهبا (انهنا) الا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحر كنابر جله وقد تربنا من تلك الدفعاء التي نمنا فيها، في يومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله تعالى عنه بماك يا بابا تراب؟ لما يرى عليه من التراب ثم قال: الا احدثك ما باشقي الناس رجالين؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: احيم ثم وداد الذى عقر الناقة، والذى يضر بك (ياعلى) على هذه، ووضع يده على قرنه، حتى يبل منها هذه، واحذ بلحيته))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 464 رقم 485 وطبع آخر ج 5 ص 153 رقم 8538، مند احمد ج 4 ص 263 رقم 18511،  
نھاۃ الصلحۃ للامام احمد ج 2 ص 854 رقم 1172، المستدرک للحاکم ج 3 ص 140 رقم 4734، الاحادیۃ الشافیۃ لابن الی  
غاصم ج 1 ص 147 رقم 175، تختۃ الاخیار بترتیب شرح مشکل الآثار ج 9 ص 236 رقم 6560، دلائل النبوۃ لابن قیم  
ص 552 رقم 490، دلائل النبوۃ للنیہقی ج 3 ص 13، السیرۃ النبوۃ لابن حشام ج 2 ص 190، البدایۃ والنھایۃ  
ج 2 ص 248، السیرۃ النبوۃ لابن کثیر ج 2 ص 319، تاریخ مدینۃ دمشق ج 42 ص 549، مختصر تاریخ دمشق  
ج 18 ص 86، 87)

”حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ  
عنہ غزوۃ العشرۃ میں بطن بنی شیع کے مقام پر ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وسلم وہاں اترے اور ایک ماہ قیام فرمایا۔ پھر بنو مدح اور ان کے حلیف بنو ضرۃ نے آپ کے ساتھ صلح کر لی  
اور باہم معاہدہ طے پا گیا تو ہم نے وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک کنویں یا کھجوروں کے درختوں میں کام  
کاج میں مشغول تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا: اے ابوالیقظان! کیا خیال ہے؟ کیا ہم  
بنو مدح کے لوگوں کے پاس جا کر نہ دیکھیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا: جیسے آپ کی  
مرضی۔ پھر ہم چل پڑے اور کچھ دیر تک ان کا کام دیکھتے رہے، پھر ہم پر نیند طاری ہونے لگی تو میں اور  
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے حتیٰ کہ کھجوروں کے سایہ میں مٹی پر جا کر سو گئے۔ پس ہم محو خواب تھے۔  
اللہ کی قسم! ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے بیدار نہیں کیا، آپ نے ہمیں پاؤں کی حرکت  
سے جگایا، ہم مٹی پر سوئے ہوئے تھے اور مٹی ہمیں لگ چکی تھی، اس لئے اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: اے ابو تراب! تمہیں کیا ہوا؟ پھر آپ نے فرمایا: کیا میں تمہیں تمام  
لوگوں سے بڑھ کر دو بد بخت شخصوں کے بارے میں نہ بتلا قیل؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیوں نہیں۔  
فرمایا: قوم شمود کا اہمیر نامی شخص جس نے اوٹھنی کی کوچیں کاٹی تھیں اور (دوسراؤہ شخص) جو تجھے یہاں  
(کنٹھی) مارے گا، یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھا، یہاں تک  
کہ اس ضرب سے چاری ہونے والے خون سے یہ تر ہو جائے گی، یہ فرماتے ہوئے آپ نے حضرت علی  
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈاڑھی کو ہاتھ لگایا۔“



فصل نمبر: 94

الترغیب فی نصرة علی:

## حضرت علیؑ کی مدد کرنے کی ترغیب

((اخبرنا يوسف بن عيسى قال: اخبرنا الفضل بن موسى قال: حدثنا الاعمش، عن أبي اسحاق، عن سعيد بن وهب قال: قال علی رضي الله تعالى عنه في الرجبة انشد بالله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عدیر خم يقول: الله ولیی وانا ولی المؤمنین، ومن كنت ولیه فهذا ولیه، اللهم وال من والاہ وعاد من عاداه، وانصر من نصره، فقال سعيد: الى جنبي ستة، وقال حارثة بن نصر: قام ستة، وقال زید بن یثیع: قام عندی ستة، وقال عمرو ذومر: أحب من أحبه وابغض من ابغضه))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 466 رقم 8489 وطبع آخر ج 5 ص 155 رقم 8542)

”حضرت سعید بن وهب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھلے مقام میں خطبہ دیا، فرمایا: میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں غدرِ خم کے دن کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے ساتھا کہ آپ نے فرمایا: میرا ولی (محبوب، مددگار اور وارث) اللہ ہے، اور میں تمام مومنین کا ولی (محبوب، مددگار اور وارث) ہوں، اور میں جس کا ولی ہوں تو یہ (علیؑ) بھی اس کا ولی ہے۔ اے اللہ! تو اس سے محبت فرما جو علیؑ سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی فرما جو علیؑ سے دشمنی رکھے، اور اس کی مدد فرما جو علیؑ کی مدد کرے۔ سعید بن وهب کہتے ہیں: اس پر میرے پہلو میں چھو افراد کھڑے ہوئے۔ حارثہ بن نصر نے کہا: چھو آدمی کھڑے ہوئے، زید بن یثیع نے کہا: میرے نزدیک بھی چھو آدمی کھڑے ہوئے۔ حضرت عمرو ذی مرکی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں: اے اللہ! تو اس شخص کو محبوب رکھ جو علیؑ کو محبوب رکھے اور اس کو مبغوض رکھ جو علیؑ سے بغوض رکھے۔“



فصل نمبر 95:

فی حب علیٰ:

## محبت علیٰ کا بیان

جناب علیٰ کی دوستی:

عن سعید بن طریف قال : قال ابو جعفر رضی اللہ عنہ : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : الا ان جبرئیل اتائی فقال : يا محمد ! ربک یا مرک بحب علی بن ابی طالب و یامرک بولایتہ )

”سعید بن طریف سے نقل ہوا ہے کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جان لیں کہ جبرائیل مجھ پر نازل ہوئے اور کہا : اے محمد ! آپ کا پروردگار آپ کو علی سے دوستی اور ولایت کا حکم دے رہا ہے۔“

علیٰ کو دوست رکھو:

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ایہا الناس ! احبوا علیا فان اللہ یحبہ))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اے لوگو ! علی کو دوست رکھو کیونکہ اللہ انہیں دوست رکھتا ہے۔“

حضرت علیٰ اللہ اور رسول کے اطاعت گزار:

((بالاسناد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ان علیا وليکم بعدي، فاحب علیا فانه يفعل ما يوصي))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میرے بعد علی تمہارے سر پرست ہیں، پس انہیں دوست رکھیں اس لئے کہ علی نے جو فرمان حاصل کیا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔“

وصیت پیغمبر:

((عن ابی سعید الخدروی قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : احبوا علیا فان لحمه من لحمی ودمه من دمی لعن الله اقواما ضیعوا فیہ عهدی ونسوافیہ وصیتی مالہمہ عند اللہ من خلاق))

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : علی کو دوست رکھو اس لئے کہ ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس گزوہ پر جس نے ان کے حق میں میرے پیمان کو ضائع کیا اور ان کے پاریے میں میری وصیت کو بھول گئے ان کا اللہ کے

زدیک کوئی اجر نہیں۔“

### حضرت علیؐ سے دوستی:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حدیث الا من احبا فیلا فقد احبنی،  
ومن احبنی رضی اللہ عنہ، و من رضی اللہ عنہ کافاہ بالجنة))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: جان لیں کہ جس نے علیؐ کو دوست رکھا اس نے  
مجھے دوست رکھا اور جس نے مجھے دوست رکھا اللہ اس سے راضی ہے اور جس سے اللہ راضی ہواں کا انعام  
بہشت ہوگی۔“

### دشمنی علیؐ علامت نفاق:

((بالاسناد، عن ابی جعفر رضی اللہ عنہ قال: حب علی رضی اللہ عنہ ایمان وبغضه  
نفاق))

”حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیؐ سے محبت ایمان  
کی علامت اور دشمنی نفاق کی علامت ہے۔“

((قال: لا يحبك والذى نفسي بيده الا مومن قد امتحن الله. قلبه الايمان ولا يبغضك  
الا منافق او كافر))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! فقط وہ مومن  
تمہیں دوست رکھتا ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کیلئے آزمایا ہے اور منافق یا کافر کے علاوہ کوئی تم سے  
دشمنی نہیں کرے گا۔“

((قال النبیؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علیؐ الا يحبك الا مومن تقی، ولا يبغضك  
الا منافق شقی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علیؐ! تقیٰ اور مومن کے علاوہ کوئی تمہیں دوست نہیں رکھتا اور  
منافق و بد بخت کے علاوہ کوئی تم سے دشمنی نہیں کرتا۔“

((عن ام سلمة قالت: سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول: لا يحب  
عليا الا مومن ولا يبغضه الا منافق))

”حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بھی منافق علیؐ کو دوست  
نہیں رکھتا اور کوئی بھی مومن علیؐ سے دشمنی نہیں کرتا۔“

((عن ام سلمة (رضی اللہ عنہا) قالت: كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
يقول: لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مومن))

”سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کے علاوہ کوئی علیؑ کو دوست نہیں رکھتا اور منافق کے علاوہ کوئی ان سے دشمنی نہیں کرتا۔“

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : ایها الناس ! او صیکم بحب ذی القربی اخی وابن عمی علی بن ابی طالب ، لا يحبه الا مومن ولا يبغضه الا منافق ، من احبه فقد احبني ، ومن ابغضه فقد ابغضني ، ومن ابغضني عذبه اللہ بالنار))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! میں تمہیں اپنے اہل بیت سے کہ میرے بھائی اور پچھا کے بیٹے علی بن ابی طالب بھی ان میں سے ہیں، دوستی کی سفارش کرتا ہوں۔ مومن کے علاوہ انہیں کوئی دوست نہیں رکھے گا اور منافق کے علاوہ کوئی ان سے دشمنی نہیں کرے گا۔ جس نے انہیں دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھے سے دشمنی کی ہے اور جس نے مجھے سے دشمنی کی اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں عذاب دے گا۔“

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خطبۃ: او صیکم بحب ذی قربیها اخی وابن عمی علی بن ابی طالب ، لا يحبه الا مومن ولا يبغضه الا منافق))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا: میں تمہیں اپنے اہل بیت، اپنے بھائی اور ان پر پچھا کے بیٹے علی بن ابی طالب سے دوستی کی سفارش کرتا ہوں کیونکہ مومن کے علاوہ کوئی انہیں دوست نہیں رکھتا اور منافق کے علاوہ کوئی ان سے دشمنی نہیں کرتا۔“

((کان علیؑ یقول : وَاللَّهِ لَا يَحْبِبُ إِلَّا مُؤْمِنٍ ، وَلَا يَبْغِضُ إِلَّا مُنَافِقًا))

”حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! مومن کے علاوہ مجھے کوئی دوست نہیں رکھتا اور منافق کے علاوہ مجھے سے کوئی دشمنی نہیں کرتا۔“

((عن سوید بن غفلة قال : سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : يَا عَلِيٌّ لَا يَحْبُكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقًا))

”سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علیؑ! مومن کے علاوہ کوئی تمہیں دوست نہیں رکھتا، اور منافق کے علاوہ کوئی آپ سے دشمنی نہیں کرتا۔“

((وعن ابن عباس قال: نظر رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى علیؑ فقال: لَا يَحْبُكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقًا، من احْبَكَ فَقَدْ احْبَنِي وَمَنْ ابْغَضَكَ فَقَدْ ابْغَضَنِي ، وَحَبِيبِ اللَّهِ وَبَغِيْضِ اللَّهِ، وَيَلِ لِمَنْ ابْغَضَكَ بَعْدِي))

”حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؑ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا: تمہیں مومن کے علاوہ کوئی دوست نہیں رکھتا اور منافق کے علاوہ کوئی تم سے دشمنی نہیں کرتا، جس نے تمہیں

دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھے سے دشمنی کی ہے۔ میرا  
دوست اللہ کا دوست اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ افسوس ہے اس پر جو میرے بعد تم سے دشمنی کرے گا۔“  
((عن علی رضی اللہ عنہ قال :قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :لا يحب علیا الا  
مومن ولا یبغضه الا منافق))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کے علاوہ علی کو کوئی  
دوست نہیں رکھتا اور منافق کے علاوہ کوئی ان سے دشمنی نہیں رکھتا۔“

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یا علی! انت اول هذه الامة ايمانا بالله ورسوله  
واولهم هجرة الى الله ورسوله لا يحبك والذی نفسی بيده۔ الا مومن قد امتحن الله  
قلبه الایمان، ولا یبغضك الا منافق او کافر))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم میری امت میں سے پہلے فرد ہو جو اللہ اور اس کے  
رسول پر ایمان لائے اور پہلے فرد ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی۔ مجھے اس کی قسم  
جس کے ہاتھ میں میں میری جان ہے! اس مومن کے علاوہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے آزمایا ہے  
تمہیں کوئی دوست نہیں رکھتا اور منافق اور کافر کے علاوہ کوئی تم سے دشمنی نہیں کرتا۔“

### سعادت مند اور بد بخت:

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :یا علی اطوبی لمن احبلک، والویل لمن  
ابغضک))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! خوش نصیب ہے وہ شخص جو تمہیں دوست رکھے اور بد بخت  
ہے وہ شخص جو تم سے دشمنی کرے۔“

((قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :طوبی لمن احبل علیا، والویل لمن ابغضه))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سعادت مند اور خوش قسمت ہے وہ شخص جو علی کو دوست رکھتا ہے اور  
بد بخت ہے وہ شخص جو ان سے دشمنی کرتا ہے۔“

((عن عبد اللہ بن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :یا علی من احبل  
ووالا ک احبتہ ووالیتہ، ومن ابغضک وعاداك ابغضته وعادیتہ لانک منی وانا منک))  
”حضرت عبد اللہ بن عباس کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! جو تمہیں دوست رکھے  
گا اور تم سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا اور اس سے محبت کروں گا اور جو تم سے دشمنی کرے گا  
اور تمہاری مخالفت کرے گا میں اس سے دشمنی رکھوں گا اور اس کی مخالفت کروں گا اس لئے کہ تم مجھے سے ہو  
اور میں تم سے ہوں۔“

### لیوم قیامت اور جناب علی کی زیارت:

((عن الحارث عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال : من احبنی رانی یوم القيامة حيث يحب ، ومن ابغضني رآنی یوم القيامة حيث يكره))

”حارث نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو مجھے دوست رکھے گا قیامت کے دن مجھے اسی طرح دیکھے گا جس طرح وہ پسند کرتا ہے اور جو مجھے سے دشمنی کرے گا قیامت کے دن مجھے اس طرح دیکھے گا جیسے وہ پسند نہیں کرتا۔“

### حضرت علی سے دوستی کے فوائد:

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : الا و من احب علیاً كتب اللہ له براءة من النار وبرائة من النفاق و جوازا على الصراط و اماناً من العذاب))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بھی علی کو دوست رکھے تو اللہ اس کیلئے آگ سے دوری، نفاق سے دوری، پل صراط سے عبور کرنا، عذاب سے امان لکھے گا۔“

### چہرہ چودہویں رات کے چاند جیسا:

((عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم : الا و من احب علیاً جاءه یوم القيامة و وجهه كالقمر ليلة البدر))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جان لیں جو بھی علی کو دوست رکھے گا قیامت کے دن وہ اس طرح خش میں وارد ہو گا کہ اس کا چہرہ چودہویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہو گا۔“

### فرشتون کا مصالحة کرنا:

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : الا و من احب علیاً و مات علی حبه، صافحته الملائکة ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جان لیں! جو بھی علی کو دوست رکھے اور ان کی محبت میں مر جائے ملائکہ اس سے مصالحة کریں گے۔“

### زندگی اور موت میں جناب علی کی دوستی:

((عن یحییٰ بن عبد الرحمن الانصاری سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول : احب علیاً في حياته ومماته كتب له الامن والایمان))

”حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن الانصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو علی کو زندگی اور موت میں دوست رکھے گا تو اس کیلئے آرام اور سکون مقرر کیا جائے گا۔“

## رسول اللہ کی دوستی کے لیے حضرت علیٰ کی دوستی لازمی ہے:

((عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : على اقضی امتی فمن احبنی فليحبه فان العبد لا ينال ولا يتی الا بحب علی))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قضاوت میں علی میری امت میں سے دانترین فرد ہیں، جو مجھے دوست رکھے تو اسے علی کو بھی دوست رکھنا چاہیے، اس لئے کہ کوئی بندہ بھی علی کی محبت کے بغیر میری دوست تک نہیں پہنچ سکتا۔“

((وروی عن النبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من احاب علیاً فقد احبني، ومن احبني فقد احب اللہ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا۔“

## اہل بیت سے محبت:

((عن سلمان رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : لا يوم من رجل حتى يحب اهل بيته بمحبتي، فقال عمر بن الخطاب : وما علامة حب اهل بيتك ؟ قال : هذَا، وضرب بيده علی علی))

”حضرت سلمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی بھی مومن نہیں ہو گا مگر یہ کہ وہ میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت کو دوست رکھتا ہو۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا: آپ کے اہل بیت سے محبت کرنے کی علامت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: یہ ہیں محبت کی نشانی۔“

## سیدنا سلمان فارسی کی روایت:

((وروی عن سلمان الفارسي قال : رأيْت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرب فخد على بن ابی طالب وصدره، وسمعته يقول : محبك محبی ومحبی محب الله، مبغضك مبغضی، ومبغضی مبغض الله))

”حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زانو اور سینہ پر ہاتھ مار رہے تھے اور فرمار ہے تھے: تمہیں دوست رکھنے والا میرا دوست اللہ کا دوست ہے اور تمہارا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔“

### اسیر محبت الہی کا القب:

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : الا و من احباب علیا سمي فی السماوات والارض اسیر اللہ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جان لیں جو علی کو دوست رکھے گا تو وہ آسمان اور زمین پر اسیر محبت الہی کے نام سے پکارا جائے گا۔“

### امین اللہ:

((عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : الا و من احباب علیا سمي امين اللہ فی الارض))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو علی کو دوست رکھے گا تو وہ زمین پر امین اللہ کے نام سے پکارا جائے گا۔“

### حضرت علی سے دوستی عبادت ہے:

((وقال (النبی) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : حب علی عبادة))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی سے دوستی عبادت ہے۔“

### حضرت امام جعفر صادق کا قول

((فی حدیث الحسن بن صالح بن حی یقول : سمعت جعفر بن محمد یقول : حب علی عبادة ، و خیر العبادة ما کتبت))

”حسن بن صالح بن حی کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد پا قررضی اللہ عنہما سے سنا کہ حضرت علی سے دوستی عبادت ہے اور بہترین عبادت وہ عبادت ہے جو چیز ہوئی ہو۔“

### حضرت علی کے دوستوں کے فضائل:

((عن جابر بن عبد اللہ الانصاری قال : كنت ذات يوم عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قبل بوجہه علی علی بن ابی طالب فقال : الا ابشرک يا ابا الحسن ! قال : بلی يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - قال : هذا حبرئیل رضی اللہ عنہ یخبرنی عن الله تعالیٰ انه قد اعطی محبیک سبع خصال ، الرفق عند الموت والانس عند الورثة والنور عند الظلمة والامن عند الفزع والقسط عند الميزان والجواز عند الصراط ودخول الجنة قبل الناس ”نور هم یسعی بین ایدیہم وبائیہم))

”حضرت جابر بن عبد اللہ الانصاری کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی طرف نگاہ کی اور فرمایا: اے ابو الحسن! آیا میں تمہیں بشارت نہ

دوں؟ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں! اے اللہ کے رسول! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل نے مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی ہے کہ اللہ نے تمہارے دوستوں کو سات خصلتیں عطا کی ہیں: موت کے وقت سانس میں آسانی کرنا، وحشت کے وقت دوستی اور انس، تاریکی کے وقت نور، خوف کے وقت امان، میزان میں عدالت، پل صراط سے عبور کرنا اور تمام لوگوں سے پہلے بہشت میں جانا اور اس وقت ان کا نور ان کے چہرے کے سامنے اور ان کی دائیں طرف حرکت میں ہو گا۔“

### عنوان صحیفہ مومن:

قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم: عنوان صحیفة المومن حب علی بن ابی طالب))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی بن ابی طالب سے دوستی عنوان صحیفہ مومن ہے۔“

### جناب علی سفینۃ النجاة:

((عن ابی الحسن علی بن موسی الرضا عن ابیه عن آبائہ قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : من احب ان يركب سفينة النجاة ويتمسك بالعروة الوثقی ويعتصم بحبل الله المتيين فليوال علياً بعدي وليعاد عدوه))

”ابو الحسن علی بن موسی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو نجات کی کوششی پر سوار ہونا اور مضبوط ترین سہارے پر بھروسہ کرنا اور اللہ کی مضبوط رسی کو تھاما پسند کرتا ہے، اُنھے میرے بعد علی سے دوستی رکھنی چاہیے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرے۔“

### العروة الوثقی:

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : من احب علی بن ابی طالب فقد استمسك بالعروة الوثقی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے علی سے محبت کی اس نے مضبوط ترین رسی کو تھاما ہے۔“

### جناب علی اور اہل بیت سے محبت:

((عن الرضا عن آبائہ قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : من احب ان يتمسك بالعروة الوثقی فليتمسك بحب علی واهل بيته))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص چاہتا ہے کہ مضبوط سہارے کو تھام لے اسے چاہیے کہ علی اور میرے اہل بیت کا دامن تھام لے۔“

### دعاوں کی قبولیت کا ایک ذریعہ

((عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : الا من احب علیا قبل الله عنه صلاته وصيامه وقيامه و استجاب دعاء))

”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جان لیں جو بھی علی کو دوست رکھے گا تو اللہ اس کے روزے، نماز اور قیام کو قبول کرے گا اور اس کی دعاوں کو مستجاب کرے گا۔“

### جنت کے دروازوں کا کھلنا:

((وروی من احب علیا استغفرت له الملائكة وفتحت له ابواب الجنة الشمانیة يدخلها من ای باب شاء بغير حساب))

”مردی ہے کہ جو بھی علی کو دوست رکھے گا ملائکہ اس کے لئے مغفرت طلب کریں گے اور اس کیلئے بہشت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے تاکہ جس بھی دروازے سے چاہے بغیر حساب کے داخل ہو جائے۔“

### حضرت علی کے چہرہ کی نورانیت سے:

((وروی خلق الله من نور وجه علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سبعین الملائکہ يستغفرون له ولمحبیه الى يوم القيمة))

”مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے چہرے کے نور سے ستر ہزار ملائکہ خلق کیے ہیں۔ وہ قیامت تک ان کیلئے اور ان کے دوستوں کیلئے مغفرت طلب کریں گے۔“

### حضرت علی کی دوستی گناہوں کی بخشش کا سبب:

((وروی حب علی بن ابی طالب يحرق الذنوب كما تحرق النار الحطب))

”مردی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی دوستی گناہوں کو جلا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔“

((قال ابن عباس : حب علی بن ابی طالب یا کل السینات کما تاکل النار الحطب))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: علی بن ابی طالب کی دوستی برائیوں کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔“

### حضرت ابوذر کی محبت علی:

((روی جابر بن عبد الله الانصاری، عن ابی ذر قال : كنت جالساً عند النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم فی المسجد : اذا اقبل علی رضی اللہ عنہ ، فلما راه مقبلا قال : يا

اباذر! من هذا الم قبل؟ فقلت: علی، يا رسول الله. فقال: يا ابا ذرا اتحبه؟ فقلت: ای والله: يا رسول الله، انى لاحبه، واحب من يحبه))

”حضرت جابر بن عبد اللہ النصاری نے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے: ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ علی داخل ہوئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی تو فرمایا: اے ابوذر! یہ کون ہیں؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ علی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوذر! کیا انہیں دوست رکھتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں! اللہ کی قسم میں انہیں دوست رکھتا ہوں، جو انہیں دوست رکھتے ہیں میں ان کو بھی دوست رکھتا ہوں۔“

### اللہ کا حاجات پوری کرتا:

((عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِلَّا وَمَنْ أَحَبَ عَلَيَا صَافِحَتِهِ الْمَلَائِكَةُ وَقَضَى اللَّهُ لَهُ كُلُّ حَاجَةٍ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جان لیں! جو بھی علی کو دوست رکھے گا، ملائکہ اس سے مصافحہ کریں گے اور اللہ اس کی حاجات کو پورا کرنے گا۔“

### فرشتوں کی سیدنا علی سے دوستی اور محبت:

((ورؤی: اول من اتخذ علی بن ابی طالب اخاً من اهل السماء اسرافیل ثم میکائیل ثم جبرئیل، و اول من احبه من اهل السماء حملة العرش ثم رضوان حازن الجنة، ثم ملک الموت))

”مردی ہے کہ اہل آسمان میں سے سب سے پہلے جس نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنا بھائی بنایا وہ اسرافیل تھے، اس کے بعد میرکائیل اور اس کے بعد جبرائیل نے انہیں اپنا بھائی بنایا۔ اہل آسمان میں سے سب سے پہلے جنہوں نے ان سے محبت کی وہ عرش کو اٹھانے والے ملائکہ تھے، اس کے بعد ”رضوان“ یعنی بہشت کے خزانہ دار اور اس کے بعد ملک الموت نے ان سے محبت کی۔“

### قبر کا جنت کا باغ بننا:

((وزوی وَمَنْ أَحَبَ عَلَيَا (هُوَنَ اللَّهُ) يَهُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكِراتُ الْمَوْتِ وَجَعْلُ قَبْرِهِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ))

”مردی ہے کہ جو بھی علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھے گا تو اللہ موت کی سختیوں کو اس کیلئے آسان کرے گا اور اس کی قبر کو بہشت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے گا۔“

### پل صراط سے گزرنا:

((عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم : الا و من احباب علیا جاز علی الصراط کالبرق  
الخاطف))

”مردی ہے کہ جو علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھے گا تو وہ تیز بھلی کی طرح پل صراط سے عبور کرے گا۔“

((وروی من احباب علیا مر علی الصراط کالبرق الخاطف ولم ير صعوبة))

”مردی ہے کہ جو بھی علی کو دوست رکھے گا تو وہ تیز بھلی کی طرح پل سے عبور کرے گا اور اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔“

### جناب علی کے محبت کا اعمال نامہ:

((وروی من احباب علیا، کتب له براءة من النار و جواز علی الصراط و امان من العذاب، ولم ينشر له دیوان ولم ينصب له میزان، وقيل له: ادخل الجنة بلا حساب))

”روایت ہے کہ جس نے علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھا تو اس کیلئے آگ سے دوری اور پل صراط سے عبور اور عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، اس کے عمل نامہ کو کھولنا نہیں جائے گا اور اس کیلئے میزان نصب نہیں کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا: بغیر کسی حساب کے بہشت میں داخل ہو جا۔“

### رحمت کے دروازوں کا کھلننا:

((وروی من احباب علیا انبت الله (اثبت الله) الحکمة فی قلبہ و اخری علی لسانه الصواب و فتح الله له ابواب الرحمة))

”مردی ہے کہ جس نے علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھا تو اللہ اس کے دل میں حکمت پیدا کرے گا اور اس کے زبان پر سچے کلمات جاری کرنے کا اور اس کیلئے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔“

### محبت علی اور رحمت:

((قل لمن احب علیا یتهیا للدخول الجنة))

”جو علی کو دوست رکھتا ہے اسے کہو بہشت میں جانے کیلئے تیار ہو جائے۔“

### کرامت کا تاج:

((وروی من احباب علیا وضع الله علی راسه تاج الكرامة والبسه خلة السلامه  
(العزۃ)))

”مردی ہے کہ جو بھی حضرت علی کو دوست رکھے گا اللہ اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھے گا اور اس کو سلامتی کا جامہ پہننا ہے گا۔“

((من احباب علیاً وضع علی راسه تاج الكرامة))

”روایت ہے کہ جو علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھے گا اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھا جائے گا۔“

### کرامت کالباس:

((وروى من احباب علیاً وضع علی راسه تاج الملك، والبس حلة الكرامة))

”مردی ہے کہ جو علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھے گا، اس کے سر پر سلطنت کا تاج رکھا جائے گا اور اس کو کرامت کالباس پہننا یا جائے گا۔“

### رسول اللہ اور جناب علیؐ کے ساتھ محسور ہونا:

((قال النبي صلی الله علیہ وآلہ وسلم : من احباب علیاً کان معیٰ و معاً))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو علی کو دوست رکھے گا وہ میرے اور ان کے ساتھ محسور ہو گا۔“

### محبت و نفرت:

((وروى حب علی بن ابی طالب شجرة اصلها فی الجنة واغصانها فی الدنيا، فمن تعلق بها فی الدنيا اور دته الی النار))

”مردی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے دوستی ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ بہشت میں اور اس کی شاخیں دنیا میں ہیں، جس نے ان شاخوں میں سے کسی ایک شاخ کو تھام لیا تو وہ اسے بہشت میں لے جائے گی اور علی سے دشمنی ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ جہنم میں اور اس کی شاخیں دنیا میں ہیں اور جو دنیا میں اس کو تھامے گا وہ اسے دوزخ کی آگ میں لے جائے گی۔“

### فرمان رسالت:

((قال النبي صلی الله علیہ وآلہ وسلم لعلیٰ : حبک ایمان وبغضك نفاق، واولمن يدخل الجنة محبك))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا: تم سے دوستی ایمان کی علامت اور تم سے دشمنی نفاق کی علامت ہے اور تمہیں دوست رکھنے والا بہت پہلے بہشت میں داخل ہو گا۔“



## فصل نمبر 96:

فضل حبہ و ذم بغضہ:

## حضرت علیؑ سے محبت کی فضیلت اور ان سے دشمنی کی مذمت علیؑ سے جنگ صلح:

((فی حدیث قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی: حربک حربی و سلمک سلمی، الی ان قال :و محبک فی الجنة و ان عدوک فی النار))  
”حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم سے جنگ مجھ سے جنگ اور تم سے صلح مجھ سے صلح ہے۔“

((وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :حرب علی حرب الله و سلم علی سلم الله))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیؑ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے اور علیؑ سے صلح اللہ سے صلح ہے۔“

## رسول اللہ کے خاندان سے دشمنی:

((بالاسناد، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم :من احبني فليحب عليا، ومن ابغض  
احدا من اهل بيتي حرم شفاعتني))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مجھے دوست رکھتا ہے اسے علیؑ کو بھی دوست رکھنا چاہیے اور جس نے میرے خاندان میں سے کسی ایک سے دشمنی کی تو وہ میری شفاعت سے محروم ہو گا۔“

## اگر میں مومن کو نقصان بھی پہنچاؤ تو بھی وہ میرا مخالف نہیں ہو گا:

((قال امیر المؤمنین علیؑ رضی اللہ عنہ :لو ضربت خیشوم المومن بسيفی هذا على  
ان يبغضني ما ابغضني، ولو صبیت الدنيا بحملتها على المنافق على ان يحبني ما  
احبني و ذلك انه قضى فانقضى (فانقضى) علی لسان النبی الامی انه قال :يا على الا  
يبغضك مومن ولا يحبك منافق))

”امیر المؤمنین علیؑ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں اس توارے سے مومن کی تاک کاٹ لوں کہ مجھ سے دشمنی کرے وہ ہرگز مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا اور اس پوری دنیا کو منافق کے سامنے بکھیر دوں تاکہ وہ مجھے دوست رکھے تو وہ ہرگز مجھے دوست نہیں رکھے گا۔ یہ وہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی: اے علیؑ! مومن تھا را دشمن نہیں اور منافق تھیں دوست نہیں رکھتا۔“

## محبت علی کا ایک انعام

((عن سعید بن المسیب عن زید بن ثابت قال : قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من أحب علیاً فی حیاتی و بعد موتی كتب اللہ له الا من والايمان ما طلعت الشمس او غربت))

”سعید بن مسیب اور زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری زندگی میں اور میری زندگی کے بعد علی کو دوست رکھا تو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب تک اللہ اس کیلئے امن اور امان لکھے گا۔“

((عن یحییٰ بن عبد الرحمن الانصاری قال : سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول : من احب علیاً محباه و مماته كتب اللہ تعالیٰ له الامن والايمان ما طلعت الشمس وفا غربت))

”یحییٰ بن عبد الرحمن الانصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی علی کو ان کی زندگی میں اور ان کی موت کے بعد دوست رکھتا ہو گا تو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر غروب تک اللہ اس کیلئے امن اور ایمان لکھے گا۔“

## رسول اللہ کے دوست:

((عن عبد الله قال : رأيت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذها بيد علی و هو يقول  
الله ولیی وانا ولیک))

”عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور فرمایا ہے تھے: اے اللہ! یہ میرا دوست ہے اور میں آپ کا دوست ہوں۔“

## بہشت اور جناب علی کے دوست:

((بالاسناد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبيه، عن آبائه قال: إن الجنة لتشتاق لاحباء على رضي الله عنه ويشتد ضرورها لاحباء على رضي الله عنه وهم في الدنيا قبل ان يدخلوها، وإن النار لتغivist ويشتدد زفيرها على اعداء على رضي الله عنه وهم في الدنيا قبل ان يدخلوها))

”جعفر بن محمد سے اور ان کے والد نے اور ان کے اجداد نے روایت فرمایا کہ بہشت علی کے دوستوں کی مشتاق ہے اور اپنی روشنی کو علی رضی اللہ عنہ کے دوستوں کیلئے زیادہ کر رہی ہے جو کہ ابھی تک اس دنیا میں ہیں بہشت میں داخل ہی نہیں ہوئے۔“

## نیکیوں کی حفاظت کا طریقہ حب علی:

((عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من سره ان يجمع  
الله له الخیر کلہ فلیوں علیاً بعدي ولیوں اولیاءه ولیعاد اعداءه))

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی اس بات  
پر خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو اس کیلئے جمع کرے تو اسے میرے بعد علی کو دوست رکھنا چاہیے اور ان  
کے دوستوں کو بھی دوست رکھے گا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔“

## سبت وعداوت علی:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : يا علی ! من احبك ووالاک احبيته  
وراليته، ومن ابغضك وعاداك ابغضته وعاديته لانك مني وانا منك))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! جو تمہیں دوست رکھے گا اور تم سے محبت کرے گا میں اسے  
دوست رکھوں گا اور جو تمہیں دشمن سمجھے گا میں اس کی مخالفت کروں گا کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے  
ہوں۔“

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من احبني فليحب علیا، ومن ابغض علیا  
فقد ابغضني، ومن ابغضني فقد ابغض الله))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مجھے دوست رکھتا ہے اسے علی کو بھی دوست رکھنا چاہیے اور جس  
نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی  
ہے۔“

((قول النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : حبیبک حبیبی وحبیبی حبیب الله، وعدوك  
عدوی و عدوی عدو الله والویل لمن ابغضك بعدی))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تمہارا دوست میرا دوست اور میرا  
دوست اللہ کا دوست ہے اور تمہارا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے، افسوس ہے اس پر جو  
میرے بعد تم سے دشمنی کرے۔“

((وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : من احب علیا اكرمه الله وادناه، ومن ابغض  
علیا و عاداه مقتله الله واخزاه))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے علی کو دوست رکھا اللہ تعالیٰ اسے کرم سمجھے گا اور اپنے  
زدیک کرے گا اور جس نے علی سے دشمنی اور عداوت کی اللہ اس پر غضبناک ہو گا اور اس کو رسوا کرے گا۔“

((عن ابن عمر قال : قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : لعلی رضی اللہ عنہ :

اما تو رضی اے کون عذوک عدوی وعدوی عدو الله، و ولیک ولی و ولی ولی ولی (الله))  
”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا: کیا تم  
اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہوا اور تمہارا دوست میرا دوست اور  
میرا دوست اللہ کا دوست ہو؟“

((قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : یا علی! من احبتک فقد احببی و من  
احببی فقد احب الله و من ابغضک فقد ابغضنی و من ابغضنی فقد ابغض الله))  
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! جس نے تمہیں دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور  
جس نے مجھے دوست رکھا اس نے اللہ کو دوست رکھا۔ جس نے تمہیں دشمن رکھا اس نے مجھے دشمن رکھا اور  
جس نے مجھے دشمن رکھا اس نے اللہ کو دشمن رکھا۔“

### حضرت علی اور یوم القيمة:

((وروی اذا کان یوم القيامة یوتی علی بسریز من نور و علی راسه تاج قدما ضاء نورہ  
و کاد يخطف ابصار اهل الموقف فیاتی اللداء من عند الله جل جلاله: این علی))  
”مردی ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو حضرت علی کو نورانی تخت پر لا جائے گا، اس وقت انہوں نے  
ایک تاج پہنا ہو گا اور اس تاج کا نور اہل محشر کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف  
سے ندا ہو گی: علی کہاں ہیں۔“

### پرحمدار:

((بالاسناد، عن علی بن موسی الرضا عن آبائه قال : قال النبي صلی الله علیہ وآلہ  
وسلم : یا علی! انت اخی وزیری و صاحب لوابی فی الدنيا والآخرة و صاحب  
حوضی، من احبتک احببی و من ابغضک ابغضنی))

”امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی!  
تم اس دنیا میں اور آخرت میں میرے پرچم دار ہو اور میرے حوض کوڑ کے مالک ہو، جس نے تمہیں  
دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے تم سے دشمنی کی اس نے مجھے سے دشمنی کی۔“



فصل نمبر 97:

فی عدالتہ:

## عدالت علی

عادل ترین فرد:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : علی اعدل الناس فی الرعیة))

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی میری رعیت میں عادل ترین فرد ہیں۔“

فانی نعمتیں:

((و قال علی رضی اللہ عنہ فی بعض خطبه: و اللہ لو اعطيت الا قالیم السبعة بما تحت  
افلا کھا علی ان اعصی اللہ فی نملة اسلبها جلب شعیرة ما فعلته، و ان دنیا کم عندی  
لا هون من ورقہ فی فم جواردة تقضمها، ما لعلی و نعیم یفنی ولذة لا تبقى))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک خطبے میں فرمایا: اللہ کی قسم! اگر مجھے سات آسمانوں کے نیچے جو کچھ بھی  
ہے اس کی حکومت دی جائے تاکہ میں ایک چیزوں کے حق میں اللہ کی تافرمانی کروں اور جو کے چھلکے کو اس  
سے لے لوں تو پھر بھی میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، قطعاً یہ تمہاری دنیا میرے نزدیک اس پتے سے بھی  
پست تر ہے جسے مٹھی اپنے منہ میں چباتی ہے۔ علی کو ان فانی نعمتوں اور ختم ہونے والی لذتوں سے کیا  
کام؟“



فصل نمبر 98:

علی و بیت مال المسلمين:

## حضرت علی اور بیت المال

کاغذ اور سیاہی تک کو ضائع نہ کریں:

((بالاسناد عن محمد بن ابراهیم التوفلی رفعه الی جعفر بن محمد انه، ذکر عن آبائه  
ان امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کتبالی عمالہ: ادقوا اقلامکم، وقاربوا بین سطور  
کم، واحد فوا عنی فضولکم، واقتدوا قصد المعانی؛ وايا کم والا کثار، فان اموال  
المسلمین لا تحتمل الا ضرار))

”محمد بن ابراہیم توفی سے نقل ہوا ہے کہ امام جعفر بن محمد باقر نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خادمین سے فرمایا: اپنے قلموں سے بازیک اور سطریں ملائکہ کھیس، زیادہ فاصلہ نہ رکھیں اور میرے لئے زیادہ تعریف نہ لکھیں، مختصر معنی کریں اور زیادہ روی سے پڑھیز کریں، کیونکہ مسلمانوں کا مال ضائع اور اسراف کرنے کیلئے نہیں ہے۔“

### مال رات کو ہی تقسیم کیا جائے:

((عن هلال بن مسلم الجحداری قال: سمعت جدی حرقة او حوة۔ قال: شهدت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اتی بمال عند المساء، فقال: أقسموا هذا المال: فقالوا: قد امسينا يا امير المؤمنین فاخره الى غده، فقال لهم: تقبلون ان اعيش الى الغد؟ فقالوا: ماذا بایدیتا؟ قال: فلا توخروه حتى تقسموه، فاتی بشمع فقسموا ذلك المال من تحت ليلتهم))

”ہلال بن حجری نے کہا کہ میں نے اپنے جد حرقة ( Howe ) سے سنا کہ ایک رات ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھے۔ آپ کے پاس مال لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کو تقسیم کریں۔ انہوں نے کہا: یا امیر المؤمنین! ابھی رات ہے اس کو کل پر چھوڑیں۔ فرمایا: آپ اس کو قبول کرتے ہیں کہ کل میں زندہ رہوں گا؟ کام میں ویرانہ کریں اور مال کو تقسیم کریں۔ پس چراغ لایا گیا اور رات ہی کو مال تقسیم کیا گیا۔“

### سو نے اور چاندی سے خطاب:

((وَكَانَ عَلَى رِضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْسِمُ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كُلَّ جُمْعَةٍ حَتَّى لا يَتَرَكَ فِيهِ شَيْئًا، وَدَخْلُ مِرْأَةِ الْيَوْمِ بَيْتُ الْمَالِ فَوْجَدَ الْذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ فَقَالَ: يَا صَفَراءً! أَصْفَرِي وَيَا بَيْضَاءً!

ابضی وغیری لا حاجۃ لی فیک))

”روایت ہے کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کو پورا بیت المال تقسیم کرتے تھے۔ اس میں سے ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ بیت المال میں داخل ہوئے تو وہاں پر کچھ مقدار سونا اور چاندی دیکھی۔ اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے سونا! زرد ہو جا اور اے چاندی سفید ہو جا! کسی اور کو فریب دو! مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔“

### بیت المال کا سامان فوراً مستحقین میں تقسیم کرنا:

((بِالْأَسْنَادِ، عَنِ الْأَصْبَعِ بْنِ نَبَاتَةِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى بْنَ ابِي طَالِبٍ إِذَا أَتَى

بِالْمَالِ، أَدْخَلَهُ بَيْتَ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ جَمَعَ الْمُسْتَحْقِينَ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ فِي الْمَالِ فَنَثَرَهُ

يمنة و يسراً وهو يقول: يا صفراء يا يضاء الا تغرينى عرى غيرى:

هذا جنای وخياره فيه

اذ كل جان يده الى فيه

ثم لا يخرج حتى يفرق ما في بيت مال المسلمين ويؤتى كل ذي حق حقه، ثم يا مران  
يكنس ويوش، ثم يصلى فيه ركعتين ثم يطلق الدنيا ثلاثة، يقول بعد التسليم: يا دنيا لا  
تتعرضين لي ولا تتشوقين ولا تغرينى، فقد طلقتك ثلاثة لا رجعة لى عليك))

”اصبح بن عبات نے کہا: امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ جس وقت ان کے پاس مال لایا  
جاتا اس مال کو بیت المال میں رکھ دیتے اور اسی وقت حاجت مندوں کو جمع کرتے تھے اور اس کے بعد  
اپنے ہاتھوں کو اموال میں ڈال کر ادھر بھر دیتے اور فرمایا کرتے: اے سونا! اے چاندی! مجھے فریب  
نہ دو! کسی اور کو دھوکہ دو (یہ میرے ہاتھ کا چنان ہوا ہے اور چنے والے کا ہاتھ اس کے منہ کی طرف بلند ہے)  
اس وقت تک بیت المال سے باہر نہیں آتے تھے جب تک اسے تقسیم نہ کریں اور ہر ایک کو اس کا حق دیا  
کرتے تھے۔ اس کے بعد فرماتے تھے: بیت المال کو جھاؤ دے کر پانی سے دھو دیں۔ اس کے بعد دو  
رکعت نماز پڑھتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد دنیا کو تین طلاق دے کر فرماتے تھے: اے دنیا! میرے  
بیچھے مت آنا اور مجھے اپنا مشتاق نہ بنا اور فریب نہ دے۔ میں نے تجھ کو تین طلاقیں دے دی ہیں اور کبھی  
بھی رجوع نہیں کروں گا۔“

### جناب علی کی نظر میں بھائی اور سیاہ غلام برابر:

((عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله رضي الله عنه قال: لما ولى علي رضي الله عنه  
صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أني والله لا أرزوكم من فيكم درهما ما قام  
لي عذر بيشرب فليصدقكم انفسكم، افتروني مانعا نفسى ومعطيكم؟ قال: فقام اليه  
عقيل كرم الله وجه فقال له: والله لتجعلنى واسود بالمدينة سواء؟ فقال: اجلس، أما  
كان ههنا أحد يتكلم غيرك وما فضلك عليه الا بسابقة او بتقوى))

”محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ امام صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس وقت علی رضی اللہ عنہ خلافت پر فائز  
ہوئے، منبر پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و شکار کی اس کے بعد فرمایا: اللہ کی قسم! جب تک میں مدینے میں کھجور کی ٹہنی کا  
مالک ہوں ایک درہ بمی تھمارے مال غنیمت سے کم نہیں کروں گا اور تم اس بات پر یقین کرلو آیا تم یہ تصور  
کرتے ہو کہ میں اپنے لئے نہیں رکھتا اور تمہیں دے دیتا ہوں؟ اس دوران عقیل کھڑے ہو کر کہتے ہیں:  
آپ اللہ کی قسم! مجھے اور اس سیاہ غلام کو برابر کر رہے ہیں جو مدینے میں رہتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ نے  
فرمایا: بیٹھ جاؤ! تمہارے علاوہ کوئی اور بیہاں پر گفتگو کرنے والا نہیں تھا؟ تم اس سیاہ غلام پر کیا برتری رکھتے

ہو؟ مگر اسلام میں سبقت کی وجہ سے یا یہ کہ تم میں تقویٰ اور پرہیزگاری زیادہ ہو۔“

### جناب عقیل کو نصیحت:

((وَذَكْرُ عُمَرٍ بْنِ عَلَاءِ أَنَّ عَقِيلًا لَمَّا سَالَ عَطَاءً هُنَّا بَيْتُ الْمَالِ، قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَقِيمُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَاقْامَ فَلَمَّا صَلِّيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْجُمُعَةَ قَالَ لِعَقِيلٍ: مَا تَقُولُ فِيمَنْ خَانَ هُولَاءِ اجْمَعِينَ؟ قَالَ: بَشَّسَ الرَّجُلُ ذَاكَ، قَالَ: فَإِنْ تَأْمُنَى أَنَّ أَخْوَنَ هُولَاءِ وَاعْطِيهِ))

”عمرو بن علاء نے کہا: جس وقت عقیل نے بیت المال میں سے علی رضی اللہ عنہ سے اپنا حصہ طلب کیا تو امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: جمہ کے دن تک صبر کیا کرو۔ عقیل نے صبر کیا۔ جمہ کے دن نماز سے فارغ ہو کر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے عقیل سے فرمایا: اس شخص کے ہاتھے میں تمہاری کیا رائے ہے جو ان سب لوگوں کے ساتھ خیانت کرے؟ کہا: اس قسم کا آدمی بہت ہی برا ہے۔ فرمایا: تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ خیانت کروں اور ان کا حصہ تمہیں دے دوں؟“



### فصل نمبر 99:

#### نماذج من ایشار علی:

#### ایشار علی

#### علی کا لباس ستا اور غلام کا مہنگا:

((وَرَوْى أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَتَى سُوقَ الْكَرَابِيسَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ وَسِيمَ فَقَالَ: يَا هَذَا أَعْنَدُكَ ثُوبًا بِخَمْسَةِ دِرَاهِمٍ؟ فَوَثَبَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْنَدِي حَاجَتِكَ فَلَمَّا عَرَفَهُ مَضِيَ عَنْهُ، فَوَقَفَ عَلَى غَلَامٍ، فَقَالَ: يَا غَلَامَ أَعْنَدُكَ ثُوبًا بِخَمْسَةِ دِرَاهِمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ عَنِّي ثُوبًا فَاخْدُ ثُوبَيْنِ احْدَهُمَا بِثَلَاثَةِ دِرَاهِمٍ وَالآخَرُ بِدَرَاهَمَيْنِ، - فَقَالَ: يَا قَنْبِرَا خَذْ الَّذِي بِثَلَاثَةِ دِرَاهِمٍ، فَقَالَ: أَنْتَ أَوْلَى بِهِ تَصْدِعَ الْمِنْبَرَ وَتَخْطُبَ النَّاسَ، قَالَ: وَأَنْتَ شَابٌ وَلَكُثْرَةِ الشَّبَابِ وَإِنَّا أَسْتَحِيُّ مِنْ رَبِّي أَنْ اتَّفَضَلَ عَلَيْكَ، سَمِعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَالِبُوهُمْ مَمَّا تَأَكَلُونَ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کپڑے کے بازار میں داخل ہوئے۔ آپ کی ایک خوبصورت شخص سے ملاقات ہوئی تو اس سے فرمایا: اے شخص کیا تمہارے پاس پانچ درہم والے دولباس ہیں۔ وہ شخص اپنی جگہ سے

کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے: یا امیر المؤمنین! جو آپ کو چاہیے میرے پاس موجود ہے۔ جب حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ دیکھا کہ اس شخص نے انہیں پہچان لیا ہے تو اسے چھوڑ کر ایک غلام کے پاس آئے اور اس سے فرمایا: اے غلام! کیا تمہارے پاس پانچ درہم والے دولباس ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! میرے پاس دولباس ہیں۔ حضرت علیٰ نے ان دولباس میں سے ایک لباس کو تین درہم اور دوسرے کو دو درہم میں خریدا۔ پھر اپنے غلام قنبر سے فرمایا: تین درہم والا لباس تم لے لو۔ قنبر نے عرض کیا: آپ اس کے لائق ہیں اور یہ لباس آپ کی شخصیت کے مطابق ہے، کیونکہ آپ منبر پر جا کر لوگوں کو خطبے مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم جوان ہو اور جوانی کی خواہشات تم میں ہیں اور میں بارگاہ الہی میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ خود کو تم پر ترجیح دوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے غلاموں کو وہ لباس پہنانا میں جو خود پہنتے ہو اور وہی کھانا کھلانا کھلائیں جو خود کھاتے ہو۔“

### تمن دن پانی سے روزہ رکھنا اور پانی سے افطار کرنا:

((قال الباقر رضی اللہ عنہ فی قوله تعالیٰ: یو فون بالنذر ویخافون قال: مرض الحسن والحسن وہما صیان صفار (صغریان) فعادہمما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و معہ رجالان فقال احد هما: یا ابا الحسن لو نذرت فی ابنیک نذرا ان اللہ عافاهما، فقال: اصوم ثلاثة ایام شکر اللہ تعالیٰ و كذلك قالت جاريتهم فضة فالبسهما اللہ العافية فاصبحوا صیاما وليس عندهم طعام، فانطلق على رضی اللہ عنہ الی جارله من اليهود يقال له: شمعون يعالج الصوف: فقال هل لك ان تعطيني جزءة من صوف تغزلها لك ابنة محمد بثلاثة اصوات من شعیر؟ قال: نعم فاعطاه فجاء بالصوف، والشعیر و اخبر فاطمة فقبلت و اطاعت؛ ثم عمدت فغزلت ثلت الصوف: ثم اخذ صاعا من الشعیر فطحنته و عجنته و خبزت منه خمسة اقراض لکل واحد قرصا، وصلی علىي مع النبي المغرب، ثم اتی منزله فوضع الخوان و جلسوا خمستهم فاول لقمه سرها على رضی اللہ عنہ اذا مسکین قد وقف بالباب، فقال: السلام عليکم يا اهل بيت محمد انا مسکین من مساکین المسلمين اطعمونی مماتا کلون اطعمکم اللہ من موائد الجنة، فوضع على اللقمة من يده (الی ان قال) و عمدت (ای فاطمة) الی ما كان على الخوان فدفعته الى المسکین، وباتوا جياعاً واصبحوا صیاماً لم يذوقوا الا الماء الکراخ، ثم عمدت الى الثالث الثاني من الصوف فغزلتہ ثم اخذت صاعاً من الشعیر فطحنته و عجنته و خبزت منه خمسة اقراض لکل واحد قرصاً وصلی على المغرب مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ، ثم اتی منزله فلما وضع الخوان بين يديه و جلسوا

خمستهم فاول لقمه كسرها على اذا يتيم من يتامى المسلمين قد وقف بالباب، فقال : السلام عليكم يا اهل بيت محمد انا يتيم من يتامى المسلمين اطعمونى مما تأكلون اطعمكم الله من موائد الجنة، فوضع على اللقمة من يده (الى ان قال) ثم عمدت فاطمة الى جميع ما في الخوان ، واعطته وباتوا جياعاً لم يذوقوا الا الماء القراب واصبحوا صياماً، وعمدت فاطمة فغزلت الثلت الباقى من الصوف وطحت الصاع الباقى؛ وعجبت وخبرت منه خمسة اقراص لكل واحد منهم قرصاً وصلى المغرب مع النبي ثم اتى منزله فقرب اليه الخوان وجلسوا خمستهم فاول لقمة كسرها على رضى الله عنه اذا اسير من اسراء المشركين قد وقف بالباب فقال : السلام عليكم يا اهل بيت محمد تا سرورنا، وتشدونا ولا تطعموننا؟! فوضع على رضى الله عنه اللقمة من يده (الى ان قال) وعمدوا الى ما كان على الخوان فاعطوه، وباتوا جياعاً واصبحوا مفطرين وليس عندهم شيء۔ قال شعيب في حديثه : واقبل على رضى الله عنه بالحسن والحسين نحو رسول الله صلى الله عليه وآلہ وہما یرتعشان کافراخ من شدة الجوع، فلما بصر بهم النبي صلى الله عليه وآلہ وقال یا بآلا الحسن شدما یسونی ما ارى بکم، انطلق الى ابنتي فاطمة، فانطلقا وھی فی محرابها قد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع، وغارث عیناها فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وآلہ ضمها اليه فقال : واغوثاه بالله انتم من ثلاثة فيما ارى وانا غافل عنکم فھب جبرئيل فقال : يا محمد خذ ما هنا الله لك في اهليتك ، قال : وما آخذنيا جبرئيل؟ قال : هل اتى على الانسان حين من الدهر، حتى بلغ الى قوله : (ان هذا كان لكم جراء و كان سعيکم مشکوراً )

”امام محمد باقر رضي الله عنه نے کلام الہی : ”یو فون بالندروی خافون“ کے بارے میں فرمایا : حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں بچپن میں بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو اصحاب کے ساتھ ان کی غیادت کے لئے آئے۔ ان میں سے ایک نے علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا : اگر اپنے ان دو فرزندوں کیلئے نذر کرو تو اللہ انہیں شفادے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا : شکر الہی کی خاطر میں تین دن روزے رکھوں گا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایسے ہی فرمایا، بچوں نے بھی کہا : ہم بھی تین دن روزے رکھیں گے اور ان کی کنیز فضہ نے بھی ایسا ہی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو شفادی اور سب نے روزے رکھنا شروع کر دیئے۔ اس دن ان کے پاس غذا نہیں تھی۔ علی رضی اللہ عنہ اپنے یہودی ہمایہ کے پاس آئے جس کا نام شمعون تھا جو اون کا کام کرتا تھا، اس سے فرمایا : کیا تم مجھے کچھ مقدار میں

اون دو گے تاکہ اس کو محمد کی بیٹی تین صاع جو کے بد لے میں کات لے۔ اس نے کہا: ہاں! اور کچھ مقدار اون حضرت علی کو دے دی۔ حضرت علی اون اور جو کو گھر لائے اور سیدہ فاطمہ کو بتایا۔ سیدہ فاطمہ نے قبول کیا اور اطاعت کی۔ اس وقت حضرت فاطمہ نے اون کا تیرا حصہ کات لیا اور تین کلو جواٹھا لئے اور ان کا آٹا نکال کر پانچ روٹیاں بنائیں۔ ہر ایک فرد کیلئے ایک روٹی پکائی۔ علی رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی اور گھر تشریف لائے، دستر خوان لگایا گیا، پانچوں افراد دستر خوان پر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلا رقمہ ہی توڑا تھا کہ نایبنا نے صد اوی: اے آل محمد! تم پر سلام ہوا! میں ایک نایبنا مسلمان ہوں جو کچھ خود کھار ہے ہو مجھے بھی کھلاؤ۔ اللہ تم کو بہشتی دستر خوان کا کھانا عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رقمہ رکھ دیا، سیدہ فاطمہ نے سارا کھانا اٹھا کر نایبنا کو دے دیا۔ سب بھوکے رہ گئے اور فقط پانی کے ساتھ افطار کیا۔ دوسرے دن سیدہ فاطمہ نے کچھ مقدار اور اون کو کاتا اور تین کلو جو پیس کر آٹا گوندھا اور پانچ روٹیاں بنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور گھر تشریف لائے۔ دستر خوان بچھایا گیا، پانچوں افراد دستر خوان پر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلا رقمہ توڑا ہی تھا کہ باہر سے ایک یتیم مسلمان کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا: اے آل محمد! سلام تم پر! میں ایک یتیم مسلمان ہوں جو کچھ خود کھار ہے ہو مجھے بھی کھلاؤ۔ اللہ آپ کو بہشتی دستر خوان سے نعمتیں عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رقمہ رکھ دیا اور فاطمہ! نے دستر خوان کا تمام کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ خود بھوکے رہ گئے اور پانی کے ساتھ افطار کیا۔ تیرے دن پھر روزہ رکھا۔ تیرے دن فاطمہ نے باقی بچی ہوئی اون کو کات لیا اور باقی ماندہ جو کا آٹا بنایا اور پانچ روٹیاں پکائیں اور ہر ایک کیلئے ایک روٹی بنائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور گھر تشریف لائے جس وقت دستر خوان لگایا گیا تو پانچوں افراد دستر خوان پر بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلا رقمہ اٹھایا ہی تھا کہ ایک مشرک اسیر نے گھر کے دروازے پر آواز دی: اے آل محمد! سلام ہو آپ پر! آپ ہمیں اسیر کر کے قید میں بند کر دیتے ہیں کیا مجھے کھانا نہیں دو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رقمہ رکھ دیا اور جو کچھ بھی دستر خوان پر تھا سب کا سب اسیر کو دیدیا اور خود بھوکے رہ گئے اور ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی جس سے وہ افطار کرتے۔ شعیب نے حدیث میں نقل کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ اس وقت یہ دونوں بچے سخت بھوک کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑی تو فرمایا: اے ابا الحسن! آپ کی حالت دیکھ کر کس قدر مجھ پر ناگوار ہے! بیٹی فاطمہ کے گھر چلیں۔ سب روانہ ہوئے۔ جب سیدہ فاطمہ کے گھر پہنچے اس وقت سیدہ فاطمہ محراب عبادت میں تھیں۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا شکم پیٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا اور آنکھیں

اندر کی طرف ہنس گئی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی یہ حالت دیکھی تو ان کو اپنے قریب بھایا اور فریاد بلند کی: آہ! تمین دن۔ سے آپ اس حالت میں گزار رہے ہیں اور مجھے خبر تک نہیں! اس وقت جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کیا: اے محمد! لے لیں اس مبارک پاد کو جو اللہ نے آپ خاندان کے بارے میں عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل! کس چیز کو لے لوں؟ جبرائیل نے (سورہ وہر کی) ہل اتی علی الانسان حین من الدھر سے اس آیت تک تلاوت کی: ان هدا کان لكم جزاًء و کان سعیکم مشکورا۔“

### آیات کا نزول:

((قدروی الخاص والعام ان الایت من هذه السورة وهي قوله: ان الا برار يشربون من کاس کان مزاجها کافوراً، عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً، يوفون بالنذر ويخافون يوماً کان شره مستطيراً، ويطعمون الطعام على حبه مسکيناً ويتيمماً واسيراً، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاًء ولا شکوراً انا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً فوقا هم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نصرة وسروراً وجزاهم بما صبروا جنةً وحريراً الى قوله: کان سعیکم مشکوراً، انزلت في علی وفاطمة والحسن والحسین ز جارية لهم تسمی فضة وهو المرwoی عن ابی عباس ومجاهد وابی صالح))

”خاص و عام دونوں نے روایت کی ہے کہ اس سورت کی آیات: ان الا برار يشربون سے کان سعیکم مشکوراً یعنی یقیناً نیک لوگ (جنت میں) مشروب کے ایسے ساگر پیس گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور (با وجود یہ کہ ان کو خود طعام کی حاجت ہے) اللہ کی محبت میں مسکین اور پتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (اور ان سے کہتے ہیں کہ) ہم تم کو خالص اللہ کیلئے کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے نہ کوئی بدله چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ بے شک ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچائے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشی گا اور ان کے صبر کے بدالے میں انہیں جنت میں ریشمی لباس عطا کرے گا (اور ان سے کہے گا یہ تمہارا اصلہ ہے اور تمہاری کوشش اللہ کے ہاں) مقبول ہوئی۔ یہ آیات حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین اور ان کی کنیز فضہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ یہی روایت اہن عباس، مجاهد اور ابو صالح سے بھی مردوی ہے۔“

## فصل نمبر 100:

سیدنا علیٰ ورعایة الارامل وکفالة الایتام وتحریر الرقاب و المستضعفین :

**حضرت علیٰ کا بیوہ عورتوں، تیمبوں کی کفالت کرنا، غلام کو آزاد کرانا اور مستضعفین بیوہ اور تیم بچوں کی کفالت:**

((ونظر علیٰ رضی اللہ عنہ الی امراء علیٰ کتفها قربۃ ماء، فاخذ منها القربة فحملها الی موضعها، وسالھا عن حالھا فقالت: بعث علیٰ بن ابی طالب صاحبی الی بعض الشغور فقتل، وترك علیٰ صبياناً يتامی، وليس عندي شيء، فقد الجاتنی الضرورة الی خدمة الناس، فانصرف وبات لیلته قلقاً فلما اصبح حمل زنبیلاً فیه طعام، فقال بعضهم: اعطنى احمله عنك، فقال: من يحمل وزرى عنى يوم القيمة؟ فاتى وقرع الباب، فقالت: من هذا؟ قال: أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربة، فافتتحي فان معى شيئاً للصبيان، فقالت: رضی اللہ عنك و حکم بیني وبين علیٰ بن ابی طالب ، فدخلوا قال: انی احبت اكتساب الثواب ، فاختاری بین ان تعجذین وتخبرینوبین ان تعللین الصبيان لا خبز انا ، فقالت: انا بالخبز ابصر وعليها قادر، ولكن شانک ولا صبيان، فعللهم حتى افرغ من الخبز، قال فعمدت الى الدقيق فعجذتیه، وعمد على رضی اللہ عنہ الی اللحم فطبخه، وجعل يلقم الصبيان من اللحم والتمر واغیره، فكلما ناول الصبيان من ذلك شيئاً قال له: يا بني! اجل على بن ابی طالب في حل مما امرتني به فلما اختمر الغجين قال: يا عبد الله اسجر التئور فبادر بسجره فلما اشعله ولفحه وجهه جعل يقول: ذق يا علیٰ هذا جزاء من ضیع الارامل والیتامی ، فراته امرأة تعرفه فقالت: ويحلک اهذا امیر المؤمنین، قال فبادرت المرأة وھی تقول: واحیائی هنک يا امیر المؤمنین فقال بیل واحیائی هنک يا امة الله فيما قصرت في امرک))

”ایک دن حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک راستے سے گزر ہوا۔ انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جس نے پانی کی مشک اٹھائی ہوئی تھی۔ حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے اس سے مشک لے کر اسے اس کی منزل مقصد تک پہنچایا۔ اسی ضمن میں اس سے احوال پرسی بھی کی۔ عورت نے کہا: علیٰ بن ابی طالب نے میرے شوہر کو ایک محاذ پر بھیجا، وہ وہاں قتل ہو گیا، اس وقت میرے پاس چند تیم بچے ہیں جن کی دیکھ بحال کر رہی ہوں اور

میری مالی حالت بہت خراب ہے۔ مجبور ہوں کہ لوگوں کے کام کا ج کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر واپس آئے اور رات سے لے کر صبح تک پریشان رہے۔ صبح سوریے جس نوکری میں کھانا رکھا ہوا تھا اس کو اٹھایا اور اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی نے حضرت علی سے کہا: نوکری مجھے دے دیں میں اٹھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا: قیامت کے دن کون میرا بھاری وزن اٹھائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس عورت کے گھر پہنچے اور دستک دی۔ عورت نے کہا: کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں وہی ہوں جس نے کل تمہاری مدد کی اور منکر کو گھر تک پہنچایا، دروازہ کھولیں میں بچوں کے لئے کچھ لا لایا ہوں۔ عورت نے کہا: اللہ تم پر راضی ہو اور میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا: مجھے ثواب کمانا بہت پسند ہے۔ ان دو کاموں میں سے ایک کو اختیار کرو یا آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤ یا بچوں کی دیکھ بھال کرو اور میں روٹی پکاؤں۔ عورت نے کہا: میں روٹی پکانے میں ماہر ہوں اور بہتر یہی ہے کہ میں اس کام کو انتخاب کروں۔ تم بچوں کی دیکھ بھال کرو جب تک میں روٹی پکانے سے فارغ ہو جاؤں۔ عورت نے آٹا گوندھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے گوشت پکایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گوشت اور کھجور کے لقے بنا بنا کر بچوں کو کھلارہے تھے اور ہر لقہ کھلاتے وقت فرم رہے تھے: بچو! جس مشکل کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے علی این ابی طالب کو معاف کر دو۔ جس وقت آٹا تیار ہو گیا عورت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: تم تصور جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تصور جایا۔ جس وقت آٹگ کے شعلے بھڑ کنے لگے اور ان کے اثرات آپ کے چہرے تک پہنچے تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے: اے علی! چکھ لو! یہ اس کی سزا ہے جس نے بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی دیکھ بھال نہیں کی۔ اسی دوران ایک عورت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہچانتی تھی گھر میں داخل ہوئی۔ گھر کی مالکہ سے کہا: حیف ہو تم پر! یہ امیر المؤمنین ہیں۔ عورت بہت شر مسار ہوئی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کی بندی! مجھے تم سے شرمندہ ہونا چاہیے کیونکہ مجھ سے کوتا ہی ہوئی ہے۔“

### تیمیوں کو شہد کھلاتا:

((ابو الطفیل: رأیت علیاً رضی الله عنه يدعو اليتامي فيطعمهم العسل، حتى قال بعض اصحابه، لو ددت اني كنت يتيمماً))

”ابو طفیل نے کہا: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ تیمیوں کو بلا کر شہد کھلارہے تھے۔ اس وقت ان کے ایک ساتھی نے کہا: اچھا تھا کہ میں بھی یتیم ہوتا۔“

### مساکین کا مددگار:

((بلاسنا، عن ابی بصیر، عن ابی عبد الله قال :قال امیر المؤمنین علی رضی الله عنه: انا الہادی والمهتدی، وابو اليتامي، وزوج الارامل والمساکین، وانا ملجم كل ضعیف

(و ما من كل خائف))

”ابوصیر نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ہدایت کرنے والا ہوں اور ہدایت یافتہ ہوں اور تیمور کا باپ اور بیوہ عورتوں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا ہوں، میں ہر کمزور اور ضعیف کی پناہ گاہ ہوں اور ہر خوف زدہ کیلئے امان ہوں۔“

### ہزار غلاموں کو آزاد کرنا:

((عن زید الشحام عن ابی عبد الله رضی الله عنه قال: ان علياً رضی الله عنه اعتق الف مملوك من (ماله) كديده))

”زید بن شحام کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہزار غلاموں کو آزاد کیا۔“

((عن الباقر رضی الله عنه انه قال: اعتق على رضی الله عنه الف عبد))

”امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: علی رضی اللہ عنہ نے ہزار غلاموں کو آزاد کیا۔“

### عثمان بن حنیف کو نصیحت:

((ومن كتاب له رضي الله عنه الى عثمان بن حنيف الانصارى۔ وهو عامله على البصرة۔ وقد بلغه انه دعى الى وليمة قوم من اهلها فمضى اليها :اما بعد يا ابن حنيف ! فقد بلغنى ان رجالاً من فتية اهل البصرة دعاك الى مأدبة فاسرعت اليها، تستطاب لك الالوان، وتنقل اليك الجفان، وما طنت انك تجib الي طعام قوم عائلهم مجفو، وغنيهم مدعو، فانظر الى ماتقضمه من هذا المقتضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما ايقنت بطيب وجهه فنل منه، الا وان لكل ماموم اما ما يقتدى به، ويستضىء بنور علمه، الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بطعميه، ومن طعم بقرصيه، الا وانكم لا تقدرون على ذلك، ولكن عينوني بورع واجتهاد، و عفة وسداد، فوالله ما كنرت من دنيا كم تبرا، ولا اذخرت من غنائمهم او فقرا، ولا اعذت لبالي ثوبى طمرا..... ولو شئت لا هتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ، والباب هذا القمح، ونسائج هذا القز، ولكن هيئات ان يغلبني هواي، ويقودنى جشعى الى تخير الا طعمة، ولعل بالحجاز او اليمامة من لا طمع له في القرص، ولا عهد له باشبع ،وابيت مبطانا وحولي بطون غرثى، وآکباد حرى، او اكون كما قال القائل:

وحسبك داء ان تبيت ببطنك

وحولك اكباد تحنالى القد

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ کے خطوط میں سے ایک خط جوانہوں نے اپنے بصرہ کے گور زعثمان بن حنفیف انصاری کو لکھا جب حضرت علیٰ کو اطلاع ملی کہ عثمان بن حنفیف کو بصرہ کے ایک شخص نے دعوت دی اور عثمان اس کی دعوت کھانے گئے ہیں۔ اما بعد اسے حنفیف کے بیٹے! مجھے اطلاع ملی ہے کہ بصرہ کے ایک نوجوان نے مجھے دعوت کیلئے بلا یا اور تو نے اس کی دعوت قبول کی ہے۔ اس نے تیرے لئے کئی قسموں کے کھانے تیار کئے اور مختلف قسم کے برتن لایا۔ میرے گمان میں نہیں تھا تو ان کی دعوت کو قبول کرے گا جو حاجت مندوں کو بھاگا دیتے ہیں اور ستھاروں کی دعوت کرتے ہیں۔ ابھی نگاہ کرو کہ کس چیز کو دستر خوان پر کھا رہے ہو! کچھ غذا تیرے لئے مشکوک ہے اس کو منہ سے نکال دے اور جس چیز کا یقین ہے کہ حلال کے ذریعہ سے مہیا ہوئی ہے اس کو کھائے۔ جان لو کہ ہر شخص کو ایک پیشوائی کی پیروی کرنی چاہیے اور اس سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ جان لیں کہ تمہارے پیشوائے اس دنیا میں دوپرانے لباس اور دو جو کی روٹیوں پر اکتفا کیا۔ جان لیں کہ اس کام کیلئے تمہارے پاس قدرت نہیں لیکن پرہیز گاری و عفت کی تلاش و کوشش میں میری مدد کرو۔ اللہ کی قسم! میں نے تمہاری اس دنیا میں نہ کوئی زر و دولت جمع کی، نہ ہی غنائم میں اور مال میں ذخیرہ کیا ہے اور نہ ہی اپنے پرانے لباس کو تبدیل کرنے کیلئے کوئی دوسرا پرانا لباس فراہم کیا ہے۔ اگر میں ایسا چاہتا تو اپنے لئے خالص شہد اور پشم سے بنا ہوا لباس مہیا کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ محال ہے کہ ہوائے نفس مجھ پر غلبہ کرے اور حرص مجھے مختلف کھانوں کی طرف لے جائے اور شاید کوئی حجاز یا یمامہ میں موجود ہو جس کے پاس کھانے کیلئے روٹی نہ ہو اور نہ ہی کبھی پیٹ بھر کے کھایا ہو، کیا میں پیٹ بھر کر سو جاؤں اور میرے اطراف میں بھوکے پیٹ اور پیاس سے جگر موجود ہوں یا ایسا بن کر رہوں جس طرح کسی نے یہ شعر کہا ہے:

”یہ درد آپ کیلئے کافی ہے رات کو پیٹ بھر کر سو جاؤ اور دوسری طرف لوگ بھوکے ہوں اور اس تمنا میں ہوں کہ کہیں سے خوراک کا چھلکا ہی میسر ہو جائے۔“

### مالک الاشتہر کو غرباء کے ساتھ حسن سلوک کی تائید:

((وَفِي عَهْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى مَالِكَ الْإِسْتَرِ الْجَعْدِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَمْرَبَهُ اللَّهُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ الْإِشْتَرِ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ أَمْرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَإِشَارَ طَاعَتَهُ، وَاتَّبَاعَ مَا أَمْرَبَهُ فِي كِتَابِهِ: مِنْ فِرَائِضِهِ وَسَنَنِهِ الَّتِي لَا يَسْعُدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِهَا، وَلَا يَشْقَى إِلَّا مَعَ جَحودِهَا وَاضْعافِهَا، وَإِنْ يُنْصَرِ اللَّهُ سَبَحَانَهُ بِقَلْبِهِ، وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ، فَإِنَّهُ جَلَّ اسْمَهُ قَدْ تَكَفَلَ بِنَصْرِهِ مِنْ نَصْرَهُ، وَاعْزَازٌ مِنْ أَعْزَاهُ وَأَمْرَاهُ إِنْ يَكْسِرْ نَفْسَهُ عِنْدَ الشَّهْوَاتِ، وَيَزْعُمُهُ عِنْدَ الْجَمْحَاتِ فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَارَ حَمَّ اللَّهُ أَنْصَفَ اللَّهَ وَأَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ وَمِنْ لَكَ فِيهِ هُوَ)

من رعيتك ، فانك الا تفعل تظلم ! ومن ظلم عباد الله : كان الله خصمة دون عباده ، ومن خاصمه الله ، ادحض حجتهم ، و كان لله حرباً حتى ينزع ويتوب ، وليس شيء ادعى الى تغيير نعمة الله وتعجيز نقمته من اقامة على ظلم ، فان الله يسمع دعوة المضطهدین ، وهو للظالمین بالمر صاد ثم الله الله في الطبقة السفلی من الذين لا حيلة لهم من المساکین والمحتاجین واهل البوسی والزمنی ، فانفی هذه الطبقة فانعاً ومعمراً ، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم ، واجعل لهم قسماً من بيت مالك ، وقسماً من غلات صوافی الاسلام في كل بلد ، فان للاقصی منهم مثل الذى للادنی ، وكل قد استرعیت حقه ، فلا يشغلنك عنهم بطراء ، فانك لا تغدر بتضییع التافه لا حکامك الكثیر المهم ، فلا تشخض همک عنهم ، ولا تصعر خدک لهم ، وتفقد امور من لا يصل اليک منهم ممن تقتحمه العيون ، وتحقره الرجال ، ففراغ لا ولئک من اهل الخشیة والتواضع ، فلیرفع اليک امورهم ، ثم اعمل فيهم بالاعذار الى الله يوم تلقاہ ، فان هولاء من بين البریعیة احوج الى الانصاف من غيرهم ، وكل فاعذر الى الله في تادیة حقه اليه ، وتعهد اهل البیتم وذوى الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسالة نفسه ، و ذلك على الولاة ثقيل ، والحق کله ثقيل ، وقد يخففه الله على اقوام طلبوا العاقبة فصبروا انفسهم ، ووثقوا بصدق موعد الله لهم و ایاك والمن على رعيتك باحسانك ، او التزید فيما کان من فعلک ، او ان تعدهم فتبیع موعدک بخلافک ، فان المن يبطل الاحسان ، والتزید يذهب بنور الحق ، والخلف يوجب المقت عند الله والناس ، قال الله تعالى : کبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون )

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو مالک اشتہر کو خط لکھا: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے بندے امیر المؤمنین علی کافرمان ہے مالک اشتہر کو جوان کے ساتھ پیمان باندھا گیا، اس کو اللہ کے خوف کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کو دوسرے کاموں پر مقدم کرنا اور جو کچھ بھی اللہ کی کتاب میں ذکر ہوا ہے واجبات اور سنت الہی کی پیروی کرے، وہ احکامات فرامیں جن کی پیروی کرنے کے بغیر کسی کو سعادت حاصل نہیں ہوگی اور جو بھی اس کی سنت اور فرمان کا انکار کرے سوائے بد بختی کے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوگی اور ان کو حکم دے رہے ہیں ہاتھ اور زبان اور قلب سے اللہ کی، وہ کرے کیونکہ اللہ اس کو کامیابی عطا کرے گا جو اس کی مدد کرے گا اور جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے اور اس کو حکم دے رہے ہیں کہ خواہشات نفسانی سے پرہیز کرے اور جس وقت نفس اس پر حملہ کرے تو اس کو بھگا دے کیونکہ نفس اس کو برائی پر مجبور کرتا ہے مگر وہ انسان نفس کا شکار نہیں ہوتا جس پر

اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اپنی نزدیکی رشتہ داروں اور رعیت کیسا تھا جن کو دوست رکھتے ہو عدل اور انصاف کرو۔ چنانچہ اگر ایسا نہ کیا تو ظلم کیا ہے اور جو بھی اللہ کے بندوں پر ظلم کرے اللہ بندوں کی بجائے خود ان کا دشمن ہے اور اللہ جس کا دشمن ہواں کی دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اس عمل سے دور ہو جائے اور توبہ کرے۔ ظلم کے بغیر کوئی چیز بھی اللہ کی نعمت میں تبدیلی نہیں لاتی اور اللہ کے غصب کو فوراً فراہم نہیں کرتی کیونکہ اللہ مظلوموں کی فریاد کو سنتا ہے اور ظالموں کا مقابلہ کرتا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو بالخصوص معاشرے کے محروم طبقہ کے لوگوں کیلئے جو بیچارے اور مفلس لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں، محتاج ہیں، مشکلات اور سختیوں کا شکار ہیں۔ چنانچہ اس محروم طبقہ میں کچھ ایسے فقیر بھی ہیں جو تھوڑی سی چیز پر صبر کر لیتے ہیں اور دوسروں کے مزاحم نہیں بنتے اور ایسے فقیر بھی ہیں جو اپنی حاجت کو پورا کرنے کیلئے دوسروں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ پس اللہ کی رضايت اور اس کے حق کی اطاعت کر، جس کو اس نے ان لوگوں کیلئے معین کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے اس کو انجام دے اور کچھ حصہ بیت المال میں سے اور کچھ حصہ ان غلات میں سے جو زمینیں غنائم اسلام میں سے ہیں شہر میں محروم طبقہ کے لوگوں کے لئے قرار دے، چونکہ دور رہنے والے مسلمان اور قریب رہنے والے دونوں برابر کے حصہ دار ہیں اور تم مسول ہو کہ مساوات میں رعایت کرو کہیں پہ ایسا نہ ہو کہ حکومت کی خوشی تم کو ان کی مدد اور دسترسی سے روک لے۔ کبھی بھی زیادہ اور اہم کاموں کی وجہ سے چھوٹی مسویت اور ذمہ داری کو چھوڑ دینا قابل قبول نہیں ہو گا اور ہمیشہ ان کی مشکلات کی فکر میں رہو اور ان سے بے تو جہی نہ کرو بالخصوص ان لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کرو جن کی پہنچ تم تک نہیں ہے اور آنکھیں ان کو حقارت سے دیکھتی ہیں اور لوگ ان کو تقریر جانتے ہیں، ایسے گروہ کیلئے ان افراد میں سے ایک فرد کا انتخاب کرو جو تمہارے لئے سورہ اطمینان ہو، فروتن اور اللہ کے لیے ترس کرنے والا ہو کہ ان کے بارے میں تحقیق کرے اور ان کے مسائل تم تک پہنچائے، تم ان کی مشکلات کو دور کرنے کیلئے ایسا عمل انجام دوتا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارا اعزز رقابل قبول ہو چونکہ وہ لوگ تمہاری رعیت میں سے دوسروں کی نسبت زیادہ عدالت کے نیاز مند ہیں، پس ہر ایک کے حق کو ادا کرنے میں اللہ کے نزدیک تمہارے پاس عذر اور جلت ہوں۔ یہیں اور بڑھوں میں جولا چاروں مجبور ہیں جن کے پاس کوئی حلیلہ نہیں اور دوسروں سے سوال نہیں کرتے ان کی حاجت کو پورا کرو۔ البتہ یہ کام حکمرانوں کیلئے بھاری اور سلکیں ہے اور ہر حق کا وزن بھاری ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے کندھے پر اس کا وزن ہلکا کر دیتا ہے جو آخرت کے طالب ہیں اور اپنے نفس کو صبر کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور پروردگار کے کئے ہوئے وعدے پر مطمئن ہیں۔ جن لوگوں کی خدمت کی ہے ان سے مت کہو کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے یا جو کچھ بھی انجام دیا ہے اس کو بڑا نہ سمجھو۔ لوگوں سے جو وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ احسان

جتلانا نیک کام کی اجرت کو ختم کر دیتا ہے اور کام کو بڑا سمجھنا حق کے نور کو بچھا دیتا ہے اور وعدہ خلائق کرنا اللہ کے غضب اور لوگوں کے غصے کو زیادہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو کہواں پر عمل نہ کرو۔“

### تین غلاموں کو بیت المال کی خدمت کے لیے آزاد کرنا:

((بالاسناد، عن ابی عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: اوصی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ فقال: ان ابا نیز درور با حاو جبیرا عقوبا علیان یعملوا فی المال خمس سنین))

”امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی اور فرمایا: ابو نیز، رباح اور جبیر اس شرط پر آزاد کیے گئے ہیں کہ وہ پانچ سال بیت المال میں کام کریں گے۔“



### فصل نمبر 101:

#### ذکر قول النبی تمرق مارقة من الناس بلی قتلهم اولی الطائفین بالحق:

**رسول اللہ کا فرمان کہ ایک بہترین گروہ خارجیوں کو قتل کرے گا**

### حدیث نمبر 1:

((اخبرنا محمد بن المثنی قال: حدثنا عبد الاعلى، قال: حدثنا داود عن ابی نصرة، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: تمرق مارقة من الناس بلی قتلهم اولی الطائفین بالحق))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 453 رقم 8457 وص 469 رقم 8501 وطبع آخر ج 5 ص 144 رقم 1158 وص 158 رقم 8554، صحیح مسلم من 432 رقم 24602458، سنن ابی داود ج 4 ص 284 رقم 4667، مسند احمد ج 3 ص 25 رقم 11214 وص 32 رقم 11295 وص 46 رقم 11436 وص 48 رقم 11468 وص 79 رقم 11772 وص 97 رقم 11943، صحیح ابن حبان ج 15 ص 129 رقم 6735، السنن الکبری للبیهقی ج 8 ص 187 رقم 16779))

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں میں سے ایک گروہ خرونخ کرے گا، انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے قریب ترین ہوگا۔“  
لوٹ: یاد رہے کہ خوارج کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی۔

### حدیث نمبر 2:

((اخبرنا قتيبة بن سعید) قال: حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن ابی نصرة عن ابی سعید

الحدیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: تمرق مارقة من

الناس تلی قتلهم اولی الطائفین))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 470 رقم 8502 وطبع آخر ج 5 ص 158 رقم 8555، منhadhmag 3 ص 63 رقم 11634، مندارابی داود الطیالی ص 287 رقم 2165 وطبع جدید ج 2 ص 559 رقم 2279، دلائل النبوة للیہیقی ج 5 ص 189، کتاب الشیلا بن ابی عاصم ص 585 رقم 132)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں میں سے ایک گروہ لکھے گا، انہیں دو گروہوں میں سے (حق کے) قریب ترین گروہ قتل کرے گا۔“

### حدیث نمبر 3:

((اخبرنا قتيبة بن سعید قال: حدثنا ابو عوانة عن قتادة، عن ابی نضرة، عن ابی سعید الخدری قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تكون امتی فرقتين فيخرج من بينها مارقة یلیی قتلهمما او لا هما بالحق))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 470 رقم 8503 وطبع آخر ج 5 ص 158 رقم 8556، مندارابی یعلی ج 1 ص 526 رقم 1241 وص 563 رقم 1340 وص 446 رقم 1032، شرح الشیلا ج 6 ص 165 رقم 2555، تخفیف الاخیار بترتیب شرح مشکل الآثار ج 9 ص 338 رقم 6682، سنن سعید بن منصور ج 2 ص 345 رقم 2972)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے دو گروہ ہو جائیں گے (گروہ علی و گروہ معاویہ) پھر ان دونوں کے درمیان سے ایک گروہ (خارج کا) نکل جائے گا۔ انہیں دو گروہ قتل کرے گا جو حق کے قریب ترین ہو گا (گروہ علی)۔“

### حدیث نمبر 4:

((اخبرنا عمرو بن علی قال: حدثنا یحییٰ، قال: حدثنا عوف، قال بحدثنا) ابو نضرة عن ابی سعید الخدری، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تفترق امتی فرقتين، تمرق (بینہما) مارقة تقتلهم اولی الطائفین بالحق))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 470 رقم 8504 وطبع آخر ج 5 ص 158 رقم 8557، نیل الاوطار ج 7 ص 204 رقم 3190، جمع الجواعی 15 ص 580 رقم 15273، 15276)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت دو گروہوں میں بٹ جائے گی، ان دونوں کے درمیان سے ایک گروہ لکھے گا جن کو ان دونوں میں سے حق کے قریب ترین گروہ قتل کرے گا۔“

### حدیث نمبر 5:

((اَخْبَرَنَا سَلِيمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغِيلَانِيَ قَالَ: حَدَثَنَا بَهْرَزُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَثَنَا ابْوَنْ نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَمْرُقَ مَارِقَةٌ عَنْهُ فِرْقَةٌ مِّنَ النَّاسِ تَقْتَلُهَا أُولَئِكَ الظَّافِتَيْنَ بِالْحَقِّ))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 470 رقم 8505 طبع آخر 5 ص 158 رقم 8558 صحیح مسلم ص 432 رقم 2457)  
”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے افتراق کے وقت ایک گروہ بے دین ہو کر نکلن جائے گا، انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے قریب ترین ہو گا۔“

### حدیث نمبر 6:

((حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَعْلَىٰ، قَالَ: حَدَثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيهِ قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو تَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّا سَابِقِيْنَ خَرْجَنَ فِي فُرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ، سِيمَا هِمُ التَّحْلِيقُ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهِيمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، هُمُ شَرُّ الْخَلْقِ، تَقْتَلُهُمْ أُولَئِكَ الظَّافِتَيْنَ إِلَى الْحَقِّ، قَالَ: وَقَالَ كَلْمَةً أُخْرَىٰ، قَلْتُ بَيْنِي وَبَيْنِهِ مَا هِيَ؟ فَقَالَ: وَأَنْتُمْ قَاتِلُوْهُمْ يَا أَهْلَ الْعَرَاقِ))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 470 رقم 8506 طبع آخر 5 ص 158 رقم 8559، صحیح مسلم ص 432 رقم 2457)  
”حضرت ابونصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا جو لوگوں سے فرقہ کے طور پر خارج ہوئے، ان کی علامت سرمنڈانا ہو گی، وہ دین سے یوں نکلن جائیں گے جیسے تیرشاڑ سے نکل جاتا ہے وہ بڑی مخلوق ہیں، انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہو گا۔ آپ نے کوئی اور جملہ بھی کہا تھا۔ حضرت ابونصرہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: میرے اور ان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے اہل عراق! اس گروہ کو تم نے قتل کیا ہے۔“

### حدیث نمبر 7:

((اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ بْنُ وَاصِلَ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىٰ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَحَاضِرُ بْنُ الْمُورَعِ، قَالَ: حَدَثَنَا الْاجْلَحُ، عَنْ حَبِيبٍ أَنَّهُ سَمِعَ الضَّحَاكَ الْمَشْرُقِيَّ يَحْدُثُهُمْ وَمَعَهُ سَعِيدُ بْنَ جَبِيرٍ وَمِيمُونَ بْنَ أَبِي شَبِيبٍ وَأَبِي الْبَخْرِيِّ وَأَبِي صَالِحٍ وَذِرَالْهَمْدَانِيِّ وَالْحَسَنِ الْعَرَنِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ يَرْوِيَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ فَذَكَرَ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَزَكَاتِهِمْ وَصَوْمَاهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ

كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز القرآن من تراقيهم، يخرجون في فرقة من الناس:

لقاتلهم أقرب الناس إلى الحق)

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 470 رقم 8506 وطبع آخر 5 ص 159 رقم 8559، صحیح مسلم ص 432 رقم 2461)

”حضرت عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى بيان کرتے ہیں کہ انہیں حاضر بن المورع نے بیان کیا، انہوں نے کہا: ہمیں انجلیج نے حبیب سے نقل کیا، انہیں ضحاک المشرقی نے حدیث بیان کی، اور ان کے ساتھ حضرت سعید بن جبیر، میمون بن ابو شہب، ابو الحسن، ابو الصالح، ذر الحمد اتنی اور حسن العربی تھے۔ پیش کیا: اس نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سن، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اس امت میں ایک قوم لکھے (ظاہر) گی، پھر آپ نے ان کی نماز، ان کی زکوٰۃ اور ان کے روزوں کا ذکر کیا، وہ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیرشاہار سے نکل جاتا ہے، قرآن کریم ان کے حق سے نیچے (دل کی طرف) نہیں جائے گا۔ وہ لوگوں کے ایک فرقہ سے ملکیں گے، انہیں وہ مخفی قتل کرے گا جو تمام لوگوں سے بڑھ کر حق کے قریب ہوگا۔“

### حدیث نمبر 8:

((اخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسکين، قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له، عن ابن وهب، قال: اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن، عن ابى سعيد الخدري قال: بينما نحن عندهم رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو يقسم قسمًا، اتاه ذو الْخُويصِرَةَ، وهو رجل من (بني) تميم، فقال: يا رسول الله اعدل، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ومن يعدل اذالم اعدل، لقد خبت وخسنت ان لم اعدل، قال عمر: ائذن لي فيه اضرب عنقه، قال: دعه فان له اصحابا يحتقر (يحقرون) اجددكم صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمية، فينظر في قذده فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل اسود احدى عضديه مثل ثدى المرأة، او مثل البضعة تدردر، يخرجون على خير فرقة من الناس، قال ابو سعید: فاشهدانی سمعت (هذا) من رسول الله صلی الله علیه وسلم، واعشهدان على ابن ابی طالب كرم الله وجهه قاتلهم وانا معه، فامر بذلك الرجل فالتمس فوجده، فاتى به حتى نظرت اليه على النعت الذي

نعت به رسول الله صلی الله علیه وسلم))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 471 رقم 8507 وطبع آخر 5 ص 159 رقم 8560، بخاری ص 605)

وسم 3610 رقم 6933 صحیح مسلم ص 431، 432 رقم المسلسل 2456، صحیح ابن حبان ج 15 ص 140 رقم 6741، دلائل المذکورة تبیین ج 6 ص 427، شرح النہج 6 ص 162 رقم 2552، کتاب النہج لابن الیعاصم ص 436 رقم

(924)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے اور آپ تقسیم فرمائے تھے کہ ذوالخوبی صرہ آیا اور وہ بنو تمیم کا ایک شخص تھا، اس نے کہا: یا رسول اللہ! انصاف کیجئے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب میں نے عدل نہ کیا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں تو ناکام و نامراد رہ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردان اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا: اس کو رہنے دو، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی نمازوں کی نمازوں کے مقابلہ میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلہ میں حقیر جانے گا، وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلقوم بستے تجاوز نہیں کرے گا، وہ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پس تیر کے پر کو دیکھا جائے گا تو اس میں کچھ اثر نہیں ہوگا، پھر اس کے پھل کی جڑ میں دیکھا جائے گا تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا، پھر اس کے پیکان میں دیکھا جائے گا تو اس میں کوئی چیز نہیں پائی جائے گی، حالانکہ وہ تیر کو برادرخون سے گزر جائے گا، ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ شخص ہوگا جس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح یا گوشت کے لواہرے کی طرح ہلتا ہوگا۔ یہ (خوارج) لوگ لوگوں کے بہترین کروہ (گروہ علی) پر خروج کریں گے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سے سن تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ثال کیا تھا اور میں ان کے ساتھ تھا۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی (کی میت) کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا، اسے تلاش کیا گیا تو وہ مل گیا، پھر اسے آپ کے پاس لا یا گیا حتیٰ کہ میں نے اسے دیکھا، تو اس میں وہ ساری علامات موجود تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔“

### حدیث نمبر 9:

((أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَصْفَى بْنُ بَهْلُولَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَنَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَذَكَرَ آخر، قالوا: أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزَّهْرَىِ، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ وَالْبَضْحَاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِىِّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ ذَاتَ يَوْمِ قَسْمًا، فَقَالَ ذُو الْخُوبِيَّ صَرَّةُ التَّمِيمِيُّ: أَعْدَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدُ أَذَلَّمَ أَعْدَلَ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الدُّنْيَا لَىٰ حَتَّىٰ أَضْرِبَ عَنْقَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، إِنَّ لَهُ أَصْحَاحًا يَعْقِرُ أَحَدًا كَمْ صَلَّاهُ مَعَ صَلَاتِهِ،

وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، حتى ان احدهم  
لينظر الى قذذه فلا يجد (فيه) شيئاً (ثم ينظر الى نضيه، فلا يجد فيه شيئاً، ثم ينظر الى  
قذذه، فلا يجد فيه شيئاً) سبق الفرث والدم، يخرجون على خير فرقه من الناس، آيتهم  
رجل ادعج احدى يديه مثل ثدى المرأة أو كالبضعة تدر در، قال ابو سعيد: اشهد  
لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واصعدت انى كنت مع على بن ابي  
طالب رضي الله تعالى عنه حين قاتلهم، فارسل الى القتل، فاتى به على النعنة الذي  
نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 472 رقم 8508 وطبع آخر ج 5 ص 159، رقم 160، مصانع النساج 4 ص 98  
رقم 4609، مشکاة ج 2 ص 460 رقم 8594، النہ لعبدالله بن احمد ص 284 رقم 1477، الموطأ الامام مالک بن انس  
ج 1 ص 195 رقم 487، موطأ الامام مالک برواية امام محمد بن الحسن الشیعیانی ج 3 ص 366 رقم 864)

”حضرت ابو سعيد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ  
میں حاضر تھے، آپ مال تقسیم فرمائے ہے تھے کہ ذوالخویصرۃ تمیی آیا، اور کہنے لگا: یا رسول اللہ! انصاف کیجئے!  
آپ نے فرمایا: جب میں نے عدل نہ کیا تو پھر کون عدل کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ  
کر عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے حتیٰ کہ میں اس کی گردان اڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے فرمایا: نہیں، اس کے کچھ ساتھی ہیں۔ تم میں سے کوئی شخص اپنی نمازوں کی نماز کے مقابلہ میں اور اپنے  
روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلہ میں حقیر جانے گا، وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے  
نکل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ تم میں کوئی شخص اس تیر کے پر کو دیکھے گا تو اس میں کچھ اثر نہیں پائے گا، پھر اس کے  
پھل کی جڑ میں دیکھے گا تو اس میں کوئی اثر نہیں پائے گا، پھر اس کے پیکان میں دیکھے گا تو اس میں کوئی چیز  
نہیں پائے گا، وہ تیر کو برادرخون سے گزر جائے گا، وہ لوگوں کے بہترین فرقے پر خروج کریں گے، ان کی  
علامت یہ ہے کہ ان میں ایک بڑی سیاہ آنکھوں والا شخص ہو گا، جس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح  
یا گوشت کے نکڈے کی طرح ہلتا ہو گا۔ حضرت ابو سعيد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں  
کہ میں لے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی ابن  
ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب انہوں نے لوگوں کے ساتھ جنگ کی تھی۔ پھر انہوں نے  
مقتولین کی طرف آمدی بھیجے تو اس شخص کو بعینہ ان علامات کے ساتھ لا یا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
نے بیان فرمائی تھیں۔“

### حدیث نمبر 10:

((اخبرنا الحارث بن مسکین قراءة عليه وانا اسمع عن ابن وهب عن عمرو بن

الحارث عن بکیر بن عبد اللہ الاشج عن بسر بن سعید، عن عبید اللہ بن ابی رافع: ان الحروریة لما خرجت وهم مع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقالوا: لاحکم الا اللہ، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: کلمة حق اريد بها باطل: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصف ناساً نی لاعرف صفتھم فی هولاء (الذین) يقولون الحق بالستغthem لا يجاوز هذامنھم، وأشار الى حلقة من ابغض خلق اللہ الیه، منهم اسود کان احدی یدیه طی شابة او حلمة ثدی، فلما قاتلھم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال: انظروا، فنظر و افلم یجدوا شيئاً، قال: ارجعوا، فواللہ ما كذبت ولا كذبت - مرتین او ثلاثة - ثم وجده فی خربة، فاتوبه حتى وضعوه بین یدیه، قال عبید اللہ، انا حاضر ذلك من امرھم، وقل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (فیھم))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 472 رقم 8509، طبع آخر 5 ص 160 رقم 8562، صحیح مسلم ص 434 رقم 6468، کتاب السنۃ لابن ابی عاصم ص 438 رقم 965)

"حضرت بسر بن سعید حضرت عبید اللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حدیۃ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی تو انہوں نے نعرہ لگایا: "لا حکم الا اللہ" (اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: "کلمة حق اريد بها باطل" (کلمہ حق ہے اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے) پیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی علامات بیان فرمائی تھیں، میں ان علامات کو ان لوگوں میں پہنچاتا ہوں۔ یہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے حق بات کہتے ہیں اور وہ بات یہاں سے تجاوز نہیں کرتی۔ یہ فرماتے ہوئے آپ نے حلقت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہیں۔ ان میں ایک سیاہ رنگ کا شخص ہو گا جس کا ایک ہاتھ بکری کی شرم گاہ یا عورت کے پستان کی طرح ہو گا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کیا تو فرمایا: تلاش کرو! لوگوں نے تلاش کیا تو نہ پایا۔ آپ نے فرمایا: لوٹ جاؤ پھر تلاش کرو! انہوں نے تلاش کیا تو نہ پایا۔ آپ نے فرمایا: لوٹ جاؤ (پھر تلاش کرو) اللہ کی قسم! میں نے نہ کذب بیانی کی ہے اور نہ ہی میری تکذیب ہو سکتی ہے، یہ جملہ آپ نے دو یا تین مرتبہ فرمایا: پھر لوگوں نے اس شخص کو ایک ویرانے میں پالیا تو لا کر آپ کے سامنے ڈال دیا۔ عبید اللہ بن ابی رافع کہتے ہیں: میں اس ساری کارروائی میں موجود تھا اور ان کے بارے میں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کو حق پایا۔"

### حدیث نمبر 11:

((اخبرنا محمد بن معاویة بن یزید قال: اخبرنا علی بن هاشم عن الاعمش عن حیثمة))

عن سوید بن غفلة عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول: اذا حدثکم عن نفسی، فان الحرب خدعة، و اذا حدثکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان اخر من السماء احب الی من ان اکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: یخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان، سفهاء الاحلام، یقولون من خیر قول البریة یقرأون القرآن، لا يجاوز ایمانهم حناجرهم، یمرقون من الدين كما یمرق السهم من الرمية، فاینما ادر کتموهم فاقتلواهم، فان فی قتلهم اجر المن قتلهم عند اللہ یوم القيامة))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 473 رقم 8510 طبع آخر 5 ص 160 رقم 8563، مند احمد ج 1 ص 81 رقم 161، ص 113 رقم 1086، صحیح مسلم ص 432 رقم 2462، سنن ابی داود ج 4 ص 319 رقم 3767، سنن النسائی ج 7 ص 135 رقم 4113، بخاری ص 606 رقم 3611 و ص 905 رقم 5057 و ص 1194 رقم 6930، مندلبرز ارج 2 ص 188، رقم 568، مندلابی یعلی ج 1 ص 132، رقم 256 و ص 171 رقم 319، مندلابی داود الطیالی ص 24، رقم 168 طبع حدیدج 1 ص 95 رقم 163، صحیح ابن حبان ج 15 ص 136 رقم 2739، الکامل فی ضعفاء الرجال ج 1 ص 93، دلائل المبدوة للبنیقی ج 6 ص 430، سنن الصالحین و سنن العابدین للباجی ج 1 ص 435، 487)

”حضرت سوید بن غفلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب میں تمہیں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں تو جگ ایک چال ہے (جس میں تعریض، کنایہ اور ذمہ بھی بات بھی چلتی ہے) اور جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نقل کروں تو اگر میں آسان سے گرایا جاؤں تو یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محظوظ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ پر جھوٹ باندھوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: آپ نے فرمایا: آخری زمانہ میں ایک کم عمر اور بے وقوف قوم نکلے گی جو پوری مخلوق سے زیادہ بہترین بات کہے گی وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حق سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیرشکار سے نکل جاتا ہے۔ پس تم انہیں جہاں پاؤں قتل کر دو۔ بے شک انہیں قتل کرنے میں ان کے قاتل کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔“

### حدیث نمبر 12:

((اخبرنا احمد بن سلیمان والقاسم بن زکریا، قالا: حدثنا عبد الله، عن اسرائيل، عن ابى اسحق، عن سوید بن غفلة، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یخرج قوم فی آخر الزمان، یقرأون القرآن، لا يجاوز تراقیهم، یمرقون من الاسلام، كما یمرق السهم من الرمية، قتالهم حق علی کل مسلم خالفه یوسف بن

ابی اسحق فادخل بین ابی اسحق و سوید بن غفلة عبد الرحمن بن ثروان))  
 (سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 473 رقم 8511 طبع آخر 5 ص 161 رقم 8564، منhadیح 1 ص 165 رقم 1346)  
 منhadیح ارج 2 ص 187 رقم 566، کتاب النہ لابن ابی عاصم ص 427 رقم 911، منhadیح 1 ص 172 رقم 319  
 "حضرت سوید بن غفله حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخری زمانہ میں ایک قوم لکھے گی وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیرشاہر سے نکل جاتا ہے، ان کو قتل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔"

### حدیث نمبر 13:

((احبرنی زکریا بن یحییٰ قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثني ابراهيم بن يوسف عن أبيه، عن ابی اسحق عن ابی قیس الاودی، عن سوید بین غفلة، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: فی آخر الزمان قوم يقرأون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، قتالهم حق علی کل مسلم، سیماهم التحلیق))  
 (سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 457 رقم 3551 و ج 7 ص 474 رقم 8512 طبع آخر 5 ص 161 رقم 8565)

"حضرت سوید بن غفله حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخری زمانہ میں ایک قوم لکھے گی وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیرشاہر سے نکل جاتا ہے، انہیں قتل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ان کی علامت سرمنڈانا ہے۔"

### حدیث نمبر 14:

((احبرنا احمد بن بکار الحرانی، حدثنا مخلد، قال: حدثنا اسرائیل، عن ابراهيم بن عبد الاعلیٰ، عن طارق بن زياد قال: خرج جماع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الى الخوارج فقتلهم، ثم قال: انظروا فان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: (انه) سیخرج قوم يتکلمون کلمۃ الحق لا يتجاوز حلوفهم، يخرجون من الحق كما يخرج السهم من الرمية، سیماهم ان فيهم رجالاً اسود مخلدج الید، فی يده شعرات اسود، فانظروا ان كان هو فقد قتلهم شر الناس، وان لم يكن هو فقد قتلتم خیر الناس، فبکينا، ثم قال: اطلبوا فطلبنا فوجدنَا المخلدج، فخررنا سجودا وخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنا ساجداً غير انه قال: يتکلمون کلمۃ))  
 (سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 474 رقم 8513 طبع آخر 5 ص 161 رقم 8566، منhadیح 1 ص 107 رقم 108)

(848 ص 147 رقم 1255، مندرجہ ارج 3 ص 111 رقم 897، فضائل الصحبۃ ج 2 ص 890 رقم 1224)

”حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج کی طرف لگئے، آپ نے ان کو قتل کیا پھر فرمایا: جاؤ دیکھو! بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: عنقریب ایک قوم لگئے گی جو حق بات کریں گے جو ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گی وہ حق سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک سیاہ شخص ہوگا جس کا ہاتھ ناتمام ہوگا، اس کے ہاتھ میں چند سیاہ بال ہوں گے۔ پس تم غور سے دیکھو اگر وہ شخص ان میں موجود ہے تو تم نے بری مخلوق کو قتل کیا اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو تم نے اچھی مخلوق کو قتل کیا ہے۔ اس پر ہم روپڑے۔ پھر فرمایا: جاؤ تلاش کرو! ہم نے تلاش کیا تو اس شخص کو پالیا، پھر ہم سب بجدے میں گر گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہمارے ساتھ بجدہ کیا۔“

### حدیث نمبر 15:

((خبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: أخبرنا أبو عوانة قال: أخبرنا الحسن بن مدرك قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجهنمي، انه كان مع علي في النهروان، قال: وكنت قبل ذلك اصارع رجلا على يده شيء، فقلت: ما شأن يدك؟ قال: اكلها بغير، فلما كان يوم النهروان وقت قتل علي الحروريه، فجزع علي من قتلهم حين لم يجد ذاته، فطاف حتى وجده في ساقية، فقال: صدق الله وبلغ رسوله صلی الله عليه وسلم، وقال لي: في منك بيه ثلاثة شعرات في مثل حملة الذدي))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 475 رقم 475 و طبع آخر ج 5 ص 162 رقم 8567)

”حضرت اوسیم بن بیلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ نہروان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں: اس سے پہلے ہم نے ایک شخص کو پچھاڑا تھا اس کے ہاتھ میں کچھ عجیب تھا۔ میں نے پوچھا: تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ اس نے بتایا: اس کو اونٹ نے کھایا ہے۔ پھر جنگ نہروان ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حروریہ کو قتل کیا تو آپ اس وقت چلا اٹھے جب پستان کی طرح ہاتھ والے شخص کو نہ پایا۔ آپ نے پھر چکر لگایا حتیٰ کہ اس کو ساقیہ (چھوٹی سی ندی) میں پالیا تو پکارا تھے: اللہ جل جلالہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچایا۔ ابو سلیم کہتے ہیں: اس کے کندھے میں پستان کے بالوں کی طرح تینیں بال تھے۔“

### حدیث نمبر 16:

((قال: أخبرنا علي بن المنذر قال: (أخبرنا ابن فضيل) حدثى أبي قال: أخبرنا عاصم بن كلبي الجرمي عن أبيه، قال: كنت عند علي رضي الله تعالى عنه جالساً إذ دخل رجل،

عليه ثياب السفر، وعلى رضى الله تعالى عنه بكلم الناس، ويكلمونه، فقال: يا أمير المؤمنين أتاذن (لـ) ان اتكلم؟ فلم يلتفت اليه وشغله ما هو فيه، فجلست الى رجل، فسألته ما خبرك؟ قال: كنت معتمراً فلقيت عائشة، فقالت: هولاء القوم الذين خرجوا في ارضكم يسمون حرورية؟ قلت: خرجوا في موضع يسمى حروراء، فسموا بذلك، فقالت: طوبى لمن شهد منكم (هلكتهم) لوشاء ابن ابي طالب رضى الله تعالى عنه لا خبر لكم بخبرهم، فجئت اسأله عن خبرهم، فلما فرغ على رضى الله تعالى عنه قال: اين المستاذن؟ فقص عليه كما قص علينا، قال: انى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده احد غير عائشة رضى الله تعالى عنها، فقال لي: كيف انت ياعلى وقوم كذاو كذا؟ قلت الله رسوله لا يجاوز تراقيهم، يمزقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجال مخدج، كان يده ثدي جببية، اشدكم بالله اخباركم به؟ قالوا: نعم، قال: الشد لكم بالله اخباركم انه فيهم؟ قالوا: نعم، فجئتموني واخبرتموني انه ليس فيهم، فحلفت لكم بالله انه فيهم، ثم اتيتموني بي تحسبونه (تسحبونه) كما نعت لكم؟ قالوا: نعم، قال: صدق الله رسوله)

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 475، 476 رقم 8515 وطبع آخر ج 5 ص 142 رقم 8568، من دار الحجج 1 ص 160 رقم 1379، فضائل الصحابة ج 2 ص 889 رقم 1223، السنۃ لعبدالله بن احمد ص 269 رقم 1410، 1411، 1412، من دار المزاج 3 ص 93 رقم 772، 773، من دار المکتب 1 ص 225 رقم 468 وص 232 رقم 478، کتاب السنۃ لابن الہبی ص 428 رقم 913، البدایۃ والنھایۃ ج 7 ص 493)

”عاصم بن كلیب الجرمی اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا جس پر سفر کے آثار نمایاں تھے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے، اس شخص نے کہا: اے امیر المؤمنین! کیا آپ مجھے کچھ عرض کرنے کی اجازت دیں گے؟ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور اپنی گفتگو میں مشغول رہے، پس میں جا کر اس شخص کے ساتھ بیٹھا اور اس سے پوچھا: تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: میں عمرہ کی غرض سے گیا ہوا تھا تو میری ملاقات ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ آپ نے مجھے فرمایا: وہ قوم جو تمہارے علاقے سے نکلی ہے انہیں حروریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا: انہوں نے ”حروراء“ کے مقام پر خروج کیا اس لیے وہ ”حروریہ“ کہلائے۔ آپ نے فرمایا: وہ شخص مبارک باد کا مستحق ہے جو ان لوگوں کی ہلاکت میں شریک ہوا، اگر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہیں تو تمہیں ان کے بارے میں بتلا سکتے ہیں۔ اس شخص نے کہا: پس میں اس لئے حاضر ہوا

ہوں تاکہ آپ سے ان کے متعلق معلومات حاصل کروں۔ پھر جب حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو سے فارغ ہوئے تو فرمایا: گفتگو کی اجازت طلب کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس شخص نے آپ کے سامنے اسی طرح قصہ پیش کیا جیسا کہ ہمیں سنایا تھا۔ حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور اس وقت آپ کے پاس ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: اے علیٰ تمہارا کیا حال ہو گا جب تمہیں ایسی ایسی قوم سے واسطہ پڑے گا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: مشرق سے ایک قوم لٹکے گی جو قرآن پڑھے گی وہ ان کے حلق سے شیخ نہیں جائے گا، وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جس طرح تیرشکار سے نکل جاتا ہے، ان میں ایک شخص ہو گا جس کا ہاتھ یوں ہو گا جیسے پستان۔ (اس کے بعد مولیٰ علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر) فرمایا: میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں: کیا میں نے تمہیں ان کے ہمارے میں بتایا تھا؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں: فرمایا: میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایسے ہاتھ والا شخص ان میں میں ہے تو میں نے انہوں نے عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: پھر تم نے میرے پاس آ کر بتایا کہ وہ شخص ان میں نہیں ہے تو میں نے تمہیں قسم کھا کر کہا کہ بیٹھ کر وہ ان میں موجود ہے، پھر تم اس کو کھینچتے ہوئے میرے پاس لے آئے تو کیا تم اس کو اسی طرح خیال کرتے ہو جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا؟ سب نے عرض کیا: ہاں، اس پر حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول کا فرمان صحیح ثابت ہوا۔“

### حدیث نمبر 17:

((احبنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم النهروان لقي الخوارج فلم يبرحو حتى شجر و بالرماح فقتلوا جميعاً قال علي رضي الله تعالى عنه: اطلبوا الشدية، فطلبوه فلم يجدوه، فقال علي رضي الله تعالى عنه: ما كذبت، ولا كذبت، اطلبوا، فطلبوه فوجده في وحدة (وهدة) من الأرض، عليه ناس من القتلى، فإذا رجل علي يده مثل سبلات السنور، فكبير على رضي الله تعالى عنه والناس، واعجبهم ذلك))

(سنن الکبریٰ للنسائیٰ ج 7 ص 476 و طبع آخر ج 5 ص 163 رقم 8569، صحیح مسلم ص 433 رقم 2467 من محدث  
ج 1 ص 92 رقم 506 سنن ابی داود ج 4 ص 320 رقم 3768، من محدث ارج 2 ص 195 رقم 579، 580، 581)  
”حضرت زید بن وهب حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ”نهروان“ کی جنگ کے دن جب خوارج سے آمنا سامنا ہوا تو ان کے پاؤں اکھڑیں رہے تھے، وہ ڈٹے ہوئے تھے حتیٰ کہ ان پر

تیروں کی بوجھاڑ کی گئی تو وہ سب مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ذوالشیدہ (پستان کی مانند ہاتھو والے) کو تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کیا تو وہ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا: نہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہوں۔ تم اس کو تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کیا تو اسے ایک گڑھے میں پایا اور اس کے اوپر کچھ اور نعشیں پڑی ہوئی تھیں اور اس شخص کے ہاتھ پر بلی کی موچھوں کی طرح بال تھے۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں نے نعرہ بکیر بلند کیا اور تعجب کیا۔“

### حدیث نمبر 18:

((اخبرنا عبدالاعلی بن واصل بن عبدالاعلی) قال: حدثنا الفضل بن ذكين عن موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: خطبنا على بقطرة الديربخان، (الديربخان) فقال انه قد ذكر (لي) بخارجة تخرج من قبل المشرق، وفيهم ذوالشیدة، فقاتلهم، فقالت الحروية بعضهم لبعض: لا تكلموه، فيردكم كما ردكم يوم حرر راء، فشجر بعضهم بعضا بالرماح، فقال رجل من اصحاب علی رضي الله تعالى عنه قطعوا الغوالى (والحوالى الرماح) فداروا واستداروا، وقتل من اصحاب علی رضي الله تعالى عنه اثنا عشر رجلا، او ثلاثة عشر رجلا، فقال علی: التمسوا المخدج، وذلك في يوم ثات، فقالوا: ما نقدر عليه، فركب علی رضي الله تعالى عنه بغلة النبي صلی الله عليه وسلم الشهاء، فاتی وھدة من الارض، فقال: هذه من الارض قالوا التمسوا في هولاء، فاخرج، فقال: ما كذبت، ولا كذبت، اعملوا ولا تتكلوا، لولا انى اخاف ان تكلوا الاخبار لكم بما قضى الله لكم على لسانه (يعنى النبي صلی الله عليه وسلم) ولقد شهدت اناسا باليمن قالوا: كيف يا امر المؤمنين؟ قال: بھولهم))

(من الکبری للنسائی ج 7 ص 477 رقم 8517 و طبع آخر ج 5 ص 163 رقم 8570)

”حضرت زید بن وهب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”دیربخان“ کے پلن پر خطبہ دیا تو فرمایا: مجھے ذکر کیا گیا تھا کہ مشرق کی طرف سے کچھ لوگ نکلیں گے اور ان میں ایک ”ذوالشیدہ“ (پستان کی طرح ہاتھو والائ شخص) ہو گا۔ پھر آپ نے ان سے قاتل کیا تو حرر راء نے ایک دوسرے سے کہا: اس طرح حملہ کرو جس طرح ”یوم حرر راء“ کو کیا تھا۔ سو آپس میں تیر اندازی کا تبادلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے بارہ یا تیرہ افراد شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کئے ہوئے ہاتھو والے شخص کو تلاش کرو (اور یہ گرم دن تھا) تو لوگوں نے عرض کیا: ہم اس کا پانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفید خچر پر سوار ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ایک گڑھے پر پہنچ گئے تو فرمایا: اس شخص کو اس گڑھے میں پڑے ہوئے

مقتولین میں تلاش کرؤ پس اُسے نکالا گیا تو آپ نے فرمایا: نہ میں نے جھوٹ ادا اور نہ میں جھوٹا قرار دیا جاسکتا ہوں، اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ تم سستی کرو گے تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس نیچلے سے آگاہ کرتا جو اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظاہر فرمایا ہے۔ یعنی کے کچھ لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا: وہ ان کے حق میں ہے۔“

### حدیث نمبر 19:

((اخبرنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وحب، انه كان في الجيش الذين كانوا مع على رضي الله تعالى عنه، الذين ساروا إلى الخوارج، فقال على رضي الله تعالى عنه، يا أيها الناس، أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم من أمتي يقرأون القرآن، ليس قراءة لكم إلى قراءة لهم بشيء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم، وهو عليهم لا يجوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو علم الجيش الذين يصيرون لهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لا تكلوا على العمل، وآية ذلك أن فيهم رجالاً له عضد، وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة ثدي المرأة، عليه شعرات بيض، قال سلمة: فنزلني زيد منزلة حتى مررتنا على قطرة، قال: فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن رحب الراسبي، فقال لهم: القوار ما حكم، وسلوا سليونا، فكم من جفونها (فاني اخاف أن ينادونا)، قال: فسلوا السيف والقواجفونها، فشجرهم الناس برماحهم، فقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجالان، قال على كرم الله وجهه: التمسوا فيهم المخدج، فلم يجدوه، فقام على رضي الله تعالى عنه بنفسه حتى أتى ناسا قتلى، بعضهم على بعض، (قال: جردوهم، فوجدوه مما يلقي الأرض، فكبر على وقال) صدق الله وبلغ رسوله، فقام إليه عبيدة اليماني، فقال: يا أمير المؤمنين! والله الذي لا إله إلا هو، سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال على رضي الله تعالى عنه: أني والله الذي لا إله إلا هو، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استحلفه ثلاثة وهو يحلف له))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 477 رقم 8518 وطبع آخر ج 5 ص 163 رقم 8571، مند احمد ج 1 ص 383 وطبع آخر ج 1 ص 259 رقم 144 و 226 ص 320 رقم 4768، دلائل المذوة للیہقی)

(432 ص 6)

”حضرت سلمہ بن کھلیل حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اس لشکر کے ساتھ تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوارج کی طرف نکلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: لوگو! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ساتھا: عنقریب میری امت میں سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن پڑھیں گے۔ تمہاری قرأت ان کی قرأت کے سامنے کچھ نہیں ہوگی اور تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوں گی اور نہ تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ ہوں گے۔ وہ قرآن کو اس طرح پڑھیں گے کہ لوگ گمان کریں قرآن انہیں کے لیے ہے حالانکہ قرآن ان کے خلاف ہوگا، نمازوں کا اثر آن کے حلقہ میں سے نیچے (دلوں) پڑھیں ہوگا، وہ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا ہے۔ جو لشکر ان کا قلع قلع کرنے کے لیے جائے گا اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان کے حق میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے تو وہ عمل سے ست ہو کر بیٹھ رہیں گے۔ ان لوگوں (خوارج) کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک شخص ہوگا جس کا بازو کہنی تک ہوگا اور اس کا ہاتھ نہیں ہوگا، اس کے (کئے ہوئے) بازو کا کونہ عورت کے پستان کی طرح ہوگا جس پر چند سفید پال ہونگے۔ حضرت سلمہ بن کھلیل کہتے ہیں کہ زید بن وہب مجھے منزل پہ منزل آگاہ کرتے رہے حتیٰ کہ ہم ایک بیل سے گزرے۔ زید نے کہا: پس ہمارا آمنا سامنا خوارج سے ہوا۔ ان کا امیر عبد اللہ بن وہب الراسی تھا۔ اس نے اپنی فوج سے کہا: اپنے نیزے تیار کرو اور اپنی تلوار میان سے نکال لو! پس میں خدشہ محسوس کرتا ہوں کہ تمہیں مشغول نہ کر دیا جائے۔ پس لوگ اپنے نیزوں کے ساتھ باہم سمجھتم کھٹکا ہو گئے اور ایک دوسرے کو قتل کیا، اس دن (ہمارے) فقط دو شخصوں کو نقصان پہنچا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: ان میں ناقص ہاتھ والے شخص کو تلاش کرو تو لوگوں نے اس کونہ پایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس تھے حتیٰ کہ مقتولین کے پاس آئے جو ایک دوسرے پر پڑے ہوئے تھے۔ فرمایا: ان کو الگ الگ کرو! انہوں نے کیا تو نیچے سے اس شخص کو پالیا۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچایا۔ اس پر عبیدہ یمانی نے اٹھ کر دریافت کیا: یا امیر المؤمنین! اس اللہ کی قسم! جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا آپ نے یہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن تھی؟ فرمایا: ہاں! اس اللہ کی قسم! جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے یہ حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن تھی حتیٰ کہ اس شخص نے آپ سے تین مرتبہ حلف لیا اور آپ نے اس کی خاطر تینوں مرتبہ حلف اٹھایا۔“

### حدیث نمبر 20:

((اخبرنا قتيبة بن سعید حدثنا ابن ابی عدی عن ابن عون، عن محمد عن عبیدة قال: علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ: لو لا ان تبظروا الحدث کم بما وعد اللہ الدین يقتلونهم علی لسان

محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت: انت سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟

قال: ای ورب الکعبۃ (ای ورب الکعبۃ، ای ورب الکعبۃ)

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 478 رقم 8519 وطبع آخر ج 5 ص 164 رقم 8572، صحیح مسلم ص 433 رقم 6465، سنن البیهقی ج 6 ص 431)

”حضرت عبیدہ بیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر عمل میں تمہاری ست روی کا خدشہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اس وعدہ کے متعلق تلاٹا جو اللہ تعالیٰ نے زبان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوارج کے قاتلین کے حق میں فرمایا۔ میں نے عرض کیا: آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ناتھا؟ فرمایا: ہاں رب کعبہ کی قسم! ہاں رب کعبہ کی قسم! ہاں رب کعبہ کی قسم!“

### حدیث نمبر 21:

((خبرنا اسماعیل بن مسعود) قال: حدثنا المعتض بن سليمان عن عوف قال: حدثنا محمد بن سیر بن قال: قال عبیدة السليماني: لما جئت (حيث) أصيـبـ اصحابـ النـهـرـ وـاـنـ قال: على رضـيـ اللـهـ تـعـالـىـ عـنـهـ: اتـبعـواـ (ابـتـغـواـ) فـيـهـمـ، فـاـنـهـمـ اـنـ كـانـوـاـ مـنـ الـقـوـمـ الـذـيـنـ ذـكـرـهـمـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـیـ اللـهـ عـلـیـهـ وـسـلـمـ. فـاـنـ فـيـهـمـ رـجـلـاـ مـخـلـدـجـ الـيـدـ. اوـمـثـدـوـنـ الـيـدـ اوـمـوـدـوـنـ الـيـدـ. وـاـتـيـنـاـفـوـ جـدـنـاـ، فـدـلـلـنـاـ (فـاـبـتـغـيـنـاـهـ، فـوـ جـدـنـاـهـ، فـذـلـلـنـاـهـ) عـلـیـهـ، فـلـمـاـ رـأـدـ قـالـ: اللـهـ اـكـبـرـ، اللـهـ اـكـبـرـ، اللـهـ اـكـبـرـ، لـوـلـاـنـ يـبـطـرـوـاـ (ثـمـ ذـكـرـ كـلـمـةـ مـعـنـاـهـاـ) لـحـدـثـكـمـ بـماـ قـضـيـ اللـهـ عـلـیـ لـسـانـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـیـ اللـهـ عـلـیـهـ وـسـلـمـ لـمـنـ وـلـیـ قـتـلـ هـوـلـاءـ، قـلتـ: اـنـ سـمعـتـهـاـ مـنـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـیـ اللـهـ عـلـیـهـ وـسـلـمـ؟ قـالـ: اـیـ وـربـ الـکـعبـةـ (ثـلـاثـاـ))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 478 رقم 8520 وطبع آخر ج 5 ص 165 رقم 8573، سنن البیهقی ج 6 ص 431)

”حضرت عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: جب ہم نے اہل ”نہروان“ کو کیفر کردار تک پہنچا دیا تو حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ان لوگوں میں تلاش کرو، اگر یہ لوگ اس قوم سے ہیں جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو ان میں ایک ناتمام ہاتھ والا شخص ہو گا، ہم آئے تو اس کو پالیا اور حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، جب آپ نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر! اللہ کی قسم! اگر لوگوں کے عمل است ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ کے بارے میں ضرور بتاتا جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ان لوگوں کی شان میں کیا جنہوں نے ان خوارج کے قتل میں حصہ لیا۔ میں نے عرض کیا: آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے؟ فرمایا: رب کعبہ کی قسم میں نے یہ حدیث خود سنی ہے اور یہ جملہ

تین مرتبہ فرمایا۔"

### حدیث نمبر 22:

((خبرنا محمد بن عبد (بن محمد) قال: حدثنا أبو مالك عمرو وهو ابن هاشم عن اسماعيل وهو ابن خالد قال: عمرو بن قيس الرازي، عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش انه سمع علياً رضي الله تعالى عنه يقول: انا فقات عين الفتنة لو لا انماقتول اهل النهروان، واهل الجمل، ولو لا خشي ان تترکوا العمل لا خبرتكم بالذى قضى الله على لسان نبیکم صلی الله عليه وسلم لمن قاتلهم، مبصراً ضلالتهم عارفاً بالهدى الذى نحن عليه))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 749 رقم 8521 طبع آخر ج 5 ص 165 رقم 8574، حلیۃ الاولیاء ج 1 ص 109، رقم 5959 ج 13 ص 104، جمع الجواعی ج 4 ص 206، رقم 5269)

"حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: میں نے قتنہ کی آنکھ پھوڑ دی ہے اور اگر میں نہ ہوتا تو اہل "نهروان" مارے جاتے اور نہ ہی اہل جمل۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم عمل ترک کر دو گے تو میں تمہیں اس فیصلہ کے بارے میں بتاتا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان لوگوں کے حق میں فرمایا ہے جنہوں نے خارجیوں کی ضلالت پر آگاہ ہو کر اور جس ہدایت پر ہم قائم ہیں اس کی معرفت رکھتے ہوئے ان سے جنگ کی۔"

### حدیث نمبر 23:

((خبرنا عمرو بن علی قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا ابو زریل، قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم وكانوا ستة آلاف، فقلت لعلی رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين ابرد بالظهر، لعلی آتی هؤلاء القوم فاكلهم، قال: انى اكافهم عليك، قلت: كلاما، قال: فقمت وخرجت ودخلت عليهم في نصف النهار، وهم قائلون، فسلمت عليهم، قالوا: هر حبابك يا ابن عباس، فما جاء عند ابن عم النبي صلی الله علیه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، وهم اعلم بتاویله منکم، وليس فيکم منهم احد، لا بل يغركم ما يقولون، وابلغهم ما تقولون، فانتحى لى لفرمهم، قلت: (هاتوا) اخبروني ماذا قمت على اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وابن عممه؟ قالوا: ثلاثة قلت: ما هي؟ قالوا: اما احداهن فانه حکم الرجال في أمر الله، وقال الله تعالى: (إن الحكم لـ الله)

(الانعام:57، ويوسف:40 و 67) ما شان الرجال والحكم؟! فقلت: هذه واحدة، قالوا: واما الثالثة، ما حل (سباهم ولا) قتالهم، قلت: هذه اثنان، فما الثالثة؟ قالوا: انه محى نفسه عن امير المؤمنين، فان لم يكن امير المؤمنين، فهو امير الكافرين، قلت: هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبناهذا قلت لهم: ارأيتم ان قرات عليكم من كتاب الله جل ثناءه ومن سنة نبى ﷺ عليه وسلم ما يرد قولكم، اترجعون؟ قالوا: نعم، قلت: اما قولكم حكم الرجال في امر الله، فانا اقر اعليكم في كتاب الله ان قد صير الله حكمه الى الرجال في ثمن ربع درهم، فامر الله تبارك وتعالى الرجال ان يحكموا فيه، قال الله تعالى: (يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجز آء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو اعدل منكم) الآية (المائدة: 95) (وكان من حكم الله انه صيره الى الرجال يحكمون فيه، ولو شاء لحكم فيه، فجاز حكم الرجال فيه) فانشدتكم بالله تعالى: احکم الرجال في ارب ونجوها من الصيد افضل، ام حکمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم؟ وانتم تعلمون ان الله تعالى اللواء لحکم و لم يصر ذلك الى الرجال؟ قالوا: بل هذالفضل وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل: (وان خفت شقاق بينهما فابعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما) الآية (النساء: 35) فنشدتكم بالله حکم الرجال في صلاح ذات هذه؟ قالوا: نعم قلت: واما قولكم: قاتل ولم يسب علم يغنم، اقتبسون امکم عائشة، وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها، وهي امکم؟ فان قلت انا مستحل منها ما مستحل من غيرها فقد كفرتم، ولا ان قلت ليست بامناف قد كفرتم، لان الله تعالى يقول: (النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاته) (الاحزاب: 6) فانتم تدورون بين ضلالتين، فاتوا منهم بمخرج، قلت فخرجت من هذه؟ قالوا: نعم، واما قولكم محى اسمه من امير المؤمنين، فانا آتیکم بمن ترضو، وأراكم قد سمعتم ان النبي صلی الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين، فقال لعلی رضی الله تعالى عنه اكتب يا علی: هذا صالح عليه محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال المشركون: لا والله ما نعلم انك رسول الله، لو نعلم انك رسول الله لا طعنك، فاكتب محمد بن عبد الله، فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم أمع يا علی! "رسول الله" اللهم انك تعلم اني رسولك، مع يا علی واكتب: هذا صالح عليه محمد بن عبد الله، فوالله لرسول الله صلی الله عليه وسلم خير من على وقد محانفه، ولم يكن محظوظ نفسه ذلك محاوه من النبوة اخرجت من هذه؟ قالوا: نعم

فرجع منهم الفان، وخرج سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون  
والانصار))

(سنن الکبریٰ للساکی ج 7 ص 479 رقم 8522 طبع آخر 5 ص 165 رقم 8575، مصنف عبدالرازاق ج 9 ص  
455 رقم 18949، المستدرک ج 2 ص 150 طبع آخر 2 ص 494 رقم 2703 و ج 4 ص 182 طبع آخر  
ج 5 ص 257 رقم 7447)

”حضرت ابو زمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے  
بیان کیا: جب حودریہ نے بغاوت کی توجہ اپنے ایک احاطہ میں جمع ہوئے اور ان کی تعداد چھ ہزار تھی۔ میں  
نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! نماز ظہر کوٹھنڈا کر کے پڑھیئے تاکہ میں اس  
قوم کے پاس جا کر ان سے بات چیت کروں۔ آپ نے فرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں  
ضرر پہنچائیں گے۔ میں نے عرض کیا ایسی کوئی بات نہیں۔ پس میں اٹھا کپڑے پہنے جوتی پہنی اور دوپہر  
کے وقت ان کے پہنچ گیا۔ وہ کھانا کھار ہے تھے۔ کہنے لگے: ابن عباس کو مر جبا (خوش آمدید) کیسے آنا ہوا؟  
میں نے کہا میں تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مہاجرین والنصار کی جانب سے اور  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیاز ادا اور داماد کی طرف سے آیا ہوں، اور وہ وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا،  
اور قرآن کی تفسیر کو تم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو تم تک  
ان کے موقف کو پہنچائے اور ان تک تمہارے موقف کو پہنچائے۔ اس پر ان میں سے کچھ افراد میری طرف  
مائل ہوئے تو میں نے کہا: بتاؤ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چیاز ادا  
پر تمہارے کیا اعتراضات ہیں؟ انہوں نے کہا: تمن باتیں ہیں۔ میں نے کہا کوئی؟ انہوں نے کہا:

1: ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دو شخصوں کو حاکم بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد  
ہے: ”ان الحکم الا لله“ (حکم صرف اللہ کا ہے۔ الانعام: 57) نہ کہ اشخاص اور حکومت کا۔ میں نے  
کہا: یہ ایک بات ہوئی۔

2: علی نے جنگ کی لیکن نہ قیدی بنائے اور نہ مال غنیمت حاصل کیا۔ اگر وہ کفار تھے تو انہیں قیدی  
(غلام اور لوغڑیاں) بنانا حلال تھا اور اگر وہ مومن تھے تو نہ انہیں قیدی بنانا درست تھا اور نہ ان سے جنگ  
کرنا حلال تھا۔ میں نے کہا: یہ دو باتیں ہوئیں تیری بات کیا ہے؟

3: انہوں نے کہا: انہوں (مولیٰ علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اپنی ذات سے امیر المؤمنین کی نقی کی ہے،  
پس اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہیں تو پھر امیر الکافرین ہوئے۔ میں نے کہا: اس کے علاوہ کوئی اور اعتراض  
ہے؟ انہوں نے کہا: بس ہمارے یہی اعتراض ہیں۔ میں نے کہا: اگر میں تمہارے سامنے اللہ جل شاءہ کی  
کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسے دلائل پیش کروں جن سے تمہارے خیالات کی

تردید ہو جائے تو کیا تم رجوع کرلو گے؟ انہوں نے کہا: ہاں۔

1: میں نے کہا: تمہارا یہ قول کہ اشخاص کو امرِ الٰہی میں حاکم بنایا گیا اور یہ جائز نہیں تھا تو اس سلسلے میں تمہارے سامنے کتابِ الٰہی کی آیات پیش کرتا ہوں: اللہ تعالیٰ نے چوتھائی درہم کی قیمت کے معاملہ میں اپنے امر کا حاکم دواشخاص کو بنایا اور حکم فرمایا کہ وہ اس میں فیصلہ کریں چنانچہ ارشاد فرمایا: (اے ایمان والو! نہ مارو شکار کو جب کہ تم احرام باندھے ہوئے ہو اور جو قتل کرے شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر تو اس کی جزا یہ ہے کہ اسی قسم کا جانور دے جو اس نے قتل کیا ہے، فیصلہ کریں اس کا دو معتبر آدمی تم میں سے) (المائدۃ: 95) اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے اپنا امر اشخاص کو تفویض کیا تاکہ وہ اس میں فیصلہ کریں، اگر وہ چاہتا تو اس معاملے کا فیصلہ خود کر دیتا، سواس نے اس مسئلہ میں اشخاص کے فیصلہ کو جائز رکھا۔ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اشخاص کا حکم ان کی اپنی باہمی اصلاح اور قتل (وغیرہ) میں افضل ہے یا ایک خرگوش کے شکار کے معاملہ میں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں بلکہ بندوں کے معاملہ میں افضل ہے۔ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے معاملہ میں ارشاد فرمایا: اور اگر تم خوف کرو ناجاہی کا ان کے درمیان تو مقرر کرو ایک بیخ مرد کے کنبہ سے اور ایک بیخ عورت کے کنبہ سے۔ (النساء: 35) میں نے کہا: میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اشخاص کی حکومت ان کے باہمی معاملات اور قتل و خون کے مقدمات میں عورت کے معاملہ سے افضل نہیں ہے؟ ہتلاوَ کیا میں تمہارے اس اعتراض سے نکل گیا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔

2: میں نے کہا: اور تمہارا یہ قول کہ حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی لیکن نہ قیدی بنائے اور نہ مال غنیمت لیا۔ (میں کہتا ہوں) کیا تم اپنی ماں عائشہ (صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کو لوٹدی بناؤ گے اور ان سے وہ سلوک حلال سمجھو گے جو دیگر لوٹدیوں سے حلال سمجھتے ہو، حالانکہ وہ تمہاری ماں ہے؟ پس اگر تم کہو کہ ان کے ساتھ وہ سب کچھ حلال ہے جو لوٹدیوں کے ساتھ حلال ہے تو تم نے کفر کیا اور اگر تم کہو کہ وہ تمہاری ماں نہیں ہیں تو پھر بھی تم نے کفر کیا۔ کیونکہ ارشاد پاری تعالیٰ ہے: نبی موسیٰ کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں اور آپ کی ازواج (مطہرات) ان کی ماں ہیں۔ (الاحزاب: 6) پس تم دو گمراہیوں کے درمیان ہو، ہتلاوَ ان گمراہیوں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ بولو! کیا میں اس اعتراض سے نکل گیا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔

3: میں نے کہا: رہ گیا تمہارا یہ قول کہ انہوں نے (مولیٰ علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے اپنا نام امیر المؤمنین مٹا دیا ہے تو میں تمہیں ایسی دلیل پیش کرتا ہوں جسے تم پسند کرو گے اور میرا خیال ہے کہ تم سن چکے ہو کہ بیشک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد پیغمبر کے روز مشرکین کے ساتھ صلح فرمائی تو حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: لکھو! یہ محمد رسول اللہ کی جانب سے صلح نامہ ہے۔ مشرکین نے فرمایا: اگر ہم جانتے کہ آپ

اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہ کرتے، تور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! یہ مٹا دو! اے اللہ! پیش ک تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں۔ اے علی! یہ مٹا دو اور لکھ دو" یہ محمد بن عبد اللہ کی جانب سے صلح نامہ ہے۔" اللہ کی قسم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے بہتر ہیں اور آپ نے اپنا نام (رسول) مٹایا اور آپ کا یہ مٹانا نبوت کو مٹانا نہیں تھا، کیا میں اس اعتراض کی گرفت سے باہر آیا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ پس ان میں سے دو ہزار افراد نے رجوع کر لیا اور باقی لوگوں نے خروج کو قائم رکھا تو وہ اپنی ضلالت پر قتل کیے گئے اور انہیں مہاجرین والنصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدبیح کیا۔"

### حدیث نمبر 24:

((خبرنی معاویہ بن صالح قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي عن محمد بن كعب القرظي عن علقة بن قيس قال: قلت لعلى رضي الله تعالى عنه تجعل بينك وبين ابن آكلة الاكباد (حكما) قال: اني كنت كاتب رسول الله صلی الله علیہ وسلم يوم الحديبية فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم وسهيل بن عمر فقال سهيل) لونعلم انه رسول الله ما قاتلناه امحها فقلت: هو رسول الله صلی الله علیہ وسلم وان رغم انفك ولا والله لا امحوها فقال لي رسول الله صلی الله علیہ وسلم ارنیه فاريته فمحها وقال: امان لك مثلها وستاتيه اوانت مضطر))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 481، 482 رقم 8523 طبع آخر 5 ص 167 رقم 8576، منhadیح 1 ص 86، 87 طبع آخر 1 ص 268 رقم 656)

"حضرت علقة بن قيس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا: آپ نے اپنے اور ابن آكلة الاكباد (کلیجہ چبانے والی کے بچے) کے درمیان فیصل مقرر کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: حدیثی کی صلح میں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، میں نے لکھا "یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو کی طرف سے ہے" تو سہیل بن عمرو نے کہا: اگر ہم ان کو "رسول اللہ" سمجھتے تو ان سے بسر پیکار کیوں ہوتے؟ اس (لفظ رسول) کو مٹا دو۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم! وہ اللہ کے رسول ہیں اگر چہ تمہیں ناگوار ہو۔ اللہ کی قسم! میں نہیں مٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ لفظ مجھے دکھا دیا! میں نے آپ کو دکھایا تو آپ نے اس کو مٹا دیا اور فرمایا: ایسا معاملہ غنقریب تجھے بھی پیش آئے گا اور تم مجبور ہو گے۔"

### حدیث نمبر 25:

((خبرنا (محمد بن المثنی) محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا

شعبة، عن أبي اسحق قال: سمعت البراء قال: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم (أهل الحديبية) وقال ابن بشار أهل مكة) كتب على كتاباً بينهم، قال: فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسول الله لم نقاتلك، فقال لعلى رضي الله تعالى عنه أمحه، فقال على: ما أنا بالذى أمحاه، فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، قال ابن بشار: فسألوه: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 842 رقم 8524 طبع آخر 5 ص 168، بخاری ص 440 رقم 2698 وص 441 رقم 2700 وص 530 رقم 3323184، مسلم ص 795 رقم اسلسل 4629، مند احمد ج 4 ص 291 طبع آخر ج 6 ص 230 رقم 18766، مندابی داود الطیاری ص 97 رقم 137 طبع آخر 1 ص 387، مندابی یعلی ج 2 ص 159 رقم 1707، صحیح ابن حبان ج 11 ص 212 رقم 4869، سنن الداری ج 2 ص 192 رقم 2507)

”حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیبیہ (ابن بشار نے کہا: اہل مکہ) سے صلح فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صلح نامہ تحریر کیا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا: ”محمد رسول اللہ“ تو مشرکین نے کہا: ”محمد رسول اللہ“ مت لکھوا! اگر آپ رسول اللہ ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ برس پیار کیوں ہوتے؟ تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: اس لفظ کو مٹا دو۔ آپ نے عرض کیا: میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مٹایا۔ پھر مشرکین کے ساتھ اس بات پر صلح ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمة میں تین روز کے لیے داخل ہوں گے اور ان کا داخلہ ”جلبان السلاح“ کے ساتھ ہو گا۔ میں نے دریافت کیا: ”جلبان السلاح“ کیا چیز ہے؟ فرمایا: میان۔ (تلواریں میان میں رکھ کر آئیں گے)۔“

## حدیث نمبر 26:

((اخبرنا احمد بن سليمان الرهاوی، قال: اخبرنا عبید الله ابن موسی)، قال: حدثنا اسرائیل، عن ابی اسحق، عن البراء بن عازب، قال: لما اعمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی العقدة وابی اهل مکہ ان یدعوه یدخل مکہ، حتیٰ قاضاهم علی ان یقيم بھا ثلاثة ایام، فلما کتب الكتاب، کتبوا: هذا ما قاضی علیه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا: نقولك بهذا ونعلم انک رسول اللہ مامعنیک (بیته) شيئاً، ولكن انت

محمد بن عبد اللہ، قال: أنا رسول الله، و أنا محمد بن عبد اللہ، ثم قال لعلی رضی الله تعالیٰ عنہ: امّح رسول الله، قال علی: لا والله لا امحوك ابداً، فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم الكتاب فمحاه، وليس يمحن يكتب، فكتب مكان رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد بن عبد اللہ، و كتب هذا ما قضی علیه محمد بن عبد اللہ ان لا يدخل مکة بالسلاخ، الا بالسيف في القراب، وان لا يخرج اهلها باحدان ارادان يتبعه، ولا يمنع احدا من اصحابه ان ارادان يقيم بها، فلما دخلها ومضى الاجل اتو علیا رضی الله تعالیٰ عنہ، فقالوا: قل لصاحبک اخرج عننا، فقد مضی الاجل، فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم، فتبعه ابنة حمزة تندی: ياعم، ياعم، فتناولها علی رضی الله تعالیٰ عنہ فاخذیدها، فقال لفاطمة رضی الله تعالیٰ عنہ: دونك ابنة عمك، فحملتها، فاختصم فيها علی و زید و جعفر، فقال علی رضی الله تعالیٰ عنہ: أنا اخذتها وهي ابنة عمی، وقال جعفر: هي ابنة عمی و خالتها، وقال: "الحالۃ بمنزلة الام" ثم قال لعلی رضی الله تعالیٰ عنہ: انت مني وانا منك، وقال لجعفر: اشبهت خلقی و خلقی، وقال لزید: انت اخونا و مولانا، فقال علی رضی الله تعالیٰ عنہ: الاتزوج ابنة حمزة؟ فقال: انها ابنة اخي من الرضاعة).

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 482 رقم 8525 طبع آخر 5 ص 168 رقم 8578، بخاری ص 440 رقم 2699 و ص 720 رقم 4251، صحیح ابن حبان ج 11 ص 229، رقم 4873)

"حضرت براء عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ ذی القعڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تو اہل مکہ نے انکار کیا کہ وہ آپ کا راستہ چھوڑیں اور آپ مکہ میں داخل ہوں۔ حتیٰ کہ آپ نے ان کے ساتھ معافیہ کیا کہ آپ مکہ المکرہ میں تین روز قیام کریں گے۔ پس جب انہوں نے لکھا: "هذا ما قضی علیه محمد رسول اللہ" تو مشرکین مکہ نے کہا: ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو اس گھر سے نہ روکتے، لیکن آپ محمد بن عبد اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبد اللہ بھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: "رسول اللہ" کے الفاظ مٹا دو۔ انہوں نے عرض کیا: اللہ کی قسم میں آپ (کے نام) کو بھی نہیں مٹاوں گا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر لی اور آپ اچھا نہیں لکھ سکتے تھے، پھر آپ نے "رسول اللہ" کی جگہ "محمد بن عبد اللہ" لکھا تو معافیہ یوں تحریر کیا گیا: یہ معافیہ ہے محمد بن عبد اللہ کی طرف سے وہ اسلحہ کے ساتھ مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، ماسواتکوار کے جو میان میں ہوگی اور یہ کہ اگر کسی کو شخص نے ان کی پیروی کر لی تو وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے اور اگر ان کے صحابہ میں سے کسی نے مکہ میں رہنے کا ارادہ کیا تو وہ

ان کو منع نہیں کریں گے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرہ میں تشریف لے گئے اور میعاد (تین یوم) پوری ہو گئی تو قریش مکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے: اپنے آقا سے کہو کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، مدت پوری ہو چکی ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو آپ کے پیچھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پچاچا پچاپا کارتی ہوئی آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا: اپنے پچا کی بیٹی کو سنجاو۔ حضرت فاطمہ نے بھی کو اٹھا لیا۔ پھر اس معاملہ میں حضرت زید اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یہ میری چچا زاد بھی ہے اور اس کی خالہ میری زوجہ ہے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یہ میری بھتیجی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھی کو اس کی خالہ کے سپرد کیا اور فرمایا: خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تم صورت اور سیرت میں میرے مشابہ ہو اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا: آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا: یہ میری رضائی بھتیجی ہے۔

### حدیث نمبر 27:

((خالفة یحییٰ بن آدم فروی آخر هذا الحدیث عن اسرائیل' عن ابی اسحاق عن هانی بن هانی و هبیرة بن یویم 'عن علی: انهم اختصموا في بنت حمزة' فقضى بهار رسول الله صلی الله علیه وسلم لحالتها' وقال: ان الحالۃ ام' قلت: يارسول الله الاتتزوجها؟ قال: انھا لاتحل لی' انھا ابنة اخي من الرضاعة' قال: وقال لی: انت منی وانا منك' وقال لزید: انت اخونا و مولانا' وقال لجعفر اشبہت خلفی و خلقی))

(سنن الکبریٰ للنسائی ج 7 ص 483 رقم 8562 وطبع آخر 5 ص 169 رقم 8579، من محدثن 1 ص 99 وص 115 رقم 770، 931، البحرا الزخار المعروف بمسد المبر ارج 3 ص 105، 106 رقم 891)

"بھتیجی" بن آدم نے اس حدیث کو کچھ اختلاف سے بیان کیا ہے۔ وہ از اسرائیل از ابو اسحاق از حانی بن حانی اور از هبیرہ بن یویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ان کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے معاملہ میں جھگڑا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ دے دیا اور فرمایا: بیٹک خالہ ماں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اس کو اپنے عقد میں کیوں نہیں لے لیتے؟ فرمایا: یہ میرے لئے حلال نہیں۔ یہ رضائی طور پر میری بھتیجی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے فرمایا: تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تم

ہمارے بھائی اور دوست ہو اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: تم صورت اور سیرت میں ہمارے مشاہد ہو۔“



## فصل نمبر 102:

ذکر قول النبی علی یقاتل علی تاویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله:

ارشادِ نبوی کہ جس طرح میں نے قرآن کی نزیل پر جنگ کی ہے علی اس کی تاویل پر (خوارج سے) جنگ کرے گا

((اخبارنا اسحق بن ابراهیم و محمد بن قدامة واللفظ له عن جریرو عن الاعمش، عن اسماعیل بن رجاء، عن ابیه، عن ابی سعید الخدری قال: كنا جلو سان نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا قد انقطع شمع نعله، فرمى به الى علی رضي الله تعالى عنه، فقال: ان منكم رجالا يقاتل الناس على تاویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله، قال ابو بکر: أنا؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل))

(سنن الکبری للنسائی ج 7 ص 465 رقم 488 وطبع آخر ج 5 ص 154 رقم 1541، مصنف ابن الہیثہ ج 6 ص 370 رقم 32073، منhadیح ج 3 ص 31 رقم 11278 وص 33 رقم 11309 وص 82 رقم 11795، نضائل الصحبة ج 2 ص 777، صحیح ابن حبان ج 15 ص 385 رقم 6937 وطبع آخر ج 9 ص 46 رقم 6898، منhadیح یعلی ج 1 ص 463 رقم 1081، المستدرک للحایا کم ج 3 ص 122 رقم 4679، دلائل المعرفة للیہقی ج 6 ص 435، حلیۃ الاولیاء لابی نعیم ج 1 ص 108، البدایۃ والنھایۃ ج 5 ص 478، تاریخ مدینۃ دمشق ج 42 ص 451، مختصر دشن لابن منظور ج 17 ص 389 و ج 18 ص 46، اتحاف الخیرۃ اکھرۃ ج 7 ص 187 رقم 6640، شرح النہج ج 6 ص 167 رقم 2557، المقصد العلی رقم 849، الریاض النضرۃ ج 4 ص 135، مجمع الزوائد ج 9 ص 133 رقم 14763، جم الجواعی ج 15 ص 562 رقم 15163، الخصائص الکبری ج 2 ص 234)

”حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہماری طرف تشریف لائے۔ آپ کی نعل (جوئی) مبارک کا تسمہ ثوب چکا تھا تو اسے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکا، پھر فرمایا: تم میں سے ایک شخص تفسیر قرآن پر اس طرح جہاد کرے گا جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر جہاد کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

عرض کیا: کیا وہ میں ہوں؟ فرمایا: نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: کیا وہ میں ہوں؟ فرمایا: نہیں، لیکن وہ جوتی کی مرمت کرنے والا ہے۔ (اس وقت حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی مرمت فرمائے تھے)۔



## فصل نمبر 103:

### فی وصیة وشهادت علیٰ :

## حضرت علیٰ کی مظلومیت، وصیت اور شہادت کا بیان

### حضرت علیٰ کا ساتھی و دشمن:

((بالاسناد، قال : حدثى علی بن موسی الرضا عن آبائه قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم : يا علی !انت المظلوم بعدي ، فوييل لمن قاتلك وطوبى لمن قاتل معاك ، يا علی !انت الذى تنطق بكلامى وتكلم بلسانى بعدي فوييل لمن رد عليك وطوبى لمن قبل كلامك ، يا علی انت سيد هذه الامة بعدي ومن فارقك فارقني يوم القيمة ، ومن كان معك كان معى يوم القيمة))

”امام علی بن موسی رضا رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تم میرے بعد مظلوم ہو گے۔ افسوس ہے اس پر جو تمہارے ساتھ جنگ کرے اور خوش نصیب ہے وہ جو تمہارے ساتھ مل کر چہار کرے۔ اے علی! تم وہی ہو جو میرے بعد میری زبان اور میرے کلام میں گفتگو کرو گے۔ افسوس ہے اس پر جو تمہارے کلام کو قبول نہ کرے اور خوش نصیب ہے وہ جو تمہارے کلام کو قبول کرے۔ اے علی! تم میرے بعد اس امت کے سردار۔ جو تم سے جدا ہوا وہ قیامت کے دن مجھ سے جدا ہو گا اور جو تمہارے ساتھ رہا قیامت کے دن میرے ساتھ ہو گا۔“

### جس نے علیٰ پر ظلم کیا:

((قال النبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلیٰ : يا علی !انت المظلوم بعدي، من ظلمك فقد ظلمنى، ومن انصفك فقد انصفى وَمَنْ وَالاَكَ فَقَدْ وَالاَنِي، وَمَنْ عَادَكَ فَقَدْ عَادَنِي، وَمَنْ اطَاعَكَ فَقَدْ اطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَاكَ فَقَدْ عَصَانِي))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے علی! تم میرے بعد مظلوم ہو گے،

جس نے تم پر ظلم کیا اس نے مجھ پر ظلم کیا اور جس نے تمہارے ساتھ انصاف کیا اس نے مجھ سے انصاف کیا اور جس نے تمہارا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا اور جس نے تمہیں دوست رکھا اور جس نے تمہاری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ہے۔“

((عن علی بن موسیٰ الرضا عن آبائہ قال : قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : يا علی ! انت مظلوم بعدي و ويل لمن ظلمك و اعتدى عليك و طوبی لمن تبعك و لم يجترئ عليك))

”امام علی بن موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! میرے بعد تم پر ظلم و ستم ہو گا۔ افسوس ہے اس پر جو تم پر ظلم کرے اور تمہارے حق پر تجاوز کرے اور خوش نصیب ہے وہ جو تمہاری پیروی کرے اور تم سے قدم آگے بڑھانے کی جرأت نہ کرے۔“

### کنویں سے گفتگو:

((بالاستناد عن میثم قال : اصحابی مولای امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ليلة من الليالي قد خرج من الكوفة وانتهی الى مسجد جعفی، توجه الى القبلة وصلی اربع رکعات، فلما سلم وسبح يسط کفیه وقال : الہی کیف ادعوك وقد عصیتک الى آخر الدعاء، ثم قام وخرج، فاتبعته حتى خرج الى الصحراء وخط لی خطہ وقال : ایاک ان تتجاوز هذه الخطہ، ومضي عنی وکانت ليلة مدلهمة، فقلت : یا نفیسی! اسلمت مولای وله اعداء کثیرہ، ای عذر یکون لک عند الله وعند رسوله؟ والله لا یقفوں اثرہ ولا علمن خبرہ وان کنت قد خالفت امرہ، وجعلت اتبع اثرہ فوجدته رضی اللہ عنہ مطلعاً فی البشر الی نصفہ یخاطب البشر والبشر تعاظبه، فحس بی والتقت رضی اللہ عنہ وقال : من قلت میثم، قال : یا میثم! الم آمرک ان لا تتجاوز (لا تتجاوز) الخطہ؟ قلت : یا مولای خشیت علیک من الاعداء فلم یصبر لذلک قلبی، فقال : اسمعت مما قلت شيئاً؟ قلت : لا یا مولای فقال : یا میثم!

فِي الْمُدْرَبَاتِ

إذا ضاق لها صدرى

لکت الأرض بالكف

وابدیت لها سرى

فَمَا مَا تَنْسَبِتُ الْأَرْضَ

فَذَاكَ الْبَتْ مِنْ بَلْدَى

”میثم کہتے ہیں کہ ایک رات میرے مولا امیر المؤمنین علیٰ رضی اللہ عنہ کوفہ سے مجھے لے کر مسجدِ جھنپی پہنچے اور وہاں پر قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر چار رکعت نماز ادا کی۔ سلام اور تسبیح کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا: اے اللہ! اس طرح تجھے پکاروں جب کہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد مسجد سے باہر آئے، میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ آپ صحرائیں پہنچے۔ پس آپ نے میرے اردوگرد ایک لکیر کھنچی اور فرمایا: ہرگز اس دائرہ سے باہر نہ نکلنا۔ اس کے بعد خود روانہ ہو گئے وہ رات بہت تاریک تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا: میں نے اتنے سارے دشمن ہونے کے باوجود آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، کیا میں اللہ اور رسول کے نزدیک معذور ہوں؟ اللہ کی قسم! ان کے پیچھے جاؤں گا اور ان کی حالت معلوم کروں گا، اگرچہ ان کے حکم کی مخالفت کیوں نہ ہو۔ پس ان کے پیچھے ہوا میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے سر مبارک کو کنوں میں داخل کیا ہوا تھا اور کنوں کے ساتھ باقی کر رہے تھے اور کنوں بھی آپ سے باقی کر رہا تھا۔ آپ متوجہ ہو گئے کہ میں بھی ان کے پیچھے آیا ہوں، میری طرف نکاہ کی اور فرمایا: تم کون ہو؟ میں نے کہا: میثم ہوں۔ فرمایا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس دائرے کو عبور نہ کرنا؟ عرض کیا: اے میرے آقا! آپ کے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے میرے دل کو آرام نہیں تھا۔ فرمایا: آیا جو کچھ میں کہہ رہا تھا کوئی چیز تم نے سنی؟ عرض کیا: نہیں اے میرے مولا! فرمایا: اے میثم! میں اپنے سینے میں جو کیفیات محسوس کر رہا ہوں، زمین پر ایک گڑھا کھودوں گا اور اپنے راز اس سے بیان کروں گا اور زمین میں جو پودا آئے گا اس نجع سے ہے جو میں نے اس میں بویا ہے۔“

### شہادت کی خبر:

((قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : یا علی ! البشر بالشهادة فبانک مظلوم بعدی و مقتول فقال علی : یا رسول الله و ذلك في سلامة من دینی؟ قال : في سلامة من دینک))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تمہیں شہادت مبارک ہو! میرے بعد تم پر ظلم ہو گا اور تمہیں قتل کیا جائے گا۔ حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آیا اس وقت میرا دین سالم ہو گا؟ فرمایا: ہاں تمہارا دین سالم ہو گا۔“

### منفرد شہید:

((بالاسناد، عن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت النبي صلى الله علية وآلہ وسلم التزم علياً وقبله وهو يقول : بابي الوجيد الشهيد))

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ علیٰ کو بغل میں لیا ہوا ہے، بوسہ لے رہے ہیں اور فرماتے ہیں: میرا بآپ اس تباہ شہید پر قربان ہو جائے۔“

موت سے انس:

((فی حدیث، عن علی رضی اللہ عنہ :وَاللّهُ لَا بْنَ أَبی طالبٍ (علی) آنسَ بِالْمَوْتِ مِنَ الطَّفْلِ بِشَدِّیْ امْهٰ))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! ابو طالب کا بیٹا اس بچے سے زیادہ موت سے مanos ہے جو بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مanos ہوتا ہے۔“

خساب نہ کرنے کی وجہ:

((عن ابن نباتة قال : قلت لا مير المؤمنين رضي الله عنه: ما منعك من الخضاب وقد اختصب رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم ؟ قال : انتظر اشقاها ان يخصب لحيتي من دم رأسي ، بعهد معهود اخبرني به حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم ))

”ابن نباتة کہتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (سرخ) خساب کیا کرتے تھے آپ خساب کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا: میں اس انتظار میں ہوں کہ اس امت کا بدجنت ترین انسان میرے سر کے خون سے میری ذاڑھی کو خساب کرے گا، یہ وہی وعدہ ہے جس کی وجہے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔“

خوارج کی سازش:

خوارج کے تین افراد عبد الرحمن بن ملجم المرادي، برک بن عبد اللہ تیمیمی اور عمرو بن بکیر ایمی مکہ مکرہ میں جمع ہوئے اور آپس میں یہ عہد کر لیا کہ ہم تین افراد ان تین افراد ایعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے اصل قضیہ ہی پاک کر دیں گے (کہ انہی لوگوں کی وجہ سے خلافت کی خلفشار برپا ہوا ہے) تاکہ مسلمانوں کو ان جھگڑوں سے نجات مل جائے۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، برک نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمرو بن بکیر نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا عہد کر لیا کہ ان تینوں کو ایک ہی رات میں رمضان المبارک میں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ پہنچوں بدجنت ان شہروں کو روشنہ ہوئے جہاں جہاں ان کو اپنے نامزد کردہ شخص کو قتل کرنا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ابن ملجم کوفہ میں پہنچا، اس نے وہاں پہنچ کر دوسرا خوارج سے رابطہ قائم کر کے اپنا ارادہ ان پر ظاہر کیا کہ وہ 17 رمضان المبارک 40 الجری کو جمعہ کی شب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گا۔

حضرت علی کی خواب:

اوخر 17 رمضان المبارک 40 الجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی الصبح بیدار ہو کر اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

”رات میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت نے میرے ساتھ بھروسی اختیار کی ہے اور اس نے سخت نزار براپا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں مجھ سے فرمایا: تم اللہ سے دعا کرو چنانچہ میں نے بارگاہ رب العزت میں اس طرح دعا کی کہ الٰہی! مجھے تو ان لوگوں میں پہنچا دے اور میرے بجائے ان لوگوں کا واسطہ ایسے لوگوں سے ڈال دے جو اچھے نہ ہوں۔“

### شهادت علی المرتضی:

ابھی آپ یہ فرمائی رہے تھے کہ اتنے میں ابا حمزة بن نعیم آکر آواز دی: الصلاة الصلاة! چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لئے گھر سے چلے۔ راستے میں آپ لوگوں کو نماز کے لئے آواز دے دے کر جگاتے جاتے تھے کہ اتنے میں اذلی بد بخت ابن جنم سے سامنا ہوا اور اس نے اچانک آپ پر تکوار کا ایک بھر پورا رکیا۔ واراثتاشدید تھا کہ آپ کی پیشانی کنٹھی تک کٹ گئی اور تکوار دماغ پر جا کر ٹھہری اتنی دری میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ زخم بہت کاری تھا۔ پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ و ہفتہ تک بقید حیات رہے مگر اتوار کی شب میں آپ کی روح بارگاہ اقدس کی طرف پرواز کر گئی۔

### امام حسن و حسین کو وصیت:

((وَمَنْ وَصَيَّلَ لَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :لِلْحُسْنَ وَالْحُسَيْنِ لِمَا ضُرِبَهُ ابْنُ مُنْجَمٍ لَعْنَةُ اللَّهِ :  
أَوْصَيْكُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ، وَإِنْ لَا تَبْغِيَا الدُّنْيَا وَإِنْ بَغْتَكُمَا، وَلَا تَأْسِفَا عَلَيْ شَيْءٍ مِّنْهَا زَوْيٌ  
عَنْكُمَا وَقُولًا بِالْحَقِّ، وَاعْمَالًا لِلْأَجْرِ، وَكُونًا لِلظَّالِمِ خَصْمًا، وَلِلْمُظْلومِ عَوْنًا أَوْصَيْكُمَا  
وَجَمِيعَ وَلَدَى وَاهْلِي وَمِنْ بَلْغَةِ كَتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ، وَنَظَمَ امْرَكُمْ، وَصَلَاحَ ذَاتِ بَيْنِكُمْ،  
فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّ كَمَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ  
عَامَةِ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ، اللَّهُ اللَّهُ فِي الْإِيتَامِ، فَلَا تَغْبُوا إِلَوَاهَهُمْ، وَلَا يَضِيعُوا بِحُضْرَتِكُمْ،  
وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِي جِيرَانِكُمْ، فَانْهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَّا أَنَّهُ  
سِيَورُهُمْ، وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يُسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَانْهَا  
عُمُودُ دِينِكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ، لَا تَخْلُوُهُ مَا بِقِيمَتِمْ، فَإِنْ تَرَكْ لَمْ تَنَاظِرُوا وَاللَّهُ  
اللَّهُ فِي الْجَهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسَّتْكِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْكُمْ بِالْتَّوَاصِلِ  
وَالتَّبَادِلِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْتَّدَابِرِ وَالْتَّقَاطِعِ، وَلَا تَنْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِيِّ عَنِ الْمُنْكَرِ  
فِيولَى عَلَيْكُمْ شَرَارُكُمْ، ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يَسْتَجِابُ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ :يَا بْنَى عَبْدِ الْمَطْبَلِ إِلَّا  
الْفِينَكُمْ تَخْرُضُونَ دَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضًا، تَقُولُونَ :قُتْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لَا يُقْتَلُنَّ بِـ

الا قاتلی انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل  
(لا تمثلوا الصالح) فاني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول : ایا کم  
والمثلة ولو بالكلب العقول )

”جس وقت ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر تکوار سے ضرب لگائی تو حضرت علی نے امام حسن  
رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ وصیت کی: میں تمہیں تقوی اللہ کی وصیت کرتا ہوں اور جو کچھ  
دنیا تم پر صدمہ وار دکرے توجہ نہ کرنا اور جو کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس پر غم نہ کرنا، حق بیان کرنا اور  
اجر کیلئے کام کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں اور تمام بیٹوں اور اپنے خاندان کو  
اور جس کے ہاتھ میں میرا وصیت نامہ پہنچے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات  
درست اور آپس کے تعلقات سلیمانی رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو  
فرماتے تھا ہے کہ آپ کی کشیدگیوں کو مثانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔“ (دیکھو!) تمیموں کے  
بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کیلئے فاقہ کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ  
تاباہ و برہادرنہ ہو جائیں۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں  
تمہارے پیغمبر نے برادر ہدایت کی ہے اور آپ اس حد تک ان کیلئے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ  
گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورش دلائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو  
کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتا کیونکہ وہ  
تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتا، اسے جیتنے جی خالی نہ  
چھوڑنا کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر (عذاب سے) مہلت نہ پاؤ گے۔ جان، مال اور زبان سے راء  
الہی میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملا پر رکھنا اور ایک  
دوسرے کو اعانت کرنا اور خبردار! ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھے پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز  
کرنا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے بھی ہاتھ نہ اٹھانا اور نہ بد کر دار تم پر مسلط ہو جائیں گے۔  
پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا: اے عبد المطلب کے بیٹو! ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر  
المؤمنین قتل ہو گئے، امیر المؤمنین قتل ہو گئے، کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہو لی کھینا  
شروع کر دو۔ دیکھو! میرے بد لے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے اور دیکھو! جب میں اس ضرب  
سے مرجاں تو اس ایک ضرب کے بد لے میں ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ  
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھا ہے کہ ”خبردار اکسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگر چہ وہ باوala  
کتا ہی ہو۔“

### اپنے قاتل کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت:

((بالاسناد، ان علیاً قال فی ابن ملجم بعد ما ضربه: اطعموه واسقوه واحسنوا اسارة، ان عشت فانا ولی دمی، اعفو ان شئت وان شئت استقدت، وان مت فقتلتتموہ فلا تمثلاوا))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن ملجم کی ضرب لگنے کے بعد اس کے بارے میں اس طرح وصیت فرمائی: اس کو کھانا اور پانی دیں اور اس کی قید کو آسان کریں۔ اگر میں زندہ رہتا تو اپنے خون کا خود مالک ہوں اگر چاہوں تو اسے بخش دوں اور اگر چاہوں تو قصاص لوں اور اگر اس دنیا سے چل بسا اور تم نے اسے قتل کیا تو اس کو مثلہ نہ کرنا۔“

((قال علی رضی الله عنه للحسن: يا حسن! أبصروا ضاربی، اطعموه من طعامی، واسقوه من شرابی فان انا عشت فانا اولی بحقی وان مت فاضربوه ضربة، ولا تمثلاوا به، فاني سمعت رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم يقول: ایا کم والمثلة ولو بالكلب العقو))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے حسن! میرے قاتل کی آنکھوں پر پٹی نہ باندھو اور اس کو میرے کھانے سے کھانا دے دو اور جو پانی مجھے دیتے ہو اس کو بھی پلاو۔ اگر میں زندہ رہتا تو اپنے حق کا فیصلہ خود کروں گا اور اگر میں چل بسا تو اسے ایک ضرب لگانا اور اس کی لاش کا مثلہ نہ کرنا، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناکہ مخلکہ کرنے سے پرہیز کرو اگر چہ وہ با ولاء کتا کیوں نہ ہو۔“

### رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا:

((عن القندوزی فی ینابیع المودة قال: ولما ضرب رأسه الشریف بالسيف قال: فزت ورب الکعبه))

”قندوزی نے ینابیع المودہ میں روایت لفظ کی ہے کہ جس وقت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے سر پر تکوار کی ضرب گئی تو آپ نے فرمایا: رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔“

((وقوله للحسن لما ضربه ابن ملجم: فزت والله، واما يرى ابوك سوء بعد هذا اليوم))

”جس وقت ابن ملجم نے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو ضرب لگایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند

حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اللہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا۔ آج کے بعد تمہارے والد کوئی بدی نہیں دیکھیں گے۔“

### تاریخ شہادت:

((وَقُبْضَ قَتِيلًا بِالْكُوفَةِ لِيَلَةَ الْجُمُعَةِ لِسَعِ لِيَالِ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعينَ مِنَ الْهِجْرَةِ، وَلِهِ يَوْمَنْذِ ثَلَاثَ وَسَتوَنَ سَنَةً))

”حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ کی رات جب کہ ماہ رمضان کے ختم ہونے میں نو دن باقی تھے (ایکس رمضان) اور چالیس ہجری تھی کوفہ کے شہر میں شہادت کے مرتبہ پرفائز ہوئے۔ شہادت کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔“

### ملعون قاتل:

((وَقَاتَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجَمٍ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ))

”اور ان کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم تھا کہ اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوا س پر۔“

### ائیں رمضان کو زخمی اور ایس کو شہادت:

((اعلِمْ إِنْ وَفَاتَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ لِيَلَةُ الْجُمُعَةِ لِيَلَةُ احْدَى وَعَشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعينَ مِنَ الْهِجْرَةِ قَتِيلًا بِالسِّيفِ قُتِلَهُ أَبْنَ مُلْجَمٍ لَعْنَةُ اللَّهِ لِيَلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، وَكَانَتْ سَنَةً يَوْمَ وَفَاتَهُ ثَلَاثَةَ وَسَتِينَ سَنَةً))

”حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی شہادت شب جمعہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کی رات کو واقع ہوئی ہے۔ ابن ملجم لعنة اللہ علیہ کی تلوار کے دار سے 19 رمضان کی رات کو آپ رضی اللہ عنہ کی پیشانی مبارک زخمی ہو گئی اور اسی زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے اور شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔“

### غاصلین:

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔

نماز جنازہ:

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ کی جنازہ کی نماز پڑھائی۔

قبر انور:

((وَقَبْرُهُ بِالْغَرْبِ مِنْ نَجْبِ الْكَوْفَةِ))

”حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ کی قبرِ نجف اشرف میں ہے۔“

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازِ جنازہ کے بعد آپ کو دارالامارات کوفہ میں رات کے وقت دفن کر دیا۔

ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں:

”حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبرِ شریف کو اس لئے ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ کہیں بدجنت خارجی اس کی بھی بے حرمتی نہ کریں۔ بعد میں آپ کے فرزند امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسد مبارک کو کوفہ سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا تھا۔“

مبرد نے محمد بن جبیب کے حوالہ سے لکھا ہے:

”ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل ہونے والا پہلا جسم مبارک حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔“

ابن عساکر نے سعید بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے:

”جب حضرت علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک مدینہ منورہ لے جانے لگے تاکہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلوئے اقدس میں دفن کریں تو جسم کو ایک اونٹ پر رکھا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ اونٹ راستہ میں کسی طرف بھاگ گیا اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بعض کہتے ہیں کہ تلاش و جستجو کے بعد وہ اونٹ بنو طے میں مل گیا اور آپ کو اسی سر زمین میں دفن کر دیا گیا۔“

ابن سعد طبقات میں فرماتے ہیں:

”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہ کی جامع مسجد میں محفوظ ہیں۔“

ابن جوزی نے روایت کیا ہے:

”آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجف اشرف میں محفوظ ہیں جہاں مرقد انور آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔“

حافظ ابو عبد اللہ نے اپنے استاد سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وصیت فرمائی تھی کہ جب میراً النقال ہو جائے تو مجھ کو ایک تخت پر رکھ کر نجف اشرف لے جانا، جہاں تم دونوں ایک سفید پتھر دیکھو گے جس میں نور چمکتا ہو گا پھر اس مقام پر زمین کھودتے ہوئے تم تختہ پاؤ گے، وہ میری قبر ہے لہذا مجھے وہاں دفن کرو دینا۔

**علامہ و میری حیوة الحیوان میں لکھتے ہیں:**

”ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید شکار کھیلنے کے لئے لکلا، اس نے اپنے چیتوں کو شکار پر چھوڑا، شکار دوڑ کر ایک قبر کے پاس جا کر رہ گیا۔ چیتے بھی قبر سے دور بہت کر کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید اس بات سے سخت حیران ہوا کہ اتنے میں ایک شخص آگیا جس کو حالات معلوم تھے۔ اس نے کہا: امیر المؤمن! یہ قبر انور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہارون رشید نے کہا: تجھے کیونکر معلوم ہوا؟ اس نے کہا: میرا باپ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قبر کی زیارت کے لئے آیا کرتا تھا اور وہ اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لا یا کرتے تھے اور امام باقر اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا علم حاصل تھا۔ ہارون رشید نے حکم دے کر وہاں ایک پتھر کا کتبہ لگادیا۔ یہ پہلی تعمیر تھی جو نجف اشرف میں آپ کے مزار مبارک پر بنائی گئی۔ اس کے بعد سلاطین ساماںیہ کے عہد میں وہاں بہت سے عمارتیں بنائیں گیں۔“

### سب سے زیادہ شقی:

احمد اور حاکم نے سند صحیح عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا:

”دو شخص سب سے زیادہ شقی ہیں ایک تو آل ٹمود میں صالح علیہ السلام کی اوٹنی کی کوچیں کامنے والا اور دوسرا جو تمہارے سر پر ٹلو اور مارے گا اور تمہاری داڑھی خون میں تربت ہو جائے گی۔“

### روضہ علیٰ و امام حسین:





((بالاسناد، عن ابی شعیب الخراسانی قال : قلت لابی الحسن الرضا رضی الله عنہ

ایما افضل زیارة قبر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ اور زیارة الحسین رضی اللہ عنہ؟

قال: فضل زیارة قبر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ علی زیارة الحسین کفضل امیر المؤمنین علی الحسین ))

”ابو شعب خراسانی کہتے ہیں: میں نے حضرت ابو الحسن امام علی رضا رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: آیا امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت بہتر ہے یا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت؟ فرمایا: امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کی فضیلت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت پر اس طرح ہے جیسے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ہے۔“





۷۰ قہوہ کارنگ  
مشینیں مارکیٹ - اردو بازار، لاہور